

وفاقی نصاب برائے بنات کے مطابق مکمل شرح

خَيْرُ الصَّالِحِينَ

أردو شرح

رِيَاضُ الصَّالِحِينَ

أستاذ العلماء
حضرت مولانا محمد ادریس میٹھی رحمہ اللہ
ودیگر اکابر کے افادات سے مزین مستند شرح



ادارہ تالیفات اشرفیہ

چوک فوارہ ملتان پکستان

(061-4540513-0322-6180738)

جلد اول

وفاقی نصاب برائے بنات کے مطابق مکمل شرح

خَيْرُ الصَّالِحِينَ

أردو شرح

رِيَاضُ الصَّالِحِينَ

استاذ العلماء حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمہ اللہ

و دیگر اکابر کے افادات سے مزین مستند شرح

مرتبین

مفتی سعید احمد || مولانا حبیب الرحمن
(فاضل جامعہ فریدیہ اسلام آباد) || (فاضل جامعہ خیر المدارس ملتان)

ادارة تالیفات اشرفیہ

چوک فوارہ ملتان پاکستان

(061-4540513-4519240)

خَيْرُ الصَّالِحِينَ

تاریخ اشاعت..... شوال المکرم ۱۴۳۰ھ
ناشر..... ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان
طباعت..... سلامت اقبال پریس ملتان

انتباہ

اس کتاب کی کاپی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں
کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

قانونی مشیر

قیصر احمد خان

(ایڈووکیٹ ہائی کورٹ ملتان)

قارئین سے گزارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔
الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔
پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی مطلع فرما کر ممنون فرمائیں
تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاکم اللہ

ادارہ تالیفات اشرفیہ..... چوک فوارہ..... ملتان مکتبہ الفاروق، مصریال روڈ چوہڑ ہڑ پال، راولپنڈی
ادارہ اسلامیات..... انارکلی..... لاہور دارالاشاعت..... اردو بازار..... کراچی
مکتبہ سید احمد شہید..... اردو بازار..... لاہور مکتبہ القرآن..... نیوٹاؤن..... کراچی
مکتبہ رحمانیہ..... اردو بازار..... لاہور مکتبہ دارالاعلام..... قصہ خوانی بازار..... پشاور

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-121- HALLIWELL ROAD
(ISLAMIC BOOKS CENTER) BOLTON BL1 3NE. (U.K.)

پتہ



عرض ناشر

حامداً و مصلياً :۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادارہ کو کتب دینیہ کی اشاعت کا شرف حاصل رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہے جس پر جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس سعادت بزرگوار و نیست زیر نظر کتاب ”خیر الصالحین“ اردو شرح ریاض الصالحین ہے جو کہ وفاقی نصاب برائے بنات کے مقررہ حصص کی تشریح ہے۔ اس شرح کا اکثر حصہ وہ ہے۔ جو معروف عالم بزرگ حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمہ اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ حضرت کی تحریر فرمودہ پر علمی و اصلاحی جامع شرح عرصہ دراز سے نایاب تھی۔ اللہ کے فضل سے ادارہ نے علماء سے از سر نو اس کی ترتیب و تکمیل کرائی اور مذکورہ شرح کے علاوہ خیر المفاہیم شرف الباری، طریق السالکین اور روضۃ الصالحین وغیرہ سے استفادہ کیا گیا ہے تاکہ حضرت میرٹھی رحمہ اللہ کی یہ شرح وفاقی نصاب کے مطابق ہو جائے۔

امام نووی رحمہ اللہ کی تالیف ریاض الصالحین آج بھی نہ صرف اہل علم بلکہ عوام الناس میں بھی ذخیرہ احادیث کا وہ مقبول عام مجموعہ ہے جس کی افادیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔

اس کی عام مطبوعہ اردو شروحات جدید ہیں جبکہ زیر نظر شرح کا انداز طباعت تجدید ہے لیکن قدیم شارحین حدیث کے علمی جواہر کی امین ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے حدیث کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں۔ آمین۔

محمد اسحاق غفرلہ

عشرہ اول شوال المکرم ۱۴۳۰ھ

برطابق اکتوبر ۲۰۰۹ء

ابتنصائیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ

وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ

ابالبعدا! احادیث مبارکہ پر مشتمل جدید و قدیم مبسوط و مختصر کتب میں ریاض الصالحین انفرادی خصوصیت کی حامل کتاب ہے جسے چھٹی صدی کے جلیل القدر محدث امام ابو زکریا عجمی بن شرف نووی رحمہ اللہ نے مرتب فرمایا۔ اس زمانہ کے حالات کے پیش نظر اور وجہ تالیف بیان کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں میں نے صحیح احادیث کے ایک مختصر مجموعہ ریاض الصالحین کے انتخاب کا قصد کیا جو ہر پڑھنے اور عمل کرنے والے کیلئے اخروی زندگی کا مکمل طریق کار ہو۔ آخرت کے ظاہری و باطنی آداب و اطوار کے حصول کا ذریعہ ہو۔ جس میں امور خیر کی ترغیب بھی ہو اور تباہ کن امور سے ڈرایا بھی گیا ہو اور اللہ کے راستے پر چلنے والے سالکین کے طور طریقے بھی ہوں۔ یعنی دنیا کی بے ثباتی اور بے مانگی کو ظاہر کرنے والی احادیث بھی ہوں اور نفس انسانی کی اصلاح اور اخلاق کی شائستگی سے متعلق بھی احادیث ہوں۔ دلوں کو رذائل اور دیگر امراض قلبیہ سے پاک و صاف کرنے والی احادیث بھی ہوں اور جسمانی اعضاء آنکھ کان زبان اور ہاتھ پاؤں وغیرہ کی کجراہی سے حفاظت اور ان کی بے راہ روی کا ازالہ کرنے والی احادیث بھی ہوں۔ علاوہ ازیں عارفین اور اولیاء اللہ کے مقاصد و مقامات کے متعلق بھی احادیث ہوں۔

امام نووی رحمہ اللہ کا زمانہ حیات چونکہ چھ صدی ہجری پر محیط ہے اس لئے اس دور کے مسلمانوں کو جس دوا کی ضرورت تھی وقت کے اس عظیم مسیحا نے ذخیرہ احادیث سے منتخب وہ مجموعہ امت کو پیش کیا جس کی اس دور میں بالخصوص اور امت کیلئے ہر دور میں بالعموم ضرورت تھی۔ چھٹی صدی کا زمانہ اگرچہ مجموعہ اعتبار سے اسلامی تھا اور اسلامی تہذیب و ثقافت نہ صرف مسلمانوں میں رائج تھی بلکہ غیر مسلموں تک میں اثر پذیر تھی۔ اسلامی ممالک کا نظام کافی حد تک اسلامی تھا۔ معیشت و تجارت اسلامی فقہ کے مطابق تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود امت مسلمہ میں وہ مرض پیدا ہو چکا تھا جس طرف مخبر صادق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں پیشین گوئی فرمائی تھی۔

لکل امة فتنۃ وفتنة امتی المال ہر امت کیلئے ایک فتنہ ہوا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ (ترمذی)
ملک میں مال کی کثرت تھی جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے راحت پسندی عیش کوشی اور خواہشات نفس کا

تسلط جیسے خدا و آخرت کو بھلا دینے والے نفسانی امراض کی کثرت تھی چونکہ حکومت اور تمام نظام کار مسلمانوں کے ہاتھ تھا۔ اس لئے رفاہیت و خوشحالی اور دولت و ثروت ان کے قدم چوم رہی تھی۔ دولت کی اس فراوانی کے نتیجہ میں امت میں دین کا سب سے بڑا دشمن مرض حب دنیا اور حب جاہ عام تھا۔

اس حب دنیا و حب جاہ کے سم قاتل کا تریاق اور مہلک زہر کا توڑ صرف زہد و تقویٰ فقر و فاقہ، صبر و قناعت کی ترغیب اور ان کے ثمرات و برکات کی تعلیم اور دنیا اور اس کے مضر اثرات سے امت کو آگاہ کرنے پر منحصر تھا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ایسی شخصیت سے لیا جو علوم ظاہریہ و باطنیہ کے پاک باطن فقر پیشہ جلیل القدر امام تھے جن کی زندگی عملی اعتبار سے بھی عبادت و ریاضت صبر و قناعت اور زہد و تقویٰ کا مثالی نمونہ تھی۔ آپ کے کمال اخلاص کی واضح علامت کیلئے ریاض الصالحین ہی کافی ہے کہ یوم تالیف سے تا ہنوز اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ مبارک کتاب جہاں اہل علم کے نصاب کا حصہ ہے وہاں عوام الناس بھی اس کے مطالعہ کے خواہاں رہتے ہیں اور حدیث کے ان مقدس جواہر کو حرز جان بنانا اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں اس لحاظ سے جو علمی و عوامی خصوصیت ریاض الصالحین کو حاصل ہے۔ شاید ہی کسی دوسری کتاب کو حاصل ہو۔

مرد و زمانہ کے ساتھ اصحاب علم و فضل نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کتاب کی تخریج، تحقیق، تشریح جیسے عنوانات پر کام کیا اور مختلف زمانوں میں اس کے تراجم موجود ہیں۔ ماضی قریب میں ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمہ اللہ نے بھی جو فائق خداوندی اردو میں اس کے بعض اجزا کی دلنشین تشریح لکھی جو زمانہ موجودہ میں بھی امت کیلئے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ حضرت کی یہ تشریح عرصہ دراز سے نایاب تھی۔

ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان کے مالک حضرت قاری محمد اسحاق صاحب ملتان مدظلہم کی تحریک پر مفتی محمد سعید کشمیر اور راقم الحروف مولوی حبیب الرحمن (فاضل جامعہ خیر المدارس ملتان) نے مولانا میرٹھی رحمہ اللہ کی شرح کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مقرر کردہ نصاب برائے ہنات کے مطابق ترتیب دیا اور مطبوعہ دیگر شروحات سے بھی بقدر ضرورت استفادہ کیا گیا تاکہ یہ مجموعہ معاملات و ہنات کیلئے کافی وافی ہو سکے۔

عرصہ دراز کی محنت کے بعد یہ مجموعہ دو جلدوں میں مرتب ہو کر آپ کے سامنے ہے۔ اہل علم سے استدعا ہے کہ خیر الصالحین کی ترتیب میں بقدر ہمت کو تابی نہیں کی گئی۔ تاہم اس علمی کام کیلئے جس قابلیت کی ضرورت ہے۔ ہندگان مرتبین اس سے تہی دست ہیں۔ اس لئے دوران مطالعہ جس ظاہری و معنوی سقم میں مطلع ہوں براہ کرم ناشر کو مطلع فرمادیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں درستگی ہو سکے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و علی آلہ و اصحابہ اجمعین

والسلام مع الاکرام مرتبین و مصححین خیر الصالحین

منتصر حالات صاحب شرح

حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمہ اللہ تعالیٰ

شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ تحریر فرماتے ہیں۔

حضرت مولانا میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مخلصانہ دینی جذبے بے پناہ قوت عمل دین کیلئے انتھک جدوجہد اور گونا گوں دینی و علمی خدمات کے لحاظ سے ان شخصیات میں سے تھے۔ جو کسی بھی قوم کیلئے باعث فخر ہو سکتی ہے۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند میں مشاہیر علماء دیوبند سے تعلیم حاصل کی۔ علوم مردجہ میں پختہ استعداد کے حامل تھے لیکن ابتدا میں انہوں نے کسی دینی مدرسہ کو اپنا مرکز فیض قرار دینے کے بجائے السنہ شرقیہ کے سرکاری امتحانات کی تیاری کیلئے ایک ادارہ قائم کیا جو ادارہ شرقیہ کے نام سے مدتوں خدمات انجام دیتا رہا اور غالباً السنہ شرقیہ کی تدریس کا ممتاز ادارہ تھا۔ جس سے شاید ہزار ہا لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور عربی اردو فارسی کی معیاری تعلیم حاصل کی۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد مولانا کے جذبہ فیض رسائی کو یہ ذریعہ ناکافی معلوم ہوا اور مولانا اس نتیجے پر پہنچے کہ دین کی ٹھوس خدمت کیلئے کسی دینی مدرسہ ہی میں رہ کر روایتی طریق سے علوم اسلامیہ کی درس و تدریس ضروری ہے۔ چنانچہ مولانا نے بڑی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ادارہ شرقیہ کے کاموں کو سمیٹ کر ہمارے دارالعلوم میں تدریس کے فرائض انجام دینے شروع کر دیئے۔

یہ وہ وقت تھا جب ۱۹۷۷ء (۱۹۵۷ء) میں دارالعلوم نانک داڑہ کی قدیم عمارت سے۔ حالیہ جدید عمارت میں منتقل ہوا تھا۔ اس وقت دارالعلوم کے آس پاس نہ کورنگی کی آبادی تھی نہ اس کا کوئی تصور دارالعلوم کی زمین جنگلی جھاڑیوں اور ریختے ٹیلوں کے درمیان دو پختہ اور ایک زیر تعمیر عمارت پر مشتمل تھی۔ قریب میں ایک قدیم شرافی گونٹھ کے سوا کوئی آبادی نہ تھی۔ نہ بجلی تھی نہ پانی تھا نہ ٹیلیفون اور شہر سے رابطہ کیلئے بس بھی ایک میل کے فاصلے سے ملتی تھی اور یہ پورا فاصلہ لقمہ ووق صحر پر مشتمل تھا۔ مولانا کیلئے ادارہ شرقیہ کی ذمہ داریوں کو یک لخت چھوڑنا ممکن نہیں تھا اور اس لئے وہ دارالعلوم میں مستقل قیام بھی نہیں فرما سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے دارالعلوم میں تدریس کیلئے روزانہ آمد و رفت کا سلسلہ شروع کیا۔ شہر سے روزانہ دو بسیں بدل کر لائڈھی پہنچنا اور وہاں سے ایک ڈیڑھ میل کا فاصلہ اس طرح پیدل طے کرنا کہ ساتھ کتنا بھی ہوتیں اور چونکہ مولانا چائے اور پان کے نہ صرف عادی بلکہ بلا نوش تھے۔ اس لئے ساتھ چائے کا تھر ماس بھی ہوتا اور پان کا سامان بھی اور پھر کئی گھنٹے جم کر درس دینا اور بعد میں اسی طرح شہر واپس جانا اور وہاں جا کر ادارہ شرقیہ کی ذمہ داریاں نبھانا روز مرہ کا معمول تھا۔ جسے دیکھ کر ہم نوجوانوں کو بھی پسینہ آتا تھا اور یہ معمول ایک دو دن یا چند ماہ نہیں۔ مسلسل چار سال تک جاری رہا اور اس ساری مشقت کے صلے میں مولانا نے کوئی مالی معاوضہ لینا گوارا نہیں فرمایا۔

برادر محترم جناب مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب اور احقر کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسی زمانہ میں ہم نے دیوان حماسہ حضرت مولانا سے پڑھا۔ مولانا بڑے لطیف ادبی مذاق کے حامل تھے اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے دیوان حماسہ کے درس کی حلاوت ۳۳ سال گزر جانے کے بعد بھی قلب و ذہن میں اسی طرح تازہ ہے اور دیوان حماسہ کے اشعار ان کے مخصوص انداز و آہنگ اور آواز کی اسی گھن گرج کے ساتھ آج بھی کانوں میں گونجتے ہیں اور بہت سے اشعار کی تشریحات اور اس کے ذیل

میں بتائے ہوئے افادات اس طرح یاد ہیں۔ جیسے کل ہی ان سے یہ درس لیا ہو۔ درس کی یہ تاثیر بہت کم اساتذہ کے حصے میں آتی ہے۔ کہ طالب علم کو سالہا سال گزرنے پر بھی اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہی نہیں استاد کالب دلچہ بھی مستحضر رہ جائے۔ دارالعلوم کے اس دور افتادہ مقام کا اور اس بے سرو سامانی کے دور میں روزانہ شہر سے آکر کئی گھنٹے پڑھانا یقیناً مولانا کیلئے ایک شدید مجاہدہ سے کم نہ تھا۔ لیکن مولانا نے یہ مجاہدہ کئی سال سے جاری رکھا۔ پھر بلاآخر حضرت مولانا سید محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں جواب جملہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹائون کے نام سے معروف ہے۔ تدریس شروع فرمادی وہاں پہنچ کر مولانا نے رفتہ رفتہ ادارہ شرفیہ کے مشغلہ کو بالکل ختم ہی کر دیا۔ وہاں تنہا مدرسہ کے امور سر کر رہے گئے۔ تدریس کے علاوہ مولانا انتظامی امور میں بھی حضرت مولانا بنوری صاحب قدس اللہ سرہ کے دست و پاؤں بنے رہے اور جب حضرت مولانا نے مدرسہ سے ماہنامہ بینات جاری کیا تو اس کے مدیر اور طابع و ناشر کی حیثیت سے مولانا ہی کو منتخب فرمایا۔

دفاعی المدارس العربیہ کا قیام عمل میں آیا تو اگرچہ اس تنظیم کے رسمی مناصب پر تو اس وقت کے مشاہیر علماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات فائز رہے لیکن اس بات کا اعتراف ان سب حضرات نے بارہا کیا کہ عملی طور پر وفاق کے کرتادھر تادہ حقیقت حضرت مولانا اور یس صاحب ہی تھے۔ ہر تنظیم کی طرح وفاق بھی اپنی ابتداء میں وسائل کی قلت کا شکار تھا اور مولانا محوری سے لیکر ڈاک کی ترسیل تک کے تمام کام تنہا انجام دیتے تھے اور راتوں کو جاگ جاگ کر یہ کام نمٹاتے۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد باتفاق آپ ہی کو وفاق المدارس کا صدر منتخب کیا گیا اور اس عہدہ پر آپ آخر وقت تک فائز رہے۔ (نعوش رنگاں)

حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ آپ کے آخری لمحات کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ میں تفسیر جلالین شریف کا بھی سبق پڑھایا کرتے تھے اور ظہر کے بعد اس کا وقت تھا، لیکن وفات کے دن صبح گیارہ بجے درس گاہ میں تشریف لائے۔ یہ گھنٹہ دوسرے استاد کا تھا اور وہ اپنا سبق پڑھا رہے تھے۔ ان استاد کو یہ کہہ کر اٹھا دیا کہ اٹھو! مجھے سبق پڑھانا ہے۔ مدرسہ کے اکثر اساتذہ چونکہ حضرت مولانا مرحوم کے شاگرد تھے۔ یوں بھی آپ مدرسہ میں سب سے معمر بزرگ تھے۔ اس لئے سبق پڑھانے والے استاذ حضرت مولانا کا حکم سن کر فوراً اپنا سبق چھوڑ کر اٹھ گئے۔ حضرت سبق پڑھانے لگے۔ سورۃ المطففین چل رہی تھی اور (اس دن) کا سبق یہ تھا۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَىٰ الْأَرْوَاقِ يُنظَرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحْمَتِ مَخْتوم
یہاں تک سبق پڑھایا پڑھا کے لوپر چلے گئے بستر پر لیٹے اور انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت ہمارے رفیق حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندران کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے انتقال ہونے کے بعد تجسیم و تکفین ہوئی۔ ظہر کے بعد دارالحدیث میں انکی میت زیارت کیلئے رکھی گئی۔ اتنا سفید چہرہ تھا کہ سبحان اللہ! چہرے پر نور برس رہا تھا۔ حالانکہ حضرت کارنگ ذرا سناؤلا تھا۔ لیکن وفات کے بعد چہرہ اتنا سفید اور ایسا نورانی تھا کہ واقعاً پائوڈر لگانے کا شبہ ہوتا تھا۔ اس لئے میں نے کہا کہ بڑے میاں کو اتنا پائوڈر کیوں لگادیا؟ چہرے کا اتنا سفید ہونا کئی کرامت تھی۔ (واقعات و مشاہدات لدھیانوی)

فہرست

۳۸	اخلاص اور نیت کے بیان میں
۳۸	اخلاص اور نیت کی اہمیت اور اس باب سے کتاب کو شروع کرنے کی وجہ
۳۸	اخلاص کی پہچان
۳۹	اس زمانہ میں روزہ نماز میں وہ اشرکیوں نہیں رہا جو قرآن و حدیث میں مذکور ہے
۴۰	یہ کتاب کس نیت سے پڑھنی چاہئے
۴۲	عمل کا مدار نیت پر ہے
۴۳	الامر الاول..... بیان شان و ردد حدیث
۴۳	الامر الثانی..... اس حدیث کو پہلے ذکر کرنی چاہئے اور جو بات
۴۴	زبان سے نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں
۴۴	اس حدیث کا ماخذ
۴۵	حدیث کی فضیلت
۴۵	شان و ردد حدیث
۴۵	نیت کی تین قسمیں ہیں
۴۶	الامر الثالث عشر۔ جملتین کے مفردات کا بیان
۴۶	ہجرۃ کی تحقیق
۴۷	الامر الخامس عشر۔ چند سوالوں کے جوابات
۴۸	حشر کے دن لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھیں گے
۴۹	جہاد اور نیت

۵۰	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مختصر حالات
۵۰	موجودہ زمانہ میں ہجرت کا حکم
۵۱	جہاد
۵۱	اخلاص کے ساتھ کسی نیک کام کی صرف نیت کرنے پر بھی عمل کا ثواب ملتا ہے
۵۲	حدیث کی تشریح
۵۳	ہماری حالت
۵۳	بیوی کے منہ میں نوالہ دینے کا ثواب اور اس کی مصلحت
۵۴	حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا
۵۴	راوی حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص کے مختصر حالات
۵۵	باپ کا صدقہ بیٹے کو مل جائے تب بھی باپ کو اس کی نیت کا ثواب ضرور ملتا ہے
۵۵	نیت کا پھل اور اللہ تعالیٰ کی شان کرم
۵۶	اللہ کی خوشنودی کی نیت سے تو انسان جو کچھ بھی خرچ کرے سب عبادت ہے حتیٰ کہ بیوی
۵۶	کے منہ میں نوالہ بھی اس نیت سے دے تو وہ بھی عبادت اور اجر و ثواب کا موجب ہے
۵۸	حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات
۵۹	مال دیکھ بھال کر خرچ کرنا چاہئے
۵۹	بیوی کے منہ میں نوالہ دینے کو کار ثواب بتلانے کی مصلحت
۶۰	ہماری ساری زندگی عبادت بن سکتی ہے
۶۰	حضرت سعد بن خولہ کی وفات پر افسوس
۶۰	اور مہاجرین کے لئے دعا فرمانے کی وجہ
۶۱	شرعاً مرتے وقت کا صدقہ وصیت ہوتا ہے
۶۱	عیادت کے فضائل
۶۱	مرنے سے پہلے میت صرف تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے
۶۲	حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا
۶۲	اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں
۶۳	حدیث کا ماخذ
۶۳	کون سا جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہے
۶۳	حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات

۶۳	جہاد اور جنگ میں فرق
۶۵	اعمال کی قبولیت کیلئے اللہ کی رضا شرط ہے
۶۵	حدیث کا ماخذ
۶۵	کسی جرم اور گناہ کے درپے ہونے کی سزا
۶۵	حضرت نفع بن الحارث رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات
۶۶	اعمال و افعال میں نیت کا دخل
۶۷	حدیث کا ماخذ
۶۷	نیک نیتی کے ثمرات و برکات
۶۹	حدیث کا ماخذ
۶۹	نیت نیک اور نیت بد کا فرق
۶۹	حدیث کی تشریح
۷۰	نیکی کا ارادہ موجب اجر و ثواب ہے
۷۰	براکام کرنے کی صورت میں صرف ایک ہی براکام لکھنے کی وجہ
۷۱	اس حدیث کا ماخذ
۷۱	اخلاص اور نیک نیتی کے کرشمے اور اعمال صالحہ کے فائدے
۷۳	حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات
۷۴	اعمال صالحہ کا وسیلہ
۷۵	اس واقعہ کے بیان فرمانے کا مقصد
۷۶	توبہ کا بیان
۷۶	گناہ اور توبہ کی قسمیں اور شرطیں
۷۷	حدیث کی تشریح
۷۷	حقوق العباد بندوں کے حقوق سے متعلق گناہ
۷۸	اسی لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار فرمایا ہے
۷۸	توبہ کے واجب ہونے کے دلائل
۷۹	توبہ مغفورہ اور عفو کے شرعی معنی اور ان میں فرق
۸۱	ان تینوں لفظوں میں فرق
۸۲	توبہ اور استغفار کی کثرت

۸۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے توبہ و استغفار کے ذکر کرنے کا مقصد
۸۲	کثرت سے توبہ و استغفار کی ضرورت
۸۳	نبی کی توبہ و استغفار پر اشکال اور اس کا جواب
۸۳	دوسرا جواب
۸۳	عبدیت کا تقاضا
۸۴	اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں
۸۵	اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے خوشی کی وجہ
۸۵	اللہ تعالیٰ کی شان
۸۵	توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا
۸۶	توبہ قبول ہونے کی آخری حد
۸۶	یہ کب ہوگا
۸۷	دونوں احادیث کا ماخذ
۸۷	کوئی گنہگار کب تک اپنے گناہ سے توبہ کر سکتا ہے
۸۷	نزع کے وقت کی توبہ معتبر نہ ہونے کی وجہ
۸۸	توبہ کے متعلق قرآن و حدیث کے بیان میں تطبیق
۸۸	توبہ کا اعلیٰ مرتبہ اور ادنیٰ مرتبہ
۸۸	حدیث کا ماخذ
۸۹	توبہ کے دروازے کی وسعت
۹۰	حدیث شریف میں اس زندگی کے متعلق اہم ترین کارآمد تین تعلیمات
۹۱	سبق آموز بات
۹۱	حقیقی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرشمہ
۹۲	کسی سے محبت کا تقاضا
۹۲	کس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کی کسوٹی اور اس کی وجہ
۹۳	سورج کے مغرب سے نکلنے اور توبہ کے دروازے بند ہونے کا باہمی ربط
۹۴	زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑے گناہ بھی صدق دل سے کی ہوئی
۹۴	توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں (ایک عجیب واقعہ)
۹۵	راوی حدیث حضرت سعد بن مالک بن سنان

۹۵	ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات
۹۶	سو آدمیوں کے قاتل کا واقعہ
۹۶	حدیث کی آیت قرآنیہ سے بھی تائید
۹۷	اس واقعہ کے مضمون کی تائید قرآن و حدیث سے
۹۸	حضرت کعب بن مالک کی عظیم توبہ کا واقعہ اور حج بولنے کے برکات
۱۰۴	سفر وہ تبوک کی تاریخ اور مجاہدوں کی تعداد
۱۰۶	حجی محبت
۱۱۳	حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات
۱۱۵	سبق آموز بات جس پر توبہ کے مؤثر ہونے کا مدار ہے
۱۱۶	محرکات گناہ سے حتی الامکان بچنا بھی توبہ کی قبولیت کیلئے ضروری ہے
۱۱۶	جھوٹ میں نجات نہیں ہے
۱۱۷	خوشخبری سنانے والوں کو ہدیہ دینا مستحب ہے
۱۱۷	آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کو پسند فرماتے تھے
۱۱۷	محمد میں رحمہ اللہ نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں مثلاً۔
۱۱۸	ہماری توبہ واستغفار بے اثر کیوں ہیں
۱۱۸	قبول توبہ کی علامت
۱۱۸	عظیم توبہ
۱۲۰	گناہوں کی جڑ اور اس سے توبہ
۱۲۰	توبہ کا کرشمہ حدیث
۱۲۱	باب الصبر
۱۲۲	تفسیر صبر کے لغوی اور شرعی معنی
۱۲۳	صبر کی تین قسمیں
۱۲۳	صبر ایک عظیم روشنی ہے
۱۲۶	حدیث کی تشریح
۱۲۷	صبر سے بلاہ کر کوئی دولت نہیں
۱۲۷	ایک اہم سوال کا جواب
۱۲۷	غنی کا بیان

۱۲۸	عفت کا بیان
۱۲۸	صبر و شکر ظہر ہی ظہر ہیں
۱۳۰	صبر کی آزمائش کا سب سے سخت مقام
۱۳۰	بے ساختہ آنسو اور بغیر آواز کے رونا صبر کے منافی نہیں
۱۳۰	ان دونوں حدیثوں میں صبر کی قسم
۱۳۰	حدیث الا حدود: خندقوں کا قصہ
۱۳۲	خندق والوں کے قصہ کا پس منظر
۱۳۴	اس زمانہ کے فرعون و نمرود
۱۳۴	سحر اور کہانت کی ان بت پرستوں میں اہمیت
۱۳۴	اس ترقی یافتہ زمانہ کا حال
۱۳۵	ایک شبہ کا ازالہ
۱۳۷	ہماری شریعت کا حکم
۱۳۷	صاحب کرامت لڑکے کو ہولناک طریقوں سے ہلاک کرنے کی تدبیریں اور ان میں ناکامی:
۱۳۹	ایک شبہ کا ازالہ
۱۴۰	حدیث کی تشریح:
۱۴۰	مومن کیلئے مصیبتیں گھبرانے کی چیز نہیں ہیں
۱۴۱	بلکہ صبر کرنے کی صورت میں درجات بلند ہونے کا موجب ہیں
۱۴۱	ایک ضروری تنبیہ
۱۴۱	دوسرا افاکندہ، کرامت کا بیان
۱۴۲	کرامت اور معجزہ میں فرق
۱۴۲	دوسرا فرق
۱۴۲	آج کل کے ولیوں کی کرامتیں
۱۴۲	سچے ولیوں کی پہچان
۱۴۳	صبر کی ایک اہم شرط
۱۴۳	صبر کی اس اہم شرط کی وجہ
۱۴۴	صبر کا ایک اہم مقام اور اس کی جزا
۱۴۴	تشریح۔ صبر کی حقیقت کا ایک پہلو

۱۳۵	صبر کا ایک اور اہم مرتبہ اور اس کی جزاء عظیم
۱۳۵	تشریح۔ اجر عظیم کی وجہ اور شریعت کا حکم
۱۳۵	اسلام میں چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں
۱۳۵	جس بستی میں وہاں پہلی ہوئی ہو اس میں نہ جانے کے حکم کی وجہ
۱۳۵	شہید کے برابر ثواب ملنے کی وجہ
۱۳۶	اس زمانہ کی جہالت
۱۳۶	صبر کا ایک اور اہم مقام اور اس کا اجر عظیم
۱۳۶	تشریح۔ اس اجر عظیم کی وجہ اور ہماری حالت
۱۳۷	جنتی عورت
۱۳۷	صبر کا ایک اور اہم مقام اور ایک سبق آموز واقعہ
۱۳۸	انبیاء علیہم السلام کے صبر کا امتحان
۱۳۸	یہ اولوالعزم نبی کون ہیں
۱۳۸	معمولی سے معمولی مصیبت یاد رکھ تکلیف پر
۱۳۸	صبر کرنا بھی خطاؤں کا کفارہ بنتا ہے
۱۳۹	ولی معمولی چیزوں پر صبر کرنے کا فائدہ
۱۳۹	صبر کرنے سے خطا میں اور گناہ خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں
۱۵۰	ہر ایک کے صبر کا امتحان اس کے رتبہ کے اعتبار سے لیا جاتا ہے
۱۵۰	موت کی شدت بھی مرنے والے کے صبر کا
۱۵۰	امتحان اور درجات کی بلندی کا وسیلہ ہے
۱۵۰	ایک شبہ کا ازالہ
۱۵۰	مصیبتیں مومن کیلئے باعث خیر ہیں
۱۵۰	مصیبتیں کن لوگوں کیلئے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہیں
۱۵۰	کیسی ہی مصیبتیں آئیں موت کی دعا ہرگز نہ مانگنی چاہئے
۱۵۱	موت کی دعا کیوں نہ مانگنی چاہئے
۱۵۱	پہلی اُمتوں کے اہل ایمان پر کیسی کیسی مصیبتیں آئی ہیں
۱۵۱	اس اُمت کی اور پہلی اُمتوں کی آزمائشوں میں فرق اور اس کی وجہ
۱۵۲	عظیم بشارت

۱۵۲	نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ مندی اور بے مثل صبر و ضبط کا ایک واقعہ
۱۵۳	تشریح۔ اس تقسیم کے واقعہ کی تشریح اور آپ کا صبر
۱۵۴	قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کی ایذا کا ذکر
۱۵۵	اس امت کو ایذا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
۱۵۵	بچنے کی تاکید اور موذی کی سزا
۱۵۵	ایذا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں سزا
۱۵۶	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو ایذا پہنچانے کا حکم
۱۵۶	مومن زیادہ تر مصیبتوں میں کیوں گرفتار رہتے ہیں
۱۵۶	مصیبتوں یا دکھ بیماریوں میں گرفتار ہونے کے وقت ایک مومن کو کیا کرنا چاہئے
۱۵۷	ہماری حالت اور اس کی اصلاح کی تدبیر
۱۵۷	مومنوں کیلئے مصیبتیں ایک بشارت ہیں
۱۵۸	اس بشارت کی شرط صبر ہے
۱۵۸	صبر و ضبط کا ایک بے نظیر اور سبق آموز واقعہ
۱۶۱	ایک مسلمان عورت کا عظیم الشان صبر و ضبط اور حوصلہ
۱۶۱	حضرت ام سلیم مسلمان خواتین کیلئے قابل تقلید ہستی ہیں
۱۶۲	ام سلیم کی خدمت گزاری کا صلہ
۱۶۲	نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر
۱۶۲	بہادری زور آزمائی کا نام نہیں ہے
۱۶۳	شجاعت اور بہادری کا معیار
۱۶۳	امام نوویؒ اس حدیث کو صبر کے باب میں کیوں لائے
۱۶۳	صبر اور درگزر کہاں نہیں کرنا چاہئے
۱۶۳	انسان کے صبر و ضبط کی آزمائش کا موقعہ
۱۶۳	غصہ کو فرو کرنے اور صبر و ضبط اختیار کرنے کی تدبیر
۱۶۳	انتقام لینے کی قدرت کے باوجود صبر و ضبط اور درگزر سے کام لینے کا اجر عظیم
۱۶۵	ان دونوں حدیثوں کو صبر کے باب میں لانے کی وجہ
۱۶۵	غیض و غضب اور صبر و ضبط
۱۶۵	غصہ بڑی بُری بلا ہے اور اس کا علاج صبر و تحمل کا مالکہ ہے

۱۶۶	صبر و شکر اختیار کرنے کا صلہ
۱۶۶	صبر و ضبط کا عظیم فائدہ
۱۶۶	حضرت عمرؓ کے صبر و تحمل کا ایک واقعہ
۱۶۷	عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خصوصیت
۱۶۷	عمر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی
۱۶۸	صبر کا ایک اہم مقام
۱۶۸	قومی اور جماعتی امن و امان کو محفوظ رکھنے کی تعلیم اور صبر
۱۶۹	حکمرانوں کی حق تلفیوں کے باوجود ملکی امن کو باقی رکھنے
۱۶۹	اور صبر و تحمل اختیار کرنے کی ہدایت
۱۶۹	ملک میں امن و امان قائم رکھنے کی اسلامی تدبیر
۱۶۹	میدان جہاد اور صبر و استقلال کی تعلیم
۱۷۰	صبر و استقلال کی آزمائش کا سب سے بڑا مقام
۱۷۰	اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈے کی تردید
۱۷۰	اسلامی جہاد کا مقصد
۱۷۱	صدق (سچ) کے بیان میں
۱۷۱	صدق کے لغوی اور شرعی معنی
۱۷۱	قرآن کریم میں صدق کا استعمال
۱۷۲	ہماری حالت اور اس کا نتیجہ
۱۷۵	احادیث صدق
۱۷۵	سچ بولنے کی عادت اور اس کا انجام نیک
۱۷۵	جھوٹ بولنے کی عادت اور اس کا انجام بد
۱۷۵	صادقین سے صدیقین تک کا ذہن سے کذاہین تک
۱۷۶	منافقین کی نشانیاں
۱۷۶	صدق اور کذب کا خاصہ
۱۷۶	ایک قیمتی نصیحت
۱۷۷	کسی بات کے سچ یا جھوٹ ہونے کی پہچان
۱۷۷	مومن کا دل

۱۷۷	شریعت کا حکم
۱۷۷	صدق کا مرتبہ اور مقام
۱۷۸	سچ بولنا نبیوں کا شیوہ ہے
۱۷۸	سچے دل سے کسی بات کے کہنے یا دعائے نکلنے کا ثمرہ
۱۷۸	صدق فعلی (عملی سچ) کا بیان
۱۷۹	ایک نبی علیہ السلام کی اُمت کا واقعہ
۱۸۰	جھوٹ بولنے کی عبرتناک سزا
۱۸۰	یہ نبی کون تھے
۱۸۱	نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت
۱۸۱	کن لوگوں کو جہاد میں ساتھ نہیں لے جانا چاہئے اور کیوں
۱۸۱	ہماری اُمت کے لئے حکم
۱۸۱	سورج کا رُک جانا
۱۸۲	دنیوی معاملات خرید و فروخت وغیرہ میں بھی سچ بولنا ضروری ہے
۱۸۳	دنیوی معاملات میں جھوٹ بولنا گناہ درگناہ ہے
۱۸۳	ہمارے معاشرہ کی حالت
۱۸۳	اس حدیث سے کیا سبق لینا چاہئے
۱۸۳	مراقبہ (مگرانی) کے بیان میں
۱۸۳	مراقبہ کے معنی اور اس کی تشریح نیز آیات و احادیث کا مراقبہ سے تعلق
۱۸۵	قرآن عظیم
۱۸۶	دنیوی امور میں محاسبہ کا عظیم فائدہ
۱۸۶	روزانہ محاسبہ کا طریقہ
۱۸۷	صوفیاء کے ہاں مراقبہ
۱۸۷	تصوف کی اصطلاح میں مراقبہ کے معنی
۱۸۷	مشاہدہ
۱۸۷	طریقت اور شریعت
۱۸۷	ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت کا بیان
۱۹۰	دین کے معنی اور اس کے بنیادی ارکان

۱۹۰	دین کے بنیادی ارکان
۱۹۰	پورے دین کا نام بھی اسلام ہے
۱۹۰	احسان کا تعلق مراقبہ سے
۱۹۱	مراقبہ کا یہ درجہ حاصل کرنے کی تدبیر
۱۹۱	اس حدیث کی جامعیت اور حضرت جبرئیل کے آنے کی وجہ
۱۹۲	قرب قیامت کی علامات کی تشریح
۱۹۲	امام نووی علیہ الرحمۃ کی تشریح پر کلام
۱۹۳	دولت کے چند ہاتھوں میں سمٹ کر آجانے کا عظیم تر نقصان
۱۹۳	رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو نصیحت
۱۹۳	نیکیاں بدیوں کو مٹاتی ہیں خوش اخلاقی بہت بڑی نیکی ہے
۱۹۳	حدیث کا مراقبہ اور محاسبہ سے تعلق
۱۹۶	نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز وصیت
۱۹۶	ان وصیتوں کا تجزیہ اور یہ کہ کونسی وصیت کس باب سے متعلق ہے
۱۹۷	اس حدیث کی اہمیت اور مسلمانوں کی
۱۹۷	ان زریں تعلیمات سے افسوس ناک بے خبری
۱۹۷	ہماری بے حسی یا بد قسمتی
۱۹۷	بچوں کو اوائل عمر میں ہی یہ وصیتیں یاد کرا دینی چاہئیں
۱۹۸	غلط فہمی اور اس کا ازالہ
۱۹۹	خطاؤں اور گناہوں کی جرأت پیدا ہونے کا سبب
۱۹۹	ہماری حالت اور اس کی وجہ اور اس کے سدھارنے کی تدبیر
۲۰۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صحبت کا بدل
۲۰۰	اللہ تعالیٰ کی غیرت
۲۰۱	غیرت کے معنی اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت
۲۰۱	حدیث کا مراقبہ سے تعلق
۲۰۵	اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا ایک عجیب واقعہ
۲۰۵	اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا ایک عبرت آموز واقعہ
۲۰۵	اور امت محمدیہ کو اس سے سبق لینے کی ہدایت

۲۰۵	اپنا جائزہ لیجئے
۲۰۶	دنیا میں ہی اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ہدایت اور اس کا فائدہ
۲۰۶	یہ خوبی روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے سے پیدا کی جاسکتی ہے
۲۰۶	اس حدیث پر عمل کرنے سے آپ کی
۲۰۶	عام زندگی میں کوئی سختی اور دشواری واقع نہ ہوگی
۲۰۶	آخرت میں کام آنے والے اور نہ کام آنے والے کاموں کی تفصیل
۲۰۷	اس حدیث پر عمل کرنے کا عظیم فائدہ
۲۰۷	بیوی بچوں پر دینی امور میں سختی اور تشدد کرنے پر آخرت میں باز پرس نہ ہوگی
۲۰۸	اس باز پرس نہ ہونے کی وجہ ان کی مگرانی کا حکم ہے
۲۱۰	تقویٰ کا بیان
۲۱۰	تقویٰ کے لفظی اور شرعی معنی اور مصداق اور دنیوی و اخروی فائدے
۲۱۰	تقویٰ کے لفظی معنی اور شرعی معنی میں فرق
۲۱۰	شریعت میں تقویٰ کے دو معنی
۲۱۱	خوف خدا کا ثبوت اور دلیل
۲۱۱	خوف و خشیت الہی اور تقویٰ میں فرق
۲۱۱	درع اور تقویٰ
۲۱۱	تقویٰ کے مختلف مراحل و مدارج
۲۱۲	تقویٰ کے دو درجے
۲۱۳	ان کو دیکھ کر خدا یاد آئے
۲۱۳	شریف ترین انسان بننے کا طریقہ
۲۱۳	شرط
۲۱۵	پہچان
۲۱۵	اصول شہوات
۲۱۵	ضروری تنبیہ
۲۱۶	دنیوی زندگی میں پرہیزگاری کا فائدہ
۲۱۶	قرآن عظیم
۲۱۸	مذکورہ بالا آیات کی تفسیر

۲۱۹	خلاصہ آیات
۲۱۹	ایک سطحی شبہ کا ازالہ
۲۱۹	تقویٰ کے مختلف مراحل سے متعلق آیات
۲۲۲	اس آیت کا شان نزول
۲۲۳	ایک ضروری تنبیہ اتباع سنت کے بغیر نہ کوئی متقی بن سکتا ہے نہ ولی اللہ
۲۲۳	قارئین سے استدعا
۲۲۴	سب سے زیادہ شریف کون ہوتا ہے
۲۲۴	اسلام میں شرافت کا معیار پرہیزگاری ہے
۲۲۵	اسلام میں سبھی شرافت
۲۲۶	خالص خاندانی شرافت تو انسان کو شیطان بنا دیتی ہے
۲۲۶	خاندانی شرافت کس صورت میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے
۲۲۶	اس انعام کا شکر یہ کیا ہے
۲۲۶	کوری سبھی شرافت کس کا ورثہ ہے
۲۲۷	دنیا والوں کے نزدیک شرافت کا معیار
۲۲۷	بزرگوں کی بدکردار اولاد کی کون لوگ عزت کرتے ہیں
۲۲۷	بدکردار لوگوں کی تعریف اور عزت و احترام سے عرش بھی لرز جاتا ہے
۲۲۷	خاندانی شرافت کی حقیقت اسلام کی نظر میں
۲۲۸	خاندانی شرافت پر اس طویل تبصرہ کی وجہ اور معذرت
۲۲۸	پرہیزگاری کے لئے سب سے بڑا خطرہ
۲۲۸	عورت کی اندھی محبت پرہیزگاری کی سب سے بڑی دشمن ہے
۲۲۹	عورت کا فتنہ صرف شخصی زندگی کو ہی تباہ نہیں کرتا
۲۲۹	پرہیزگاری کا دوسرا دشمن
۲۳۰	پرہیزگاری کا تیسرا دشمن
۲۳۱	آزمائش اور اس میں پورا اترنے کی تدبیر
۲۳۱	موجودہ زندگی میں ان ہدایات پر عمل کرنے کا فائدہ
۲۳۱	اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنی چاہئے۔ حدیث نمبر ۱/۳
۲۳۱	چار نعمتیں اور ان کی تشریح

۲۳۳	اللہ تعالیٰ کے خوف اور نشیہ کا تقاضا
۲۳۳	اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنے کا عملی ثبوت اور اس کا ثمرہ
۲۳۴	جائز امور میں حکمرانوں کی مخالفت بھی پرہیزگاری کے منافی ہے
۲۳۴	حکمرانوں کی مخالفت کس وقت جائز بلکہ فرض ہو جاتی ہے
۲۳۵	یقین اور توکل کا بیان
۲۳۵	یقین و ایمان
۲۳۶	توکل:
۲۳۷	توکل کا نتیجہ
۲۳۷	توکل انبیاء کرام علیہم السلام کا خصوصی شعار رہا ہے
۲۳۷	خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل کا خصوصی حکم
۲۳۸	مذکورہ بالا آیات پر مزید تبصرہ
۲۳۹	تشریح! یقین کی تعریف
۲۳۹	یقین کے تین مرتبے
۲۳۹	مثالیں :-
۲۳۹	یقین کا پہلا مرتبہ علم یقین:
۲۳۹	یقین کا دوسرا مرتبہ عین یقین:
۲۳۹	یقین کا تیسرا مرتبہ حق یقین:-
۲۴۰	یقین کے تینوں مرتبوں کا ثبوت قرآن عظیم سے
۲۴۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اہیاء موتیٰ مردوں کو زندہ کرنے کے متعلق سوال
۲۴۱	یقین اور ایمان اور ان کا باہمی فرق
۲۴۲	توکل کے لفظی اور شرعی معنی اور اس کی تشریح
۲۴۲	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا:
۲۴۲	پیغمبر بھی اسباب و تدابیر اختیار کرنے کے مامور تھے
۲۴۲	اس تفصیل کے بعد توکل کی حقیقت
۲۴۲	اسلام اسباب کو ترک کر دینے اور کچھ نہ کرنے کی تعلیم نہیں دیتا
۲۴۵	توکل کے دو مرتبے
۲۴۵	توکل کا ادنیٰ مرتبہ

۲۴۵	ان شاء اللہ کہنے کا حکم
۲۴۵	اللہ پر توکل کی پہچان
۲۴۶	توکل کا دوسرا اور اعلیٰ مرتبہ
۲۴۶	کلمہ توکل:
۲۴۷	واقعہ:
۲۴۷	ایک شبہ کا ازالہ
۲۴۸	توکل کا معیار:
۲۴۸	یقین اور توکل آپس میں لازم و ملزوم ہیں
۲۴۸	امام نووی نے یقین اور توکل کے لئے ایک ہی باب کیوں رکھا
۲۴۸	موجودہ زمانے کی مشکلات کا حل
۲۴۸	بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے مومن
۲۵۰	سچے جذبہ کا کرشمہ
۲۵۰	ریس کا نتیجہ:
۲۵۰	دوسرے انبیاء کی امتوں کی بنسبت خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت اور اس کی وجہ
۲۵۱	اس کثرت تعداد کی وجوہ و اسباب
۲۵۳	قارئین سے معذرت اور دعا
۲۵۳	ستر ہزار مومنین کے بے حساب و کتاب جنت میں جانے کی وجہ
۲۵۳	علامات توکل
۲۵۳	ان تینوں چیزوں کا شرعی حکم
۲۵۳	ان تینوں چیزوں کی خصوصیت
۲۵۵	مومن کا جینا اور مرنا سب اللہ کے لئے ہے
۲۵۶	آزے و قنوں میں انبیاء علیہم السلام کا شعاع
۲۵۷	کار بر آری اور حاجت روائی کا پیغمبرانہ وظیفہ
۲۵۸	مترجم کے شیخ اور ان کا معمول
۲۵۸	اللہ تعالیٰ پر کما حقہ بھروسہ کرنے والوں کے دل
۲۵۹	متوکلین کے دلوں کا پرندوں کے دلوں کے مانند ہونے کا مطلب
۲۵۹	نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل علی اللہ کا ایک واقعہ اور اس کا کرشمہ

۲۶۱	بر اندام کر دیتی ہے
۲۶۳	اُمت کی بد نصیبی
۲۶۳	معاشی ٹکرو پریشانی اور سرگردانی سے نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ توکل علی اللہ ہے
۲۶۳	اس حدیث کا مطلب
۲۶۶	سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بے مثل و لا مثالی توکل اللہ کا دوسرا واقعہ
۲۶۷	متعلقہ واقعہ کا بیان اور حدیث کی تشریح
۲۶۷	اس واقعہ ہجرت کا مختصر سا بیان
۲۷۰	توکل علی اللہ کے حصول کی دعائیں
۲۷۱	ان ہر دو دعاؤں کی اہمیت اور وقت کی تعیین کی وجہ
۲۷۲	ان حدیثوں میں دعا توکل کے علاوہ باقی اجزاء کے اضافہ کی وجہ
۲۷۳	دوسروں کے لئے باعث برکت متوکلین
۲۷۳	اس حدیث کا مطلب دو اہم نکتے اور توکل کے مضمون سے اس کی مناسبت
۲۷۶	استقامت کا بیان
۲۷۶	استقامت کے لغوی اور شرعی معنی
۲۷۷	ایک شبہ کا ازالہ
۲۷۸	استقامت کے فوائد و منافع اور اس کی اہمیت
۲۷۹	دنیوی امور میں استقامت کی اہمیت
۲۸۱	دینی امور
۲۸۱	عقائد میں استقامت کے معنی اور اس کی اہمیت
۲۸۲	موافق پہلو:
۲۸۲	مخالف پہلو
۲۸۳	عبادات اور ان میں استقامت کے معنی اور ان کی اہمیت
۲۸۳	فرض عبادات میں استقامت کی اہمیت اور اس سے محرومی کی شدید ترین مضرت
۲۸۶	نفل عبادتوں پر استقامت کے معنی اور اس کی شرط
۲۹۱	زیادہ سے زیادہ نفل عبادتوں پر استقامت حاصل کرنے کی تدبیر
۲۹۷	خود فرض عبادتوں پر استقامت کیلئے نفل عبادتوں پر استقامت ضروری ہے
۲۹۸	(۳) معاملات اور احکام پر استقامت

۲۹۹	احکام شرعیہ کے لحاظ سے مامورات و منہیات کی قسمیں اور استقامت کے لحاظ سے ان میں فرق
۳۰۰	استقامت سے متعلق مذکورہ بالا آیات اور انکی تفسیر
۳۰۲	آیات کی تفسیر
۳۰۳	اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت
۳۰۳	نظام اسباب اور اس کی حفاظت
۳۰۷	ربوبیت کی حقیقت اور اسکی اہلیت
۳۰۸	اللہ رب العالمین کے سوا اور کوئی انسان کی پرورش کر ہی نہیں سکتا
۳۱۰	ربوبیت کے اہم تقاضے رب سے متعلق
۳۱۲	ربوبیت کے اہم ترین تقاضے زیر پرورش مخلوق سے متعلق
۳۱۳	ربنا اللہ کہنے کے اور اس پر استقامت کے معنی
۳۱۷	استقامت سے متعلق احادیث
۳۱۷	اسلام کیا ہے؟
۳۱۷	آمنت باللہ کے معنی
۳۱۹	ایک اہم نکتہ آمنت باللہ اور ربنا اللہ کا باہمی ربط
۳۲۱	آمنت باللہ کی تفصیل
۳۲۱	آمنت باللہ کی مسلمانوں میں اہمیت
۳۲۲	اعتدال اور استقامت کا حکم اور نجات کا ذریعہ
۳۲۳	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
۳۲۷	اعمال صالحہ کی اہمیت اور شدید ضرورت
۳۲۹	طول بیان کی معذرت اور وجہ
۳۳۳	آیات کی تفسیر
۳۳۴	ذکر اللہ
۳۳۵	تفکر
۳۳۶	تفکر و تدبر عظیم عبادت ہے
۳۳۶	تفکر کے عبادت ہونے کا ثبوت قرآن و حدیث سے
۳۳۷	اس تفکر و تدبر کا حاصل اور نتیجہ
۳۳۸	خلاصہ:

۳۳۸	اس پر فتنہ زمانے میں ہماری حالت
۳۴۰	نیک کام میں جلدی کرنا اور طالب خیر کو شوق سے اور بلا تردد نیکی پر آمادہ کرنا
۳۴۱	تفسیر
۳۴۲	انہما کی خطرناک اور تاریک ترین فتنوں کا زمانہ آنے سے پہلے نیک کام کر لینے میں عجلت کیا کرو
۳۴۳	اس پر فتنہ زمانہ میں کفر سے بچنے کی تدبیر
۳۴۴	موجودہ زمانہ اور چار کا کار
۳۴۴	ایک منٹ کی تاخیر کے بغیر مستحقوں کا مال ان کو پہنچانے کی ہدایت
۳۴۵	جنت یعنی طور پر ملتی ہو تو ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر حاصل کر لو
۳۴۶	ہماری حالت
۳۴۷	آفتوں کے آنے سے پہلے صدقہ کرنا اصل صدقہ ہے
۳۴۸	موجودہ زمانہ میں ہماری حالت
۳۴۸	تلوار کا حق ادا کرنے کے مطالبہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابودجانہ کا تلوار قبول کرنا
۳۴۹	بد سے بدتر زمانے آتے رہیں گے یہاں تک کہ تم اپنے رب سے چالو گے
۳۵۱	قیامت اور خروج و جال سے پہلے کارہائے خیر کر لینے کی تاکید
۳۵۲	اللہ اور رسول کی زبان سے محبت کی تصدیق اور فتح کی بشارت، حضرت عمر کا جذبہ شہادت
۳۵۳	مجاہدہ
۳۵۳	قرآن کریم کی آیات اور ان کا ترجمہ و تشریح
۳۵۵	نفس امارہ کی اس دشمنی کا ثبوت قرآن وحدیث سے
۳۵۶	انسان کا سب سے بڑا دشمن
۳۵۶	اسلامی مجاہدہ اور عیسائیوں کی ”رہبانیت“ اور ہندوؤں کے ”یوگ“ میں فرق
۳۵۶	آیات کی تفسیر
۳۵۸	اس مجاہدہ کا مقصد اور اس کی برکات
۳۶۰	احادہ ثبوت اور ان کی تشریح
۳۶۰	اللہ تعالیٰ کے ولی سے عداوت رکھنے والوں سے
۳۶۰	اعلان جنگ اور محبوب خدا بننے کا طریقہ
۳۶۳	حدیث قدسی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے پاس دوڑ دوڑ کر آتے ہیں
۳۶۴	دو نعمتیں جن سے نفع اٹھانے کے بجائے اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں
۳۶۶	ہماری حالت

۳۶۶	طویل قیام لیل (تہجد کی نماز) مغفرت کا ذریعہ بھی ہے اور ادا شکر بھی ہے
۳۶۷	اسے لمبی والے!
۳۷۰	رمضان کے آخری دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
۳۷۰	تمام رات خود بھی جاگتے اور گھروالوں کو بھی جاگاتے تھے
۳۷۲	اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے
۳۷۲	مصیبت کے وقت یہ نہ کہو کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا
۳۷۵	جنت مکروہات نفس میں اور جہنم خواہشات نفس میں گھری ہوئی ہے
۳۷۵	امام نوویؒ فرماتے ہیں
۳۷۵	مفصل حدیث
۳۸۱	مرغوبات نفس
۳۸۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کا واقعہ
۳۸۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں قیام
۳۸۵	مرنے کے بعد صرف انسان کے عمل اس کے ساتھ جاتے اور کام آتے ہیں
۳۸۸	جنت اور جہنم دونوں قریب تر ہیں انسان جیسے چاہے اپنائے
۳۹۲	مناقضوں کا عذر
۳۹۲	جواب عذر
۳۹۳	جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کا ذریعہ
۳۹۶	کثرت سے سجدے کرنے یعنی نفل نمازیں ادا کرنے سے درجات کی بلندی
۳۹۷	بہترین انسان؟
۳۹۸	ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے کی شاندار شہادت
۴۰۰	ایک دولت مند کے مال کثیر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو ریا کہنا
۴۰۰	اور ایک مزدور کے صدقہ کی تحقیر کرنا نفاق کی علامت ہے
۴۰۱	ہمارا حال
۴۰۳	حدیث قدسی
۴۰۳	رب العالمین جل جلالہ کا خطاب اپنے بندوں سے
۴۰۳	اللہ تعالیٰ کا حقیقت افروز خطاب اپنے بندوں سے
۴۰۵	علمی تحقیق

۴۰۶	ہماری زندگی میں اس حقیقت کے اذعان و یقین کے فوائد
۴۰۷	اس زمانہ میں اس حقیقت کے یقین کا فائدہ
۴۱۰	ایک شبہ کا ازالہ
۴۱۲	عمر کے آخری حصوں میں زیادہ سے
۴۱۳	زیادہ کارہائے خیر کرنے کی ترغیب کا بیان
۴۱۵	ان اقوال و آراء کا تجزیہ
۴۱۷	ساتھ سال کی عمر پانے والے کے پاس کوتاہی کرنے کا کوئی عذر نہیں
۴۱۹	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مردم شماری اور عزت افزائی
۴۲۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری ایام میں سفر آخرت کی تیاری
۴۲۲	حضرت عائشہ کی حدیث کی متعدد روایتوں کے بیان کرنے کا مقصد
۴۲۲	ایک اشکال اور اس کا ازالہ
۴۲۳	اس اشکال کا ازالہ
۴۲۵	وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے نزول وحی
۴۲۵	اعمال خیر کی کثرت کے بیان میں
۴۲۵	ہر شخص قیامت کے دن اپنے آخری عمل پر اٹھے گا
۴۲۵	آیات کا اضافہ
۴۲۶	آیات کی تفسیر:
۴۲۶	احادیث اور ان کی تشریح
۴۲۶	افضل اعمال کا بیان
۴۲۷	اعمال صالحہ اور کارہائے خیر کی ضرورت و اہمیت
۴۲۷	ہمارا زمانہ:
۴۲۸	حضرت ابو ذر کا پہلا سوال سب سے افضل عمل کون سا ہے؟
۴۳۲	بدن کے جوڑوں کا شکر یہ اور نماز چاشت کی اہمیت
۴۳۲	ایک غلط فہمی کا ازالہ:
۴۳۴	نماز چاشت اور اس کی اہمیت و فضیلت
۴۳۵	رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
۴۳۵	امت کے اچھے برے اعمال پیش کئے گئے

۴۳۶	موجودہ زمانہ
۴۳۷	اس دعا کی روشنی میں ہماری حالت
۴۳۷	دولت مندوں کے مقابلہ میں غریبوں اور مفلسوں کیلئے صدقہ اور ثواب میں سہولتیں
۴۴۱	ایک شبہ کا ازالہ
۴۴۲	کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھے ہر مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے
۴۴۳	بدن کے تین سو ساٹھ جوڑوں کا شکرانہ
۴۴۴	ہماری حالت
۴۴۶	صبح شام مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے والے کی مہمانی
۴۴۶	بہت مغفرت کرنے والے مہربان (رب) کی جانب سے
۴۴۸	کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ادنیٰ چیز دینے کو بھی حقیر نہ سمجھے
۴۴۹	ایمان کے کچھ اوپر ستر شعبے
۴۵۲	پیارے کتے کو بھی پانی پلانا کارِ ثواب ہے
۴۵۴	عام راستہ سے کانٹے ہٹا دینے والے کے درجات
۴۵۵	نماز جمعہ پورے آداب کے ساتھ ادا کرنے کا اجر عظیم
۴۵۷	مسنون طریقہ سے وضو کرنے والے کی خطائیں بھی ذہل جاتی ہیں
۴۵۸	پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے
۴۵۸	اور پورے رمضان کے روزے رکھنے کا اجر عظیم
۴۵۹	کبیرہ اور صغیرہ گناہ
۴۶۰	کبیرہ گناہ
۴۶۰	صغیرہ گناہ
۴۶۱	وہ کام جن سے خطاؤں کے معاف ہونے کے
۴۶۱	علاوہ درجات بھی بلند ہوتے ہیں
۴۶۵	فجر اور عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کا خصوصی ثواب
۴۶۷	بیماری اور سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رعایت
۴۶۹	ہر نیک کام کا ثواب کا کام ہے
۴۶۹	باغ والوں اور ٹھیکتی والوں کا جو بھی نقصان ہو اس پر ثواب ملنے کا بیان
۴۷۱	مسجد میں نماز باجماعت پڑھنے کے لئے آنے جانے میں ہر قدم پر ثواب ملتا ہے

۴۷۲	رمی جائزے اور برسات میں دور سے چل کر مسجد آنے والے کا ثواب
۴۷۳	جنت میں لے جانے والی چالیس خصلتوں کا بیان
۴۷۴	ضرورت مند کو معمولی سے معمولی چیز دینے پر بھی خدا خوش ہوتا ہے
۴۷۷	کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بندے پر اظہار خوشی
۴۷۸	آداب طعام:
۴۷۸	ہر مومن مسلمان کیلئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بہت سے طریقے
۴۷۹	امور خیر کا تجزیہ
۴۸۱	عبادت میں اعتدال اور میانہ روی کا بیان
۴۸۴	حد سے زیادہ مشقت اور حرص عبادت کا انجام
۴۸۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میانہ روی پر مبنی اسوہ حسنہ
۴۸۸	سخت کوشش عبادت گزار اور تشدد پسند لوگوں کو تنبیہ
۴۸۹	دین آسان ہے دین سے زور آزمائی کرنے والوں کو نصیحت
۴۹۲	مشقت کشی کرنے والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل
۴۹۳	نیند کی حالت میں نماز پڑھتے رہنے کا نقصان
۴۹۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کار
۴۹۳	ایک صحابی اور ان کے خیر خواہ دوست کا طرز عمل
۴۹۶	حقوق العباد اور ان کی اہمیت
۴۹۷	عبادت میں بے اعتدالی کا اور نقصان
۴۹۷	گزارش اور معذرت
۴۹۸	حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی
۴۹۸	حرص عبادت کا عبرت انگیز واقعہ
۵۰۱	صحابہ کرام ذرا دیر کی غفلت کو بھی نفاق سمجھتے تھے
۵۰۴	کتب حدیث پڑھنے کی ضرورت
۵۰۴	حدیث کی کتابوں کے پڑھنے کا مقصد!
۵۰۴	شرعاً جائز اور ناجائز نذر و منتوں کا حکم
۵۰۶	اعمال (خیر) کی حفاظت (اور پابندی) کا بیان
۵۰۸	نماز تہجد کی قضا اور اس کا وقت

۵۰۹	قیام میل (شب بیداری) کی اہمیت
۵۱۰	قیام میل اور نماز تہجد کے پابند لوگوں کو تنبیہ
۵۱۰	تہجد کی کتنی رکعتیں قضا کی جائیں
۵۱۲	سنت اور اس کے آداب کی حفاظت (پابندی) کا بیان
۵۱۳	آیات کی تفسیر
۵۱۶	بے سبب اور لایعنی سوالات کرنے کی ممانعت
۵۱۸	مامورات اور منہیات میں فرق کی وجہ
۵۲۰	ہمارا زمانہ اور ہماری حالت
۵۲۱	وہ سوالات جن پر آپ کو غصہ آیا
۵۲۱	ضروری احکام شرعیہ کے متعلق سوالات کرنے کی اجازت
۵۲۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت کی
۵۲۲	پیروی کی وصیت اور بدعتوں سے اجتناب کی تاکید
۵۲۳	سنت سے انکار جنت سے انکار کے مترادف ہے
۵۲۵	سنت پر ازراہ تکبر و نخوت عمل نہ کرنے والے کی سزا
۵۲۶	ظاہر کا اختلاف باطن کے اختلاف کا موجب ہوتا ہے
۵۲۷	ہماری نمازیں
۵۲۸	سونے کے وقت آگ بجھا دیا کرو
۵۲۸	امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے تین طبقے
۵۳۰	امت کو جہنم میں گرنے سے بچانے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
۵۳۱	آداب نبوی کے خلاف شیطان کے داؤ پیچ
۵۳۳	بدعات پر عمل کا شرمناک نتیجہ
۵۳۳	بدعت کی تعریف:
۵۳۵	اسلامی آداب
۵۳۵	ہماری حالت
۵۳۶	بلا ضرورت اور بے مقصد کام کرنے کی ممانعت
۵۳۷	حجر اسود کی ایک پتھر ہونے کی حیثیت سے
۵۳۷	احترام کرنے کی تردید اور اہتمام سنت کی ترغیب

۵۳۹	فائدہ
۵۴۰	قرآن کریم
۵۴۳	لیلیۃ المعراج میں اُمت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام
۵۴۳	کے لئے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا عظیم تحفہ اور قبول شدہ دعائیں
۵۵۱	بدعتوں سے اور (دین میں) نئے نئے امور
۵۵۱	(کے اختراع کرنے) سے ممانعت کا بیان
۵۵۱	قرآن کریم کی آیات اور ان کی تشریح
۵۵۲	احادیث
۵۵۲	بدعت کی تعریف اور تشخیص اور اس کا حکم
۵۵۲	بدعت کی جگہ جہنم ہے
۵۵۶	گذشتہ حدیث کا حوالہ
۵۵۶	عبرت ناک جائزہ
۵۵۸	اس شخص کا بیان جس نے کسی اچھے طریقہ کی بنا ڈالی
۵۵۸	یائے طریقہ کی بنا ڈالی
۵۵۸	آیات قرآن کریم اور ان کی تفاسیر
۵۵۹	یہ سنت حسنة اور اس کے جاری کرنے والوں کا بیان ہوا
۵۵۹	سنت سیئہ اور اس کے جاری کرنے والوں کا بیان
۵۶۰	کسی اچھے طریقہ کی بنیاد ڈالنے والے مردان راہ خدا کی ہمت افزائی
۵۶۲	نرے طریقے کی بنیاد ڈالنے والے مجرم کا حشر
۵۶۳	اچھے کام کی رہنمائی اور ہدایت کی دعوت دینے
۵۶۳	یا برے کام اور گمراہی کی دعوت دینے کا بیان
۵۶۳	قرآن کریم کی آیات اور ان کی تفاسیر
۵۶۵	جس طرح نیکی کی طرف دعوت دینے والا عمل کرنے والوں کے
۵۶۵	ثواب میں شریک ہے اسی طرح بدی کی طرف دعوت دینے والا
۵۶۵	عمل کرنے والے کے عذاب میں شریک ہے
۵۶۶	کسی بھی نیک کام کے انجام دینے میں کوتاہی نہ کرنا
۵۶۶	خود نہ کر سکے تو سفارش کرنا بھی کار خیر ہے۔
۵۶۷	ہر دو ابواب میں فرق

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ لَمِنِكَ مُبْنِيهَا

اللَّهُمَّ
بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ لَمِنِكَ مُبْنِيهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الكتاب للعلامة النوى رحمه الله

الحمدُ لله الواحدِ القَهَّارِ ، العَزِيزِ الغَفَّارِ ، مُكَوِّرِ ((١)) اللَّيْلِ على النَّهَارِ ، تَذَكِّرَةُ لأولي القُلُوبِ والأَبْصَارِ ، وَتَبْصِرَةُ لِذَوِي الأَلْبَابِ والأَعْتَابِ ، الَّذِي أَيْقَظُ مِنْ خَلْقِهِ مَنْ اصْطَفَاهُ فَزَهَّدَهُمْ فِي هَذِهِ الدَّارِ ، وَشَغَلَهُمْ بِمُرَاقَبَتِهِ وَإِدَامَةِ الأَفْكَارِ ، وَمُلَازِمَةِ الأَتْعَاطِ والأَدْكَارِ ، وَوَفَّقَهُمْ لِلذُّبَابِ فِي طَاعَتِهِ ، وَالتَّأَهُبِ لِدارِ القَرَارِ ، وَالعَظْرِ مِمَّا يُسْخِطُهُ وَيُوجِبُ دارَ البَوَارِ ، وَالمُحَافَظَةِ على ذَلِكَ مَعَ تَغَايُرِ الأَحْوَالِ والأَطْوَارِ ، أَحْمَدُهُ أبلغَ حَمْدٍ وَأزْكَاهُ ، وَأشْهَلَهُ وَأَنَمَّاهُ ، وَأشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ البِرُّ الكَرِيمُ ، الرُّؤُوفُ الرَّحِيمُ ، وَأشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ ، وَحَبِيبَهُ وَخَلِيلَهُ ، الهَادِي إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ، وَالدَّاعِي إلى دِينِ قَوِيمٍ ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ ، وَآلِ كُلِّ ، وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ .

أما بعد ، فقد قال الله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ مَا أريدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أريدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴾ [الذاريات : ٥٦ - ٥٧]

وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ ، فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الِاعْتِنَةُ بِمَا خُلِقُوا لَهُ وَالِإِعْرَاضُ عَنِ حُطُوطِ الدُّنْيَا بِالرَّهَادَةِ ، فَإِنَّهَا دارُ نَفَادٍ لا مَحَلَّ إِخْلَادٍ ، وَمَرْكَبُ عُبُورٍ لا مَنزِلَ حُبُورٍ ، وَمَشْرَعُ انْفِصَامٍ لا مَوْطِنَ دَوَامٍ ، فَلِهَذَا كانَ الأَيْقَاطُ مِنْ أَهْلِهَا هُمُ العِبَادُ ، وَأَعْقَلُ النَّاسِ فِيهَا هُمُ الرُّهَادُ .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ

قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنهَامَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ [يونس: ٢٤] .

والآيات في هذا المعنى كثيرة . ولقد أحسن القائل (١) :

إِنَّ اللَّهَ عِبَادًا فُطْنَا طَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الفِتْنَا
نَظَرُوا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيِّ وَطْنَا
جَعَلُوهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوا صَالِحَ الْأَعْمَالِ فِيهَا سُنْنَا

فإذا كَانَ حالها ما وصفتهُ ، وحالنا وما خُلِقْنَا له ما قَدَّمْتُ ؛ فَحَقُّ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَذْهَبَ بِنَفْسِهِ مَذْهَبَ الْأَخْيَارِ ، وَيَسْلُكَ مَسْلِكَ أُولِي النُّهَى وَالْأَبْصَارِ ، وَيَتَأَهَّبَ لِمَا أَشْرَتْ إِلَيْهِ ، وَيَهْتَمُّ بِمَا نَبَّهَتْ عَلَيْهِ . وَأَصُوبُ طَرِيقٍ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَأَرْشَدٌ مَا يَسْئَلُكَ مِنَ الْمَسَالِكِ ، التَّادِبُ بِمَا صَحَّ عَنْ نَبِيِّنَا سَيِّدِ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ ، وَأَكْرَمِ السَّابِقِينَ وَاللَّاحِقِينَ ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ .

وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة : ٢]

وقد صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " وَاللَّهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ " وَأَنَّهُ قَالَ : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ . وَأَنَّهُ قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَأَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ -

فَرَأَيْتُ أَنْ أُجْمَعَ مُخْتَصَرًا مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، مُشْتَمِلًا عَلَى مَا يَكُونُ طَرِيقًا لِصَاحِبِهِ إِلَى الْآخِرَةِ ، وَمُحَصَّلًا لِأَدَابِهِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ . جَامِعًا لِلتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهيبِ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ آدَابِ السَّالِكِينَ : مِنْ أَحَادِيثِ الزُّهْدِ وَرِيَاضَاتِ النَّفُوسِ ، وَتَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ ، وَطَهَارَاتِ الْقُلُوبِ وَعِلَاجِهَا ، وَصِيَانَةِ الْجَوَارِحِ وَإِزَالَةِ أَعْوَجَاجِهَا ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَقَاصِدِ الْعَارِفِينَ .

وَالْتَزِمُ فِيهِ أَنْ لَا أُذْكَرَ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا مِنَ الْوَاضِحَاتِ ، مُضَافًا إِلَى الْكُتُبِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَاتِ . وَأُصَدِّرُ الْأَبْوَابَ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِآيَاتِ كَرِيمَاتِهِ ، وَأَوْشَحُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ أَوْ شَرْحٍ مَعْنَى خَفِيِّ بِنَفَائِسٍ مِنَ التَّشْبِهَاتِ . وَإِذَا قُلْتُ فِي آخِرِ حَدِيثٍ : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَمَعْنَاهُ : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

وَأَرْجُو إِنَّ تَمَّ هَذَا الْكِتَابُ أَنْ يَكُونَ سَائِقًا لِّلْمُعْتَبِرِي بِهِ إِلَى الْخَيْرَاتِ حَاجِزًا لَهُ عَنِ أَنْوَاعِ الْقَبَائِحِ وَالْمُهْلِكَاتِ . وَأَنَا سَائِلٌ أَخَا انْتَفَعِ بِشَيْءٍ مِنْهُ أَنْ يَدْعُو لِي ((۱)) ، وَلِوَالِدَيَّ ، وَمَشَائِخِي ، وَسَائِرِ أَحِبَّابِنَا ، وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ . وَعَلَى اللَّهِ الْكَرِيمِ اعْتِمَادِي ، وَإِلَيْهِ تَفْوِضِي وَاسْتِنَادِي ، وَحَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ .

ترجمہ۔ تمام تعریفیں اللہ واحد قہار کیلئے ہیں جو غالب، بخشے والا ہے۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے والا ہے (جس سے گرمیوں میں راتیں چھوٹی اور دن بڑے اور سردیوں میں راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یارات کو دن پر لپٹنے والا ہے، یعنی دن ختم ہوتا ہے تو رات آجاتی ہے اور رات ختم ہوتی ہے تو دن آجاتا ہے)۔ یہ گردش لیل و نہار اسی (اللہ کا کام ہے) اس میں دل بینا اور نظر بصیرت رکھنے والوں کیلئے یاد دہانی اور اہل دانش اور غور و فکر کرنے والوں کیلئے نصیحت و عبرت ہے۔ جس کو اس نے مخلوق میں سے اپنے دین کیلئے جن لیا، اس کو اس نے بیدار (دنیا کی حقیقت سے آگاہ) اور اس دنیا میں اس کو زہد و تقویٰ سے سرفراز کر دیا۔ وہ اللہ کی یاد میں اور ہمیشہ اس کی سوچ بچار میں مصروف رہتے ہیں کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیوں سے نصیحت پکڑتے اور رب کو یاد کرتے ہیں۔ ان کو وہ اللہ توفیق دیتا ہے جس سے وہ اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ آخرت کے دائمی گھر کیلئے تیاری کرتے ہیں اور ان چیزوں سے بچتے ہیں جو ان کے رب کو ان سے ناراض کر دیں اور انہیں جہنم کا مستحق بنادیں۔ ان پر کیسے بھی حالات آجائیں زمانہ کوئی سی بھی کر ڈٹ لے، وہ احوال و اطوار کے تغایر کے باوجود اپنی اس روش (اطاعت الہی اور اجتناب معاصی) پر قائم رہتے ہیں۔

میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، بلیغ ترین اور پاکیزہ ترین حمد جو اس کی تمام اقسام کو شامل اور زیادہ سے زیادہ نفع دینے والی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا و سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے حبیب اور خلیل ہیں، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے اور مضبوط دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا سلام ان پر ہو اور تمام انبیاء کی آل پر اور تمام صالحین پر۔

حمد و صلوة کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”میں نے تمام انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے، میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں“ یہ اس بات کی صراحت ہے کہ انس و جن صرف عبادت الہی کیلئے پیدا کئے گئے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق پر توجہ دیں اور زہد و تقویٰ اختیار کر کے دنیا کے اسباب

عیش و راحت سے گریز کریں، اس لئے کہ دنیا دار فانی ہے، یہ بیہنگی کا مقام نہیں ہے۔ عارضی سواری ہے۔ فرحت و سرور کی منزل نہیں۔ ایک منقطع ہو جانے والا گھاٹ ہے، دائمی قرار گاہ نہیں۔ اس لئے اہل دنیا میں سب سے زیادہ سمجھ دار وہ ہیں جو عبادت گزار بندے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ عقلمند وہ ہیں جو دنیا کے عیش و آرام سے بے رغبت رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”دنیا کی زندگی کی مثال، آسمان سے نازل کردہ پانی کی سی ہے، پس اس کے ساتھ سبزہ، جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں، مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوش نما اور آراستہ ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات کو یاد ان کو ہمارا حکم (عذاب) آپہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھای نہیں۔ جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں ان کیلئے ہم اپنی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔“

قرآن کریم میں اس مفہوم کی آیات بکثرت ہیں۔ شاعر نے خوب کہا ہے۔

اللہ کے سمجھدار بندے ہیں انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اور دنیا کی آزمائشوں سے لرزاں و ترساں رہے۔

انہوں نے اس دنیا کو دیکھا، پس جب وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے کہ یہ کسی زندہ آدمی کیلئے وطن نہیں ہے۔

تو انہوں نے اس دنیا کو ایک گہرا سمندر قرار دے دیا (جسے کشتی کے بغیر عبور نہیں کیا جاسکتا) اور نیک اعمال کو

انہوں نے اس میں کشتیاں بنا لیا۔“

پس جب دنیا کا یہ حال ہے، جسے میں نے بیان کیا اور ہمارا حال اور ہمارا مقصد تخلیق وہ ہے، جسے میں نے پیش کیا ہے، تو ہر مکلف (بالغ عاقل) کیلئے ضروری ہے کہ وہ نیک لوگوں کا مذہب اختیار کرے، اہل دانش و بصیرت کے راستے پر چلے اور جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس کی تیاری کرے اور جس سے میں نے خبردار کیا ہے، اس کی فکر کرے اور اس کیلئے سب سے درست راستہ اور منزل مقصود کی طرف سب سے زیادہ رہنمائی کرنے والی شاہراہ، ان احادیث کا اخذ و اختیار کرنا ہے جو ہمارے پیغمبر سے صحیح سند سے ثابت ہیں، جو اولین و آخرین کے سردار اور تمام اگلے پچھلے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز و مکرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا سلام نازل ہو ان پر اور تمام انبیاء پر۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے سے تعاون کرو۔“ (المائدہ)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتا ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے“ مزید فرمایا ”جو کسی ہدایت (نیکی) کی طرف بلائے گا تو اس کیلئے ان لوگوں کی مثل اجر ہو گا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، یہ چیز ان میں سے کسی کے اجر کو کم نہیں کرے گی،“ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا ”اللہ کی قسم، تیرے ذریعے سے کسی ایک شخص کو اللہ ہدایت یاب کر دے تو یہ تیرے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔“ (رقم الحدیث ۱۷۵، باب ۲۰)

پس ان احادیث کے پیش نظر میں نے دیکھا کہ میں احادیث صحیحہ کا ایک مختصر مجموعہ مرتب کروں جو ایسی باتوں پر مشتمل ہو جو اس کے پڑھنے والے کیلئے آخرت کا توشہ بن جائے اور جس سے اسے ظاہری و باطنی آداب حاصل ہو جائیں اور ترغیب و ترہیب اور آداب سالکین کی تمام قسموں کا جامع ہو۔ ان احادیث میں زہد کا سبق بھی ہو اور نفسوں کی ریاضتوں کا سامان بھی۔ اخلاق و کردار کے گیسو بھی جن سے سنوریں اور وہ دلوں کی طہارت کا ذریعہ اور ان کی بیماریوں کا علاج بھی ہو۔ انسانی اعضاء کی سلامتی اور ان کی کچی کا ازالہ بھی ہو اور ان کے علاوہ اللہ کی معرفت رکھنے والوں کے مقاصد اس کتاب کی احادیث سے پورے ہوں۔

میں نے التزام کیا ہے کہ میں اس میں صرف صحیح اور واضح روایات ذکر کروں گا جو مشہور صحیح کتابوں کی طرف منسوب ہوں گی اور ابواب کا آغاز میں قرآن عزیز کی آیات کریمہ سے کروں گا اور جو لفظ منبٹ (اعراب کی وضاحت) کا یا پوشیدہ معنی کی شرح کا محتاج ہوگا۔ وہاں میں انہیں نفیس تشبیہات سے مزین کروں گا اور جب میں کسی حدیث کے آخر میں کہوں ”متفق علیہ“ تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ کتاب مکمل ہو گئی تو توجہ سے پڑھنے والے کیلئے یہ نیکیوں کی طرف رہنمائی کریگی اور اس کو مختلف برائیوں اور تباہ کن گناہوں سے روکے گی اور میں اپنے اس بھائی سے جو اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھائے، یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے لئے، میرے والدین کیلئے اور میرے مشائخ (اساتذہ) تمام احباب اور تمام مسلمانوں کیلئے دعا کرے اور اللہ کریم پر ہی میرا اعتماد ہے اور اسی کی طرف میرے کاموں کی سپردگی اور استناد (بھروسہ) ہے اور مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ گناہوں سے بچنا بھی اس کی توفیق سے ہے اور نیکی کا اختیار کرنا بھی اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی اللہ غالب اور حکیم ہے۔



بسم الله الرحمن الرحيم

باب الإخلاص وإحضار النية

في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية

اخلاص اور نیت کے بیان میں

تمام نیک کاموں اور قولی و فعلی عبادتوں اور طاعتوں میں اور تمام ظاہری

اور باطنی حالتوں میں اخلاص اور نیت کا موجود ہونا از بس ضروری ہے

اخلاص اور نیت کی اہمیت اور اس باب سے کتاب کو شروع کرنے کی وجہ

تشریح: خدا پرستی اور عبادت و طاعت کی قبولیت کا تمام تر مدار صرف اخلاص اور نیت کی موجودگی پر ہے چنانچہ ریا اور سمعہ (دکھلاوے اور شہرت کی غرض سے) یا کسی بھی اور دنیوی غرض سے کسی بھی نیک کام کرنے کو، محققین نے ”شُرکِ خفی“ (چھپا ہوا شرک) قرار دیا ہے حتیٰ کہ ایمان اور اسلام بھی اگر محض ریاکاری، شہرت طلبی یا اور کسی بھی دنیوی غرض کے لئے ہو تو معتبر نہیں اور اس کو شریعت میں نفاق کہا جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر عمل خیر اور عبادت و طاعت حتیٰ کہ ایمان بھی اسی وقت معتبر اور مقبول ہوتا ہے جبکہ وہ محض اللہ کے لئے ہو اور یہی اخلاص خدا پرستی اور عبادت و طاعت خداوندی کی روح اور سب سے مقدم شرط ہے۔

اخلاص کی پہچان

محققین نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے تحت عبادت و طاعت کو ریاکاری اور نفسانی خواہشات سے محفوظ ہونے کی علامت اخلاص کو قرار دیا ہے یعنی شرعی ضرورت کے بغیر اپنی عبادت و طاعت کو لوگوں سے چھپانا اور ظاہر نہ کرنا یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ واقعتاً صرف اللہ کی خوشنودی کے لئے کام کرتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی عبادت و طاعت کا حتیٰ الامکان کسی کو پتہ نہ چلنے دیر، اگر کسی طریق پر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے تو ان کو اس پر افسوس ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات شرعی حدود میں رہ کر وہ ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل سے وہ خیال نکل جائے مثلاً اگر کسی اللہ کے مخلص بندے کے متعلق لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو وہ چند روز کے لئے اس نفل عبادت کو یا ترک کر دیتا ہے یا کسی اور وقت میں ادا کر لیتا ہے۔

یہی حال نیت کا ہے کہ اگر نیت اور قصد و ارادہ کے بغیر حسب عادت یا اتفاقاً کوئی بھی ”عمل خیر“ انسان کر لے

تو اجر و ثواب سے محروم رہے گا اس کے برعکس اگر حسب عادت کئے جانے والے اچھے کام بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نیت سے کرے گا تو وہ بھی عبادت بن جائیں گے مثلاً انسان بھوک لگنے پر سنت کے مطابق کھانا کھائے اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے کلاوا واشربوا ولا تسرفوا (کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہ کرو) اسی لئے میں یہ کھانا کھاتا ہوں تو وہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا اور اگر بغیر نیت اور قصد و ارادہ کے حسب عادت وضو کر کے بے خیالی میں نماز بھی پڑھ لے گا اور دھیان کسی اور طرف لگا رہے گا تو اس وضو اور نماز پر بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا غرض عادت اور عبادت میں فرق اور حد فاصل نیت ہے نیت اگر ہو تو عادت بھی عبادت بن جاتی ہے اور اگر نیت نہ ہو تو عبادت بھی عادت بن جاتی ہے اور انسان اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے۔

اس زمانہ میں روزہ نماز میں وہ اثر کیوں نہیں رہا جو قرآن و حدیث میں مذکور ہے فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ صوم و صلوة (روزہ نماز) کے پابند لوگوں کے اندر بھی روزہ نماز کے وہ اثرات و برکات نظر نہیں آتے جو قرآن و حدیث میں بیان کئے گئے ہیں مثلاً نماز کا خاصہ (مخصوص اش) قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے کہ بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور فحش اور برے کام بھی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں خیانتیں کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، بے محابا ظلم اور حق تلفیاں کرتے ہیں اور ان کے علاوہ طرح طرح کے حرام اور ممنوع کام کرتے ہیں اور نمازی کے نمازی ہیں تو اللہ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا پھر کیا بات ہے کہ نماز کا وہ اثر مرتب نہیں ہوتا جس کی خبر قرآن نے دی ہے بات یہ ہے کہ درحقیقت ہماری یہ نماز وہ نماز ہے ہی نہیں جس کا ذکر قرآن حکیم میں فرمایا ہے اس لئے کہ اول تو ہماری ان نمازوں میں وہ خلوص ہی نہیں ہوتا جو بندگی کا تقاضہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول و مطلوب ہے جس کا بیان باب مراقبہ کی پہلی حدیث (حدیث جبرائیل علیہ السلام کے ذیل میں آتا ہے دوسرے ہیں اور اس سے مناجات کر رہے ہیں ہمارا دھیان اور خیال خدا اور نماز (بندگی) کے بجائے نہ معلوم کہاں کہاں بھٹکتا پھرتا ہے حتیٰ کہ اگر نماز پڑھ چکنے کے بعد ہم سے دریافت کیا جائے کہ امام نے یا خود ہم نے کون کون سی سورتیں پڑھی تھیں تو یا تو ہم بتلا ہی نہ سکیں گے یا بہت کچھ سوچ بچار کے بعد بتلا سکیں گے حالانکہ حدیث شریف میں صاف اور صریح لفظوں میں فرمایا ہے کہ ”اللہ غافل اور بے خبر دل والے کی نماز قبول نہیں کرتا“ نیز قرآن کریم کی سورۃ ماعون کے اندر ارشاد ہے۔

فویل للمصلین الذین ہم عن صلواتہم ساهون الذین ہم یراءون ویمنعون الماعون (ماعون: ۵۴)

ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے غافل اور بے پرواہ ہیں جو محض دکھلاوا کرتے ہیں اور عام ضرورت کی چیزوں کو بھی منع کر دیتے ہیں (اور نہیں دیتے)

یہی حال ہماری اور تمام عبادتوں کا ہے کہ ہمیں ان کی عادت پڑ چکی ہے جیسے اور بہت سے کام حسب عادت کر لیتے ہیں ایسے ہی نماز بھی حسب عادت پڑھ لیتے ہیں روزہ بھی حسب عادت رکھ لیتے ہیں اسی لئے ہمارے نماز روزہ میں وہ اثر نہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ذرا سوچئے! ہم کتنے بڑے خسارے میں جا رہے ہیں اس لئے سب سے مقدم اور ضروری چیز جس سے ہم محروم ہیں اور ہمیں پہلی فرصت میں جسے حاصل کرنا چاہئے وہ یہی حقیقی اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ نیت اور عبادت کا قصد و ارادہ ہے جس سے متعلق آیات اور احادیث اس باب میں بیان کی گئی ہیں اسی لئے اس باب کو سب سے پہلے رکھا ہے۔

یہ کتاب کس نیت سے پڑھنی چاہئے

مجملہ اور عبادتوں اور طاعتوں کے چونکہ اس کتاب میں ”آیات و احادیث“ کا پڑھنا بھی ایک عبادت اور کار خیر ہے اس لئے ہر پڑھنے والے کا فرض ہے کہ وہ پورے خلوص کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اس کتاب کو پڑھے اور اس نیت سے پڑھے کہ میں حتی الامکان اور بقدر طاقت ان آیات اور احادیث پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور شافع محشر محبوب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کروں گا۔ آمین۔

قرآنی آیات

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾ [البينة : ٥] ،

اور ان اہل کتاب کو یہی تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اسی کیلئے عبادت کو خالص کر کے سب سے منہ موڑ کر اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کیا کریں اور یہی ہے پختہ دین (اور صراط مستقیم)

تفسیر: تشریح۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن احکام کا حکم دیا گیا ہے وہ

اس لئے تھے کہ خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ اپنے اعتقاد کو شرک سے پاک رکھیں۔ (مظہری ۱۲/۳۹۴)

احکام القرآن تھانوی میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادات میں نیت ضروری ہے کیونکہ

اخلاص اس نیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ (احکام القرآن للعثمانی ۱۱۰)

ابو بکر رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اخلاص کا حکم ہے کہ عبادات میں کسی دوسرے کو شریک

نہ کیا جائے۔ (تفسیر کبیر)

حنفاء: تمام باطل مذاہب سے ہٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حنیف:

کہتے ہیں کہ تمام عقائدِ رذیلہ سے مائل ہو کر اسلام کی طرف آجانا۔ مردِ خنساء سے مذہبِ ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جس طرح انہوں نے تمام مذاہب سے برأت کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اسی طرح یہاں حکم دیا جا رہا ہے تم بھی ایسا کرو۔ (روح المعانی ۲۳۶/۵)

وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ: یہی سچا دین ہے۔

یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جو حکم دیا گیا یہی انبیائے کرام علیہم السلام اور گزشتہ صلحاء کی جماعت کا دین تھا۔ نصیر بن شمیل رحمہ اللہ نے جب خلیل بن احمد رحمہ اللہ سے دینِ القیمۃ کا معنی پوچھا تو خلیل رحمہ اللہ نے جواب دیا قیمۃ اور قیم قائم تینوں کا ایک ہی معنی یہی دین ہے ان لوگوں کا جو توحید پر قائم تھے۔ بعض لوگوں نے فرمایا کتبِ قیمۃ سے مراد توریت و انجیل وغیرہ کتب سماوی ہے یعنی ان کی صحیح کتابوں میں یہی دین تھا۔ (تفسیر مظہری ۲/۴۵۹)

حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید مضبوط اور سچا دین ہے اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ۴/۵۷۴)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾ [الحج: ۳۷]

نہ اللہ کے پاس (قربانی کے جانوروں کا) گوشت پہنچتا ہے نہ خون لیکن تمہاری پرہیزگاری اس کے پاس پہنچتی ہے۔
تفسیر: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ قربانی کرنے کے بعد مشرکین قربانی کا خون کعبہ میں چھڑکتے اور گوشت کے ٹکڑے وہاں بکھیرتے تھے مسلمانوں نے بھی ایسا کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے مگر یہ قربانی مقصود نہیں کیونکہ اللہ جل شانہ کے پاس نہ اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون۔ قربانی اور تمام عبادات کا مقصود یہ ہے کہ اس عبادت کے ضمن میں حکمِ ربانی کی بجا آوری اور ساتھ میں اخلاص ہے اگر عبادات میں اخلاص نہیں تو یہ عبادات کا صرف صورت اور ڈھانچہ ہوگا۔ اس کی روح غائب ہوگی۔

اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ عمل کے قبول ہونے کے لئے تقویٰ و اخلاص کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیز موجود نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ يُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ۲۹]

(اے نبی) کہہ دو: جو تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اسے چھپاؤ چاہے ظاہر کرو اللہ اس کو (ہر حال) جانتا ہے۔

تفسیر: اس آیت کریمہ میں خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ جل شانہ کی قدرت و علم کی کوئی انتہا نہیں ہے اگر کوئی

اپنے دل میں کوئی بات چھپائے دنیا میں کسی کو بھی اس کی اطلاع نہ کرے مگر وہ بات اللہ جل شانہ کے علم میں آتی ہے اور جو بات لوگوں کے سامنے ظاہر کی جائے تو بدرجہ اولیٰ اللہ جل شانہ کے علم اور قدرت میں ہوگی۔ (دلیل القالین)

اسی طرح قرآن میں متعدد آیات میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے مثلاً:

قال الله تعالى: وان تجهر بالقول فانه يعلم السیر واخفی (طہ آیت ۷)
اور اگر تو بات کہے پکار کر تو وہ جانتا ہے چھپی ہوئی بات کو بھی اور جو اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی ہو۔ یعنی جو ابھی تک دل میں بھی نہیں آئی اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔

قال الله تعالى: واسروا قولکم او جهروا به انه علیم بذات الصدور (ملک آیت ۱۳)
ترجمہ۔ ”تم اپنی بات زور سے کر دیا آہستہ اللہ دلوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی جاننے والا ہے۔“

قال الله تعالى: ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء (ابراہیم آیت ۳۸)

ترجمہ: اے رب ہمارے تو ہی جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کچھ کرتے ہیں دکھا کر اور مخفی نہیں اللہ پر کوئی چیز زمین اور آسمان میں۔

ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ جب اللہ ایسی قدرت والا ہے تو آدمی اعمال اسی کیلئے اخلاص کے ساتھ کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ (دلیل القالین ۱۔ ۳۹)

عمل کا مدار نیت پر ہے

عن امیر المؤمنین ابي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قُرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أو امرأة يَنكحُهَا ، فهجرته إلى ما هاجر إليه . مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ . رَوَاهُ إماما المُحدِثين ، أبو عبد الله مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ بَرْدِزْبَةَ الجُعْفِيُّ البُخَارِيُّ ، وَأَبُو الحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ القُشَيْرِيِّ النَّيْسَابُورِيِّ رضي الله عنهما في صحيحهما اللذَينِ هما أصحُّ الكُتُبِ المصنفة .

ترجمہ: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا آپ فرمادے تھے کہ اس کے سوا نہیں کہ عمل کا مدار تو صرف نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے

گا جو اس نے نیت کی ہوگی چنانچہ (مثلاً) جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لئے ہجرت کی ہوگی (گھر بار چھوڑا ہوگا) اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی (دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا پھل ملے گا) اور جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے بیاہ کرنے کے لئے ہجرت کی ہوگی (اور اس کے لئے وطن چھوڑا ہوگا) اس کی ہجرت اسی چیز (دنیا عورت) کی طرف ہوگی جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہے (ملے یا نہ ملے یہ اس کی قسمت ہے باقی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ ملے گا)

الامر الاول..... بیان شان و ر و حدیث

بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت رہتی تھی جو مشہور ام قیس سے تھی۔ اس کو ایک آدمی نے پیغام نکاح بھیجا تو ام قیس نے ایک شرط لگائی کہ تم مدینہ میں ہجرت کر کے آ جاؤ تو پھر میں نکاح کروں گی۔ اس شخص نے محض نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو چونکہ اس کی نیت فاسدہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اور پوری امت کی اصلاح کیلئے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہ حدیث ارشاد فرمائی ”انما الاعمال بالنیات الخ“ ہجرت ایک عظیم ترین عبادت ہے جو محض رضائے الہی کیلئے ہونی چاہئے تھی مگر اس نے نیت فاسدہ سے ہجرت کی تھی۔ چنانچہ بعد میں اس کا نام مہاجرام قیس ہو گیا۔

سوال: یہ کام صحابی رضی اللہ عنہ سے کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ محض نکاح کی غرض ہجرت کرے؟

جواب: یہ کوئی مستبعد نہیں صحابہ کے اندر کمالات بتدریج پیدا ہوئے۔

الامر الثانی..... اس حدیث کو پہلے ذکر کرنیکی وجوہات

اس حدیث کو کتاب کے شروع میں سب سے پہلے کیوں لائے؟ سر فہرست کیوں ذکر کیا؟

جواب کئی وجوہ ہیں (۱) صاحب مشکوٰۃ کا اس حدیث کو اپنے پیش رو امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری اور صاحب مصابیح کی اتباع کرتے ہوئے سر فہرست ذکر کیا۔ (۲) اس حدیث اور مبداء کو کتب الحدیث ہونے کی وجہ سے ذکر کیا ہے۔ کتب کی ابتداء خصوصاً کتب حدیث کی ابتداء اس حدیث سے ہونی چاہئے۔ اکثر محدثین خصوصاً عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کا قول ہے جو بھی کوئی کتاب لکھے خصوصاً علم حدیث میں تو وہ اس کو ابتداء میں ذکر کرے۔ (۳) اس حدیث کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے سر فہرست ذکر کیا۔ باقی رہی یہ بات کہ عظیم الشان کیسے ہے؟ وہ اس طرح کہ بعض علماء محدثین کا قول ہے کہ یہ نصف العلم ہے۔ بایں طور کہ اعمال دو قسم پر ہیں۔ (۱) اعمال ظاہرہ (۲) اعمال باطنہ۔

اور نیت باطنی میں سے اہم شے ہے گویا باطنی کے ذکر سے نصف العلم کو بیان کیا گیا اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث ثلث العلم ہے۔ بایں طور کہ اعمال کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) اعمال لسانیہ (۲) اعمال جوارحہ (۳) اعمال قلبیہ۔ اور نیت اعمال قلبیہ کے ساتھ متعلق ہے تو اس لحاظ سے یہ ثلث العلم ہے۔ اور بعض نے کہا یہ حدیث ۱۰ فقہی ابواب پر مشتمل ہے تو ان ائمہ کے اقوال سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس حدیث کو اہمیت حاصل ہے اس لئے اس حدیث کو سرفہرست ذکر کیا۔ (۴) تصحیح الذیہ پر تنبیہ کرنے کیلئے اس حدیث کو مقدم کیا کہ معلم اور متعلم کو چاہئے کہ پڑھنے پڑھانے سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لے اچھی نیت ہونی چاہئے اپنی نیت کو درست کر لیں کم از کم نیت فاسدہ نہیں ہونی چاہئے۔ (۵) اس بات کی طرف اشارہ کرنے کیلئے طالب حدیث کیلئے نوع من الحجرتہ کا ہونا بھی ضروری ہے کچھ نہ کچھ مشقت برداشت کرنا بھی ضروری ہے تو اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کمرہ سے اٹھ کر درس گاہ میں آجائے ہجرۃ باطنہ تو ہر حال میں ضروری ہے تو گویا اس سے تحصیل علم کے آداب کی طرف اشارہ ہے۔

حدیث کی تشریح: نیت کے معنی اگرچہ قصد و ارادہ کے ہیں مگر نیت دراصل اس غرض و غایت کا نام ہے جس کے حاصل کرنے کے لئے انسان کوئی کام بالقصد و الارادہ کرتا ہے خواہ وہ غرض و غایت اچھی ہو خواہ بری جیسا کہ حدیث میں اچھی اور بری دونوں قسم کی نیتوں کا ذکر ہے یہی معنی حدیث میں مراد ہیں چونکہ انسان بعض اوقات بے خیالی میں بغیر کسی خاص نیت و قصد و ارادہ کے بھی کوئی نیک کام یا عبادت کر لیتا ہے اور اللہ کے ہاں ایسا نیک کام یا عبادت مقبول نہیں اور نہ اس پر کوئی اجر و ثواب ملتا ہے اللہ کے ہاں تو وہی عبادت مقبول و مطلوب ہے جو دل کی پوری توجہ کے ساتھ ہو اور صرف اللہ کے لئے ہو اور کسی دوسری غرض کے لئے نہ ہو اس لئے ہر عمل خیر اور عبادت و طاعت کے وقت دل کا پوری طرح اللہ اور اس کی عبادت و طاعت کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے یہی معنی احضار نیت (نیت موجود ہونے) کے ہیں اور اسی معنی میں نیت کا لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے۔

زبان سے نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں

۲- نیت کا زبان سے کہنا ضروری نہیں بلکہ دل کا اللہ اور اس کی عبادت کی طرف پوری طرح متوجہ ہونا ضروری ہے اگر زبان سے بھی کہہ لے تو کچھ حرج نہیں خواہ عربی میں کہے خواہ اردو میں یا کسی دوسری زبان میں۔

اس حدیث کا ماخذ

۳- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی یعنی حدیث انما الاعمال بالنیات اللہ تعالیٰ کے فرمان **ولکن ینالہ التقویٰ منکم سے ماخوذ اور اسی کا اقتباس ہے آیت کریمہ میں اسی اصول کو قربانی کی مثال میں بیان کیا گیا ہے اور حدیث میں ہجرت کی مثال میں سمجھایا گیا ہے اصول عام ہے کوئی بھی عمل خیر اور عبادت و طاعت ہو اس کا در نیت پر ہے جیسی نیت ویسا پھل۔ واللہ اعلم بالصواب**

حدیث کی فضیلت

امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ثلث علم والی حدیث فرمایا ہے۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے فرمایا علماء نے اس حدیث کو ثلث الاسلام کا لقب دیا۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نصف فقہ کا نام دیا ہے۔ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بھی ارادہ کرے تصنیف کا اس کو چاہئے کہ وہ اسی حدیث سے شروع کرے۔

شان و رواد حدیث

بعض روایات میں اس حدیث کا پس منظر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے ام قیس رضی اللہ عنہا نامی عورت کو پیغام نکاح دیا اس عورت نے شرط لگائی کہ جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس آدمی نے اس عورت کی اس شرط کو قبول کر کے ہجرت کر لی پھر دونوں کا باہم نکاح ہو گیا۔ مگر اس شخص کا نام مہاجر ام قیس مشہور ہو گیا۔ اس عورت کا نام توقیل رضی اللہ عنہا اور اس کی کنیت ام قیس رضی اللہ عنہا تھی۔ اکثر محدثین اس کا نام بھول گئے ہیں۔ سوال۔ اسی طرح جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا چاہا تھا تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بھی اسلام کی شرط لگائی تھی جب وہ مسلمان ہوئے پھر نکاح ہوا۔ ان پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں فرمائی؟

جواب۔ علماء نے فرمایا ہے یہاں ابو طلحہ کا پہلے سے مسلمان ہونے کا ارادہ تھا اور پہلے واقعہ میں ان صحابی کا پہلے ہجرت کا ارادہ نہیں تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پر نکیر فرمائی اور دوسرے پر نکیر نہیں فرمائی۔

نیت کی تین قسمیں ہیں

نیت یہ نیت کی جمع ہے۔ نیت کی تین قسمیں ہیں۔

- ۱۔ تمییز عبادۃ عن العادة. یعنی نیت کے ذریعہ عبادت کو عادت سے جدا کرنا مثلاً ایک آدمی نماز کی حالت میں کھڑا ہے اگر اس نے نیت کی ہے تو نماز کی تو وہ نماز ہوگی ورنہ سمجھا جائے گا کہ ویسے ہی کھڑا ہے۔
- ۲۔ تمییز عبادۃ عن العبادۃ. یعنی نیت کے ذریعہ سے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا مثلاً نیت کے ذریعہ سے ظہر اور عصر کی نماز میں فرق کرنا۔

- ۳۔ تمییز معبود عن المعبود. یعنی نیت کے ذریعہ ایک معبود کی عبادت سے دوسرے معبود کی عبادت کو جدا کرنا مثلاً کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اب اس کی نیت سے معلوم ہوگا کہ اللہ کیلئے پڑھ رہا ہے یا کسی اور معبود کیلئے۔ اللہ کے یہاں وہی عمل قابل قبول ہوگا جو صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے۔

سوال: ”انما الاعمال بالنیات“ لہذا صبر کیلئے آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوئے ”لا عمل الا بالنیة“ یعنی نیت

کے بغیر عمل وجود میں ہی نہیں آسکتا حالانکہ آدمی نیت کے بغیر بھی عمل کر لیتا ہے۔

جواب: عمل کا وجود نہ ہونا نیت کے بغیر اس سے مراد وجود شرعی ہے نہ کہ حسی دیکھنے میں تو وہ عمل نظر آئے گا مگر شریعت کی نگاہ میں عمل اسی وقت معتبر ہوگا جب کہ اس میں اللہ کیلئے نیت موجود ہو۔

”انما الاعمال بالنیات“ کے بعد ”لکل امری ء مانوی“ کو ذکر کیا گیا ہے۔

”وانما لکل امری ء مانوی“ ہر ایک کو اعمال کا بدلہ نیت کے اعتبار سے ملے گا۔

علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیت کا معاملہ بہت عظیم الشان اور اہم ہے اس لئے دوبارہ ”انما

الاعمال بالنیات“ کی تاکید اس جملہ کے ساتھ کی گئی ہے۔

دنیا کے تذکرہ کے بعد عورت کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟

”والی امراة ینکحھا“ یا عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے۔

سوال: پہلے ”الی الدنیا“ میں عورت بھی داخل تھی پھر اس کو مستقل کیوں بیان کیا گیا؟

جواب: زیادہ اہتمام کی وجہ۔

جواب: یا یہ کہ انصار مدینہ ہجرت کرنے والوں پر سب سے زیادہ ایثار کرتے تھے مال اور عورت دونوں

چیزوں کی اس وجہ سے فرمایا کوئی ہجرت نہ کرے نہ دنیا کی وجہ نہ عورت کے حصول کیلئے۔

جواب: یا شان نزول کی وجہ سے عورت کا تذکرہ آگیا۔

جواب: یا عورت کا فتنہ اہم ہے اس لئے اس کو دوبارہ ذکر کر دیا گیا۔

الامر الثالث عشر۔ جملتین کے مفردات کا بیان

فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فجهرت الى الله ورسوله و من كانت هجرته الى الخ۔ ان جملوں

میں ہجرۃ کا لفظ آیا ہے۔

ہجرۃ کی تحقیق

ہجرۃ کا لغوی معنی۔ انتقال من مکان الی مکان۔ اصطلاحی معنی۔ انتقال من مکان الی مکان لمرضاء

اللہ تعالیٰ۔

پھر ہجرۃ کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) ہجرۃ ظاہرہ (۲) ہجرۃ باطنہ۔ ہجرۃ ظاہرہ پھر دو قسم پر ہے۔

۱۔ انتقال من دار الفساد الی دارالامن کھجرۃ الصحابہ من المکة الی الحبشہ۔

۲۔ انتقال من دار الکفر الی دارالاسلام کھجرۃ الصحابہ من مکہ مکرمہ الی المدینۃ

المنورہ قبل فتح المکہ۔

کیونکہ فتح مکہ کے بعد تو خود مکہ مکرمہ دارالاسلام بن گیا تھا۔ ہجرت کی یہ دونوں قسمیں تاقیام قیامت باقی رہیں گی۔ ہجرت باطنہ: مانھی اللہ عنہ کو چھوڑ دینا۔ معاصی و ذنوب کو چھوڑ دینا یہ ہجرت ہر وقت ہر مسلمان کی طرف متوجہ ہے۔ والمہاجر مہاجر حقیقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منہیات کو چھوڑ دے۔ ثانی مفردات واضح ہیں۔

الامر الرابع عشر۔ جملتین کا جملہ ثانیہ کے ساتھ ارتباط

جس کا حاصل یہ ہے کہ ان میں جملہ سابقہ انما لامری مانوی کے اجمال کی تفصیل کا بیان ہے کہ ہر شخص کو مانوی کے مطابق جزا ملے گی۔ ان کان حسن فحسن وان شرفشرف ان کان قبیح فقیح۔ اس قاعدہ کلیہ کی توضیح ایک مثال جزئی کے ذریعہ کی اور وہ مثال جزئیہ ہجرت والا عمل ہے کہ اگر یہ ہجرت والا عمل بیت صحیحہ ہو تو ہجرت مقبولہ اور اگر بیت فاسدہ ہو تو ہجرت مردودہ وغیر مقبولہ ہوگی۔

الامر الخامس عشر۔ چند سوالوں کے جوابات

سوال: مثال کے اندر ہجرت والا عمل کیوں پیش کیا۔ جواب: (۱) شان ورود کی وجہ سے۔ (۲) تاکہ ہجرت کے ماسوا کا حکم بطریق اولیٰ معلوم ہو جائے وہ کیسے؟ اس طرح کہ ہجرت والا عمل عظیم ترین عمل ہے عزیز واقارب اور اولاد کو چھوڑنے کی وجہ سے قربانیوں صعوبتوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے۔ اتنا بڑا عمل جب بیت فاسدہ ہو تو باطل ہو جاتا ہے تو دوسرے اعمال تو بطریق اولیٰ بیت فاسدہ باطل ہو جائیں گے۔

سوال: ایک لفظی اشکال دونوں جملوں میں شرط و جزا کے لحاظ سے تغایر نہیں بلکہ تغایر کا ہونا ضروری ہے۔ جواب: (۱) شرط کی جانب نیت و قصد مقدر اور جزا کی جانب اجر و ثواب مقدر ہے۔ (۲) شرط کی جانب دنیا کا لفظ اور جزا کی جانب فی العقی کا لفظ مقدر ہے۔ (۳) جزا محذوف ہے اور مذکور اس کی علت ہے ای ہجرت مقبولہ علت کو جزا کے قائم مقابلاً دیا۔

(۴) فہجرتہ الی اللہ ورسولہ کنایہ ہے مقبولہ سے اور مضمون کے اعتبار سے تغایر کا پایا جانا کافی ہے۔ الفاظ میں تغایر ضروری نہیں۔

سوال: لفظوں میں اتحاد کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: کلام عرب میں بسا اوقات تکرار سے عظمت شان بتلانا مقصود ہوتی ہے۔ یہ ہجرت کا عمل عظیم ہے۔ تبرک اور التذاک کے لئے اللہ اور رسول کے تذکرے میں تکرار ہے۔

سوال: امر آء دنیا میں داخل ہے عطف الخاص علی العام میں نکتہ کیا ہے؟ جواب: ناکہ شان ورود کی طرف ذہن منتقل ہو جائے یا تاکہ فتنہ نساء کے اخر الفتن ہونے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے فتنہ دنیا میں سے اشد ضرراً و نقصاناً۔ سوال دوسرے جملے میں دوبارہ دنیا اور عورت کا ذکر کیوں کیا نہیں؟ جواب: کہ حقارت بتلانے کے لئے دوبارہ ذکر نہیں کیا۔ الامر السادس عشر۔ متفق علیہ

یہ ایک اصطلاح ہے وہ حدیث جس پر شیخین ایک راوی سے تخریج کرنے پر اتفاق کیا ہو اگرچہ دوسرے علماء کا بھی اس پر اتفاق ہوتا ہے لیکن متفق علیہ سب علماء کے متفق ہونے کی وجہ سے نہیں کہتے بلکہ وجہ وہی ہے جو پہلے ذکر کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تم حدیث النیة بعون اللہ خالصہ۔

حشر کے دن لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھیں گے

وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَغْزُو جَيْشُ الْكُفَّةِ فَإِذَا كَانُوا بَيْنَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَأَخِيرِهِمْ. قَالَتْ: قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَأَخِيرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَأُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟! قَالَ: يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَأَخِيرِهِمْ ثُمَّ يَنْعَثُونَ عَلَى نِيَاتِهِمْ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (قیامت کے قریب) ایک لشکر اللہ کے گھر (کعبہ) پر چڑھائی کرنے کے لئے نکلے گا جب وہ زمین کے کھلے میدان میں پہنچے گا تو اس لشکر کے اگلے پچھلے سب لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا (اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے گا) حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اگلے پچھلے سب لوگوں کو کیسے (اور کیوں) دھنسا دیا جائے گا؟ ان میں (سب ہی لڑنے والے تو نہ ہوں گے سو داسلف بیچنے والے) دکاندار بھی ہونگے اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان حملہ آوروں میں سے نہ ہوں گے (نوکری چاکری کے لئے چلے آئے ہوں گے ایسے لوگ بلا قصور کیسے اور کیونکر ہلاک کر دیئے جائیں گے؟) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (اس وقت تو) اگلے پچھلے سب ہی لوگ (ان مجرموں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے) دھنسا دیئے جائیں گے پھر (حشر کے دن) اپنی اپنی نیت پر اٹھائے جائیں گے (جو کعبہ پر چڑھائی کرنے آئے تھے وہ تو مجرموں کے زمرہ میں الگ اور جو اس نیت سے نہیں آئے تھے وہ الگ کھڑے کئے جائیں گے) (بخاری و مسلم)

حدیث کی تشریح: اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مجرموں، بدکاروں اور گنہگاروں کے محض ساتھ رہنا بھی عذاب الہی اور قہر خداوندی میں گرفتار ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے اگرچہ حشر کے دن آخرت کے عذاب سے کوئی اپنی نیک نیتی کی وجہ سے بچ بھی جائے اس لئے ایسے مجرموں، بدکاروں اور گنہگاروں سے زیادہ سے زیادہ علیحدہ اور دور ہی دور رہنا چاہئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قرآن کریم کی مذکورہ ذیل آیت کریمہ سے ماخوذ اور اسی کا اقتباس ہے۔

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ج (انفال: ۲۵)

اور تم اس فتنہ (عذاب) سے ڈرتے اور بچتے رہو جو خاص ظلم کرنے والے لوگوں (مجرموں) پر ہی نہیں آئیگا بلکہ سب پر عام ہوگا)

یغزو جیش الکعبۃ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں میں سے ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کون سا لشکر ہے اور کب ایسا ہوا ہوگا اس بارے میں اس کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ (دلیل اہلبین)

”فاذا کانو ببیداء“ البیداء بید کی جمع ہے۔ یہ کہاں ہے؟ اس بارے میں بھی اختلاف ہے بعض کی رائے یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ہے اور بعض کی مکہ معظمہ میں اور بعض کی رائے اس کے علاوہ کی بھی ہے۔ (فتح الباری)

کیسے دھنسیا جائے گا ان کے اگلے اور پچھلے لوگوں کو جبکہ ان میں بازار والے لوگ بھی ہوں گے؟ ایک دوسری روایت میں آتا ہے ”اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من کان فیہم ثم بعثوا علی نياتہم“ (بخاری و مسلم)

کہ جب اللہ کا عذاب کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو وہ سب پر ہی عذاب ہوتا ہے پھر قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا۔

اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے اک بار خطا ہو جاتی ہے سو بار ندامت ہوتی ہے اور نیتوں کے اعتبار سے ہی معاملہ کیا جائے گا مگر دنیا کے عذاب میں تو سب ہی شریک ہوئے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی غلط لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے بوجہ یہ کہ اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا تو یہ اس کے ساتھ رہنے والا بھی نہ بچ سکے گا۔ (زعمہ العتقین)

بعض لوگوں نے فرمایا یہ حدیث درحقیقت قرآن کی اس آیت کی تشریح ہے۔

واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة (انفال رکوع ۳)

ترجمہ۔ اور تم اس آزمائش (عذاب) سے ڈرتے اور بچتے رہو جو خاص ظلم کرنے والوں پر ہی نہیں آئے گا (بلکہ وہ سب کیلئے عام ہوگا)

جہاد اور نیت

وعن عائشۃ رضی اللہ عنہا، قالت: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ”لا ہجرۃ بعد الفتح، ولكن جہاداً ونبیۃ، وإذا استنفرتم فانفروا“ متفق علیہ۔ ومعناہ: لا ہجرۃ من مکة لآئہا صارت داراً لاسلام۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ارشاد فرمایا فتح (مکہ) کے بعد ہجرت تو (باقی) نہیں رہی (اس لئے کہ مکہ اب دارالاسلام، اسلامی شہر بن گیا) لیکن جہاد اور نیت (اب بھی) باقی ہیں (اور قیامت تک باقی رہیں گے لہذا) جب بھی تم کو جہاد کے لئے روانہ ہونے کی دعوت دی جائے تو فوراً روانہ ہو جاؤ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مختصر حالات

نام۔ عائشہ صدیقہ حمیر القب ام عبد اللہ کنیت۔ والد کانام ابو بکر صدیق والدہ کانام زینب تھا۔ ان کی کنیت ام رومان تھی۔ بعثت کے چار برس کے بعد پیدا ہوئیں۔ مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا ۹ سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں رخصتی ہوئی۔ غزوات میں سے غزوہ احد میں شریک تھیں۔ (بخاری)

اسی طرح غزوہ بنی مطلق میں بھی شرکت کا معلوم ہوتا ہے جس میں آپ کا ہارگم ہوا تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دوسری عورتوں پر عموماً جبکہ باقی امہات المؤمنین پر خصوصاً کئی وجوہات سے فوقیت حاصل تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو اس کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پاتے تھے۔ (ترمذی)

آپ میں سخاوت عبادت تواضع حد درجہ کی تھی۔ اکثر روزہ رکھتیں ہر سال حج فرماتیں اور غلاموں کو آزاد کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ میں داخل ہیں۔ یعنی جن سے روایات زیادہ منقول ہیں۔ ان کی تعداد ۲۲۱۰ احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں جن میں ۱۷۴ پر بخاری و مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ امام بخاری نے منفرد ۵۴۲ حدیثیں روایت کی ہیں۔ ۶۸ حدیثوں میں امام مسلم منفرد ہیں۔ (عمدہ القاری)

وفات: امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اخیر زمانہ میں رمضان ۵۸ھ میں انتقال ہوا اس وقت عمر تریسٹھ سال تھی۔ جنت البقیع میں رات کے وقت ان کی وصیت کے مطابق دفن کی گئیں۔ (دلیل الطالبین زوضہ الصغیر)

حدیث کی تشریح: مکہ معظمہ کے فتح ہونے سے پہلے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا اس قدر اہم اور ضروری فرض تھا کہ اگر مکہ کارہنے والا قدرت کے باوجود مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کرتا تھا تو اس کا ایمان و اسلام بھی معتبر نہ ہوتا تھا جب تک کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہ آئے لیکن مکہ کے فتح ہو جانے اور دارالاسلام اسلامی ملک بن جانے کے بعد یہ خاص ہجرت یا ہجرت کی یہ اہمیت باقی نہیں رہی۔

موجودہ زمانہ میں ہجرت کا حکم

چنانچہ اب اگر کافروں کے ملک میں کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ کفار اس کو اسلامی عبادت و احکام پر عمل کرنے سے نہ روکیں تو اس مسلمان پر اس دارالکفر سے ہجرت کر کے کسی اسلامی ملک میں جا کر آباد ہونا فرض نہیں ہے اسی طرح مسلمان اگر کسی کافروں کے ملک میں آباد ہوں اور وہ کفار ان کو مذہبی آزادی دینے کے لئے تیار ہوں تو وہاں مستقل طور پر سکونت اختیار کر سکتے ہیں اگرچہ بہتر اور افضل اب بھی یہی ہے کہ جو شخص کسی کفار کے ملک میں اسلام لائے وہ اس دارالکفر کو چھوڑ کر کسی اسلامی ملک میں جا کر آباد ہو جائے اسی طرح عام حالات میں مسلمانوں کو کفار کے ملک میں مستقل طور پر وہاں کا شہری بن کر نہ رہنا چاہئے یہی دینی اور دنیوی مصلحتوں کا تقاضہ ہے تجربہ بھی اس کا

شاہد ہے تاہم اب یہ ترک وطن (ہجرت) فرض بہر حال نہیں ہے یہی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی“ (ہجرت کے تفصیلی احکام کتب فقہ سے معلوم کیجئے)

جہاد

لیکن اسلام اور کفر کا مقابلہ اور مسلمانوں کی کافروں سے لڑائی اور اس کی تیاریاں رہتی دنیا تک باقی رہیں گی حدیث شریف میں آیا ہے ”جہاد قیامت تک جاری رہے گا“ اس لئے جہاد اور اس میں نیک نیتی کا اعتبار اور اسی پر اجر و ثواب کا دار و مدار ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا اسی لئے جب بھی کوئی اسلامی ملک کا مسلمان فرمان روا اللہ کی راہ میں کافروں سے جنگ کرنے کے لئے میدان جنگ میں جانے (فوج میں بھرتی ہونے) اور لڑنے کی دعوت دے تو حسب استطاعت ہر مسلمان کا خواہ وہ اس ملک کا باشندہ ہو خواہ کسی دوسرے اسلامی ملک کا فرض ہے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لئے کفار سے جنگ کرے، ہجران معذور لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی رحمت سے مجبور و معذور قرار دے دیا ہے (جہاد کے فرض ہونے کے شرائط اور تفصیلی احکام کتب فقہ سے معلوم کیجئے)

فتح مکہ سے پہلے ہجرت اور جہاد اور اس کے بعد صرف جہاد اسلام کی سب سے زیادہ اہم اور موجب اجر و ثواب عبادتیں ہیں مگر ان دونوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت اور اجر و ثواب ملنے کا مدار صرف اخلاص اور نیت پر ہے اگر رضائے الہی کے علاوہ کسی بھی اور نیت سے کرے گا تو یہ عبادتیں بھی مردود ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے لئے کرے گا تو دنیا اور آخرت دونوں میں اجر عظیم پائے گا یہی اس حدیث کی اصل روح ہے۔
یہ حدیث شریف بھی قرآن کریم کی مذکورہ ذیل آیت سے مقتبس اور ماخوذ ہے۔

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ (مائدہ: ۵۴)

جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو گئے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔

اخلاص کے ساتھ کسی نیک کام کی صرف نیت کرنے پر بھی عمل کا ثواب ملتا ہے

وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: ”إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرَجَالًا مَا سِيرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبْسَهُمُ الْمَرَضُ“ . وَفِي رَوَايَةٍ: ”إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ“ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه، قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ”إِنَّ أَقْوَامًا خَلَفْنَا بِالْمَدِينَةِ مَا سَلَكَنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا، إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا؛ حَبْسَهُمُ الْعَلْتُرُ“ .

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک غزوہ (جنگ) میں گئے ہوئے تھے (راستہ میں ایک دن) آپ نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا:

مدینہ میں کچھ ایسے لوگ رہ گئے ہیں) کہ (جو اگرچہ اس وقت تمہارے ساتھ نہیں ہیں مگر) تم نے جو بھی مسافت طے کی ہے اور جس وادی (کھلے میدان) سے تم گزرے ہو وہ تمہارے ساتھ (اور شریک سفر) رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف دکھ بیماری نے (اس سفر جہاد سے) روک دیا ہے (ورنہ ان کے دل جہاد میں شرکت کے لئے تڑپ رہے ہیں) ایک روایت میں ”تمہارے ساتھ ہیں“ کے بجائے ”وہ اجر میں تمہارے شریک ہیں“ آیا ہے یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے۔

صحیح بخاری میں یہی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک (تبوک کی لڑائی) سے واپس آرہے تھے کہ آپ نے فرمایا بے شک بہت سے وہ لوگ جن کو ہم مدینہ میں چھوڑ آئے ہیں جس گھاٹی سے ہم گزرے ہیں اور جس وادی کو ہم نے طے کیا ہے وہ لوگ اس میں ہمارے ساتھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو مجبوری و معذوری نے بے بس کر دیا ہے۔

حدیث کی تشریح

حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جو مجبور و معذور لوگ کسی کار خیر مثلاً حج جہاد، صدقات و خیرات وغیرہ کا جذبہ صادق اور پختہ ارادہ و نیت دل میں رکھتے ہیں مگر مجبوری و معذوری کی وجہ سے اس کار خیر کو کر نہیں سکتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس نیک نیتی اور اخلاص کی بنا پر اس کار خیر کا ثواب عطا فرمادیتے ہیں سبحان اللہ کتنی مفید چیز ہے خلوص اور نیک نیتی! چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص دل سے کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو ایک نیکی کا ثواب تو اسی وقت اس کے لئے لکھ دیا جاتا ہے اور جب اس پر عمل کر لیتا ہے تو دس نیکیوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے درحقیقت نیک نیتی خود ایک مستقل عبادت، عبدیت (بندگی) کا تقاضا اور تعلق مع اللہ (اللہ سے تعلق) کی دلیل ہے اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے“ لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ نیک کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور قرب کا موجب ہیں اگرچہ ظاہری اسباب و وسائل کی بنا پر اس کی قدرت سے باہر بھی ہوں تب بھی ان پر عمل کرنے کی پختہ نیت، جذبہ صادق اور شوق کامل اپنے دل میں ضرور رکھے تاکہ ان کاموں پر عمل کرنے کی سعادت اگر میسر نہ بھی آئے تو کسی نہ کسی درجہ میں ان کے اجر و ثواب سے تو محروم نہ رہے خصوصاً جہاد کہ اس کے متعلق تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مسلمان کے دل نے کبھی اس کو جہاد کے لئے کہا بھی نہیں (یعنی کبھی اس کے دل میں خیال بھی نہیں آیا) اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مر (العیاذ باللہ) اور ظاہر ہے کہ اس نیت، جذبہ و شوق سے تو بجز بد بختی اور شومی قسمت کے اور کوئی چیز مانع ہو ہی نہیں سکتی مفت کا اجر و ثواب ہاتھ آتا ہے۔

ہماری حالت

مگر وائے محرومی و شومی کہ ہمارے دلوں کو دنیوی اغراض و خواہشات نے ایسا مردہ بنا دیا ہے کہ بقول شاعر ”کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا“ یہ سب کچھ ایمان یعنی تعلق مع اللہ کے ضعف کا نتیجہ ہے ہمارا ایمان و اسلام تو اب برائے نام رہ گیا ہے اس لئے ہمیں جلد از جلد اور پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ از سر نو جوڑنا چاہئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پختہ کرنا چاہئے تاکہ اللہ تعالیٰ اس نیک نیتی اور نیک عملی کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائیں۔ آمین۔

اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ مرتے وقت آدمی اپنے مال میں سے ایک تہائی سے زائد کی وصیت نہیں کر سکتا۔

علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ مریض سارے مال کی وصیت کرنے والا اسی مرض میں وفات پا جائے تو اس صورت میں وراثت کی حق تلفی ہوگی اور اگر یہ زندہ رہا تو اب یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا اور قرآن مجید میں اس سے منع کیا گیا ہے۔
ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ تم اپنا ہاتھ بالکل ہی نہ کھول دو کہ تمہیں قابل ملامت اور بے دست دیا ہو کر بیٹھنا پڑے۔ (۲)

بیوی کے منہ میں نوالہ دینے کا ثواب اور اس کی مصلحت

حتی ما تجعل فی فی امراتک حتی کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔
اس حدیث میں امور خیر کے ذیل میں مثال دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک ایسے ہی موقع پر جب ایک صحابی نے تعجب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ حرام طریقہ سے کرے تو گناہ ہے تو جب اس نے جائز طریقہ سے کیا تو اس پر ضرور ثواب ملنا چاہئے۔
اس سے معلوم ہوا کہ آدمی دن رات میں جب بھی اپنے طبعی تقاضوں اور خواہشوں کو پورا کرے تو اس وقت دل میں یہ نیت اور ارادہ رکھے کہ ہم یہ تمام کام صرف اس لئے کر رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ہمارے لئے حلال اور جائز کیا ہے تو اس نیت کرنے سے آدمی کے تمام کام عبادت بن جائیں گے۔
ولعلک ان تحلف حتی یتفیع بک اقوام ویضر بک آخرون۔ تمہیں مزید زندگی ملے گی کچھ لوگ تم سے نفع اٹھائیں گے اور کچھ لوگوں کو تم سے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ عراق کی فتح تک زندہ رہے اور وہاں کے امیر بھی بنے جس سے مسلمانوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملا اور کفار کو تکلیف اٹھانی پڑی۔

اللہم امض لا صحابی ہجرتہم اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری (پورا) فرمادے۔ (۳)

ابتدائے اسلام میں مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی۔ اس وجہ سے بعد میں بھی

صحابہ مدینہ سے مکہ نہیں گئے کہیں ہجرت میں نقصان واقع نہ ہو جائے۔ حج اور عمرہ کے وقت بھی صحابہ ڈرتے تھے کہ مکہ میں کہیں موت آگئی تو ہجرت میں کمی نہ آجائے۔ (۴)

لکن البانس سعد بن خولقہ یہاں سے راوی کا جملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اس سے پہلے ختم ہو گئی۔ راوی سے مراد علامہ زہری رحمہ اللہ ہیں یا بعض کے نزدیک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ (۵)

حضرت سعد بن خولقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا

ان مات بکنتہ حضرت سعد بن خولقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ بارے میں بعض کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ بعض کی رائے یہ ہے غزوہ بدر کے بعد وہ مکہ واپس تشریف لے گئے تھے بعض کے نزدیک حجۃ الوداع پر تشریف لے گئے وہاں ہی ان کا انتقال ہو گیا اسی طرح اور بھی کئی اقوال ہیں۔ بہر حال سعد بن خولقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مکہ میں ہوا اور اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کیلئے دعا فرمائی تھی۔

راوی حدیث حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے مختصر حالات

سعد نام۔ ابو اسحاق کنیت۔ والد کا نام مالک اور ابو وقاص کنیت، والدہ کا نام حمنہ تھا۔ رشتہ میں آپ کے ماموں تھے۔ (اسد الغابہ ۲۹۱۲)

انیس سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے گھر پر قیام فرمایا۔ (طبقات بن سعد ج ۲ ص ۹۹)

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک رہے اور خوب جوہر دکھائے ان لوگوں میں تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا۔ یہ دس صحابہ تھے جس کو عراقی نے اس قطعہ میں جمع کر دیا ہے۔

وافضل اصحاب النبی مکانہ
سعید زبیر سعد عثمان عامر
ومنزلة من بشر واعنان
علی ابن عوف طلحہ الحمران

غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابرم یا سعد فداک امی وابی اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں (بخاری کتاب المغازی غزوہ احد) یہ جملہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کیلئے بہت ہی فضیلت رکھتا ہے۔ یہی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر طلحہ اور دوسرے موقع پر زبیر کیلئے فرمایا تھا۔ (بخاری کتاب المناقب سعد بن وقاص)

حضرت عمرؓ نے ان کو کوفہ کا والی بنایا تھا مگر بعد میں معزول کر دیا۔ حضرت عثمانؓ نے دوبارہ ان کو بحال کر دیا۔ وفات۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ آخری وقت میں مقام عقیق چلے گئے جو مدینہ منورہ سے دس میل پر تھا وہاں ہی ۵۵ھ میں انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر ۷۰ سال سے کچھ زائد تھی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

مرویات۔ بقول ابن جوزی رحمہ اللہ کے ان سے روایات کی تعداد ۷۱ ہے۔ ۲۵ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔

باپ کا صدقہ بیٹے کو مل جائے تب بھی باپ کو اس کی نیت کا ثواب ضرور ملتا ہے

وعن أبي يزيدَ مَعْنُ بنِ يزيدَ بنِ الأحنسِ رضي اللهُ عنهم ، وهو وأبوه وَجَدَهُ صحابِئُونَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَائِرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَآتَيْتُهُ بِهَا . فَقَالَ : وَاللَّهِ ، مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ " رواه البخاري .

ترجمہ: حضرت ابو یزید معن بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: (ایک مرتبہ) میرے والد یزید نے صدقہ کرنے کے لئے کچھ دینار (اشرفیاں) نکالے اور مسجد میں ایک آدمی کے پاس رکھ دیئے (کہ جو ضرورت مند آئے اس کو دے دینا) (اتفاق سے میں مسجد میں آیا تو اس آدمی نے مجھے ضرورت مند دیکھ کر وہ دینار دے دیئے) میں نے لے لئے اور ان کو لے کر (گھر) آیا اور والد صاحب کو بتلایا تو انہوں نے فرمایا: بخدا میں نے تجھے دینے کی نیت تو نہیں کی تھی (میں نے تو اور محتاجوں مسکینوں کو دینے کے لئے رکھے تھے) تو میرے اور ان کے درمیان بحث ہونے لگی (میں کہتا تھا کہ میں سب سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج ہوں پہلے میرا حق ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے تو صدقہ کی نیت سے یہ دینار نکالے ہیں تو تو میری اولاد ہے تیری کفالت تو میرا فرض ہے اولاد کو صدقہ نہیں پہنچتا آخر کار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں فیصلہ کے لئے حاضر ہوئے تو آپ نے (ہم دونوں کے بیان سن کر) فرمایا اے یزید تم نے جو صدقہ کی نیت سے یہ دینار نکالے ہیں اس کا ثواب تم کو ضرور ملے گا اور (مجھ سے) فرمایا: اے معن! تم نے جو لیا وہ تمہارے لئے (حلال) ہے (جاؤ اپنی ضرورتوں میں خرچ کرو)

حدیث کی تشریح: (۱) زکوٰۃ اور صدقات واجبہ مثلاً صدقہ فطر صدقہ نذر وغیرہ تو اولاد کو دینے سے نہیں ادا ہوتے ہاں نفل صدقات اگر صدقہ کی نیت سے ضرورت مند اور محتاج اولاد کو دیئے جائیں تو ادا ہو جاتے ہیں بلکہ اس میں دو گونہ ثواب ملتا ہے صدقہ کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی حضرت یزید کو غالباً یہ مسئلہ معلوم نہ تھا اس لئے وہ یہ سمجھ کر معترض ہوئے کہ میں صدقہ کے ثواب سے محروم ہو گیا حالانکہ میری نیت یہی تھی حضرت معن کا کہنا یہ تھا کہ میں ضرورت مند بھی ہوں اور آپ کی اولاد بھی اس لئے میں بنسبت اور فقراء و مساکین کے آپ کی اعانت اور صلہ کا زیادہ مستحق ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتلا کر حضرت یزید کو مطمئن کر دیا کہ تمہاری صدقہ کی نیت کا ثواب تمہیں ضرور ملے گا۔

نیت کا پھل اور اللہ تعالیٰ کی شان کرم

دیکھئے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی! بظاہر حضرت یزید کے وہ دینار گھر کے گھر ہی میں رہے مگر اللہ تعالیٰ نے

محض ان کی نیت کی بنا پر ان کو صدقہ کے اجر و ثواب سے سرفراز فرمادیا۔ سبحان اللہ! سچ فرمایا ہے: دین میں ذرہ برابر تنگی نہیں کوئی عمل کر کے تو دیکھے۔

ہر مسلمان کو نفل صدقات، صدقہ ہی کی نیت سے سب سے پہلے اپنے محتاج اور ضرورت مند متعلقین اور قرابتداروں کو دینے چاہئیں تاکہ صدقہ اور صلہ رحمی دونوں کا ثواب ملے اور دو عبادتیں ادا ہوں ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا دوسرے صلہ رحمی کرنا۔

(۲) یہ حدیث مندرجہ ذیل آیت کریمہ سے ماخوذ و مقتبس ہے۔

واتی المال علی حبه ذوی القربی والیتامی والمساکین الآیة البقرة: ۱۷۷
اور مال کی محبت کے باوجود اس کو قرابت داروں یتیموں اور مسکینوں کو دے دیا۔
دیکھئے اس آیت کریمہ میں قرابت داروں کا حق سب سے پہلے رکھا ہے۔

اللہ کی خوشنودی کی نیت سے تو انسان جو کچھ بھی خرچ کرے سب عبادت ہے حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں نوالہ بھی اس نیت سے دے تو وہ بھی عبادت اور اجر و ثواب کا موجب ہے

وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أميَّب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه ، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم ، قال : جلهني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي ، فقلت : يا رسول الله ، إنني قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : " لا " ، قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ فقال : " لا " ، قلت : فالثلث يا رسول الله ؟ قال : " الثلث والثلث كثير أو كبير إنك إن تذر ورتك أغنيته خير من أن تذرهم عائلة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك " ، قال : فقلت : يا رسول الله ، أخلف بعد أصحابي ؟ قال : " إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا أزدت به درجة ورفعة ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون . اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ، لكن البائس سعد بن خولة " يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة . متفق عليه .

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ان دس صحابیوں میں سے ایک ہیں جن کو جیتے جی دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئی ہے سے روایت ہے کہ ۱۰ھ میں حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم کے آخری حج) کے سال (میں مکہ میں جا کر شدید مرض میں مبتلا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”فداہ ابی وائی“ (آپ پر میرے ماں باپ قربان) میری عیادت (مزاج پر سی) کیلئے میرے پاس تشریف لائے۔ میری بیماری انتہائی شدت اختیار کر چکی تھی (اور حالت نازک ہو گئی تھی) تو میں نے (یہ سمجھ کر یہ میرا آخری وقت ہے) عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میری بیماری خطرناک حد کو پہنچ گئی ہے اور میں کافی مالدار ہوں اور (میری صلیبی وارث) صرف میری ایک لڑکی ہے (اس کے لئے تہائی مال بہت ہے) تو کیا میں دو تہائی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ (فقراء و مساکین کے لئے وصیت) نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا: ”نہیں“ میں نے عرض کیا (اچھا) آدھا مال یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ”نہیں“ تو میں نے عرض کیا: (اچھا) ایک تہائی مال آپ نے فرمایا ”نہیں“ تہائی مال (میں حرج نہیں) اور تہائی بھی بہت ہے ”یا (فرمایا) ”بڑا حصہ ہے“ (اس کے بعد آپ نے زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال کا صدقہ کرنے اور باقی کو محفوظ رکھنے کی حکمت بیان کی) اور فرمایا: یاد رکھو! (اگر تم اس بیماری میں وفات پا جاتے ہو تو) بے شک تم اپنے وارثوں کو (اپنے مرنے کے بعد) غنی اور مالدار چھوڑو، یہ اس سے (بدرجہا) بہتر ہے کہ تم ان کو (مال میراث سے محروم کر کے) محتاج و مفلس چھوڑو کہ وہ ایک ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے (اور بھیک مانگتے) پھریں (اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ تہائی مال کی وصیت کرو باقی ورثاء کے لئے رہنے دو) اور (اگر تم زندہ رہتے ہو تو) بیشک تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے جو مال بھی خرچ کرو گے تمہیں ضرور اس کا اجر ملے گا یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت سے (اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دو) تو وہ بھی عبادت ہے اور اس کا بھی تم کو اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ کے لئے یہ انفاق (خرچ کرنا) اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمہارے پاس مال ہو اس لئے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت نہ کرو اور باقی مال رہنے دو) اس پر سعد بن وقاص نے عرض کیا: تو کیا یا رسول اللہ! میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ (اور آپ کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس نہ جاسکوں گا؟) آپ نے فرمایا: تم پیچھے رہ بھی گئے تو جو بھی نیک کام تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرو گے یقیناً اس کی وجہ سے تمہارا درجہ زیادہ (سے زیادہ) اور بلند (سے بلندتر) ہو گا اور غالب تو یہی ہے کہ تم (اس بیماری کے) پیچھے (زندہ) رہو گے اور تمہاری ذات سے بہت سے لوگوں (مسلمانوں) کو نفع پہنچے گا اور بہت سے لوگوں (کفار) کو ضرر پہنچے گا (مسلمان تمہاری زیر قیادت اموال غنیمت اور اجر و ثواب جہاں سے مالا مال ہوں گے اور کفار کو تمہاری جنگ اور تاخت و تاراج سے بے پایاں جانی ملی اور ملکی نقصان اٹھانا پڑے گا چنانچہ عراق کی لڑائیوں میں ایسا ہی ہوا اس کے بعد حضرت سعد نے جس خطرہ کا اظہار کیا تھا کہ کیا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس نہ جاسکوں گا اس کے لئے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں) اے اللہ تو میرے صحابہ کی مکہ سے مدینہ ہجرت کو برقرار رکھو اور ان کو پچھلی حالت پر نہ لوٹائیو (یعنی پھر مکہ کی سکونت پر انہیں مجبور نہ کیجیو) لیکن قابل رحم تو ہے بیچارہ سعد بن خولہ (کہ حج کے لئے مکہ آیا اور وہیں اس کی وفات ہو گئی) کہ اوی کہتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس کلمہ سے سعد بن خولہ کی حالت پر تاسف و ترحم کا اظہار ہے کہ ان کی وفات (آپ کی اس دعا سے پہلے ہی) مکہ میں ہو گئی اور وہ آپ کی دعا سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات

نام سعد کنیت ابو اسحاق۔ والد کانام مالک کنیت ابو وقاص۔ والدہ کانام حمہ تھ۔ رشتہ میں آپ کے ماموں تھے۔ (سردار غلاب) انیس سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے گھر پر قیام فرمایا۔ (طبقات بن سعد جز ۱ ص ۱۰۸) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک رہے اور خوب جوہر دکھائے ان لوگوں میں تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا۔ یہ دس صحابہ تھے جس کو عراقی نے اس قطعہ میں جمع کر دیا ہے۔

وافضل اصحاب النبی مکانہ
ومنزلة من بشر واعمان
سعيد زبير سعد عثمان عامر
علي ابن عوف طلحة الحران

غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ارم یا سعد فداك امی و ابی“ اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ (بخاری کتاب المغازی غزوہ احد) یہ جملہ حضرت سعد کیلئے بہت ہی فضیلت رکھتا ہے یہی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر طلحہ اور دوسرے موقع پر زبیر رضی اللہ عنہ کیلئے فرمایا تھا۔ (فتح الباری کتاب المناقب سعد بن وقاص) حضرت عمرؓ نے ان کو کوفہ کا والی بنایا تھا مگر بعد میں معزول کر دیا۔ حضرت عثمانؓ نے دوبارہ ان کو بحال کر دیا۔ وفات۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ آخری وقت میں مقام عقیق چلے گئے جو مدینہ منورہ سے دس میل پر تھا وہاں ہی ۵۵ھ میں انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر ۷۰ سال سے کچھ زائد تھی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ مرویات۔ بقول ابن جوزی رحمہ اللہ کے ان سے روایات کی تعداد ۱۷۲ ہے۔ ۲۵ بخاری اور مسلم دونوں

میں ہے۔ (ابوداؤد بحوالہ مشکوٰۃ ص ۱۳۵)

حدیث کی تشویح: تمام ترمیمی عبادات اور حقوق العباد اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ”مال“ ہے اور اسی لحاظ سے مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس لئے کہ انسان نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ مالی عبادتوں میں اور اللہ کے مقرر کردہ بندوں کے حقوق ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال خرچ کر کے ہی اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتا ہے اور یہی خرچ کرنا اس نعمت کا شکر یہ اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے بموجب دنیا میں مال کی زیادتی

فراوانی اور برکت کا موجب اور آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث ہے ایک مفلس اور تہی دست آدمی محض مال نہ ہونے کی وجہ سے ان تمام سعادتوں سے محروم رہتا ہے اسی لئے حدیث میں ”مال کو بہترین مددگار بتلایا ہے۔“

مال دیکھ بھال کر خرچ کرنا چاہئے

لہذا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اسے سارا کا سارا مال ایک ہی دفعہ صدقہ خیرات ہی میں کیوں نہ ہو خرچ نہ کر دینا چاہئے بلکہ تھوڑا تھوڑا اور بقدر ضرورت اپنی اپنے اہل و عیال کی قرابتداروں کی پڑوسیوں کی ان کے علاوہ اور حاجتمندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور حقوق العباد ادا کرنے میں صرف کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہی اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے حتیٰ کہ اگر بیمار ہو جائے اور زندگی کی کچھ زیادہ توقع نہ رہے تب بھی سارا کا سارا مال فقراء اور مساکین کو صدقہ نہ کر دینا چاہئے کہ اس میں وفات پا جانے کی صورت میں ورثاء کی حق تلفی ہوگی اور زندہ رہنے کی صورت میں خود خالی ہاتھ رہ جائے گا اپنی ضرورتیں پوری کر سکے گا نہ دوسروں کی اور اس حق تلفی یا حاجت روائی سے محرومی کا سبب یہی بے اعتدالی ہوگی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ارشاد ہے۔

ولا تبسطھا کل البسط فتقعد مملوماً محسوراً بنی اسرائیل: ۲۹ تم اپنا ہاتھ بالکل ہی نہ کھول دو (سارا کا سارا مال ایک دفعہ ہی نہ خرچ کر دو) کہ تمہیں قابل ملامت اور بے دست و پا ہو کر بیٹھنا پڑے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا حدیث میں سعد بن ابی وقاصؓ کو اور ان کے بعد آنے والی نسلوں کو سارا کا سارا مال ایک دفعہ ہی صدقہ کر دینے سے منع کرنے کی یہی مصلحت سمجھائی ہے اسی پر ہر مسلمان کو جسے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا اور مالدار بنایا ہو عمل کرنا چاہئے۔

بیوی کے منہ میں نوالہ دینے کو کارِ ثواب بتلانے کی مصلحت

اس حدیث میں کارِ خیر کے ذیل میں بیوی کے منہ میں نوالہ دینے کا ذکر مثال کے طور پر آیا ہے اس لئے کہ انسان اپنی نادانی کی وجہ سے بیوی بچوں کی دلجوئی کو اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کو ایک ”طبعی“ بلکہ ”نفسانی“ تقاضہ سمجھ کر پورا کرتا ہے اور اجرِ عظیم سے محروم رہتا ہے جیسے اس سے پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت مند اولاد کی حاجت روائی پر صدقہ کے ثواب کا اعلان فرمایا کہ اس کے عبادت اور موجب ثواب ہونے سے آگاہ فرمایا ہے ایسے ہی اس حدیث میں بیوی کی دلجوئی اور اس کے حقوق کی ادائیگی کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ اور اجر و ثواب کا موجب قرار دے کر اس کے عبادت و طاعت ہونے سے آگاہ فرمایا ہے ایک ایسے ہی موقع پر ایک صحابی نے ازراہ تعجب عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک شخص اپنی بیوی کا بوسہ لیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے؟ (یہ تو سراسر نفسانی خواہش کا تقاضہ ہے) رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا: اگر یہی بوسہ وہ کسی اجنبی

عورت کالے تو اس پر گناہ ہو گیا نہیں؟ صحابی نے عرض کیا ”ضرور گناہ ہوگا“ اس پر آپ نے فرمایا ”(تو جب اس نے جائز محل میں اور حلال طریق پر اپنی خواہش کو پورا کیا ہے) تو اس پر ضرور ثواب ملنا چاہئے۔“

بہر صورت یہ ہماری بڑی محرومی اور قابل صد افسوس نادانی اور غفلت ہے کہ ہم رات دن تمام جائز طبعی تقاضوں اور خواہشوں کو پورا کرتے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خوشنودی کے حصول کا قطعاً خیال اور نیت نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ”یہ تو دنیوی کام ہے انہیں دین سے کیا تعلق اور ان میں عبادت و طاعت کا کیا دخل“ اور غلط فہمی بلکہ کج فہمی کی وجہ سے گونا گوں اجر و ثواب سے محروم رہتے ہیں یہی نہیں بلکہ یہ طبعی تقاضے اور عادت کے تحت کئے جانے والے تمام جائز کام اور ان میں مشغولیت و انہماک اس کج بینی اور کج فہمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے غافل اور دور سے دور تر ہونے کا سبب بنتے ہیں اس کی وجہ صرف ہماری جہالت یا بے توجہی ہے۔

ہماری ساری زندگی عبادت بن سکتی ہے

کی اور قصور صرف نیت اور ارادہ کا ہے اگر ہم اپنے ان تمام تر طبعی تقاضوں، خواہشوں اور عادی امور کو پورا کرنے کے وقت دل میں یہ نیت اور ارادہ رکھیں کہ ”ہم یہ تمام کام صرف اس لئے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو ہمارے لئے حلال اور جائز کیا ہے تو ہماری ساری زندگی عبادت اور ہر عادت و طاعت اور تمام دنیا دین بن جائے اور ہماری زندگی کے تمام لیل و نہار اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں گزریں۔“

سبحان اللہ کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کے راستہ پر چلنا اور کتنا سہل ہے دین پر عمل کرنا مگر وائے محرومی! کہ ہم اپنی بے حسی اور بے توجہی کی وجہ سے اس سعادت سے محروم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث قدسیہ اور کلمات طیبہ کے پڑھنے سے ہمارے دلوں سے غفلت اور بے حسی کے پردے ہٹا دے اور ہمیں نیک نیتی اور نیک عملی کی توفیق عطا فرمادے۔

حضرت سعد بن خولہؓ کی وفات پر افسوس

اور مہاجرین کے لئے دعا فرمانے کی وجہ

اسلام کے ابتدائی عہد میں یعنی فتح مکہ سے پہلے تک مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی فضیلت اور عند اللہ قبولیت کا موجب تھا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے تمام مہاجرین صحابہؓ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ہجرت کو کسی بھی صورت میں فتح کرنے یعنی فتح مکہ کے بعد مکہ میں جا کر آباد ہونے کو گوارا نہیں کرتے تھے نہ ہی ان کے لئے جان بوجھ کر ایسا کرنا جائز تھا ان کو ڈر صرف اس امر کا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مکہ جائیں حج یا عمرہ کی نیت سے اور کسی ناگہانی بیماری یا آفت سے وہیں وفات پا جائیں اور انجام

کار ہم اس ہجرت کی فضیلت سے محروم ہو جائیں جیسا کہ سعد بن خولہ کے ساتھ پیش آیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اظہارِ افسوس فرمایا ہے۔ یہی ڈر حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو تھا جس کا اظہار انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا چونکہ موت زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بھی مہاجرین کی ہجرت کو آخر وقت تک باقی رکھنے کی دعا فرمائی تب حضرت سعدؓ کو اطمینان ہوا۔

شرعاً مرتے وقت کا صدقہ وصیت ہوتا ہے

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مرتے وقت کا صدقہ وصیت ہوتا ہے اور وصیت زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال میں ہو سکتی ہے اگر مرنے والا اس سے زیادہ کی وصیت کرے تو اس کا اعتبار نہیں اور ادائے قرض کے بعد اگر قرض ہو بقیہ مال کا دو تہائی بہر صورت وارثوں کو ملے گا۔

مذکورہ بالا حدیث کے احکام مندرجہ ذیل آیتوں سے ماخوذ مقتضی ہیں۔

بیوی کی دلجوئی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک آیت کریمہ وعاشروہن بالمعروف سے ثابت ہے اور بیوی کی ضروریات کی کفالت! آیت کریمہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا سے ثابت ہے اور اولاد کی ضروریات کی کفالت! وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف سے ثابت ہے۔

عیادت کے فضائل

”جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعودنی“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کیلئے تشریف لائے عیادت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مکمل میں سے ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا اور ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی تو وہ ساٹھ سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔“

مرنے سے پہلے میت صرف تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے

”فالثلث یا رسول اللہ قال الثلث“ ایک تہائی مال کی وصیت کروں یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے فرمایا ہاں! تہائی مال۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ مرتے وقت آدمی اپنے مال میں سے ایک تہائی سے زائد کی وصیت نہیں کر سکتا۔

علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ مریض سارے مال کی وصیت کرنے والا اسی مرض میں وفات پا جائے تو اس صورت میں ورثاء کی حق تلفی ہوگی اور اگر یہ زندہ رہا تو اب یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا اور قرآن مجید میں اس سے منع کیا گیا ہے۔

”ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا“ ترجمہ۔ تم اپنا ہاتھ بالکل ہی نہ کھول دو کہ تمہیں قابل

ملامت اور بے دست و پا ہو کر بیٹھنا پڑے۔“

حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا

”ان مات بمکہ“ حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف سے ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد وہ مکہ واپس تشریف لے گئے تھے۔ بعض کے نزدیک حجۃ الوداع پر تشریف لے گئے وہاں ہی ان کا انتقال ہو گیا اسی طرح اور بھی کئی اقوال ہیں۔ بہر حال سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کا انتقال مکہ میں ہوا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کیلئے دعا فرمائی تھی۔

اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں

وعن أبي هريرة عبد الرحمان بن صخر رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ ، وَلَا إِلَىٰ صُورِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ “ رواه مسلم .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں نہ تمہاری صورتوں کو، لیکن وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں (یعنی صرف ظاہری شکل و صورت اور محض ظاہری دینداری کو دیکھنے کے بجائے تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتے ہیں) (رواہ مسلم)

حدیث کی تشریح: (۱) اس حدیث شریف کا مطلب بھی وہی لگتا ہے جو سب سے پہلی حدیث کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام عبادات و طاعات کی قبولیت کا مدار نیتوں پر ہے، صرف اعمال پر نہیں، حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمانوں اور دینداروں کی سی شکل و صورت اور ظاہری احکام و اعمال کی پابندی اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب نہیں ہے جیسا کہ بعض بے دین لوگ اپنی کافروں کی سی شکل و صورت، وضع قطع، تہذیب و معاشرت اور بے دینی کا جواز ثابت کرنے اور ظاہری احکام کی اہمیت کو کم کرنے کے لئے کہہ دیا کرتے ہیں: میاں! اللہ تعالیٰ شکل و صورت اور ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتے وہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں ہمارے دل ایمان کے نور اور خدا پرستی کی روشنی سے معمور ہیں؟ یہ کھلا ہوا شیطانی دھوکا اور فریب ہے قصد عبادات و احکام الہیہ کو ترک کرنے والے اور غیر مسلموں کی شکل و صورت رکھنے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ تو کھلے ہوئے نافرمان اور بے دین ہیں اگر توبہ نہ کریں گے تو اپنے کئے کی سزا ضرور بھگتیں گے مسلمانوں اور دینداروں کی سی شکل و صورت، وضع قطع اور اسلامی معاشرت اختیار کرنا کافروں اور بے دینوں کی مشابہت اور نفاق سے احتراز کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ قطعاً نافرمان اور گنہگار ہیں حدیث کا مطلب قطعاً یہ ہے کہ احکام الہیہ کی

پابندی اور عبادت گزار کی اسی وقت کار آمد اور موجب نجات ہو سکتی ہے جبکہ اس کے ساتھ اخلاص اور نیک نیتی بھی ہو ورنہ دکھلاوے یا شہرت یا کسی بھی اور غرض کے لئے کی ہوئی عبادت و طاعت مردود ہے۔

حدیث کا ماخذ

یہ حدیث آیت کریمہ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَا عَمَاقِهَا وَلَكِنَّ بِالنَّاسِ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ سَعَىٰ مَا خُوذُوا رِ مَقْتَبَس ہے۔

کون سا جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہے

وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً ، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً ، وَيُقَاتِلُ رِيَّةً ، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَاتَلَ لِنُكُونِ كَلِمَةِ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ بعض لوگ بہادری (دکھانے) کیلئے جنگ کرتے ہیں بعض لوگ قومی حمیت وغیرت (کے جذبہ) کی وجہ سے اور بعض لوگ محض دکھلاوے کے لئے جہاد کرتے ہیں ان میں سے کون سا جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: جو لوگ اس لئے جنگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات اونچی رہے وہ جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہے (ان تینوں جنگوں میں سے ایک بھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات

نام۔ عبد اللہ بنیّت ابو موسیٰ والد کا نام قیس والدہ کا نام طیبہ تھا۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے ان کا خاندان قبیلہ اشعر سے تعلق رکھتا تھا اسی وجہ سے وہ اشعری مشہور ہوئے۔

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے خاندان واپس گئے اپنی قوم کے ذی اثر سردار تھے ان کی دعوت سے ان کے خاندان کے تقریباً پچاس آدمی مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو لے کر مدینہ منورہ اس وقت پہنچے جب کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی پہنچے ہوئے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر سے واپس تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مال غنیمت دینے کے ساتھ ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور انکی جماعت کو بھی دیا۔ (بخاری) پھر بعد کے غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے رہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکو بصرہ کا دلی بھی بنایا ہوا تھا پھر ۳۴ھ میں کوفہ کے امیر بنے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان سات خوش نصیبوں میں سے تھے جنکو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فتویٰ دینے کی اجازت تھی۔ (تذکرہ صحابہ)

آپ کے خصوصی وصف اتباع سنت، تقویٰ، خدمت رسول، شرم و حیلہ، سادگی اور امت مسلمہ کی خیر خواہی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کے ساتھ بھی خصوصی شغف تھا قرآن کریم نہایت خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ان کا قرآن سن کر فرمایا کہ ان کو لحن دلوؤدی سے حصہ ملا ہے۔ (طبقات ابن سعد)

ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلند آواز سے عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے ازواج مطہرات اپنے حجروں کے پاس کھڑی ہو کر ان کا قرآن سننے لگیں۔ صبح کو جب ان کو اطلاع ہوئی تو کہا کہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا تو ان کو اور مشتاق بنا دیتا۔ (طبقات ابن سعد)

قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث سے بھی خصوصی شغف رکھتے تھے ان کی مرویات کی تعداد ۳۶۰ ہے ان میں سے ۵۰ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ ۴ میں بخاری اور ۴۵ میں مسلم منفرد ہیں۔ صحیح قول کے مطابق مکہ میں ۴۲ھ ۴۳ھ ۵۲ھ میں بیمار پڑ گئے۔ وفات کے وقت ۶۱ سال کی عمر تھی۔ (دلیل الفالحین نزہۃ المتعین روضۃ المتعین)

حدیث کی تشویح: شجاعت اور بہادری، قومی غیرت و حمیت پسندیدہ جذبات ہیں بشرطیکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے یا سر بلند رکھنے کے لئے کار فرما ہوں محض بہادری دکھانے یا ملک و قوم میں ٹکڑے بننے سے بچنے کیلئے، لڑنے کو یقیناً اللہ تعالیٰ کے لئے لڑنا نہیں کہا جاتا اور نہ ہی وہ عند اللہ پسندیدہ اخلاق و فضائل میں شمار ہوتا ہے اسی طرح وطن ملک اور قوم کی حفاظت اور ان سے دفاع فرض ہے مگر اسی وقت جبکہ اس کا اصل مقصود و مطلوب ”اللہ تعالیٰ کے دین“ کو سر بلند رکھنا ہو یہی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جس میں آخرت کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ تمام مادی اور دنیوی منافع بھی ضرور حاصل ہوں گے مگر یہ مادی اور دنیوی منافع مسلمانوں اور خدا پرستوں کے اصلی مقاصد اور اغراض نہ ہونے چاہئیں جان تو جان دینے والے ہی کی راہ میں دی جاسکتی ہے اور اسی کے حکم پر قربان کی جاسکتی ہے اور اسی صورت میں شہادت کی زندگی جاوید حاصل ہو سکتی ہے۔

جہاد اور جنگ میں فرق

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی جو جنگ محض وطن قوم اور حکومت یا کسی بھی اور دنیوی غرض کے لئے ہو وہ جنگ ہے جہاد نہیں اس لئے کہ ان اغراض و مقاصد کے لئے تو کفار بھی جنگ کیا کرتے ہیں پھر کافروں اور خدا پرستوں کی لڑائی میں فرق کیا رہا دیکھئے کتنی بد قسمتی ہے ان مسلمانوں کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے یا رکھنے کی نیت اور قصد کے بجائے محض ملک، قوم، وطن یا صرف اپنی آزادی اور حکمرانی کو برقرار رکھنے کی خاطر جنگ کرتے ہیں حالانکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لئے جنگ کریں تو ملک و قوم و وطن کی آزادی سر بلندی اور تمام دنیوی مفادات آپ سے آپ حاصل ہو جائیں اور دین و دنیا دونوں کی کامرانیوں اور سرخروئی نصیب ہو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لئے جہاد کرنے والے

کو ”مجاہدین اسلام“ کے بجائے ”مجاہدین قوم“ یا ”مجاہدین وطن“ کہنا بھی کھلی ہوئی جہالت اور ان مجاہدین کی سخت توہین ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہالت سے بچائے۔

اعمال کی قبولیت کیلئے اللہ کی رضا شرط ہے

”من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا“

اللہ کے ہاں ہر عمل کا اعتبار چونکہ صحیح نیت پر ہے تو جہاد جیسے عمل میں تو بدرجہ اولیٰ یہ ضروری ہوگا۔ اسی وجہ سے فرمایا مجاہد تو وہی ہوگا جو اعلائے کلمۃ اللہ کیلئے لڑے گا۔

مگر اللہ نے انسانوں کو ظاہر کا مکلف بنایا ہے اس لئے میدان جہاد میں ہر مسلمان مقتول کے ساتھ شہید والا معاملہ کیا جائے گا اور نیت اور ارادے کا مسئلہ اللہ کے سپرد ہوگا کیونکہ دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ (نزحۃ المتقین) اس حدیث کو بھی علماء جوامع کلم میں شمار کرتے ہیں۔ (روضۃ المتقین ۲۱۱)

حدیث کا ماخذ

یہ حدیث آیت کریمہ و کلمۃ اللہ ہی العلیا (توبہ) سے ماخذ مقبس ہے۔

کسی جرم اور گناہ کے درپے ہونے کی سزا

وعن أبي بكر بن الصوارث الثقفي رضي الله عنه : أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” إِذَا لَقِيَ الْمُسْلِمَانِ بَسِيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ “ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بِالْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : ” إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ “ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب دو مسلمان تلواریں سونت کر ایک دوسرے کے مقابلہ پر آجائیں (اور لڑنے لگیں) تو (اس لڑائی میں) قتل کرنے والا (قاتل) اور قتل ہونے والا (مقتول) دونوں جہنمی ہیں“ صحابہؓ نے عرض کیا: قاتل بیشک جہنمی ہے (کہ اس نے ایک کلمہ گو مومن کو قتل کیا) مگر مقتول کا کیا تصور ہے (وہ جہنمی کیوں ہے وہ تو شہید ہونا چاہئے)؟ آپ نے فرمایا: وہ بھی تو اپنے مد مقابل (مسلمان) کو قتل کرنے کے درپے تھا (اتفاق ہے کہ اس کا وار خالی گیا اور کار گرنہ ہو اور خود قتل ہو گیا) بخاری و مسلم

حضرت نفع بن الحارث رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات

نام۔ نفع، کنیت ابو بکرہ، طائف کے قبیلہ ثقیف کے رہنے والے تھے۔ دادا کا نام کلدة تھا۔ ابو بکرہ ان کی کنیت تھی کنیت کی وجہ یہ ہے بکرہ کے معنی لکڑی کی چرخی کے ہیں جس پر ڈول کی رسی چلتی ہے۔ جب

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تو یہ بھی اس چرخہ کے سہارے لٹک کر کودے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آکر مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکو ابو بکرہ کہہ کر مخاطب فرمایا اور ان کو آزاد بھی فرمادیا لیکن وہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہی کہتے رہے۔ (طبقات ابن سعد)

بصرہ آباد ہونے کے بعد بصرہ میں آگئے اور شروع میں مدینہ منورہ میں بھی رہے۔ (اسد الغابہ)
فتنہ سے بہت دور رہتے تھے یہاں تک کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی ان کا خصوصی شغف عبادت تھا۔ آخری وقت تک خوب عبادت کرتے رہے۔

صاحب اسد الغابہ لکھتے ہیں ”کان ابو بکرۃ کثیر العبادۃ حتی مات“ (اسد الغابہ)

وفات۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں بصرہ میں ہی انتقال ہوا۔ (تہذیب الکمال)

مرویات۔ ان سے مرویات کی تعداد ۱۳۲ ہیں ان میں سے آٹھ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور پانچ میں بخاری منفرد ہیں۔ ان کی روایات زیادہ تر ان کے صاحبزادگان سے مروی ہے۔ (نزہۃ المتقین)

اعمال و افعال میں نیت کا دخل

حدیث کی تشریح: انسان کی نیت اس کے اعمال و افعال میں کس قدر موثر اور کار فرما ہے کہ ”مقتول مسلمان“ نے حالانکہ مسلمان کو قتل نہیں کیا مگر پھر بھی جہنمی ہوا صرف اس لئے کہ وہ ایک مسلمان کے قتل کرنے کے درپے تھا اگر اس کا وار خالی نہ جاتا تو وہ یقیناً اس کو قتل کر دیتا اسی بناء پر جہنمی ہوا۔

مقتول قاتل کی طرح جہنمی تو ضرور ہوگا مگر دونوں کے جرم اور سزا میں فرق ہے قاتل ایک مسلمان کو عمداً قتل کرنے کا مرتکب ہوا ہے اس کی سزا ہے مخلد فی النار ہونا (زمانہ دراز تک جہنم میں جلنا) ہے مقتول کا جرم ہے ایک مسلمان کو قتل کرنے کے درپے ہونا جو مستقل گناہ ہے خواہ قتل کر پائے یا نہ کر پائے اس کی سزا بھی جہنم ہے مگر مخلد نہ ہوگا۔

”فالقاتل والمقتول فی النار“

اس حدیث سے محدثین رحمہم اللہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کا پختہ عزم کر لے اور اس کیلئے وہ اسباب و وسائل کو بھی اختیار کر لیتا ہے اور پھر وہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے اپنے اس عزم کو تکمیل تک نہ پہنچا سکے تو اس صورت میں اس کو وہ گناہ ملے گا جو کرنے پر ملتا ہے۔ (نزہۃ المتقین ۲۶۱)

محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں لڑائی سے مراد وہ لڑائی ہے جو دنیاوی حمیت و عصبيت کی وجہ سے کی جا رہی ہو کوئی شرعی معاملہ ان کے باہمی قتال کی بنیاد نہ ہو۔

اور اگر کوئی شرعی معاملہ ان کے درمیان لڑائی کا ذریعہ بن رہا ہو اور دونوں اپنے اپنے اجتہاد کی وجہ سے اپنے کو حق سمجھ کر دوسرے سے لڑائی کر رہا ہو تو اس صورت میں وہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگا۔ (نزهة المتقين ۲۶۱)

”حویصا علی مباحہ“ مسلم شریف میں ”انہ قداراد قتل صاحبہ“ کے الفاظ آئے ہیں کہ دوسرے نے بھی اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔

حدیث کا ماخذ

یہ حدیث مذکورہ ذیل آیات سے ماخوذ ہے۔

(۱) ومن یکتُمہا فانہ اثم قلبہ (بقرہ: ۲۸۳) (۲) ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا (بنی اسرائیل: ۳۶) قل ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ (بقرہ: ۲۸۳)

نیک نیتی کے ثمرات و برکات

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سَوْقِهِ وَبَيْتِهِ بَضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَذَلِكَ أَنْ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ ، لَا يَنْهَرُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ : لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْسِبُهُ ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ ، مَا لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ . وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَنْهَرُهُ " هُوَ يَفْتَحُ الْبَابَ وَالْهَلَّةَ وَالزَّاي : أَي يُخْرِجُهُ وَيُنْهَضُهُ .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جماعت کے ساتھ (مسجد میں) انسان کی نماز گھر یا بازار میں نماز (پڑھنے) کے مقابلہ پر چند اور بیس (پچیس یا ستائیس) درجہ افضل ہے اور یہ اس لئے کہ جب ایک شخص (مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کی نیت سے) وضو کرتا ہے پھر مسجد آتا ہے اس طرح کہ بجز نماز ادا کرنے کے اور کوئی غرض اس کے اٹھنے اور چلنے کا سبب نہیں ہوتی تو (اس اخلاص اور نیت کے ساتھ) جو بھی قدم وہ زمین پر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور ایک خطا معاف فرما دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جب سے وہ مسجد میں داخل ہوا اسی وقت سے نماز میں (شمار) ہوتا ہے جب تک کہ نماز کی وجہ

سے مسجد میں ٹھہرتا ہے اور (یاد رکھو) جب تک تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز کی جگہ بیٹھا (اللہ اللہ) ذکر اللہ یا اور کوئی عبادت کرتا رہتا ہے فرشتے برابر اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں ”الہی! تو اس (نمازی) پر رحمت فرما الہی! تو اس کی بخشش کر دے، الہی تو اس کی توبہ قبول فرما“ جب تک کہ وہ (اہل مسجد کو) ایذا نہ پہنچائے یعنی وضو نہ توڑے۔ (بخاری، مسلم)

یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ رسول اللہ کا قول ”نمحرہ“ یا اور ہاء کے فتح اور زاء کے ساتھ ہے یعنی نکالتی ہے اور کھڑا کرتی ہے۔

حدیث کی تشریح۔ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب پچیس یا ستائیس درجہ ہوتا ہے۔

”تزیید علی صلواتہ فی سوقہ و بیئتہ بضعا و عشرين درجۃ“ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب پچیس درجہ زائد ہوتا ہے گھر پر یا بازار میں نماز پڑھنے سے۔“

سوال: دوسری روایت میں ستائیس درجہ زائد کو بتایا گیا ہے۔

جواب: پہلے وحی سے پچیس درجہ زائد کو بتایا گیا پھر دوسری مرتبہ ستائیس درجہ کی بشارت دی گئی۔

یا نمازوں کے احوال کے اعتبار سے یہ ثواب ہو گا کہ بعض کی نماز کا ثواب پچیس اور بعض کی نماز کا ستائیس ہو گا۔ یا جہری نماز میں ستائیس اور سری نمازوں میں پچیس درجہ کا ثواب ہو گا۔

یا جو زیادہ مشقت برداشت کر کے جماعت سے نماز ادا کرے تو اس کیلئے ستائیس ہو گا ورنہ پچیس کا ثواب ہو گا۔ بعض محدثین نے یہ ثواب مسجد میں جماعت کے ساتھ مختص کیا ہے مگر اکثر محدثین رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ثواب مسجد کے ساتھ مختص نہیں بلکہ جہاں پر جہی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے خواہ وہ مسجد ہو یا غیر مسجد ہر حال میں ستائیس درجہ ثواب ملے گا۔ (فتح الباری)

”والملائکۃ یصلون“ فرشتے نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرتے رہتے ہیں۔“

جب تک آدمی با وضو اس جگہ پر بیٹھا رہے۔ نماز سب سے زیادہ اہم عبادت ہے اس لئے فرشتے نمازیوں کے حق میں دعا خیر کرتے رہتے ہیں۔ (زہد المتقین ۲/۷۱)

بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بازاروں اور گھروں میں اکیلے نماز پڑھنا جائز تو ہے مگر فضیلت سے خالی ہے اور بغیر عذر کے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ (دلیل النالین ۶۶۱)

یہ حدیث پاک نیت کے عظیم ترین ثمرات و برکات کو ثابت کرتی ہے ظاہر ہے کہ اگر بغیر نیت اور قصد ثواب کے کوئی شخص گھر سے وضو کر کے مسجد میں آجائے تو یہ خطاؤں کا کفارہ نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر کسی بھی دوسری غرض سے گھنٹوں مسجد میں رہے مگر قصد اجر و ثواب نہ ہو تو وہ فرشتوں کی مفید ترین اور معصوم دعاؤں کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

حدیث کا ماخذ

یہ حدیث حسب ذیل آیات سے ماخوذ ہے۔

(۱) ان الحسنات یذہبن السیئات (ہود: ۱۱۴)

(۲) ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم (النساء: ۳۱)

(۳) ویستغفرون للذین امنوا (المومن: ۷)

نیت نیک اور نیت بد کا فرق

وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يروى عن ربه، تبارك وتعالى، قال: "إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبت الله عشر حسنات إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبت الله سيئة واحدة" متفق عليه.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار بزرگ و برتر سے روایت کرتے ہیں کہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام نیکیاں (نیک کام) اور تمام بدیاں (برے کام) سب لکھ دیئے (اور مقرر فرمادئے) ہیں پھر ان کو (نبیوں اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ) بیان بھی فرمادیا ہے (کہ یہ نیکیاں ہیں اور یہ بدیاں ہیں) اب جو شخص کسی نیکی (نیک کام کرنے) کا ارادہ کرتا ہے مگر (اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے) اس پر عمل نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے (اس کے نئے اعمال میں) کامل ایک نیکی (ثواب پھر بھی) لکھ دیتے ہیں اور اگر ارادہ بھی کیا اور اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے (کم از کم) کس گنا نیکیوں کا (اور زیادہ سے زیادہ) سات سو گنا نیکیوں تک کا اور اس سے بھی زیادہ چند در چند (یعنی بے شمار نیکیوں کا ثواب) لکھ دیتے ہیں اور اگر کسی بدی (برے کام) کا ارادہ کرتا ہے مگر (خدا کے خوف سے) اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں (اس برے کام کے نہ کرنے پر) ایک نیکی (کا ثواب) اس کیلئے لکھ دیتے ہیں اور اگر بدی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ (اس کے نئے اعمال میں) ایک ہی بدی لکھتے ہیں (زیادہ نہیں لکھتے) (بخاری و مسلم)

حدیث کی تشریح

حدیث قدسی اور قرآن مجید میں فرق

”فیما یروی عن ربہ تبارک وتعالیٰ“ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔

اس کو محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ کی اصطلاح میں حدیث قدسی کہتے ہیں۔

سوال۔ حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے قرآن مجید بھی اللہ کا کلام ہے تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟
جواب۔ قرآن مجید کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے بخلاف حدیث قدسی کے کہ اگر کسی نے اس کو نماز میں پڑھ لیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔

جواب ۲۔ قرآن مجید میں الفاظ اور معنی دونوں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتے ہیں بخلاف حدیث قدسی کے کہ اس میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مفہوم اللہ جل شانہ کا ہوتا ہے۔
جواب ۳۔ قرآن مجید کا بدل نہیں بن سکتا جس کا چیلنج دیا گیا بخلاف حدیث قدسی کے کہ اس کا چیلنج نہیں دیا گیا۔
جواب ۴۔ قرآن مجید کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے بخلاف حدیث قدسی کے کہ اس کا انکار کفر نہیں ہے۔
جواب ۵۔ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا جائز نہیں بخلاف حدیث قدسی کے کہ اس کو بغیر طہارت کے ہاتھ لگایا جاسکتا ہے۔

نیکی کا ارادہ موجب اجر و ثواب ہے

اجر و ثواب کی نیت سے کسی نیک کام کا قصد و ارادہ بھی قلب کا ایک فعل ہے اور ہر فعل و عمل خیر اللہ کے وعدہ کے بموجب اجر و ثواب کا باعث ہے اس لئے ہاتھ پاؤں سے عمل نہ کرنے کے باوجود بھی اس فعل قلب پر ثواب ملتا ہے اور اگر اس پر عمل بھی کر لیا جائے تو چونکہ اسی عمل میں بدن کے اور اعضا و جوارح بھی شریک ہوتے ہیں اس لئے وہ ایک عمل ان کی نسبت سے متعدد اعمال خیر کی صورت اختیار کر لیتا ہے اس کی تفصیل اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے ہر نیکی کے عمل کا ثواب کم از کم دس لنا اور زیادہ سے زیادہ سات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ بے حد و حساب کس مصلحت سے رکھا ہے۔ علماء محققین کی رائے ہے کہ تکثیر و تضعیف اجر و ثواب (ثواب کے چند در چند اور زیادہ کرنے) کا مدار خلوص اور توجہ الی اللہ کے مراتب و درجات پر ہے جس قدر بلند درجہ کا خلوص ہو گا اسی قدر ثواب زیادہ ہو گا لہذا استحضار نیت اور اخلاص کے درجات کی بلندی ہی برکات و ثمرات کا باعث ہوئی اسی لئے امام نووی اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں اسی طرح کسی برے کام کا قصد و ارادہ کرنے کے باوجود محض خدا کے خوف سے اس کام کو نہ کرنا بھی قلب کا فعل ہے اس لئے اس پر بھی ایک نیکی کا ثواب ملنا چاہئے۔

برا کام کرنے کی صورت میں صرف ایک ہی برا کام لکھنے کی وجہ

یہ محض اللہ پاک کی کریمی ہے کہ ایک آدمی کے ایک برے کام کو ایک ہی لکھتے ہیں حالانکہ اسکے قلب اور تمام اعضا کا بھی اسمیں دخل ہے۔

اس حدیث کا ماخذ

مذکورہ ذیل آیت کریمہ اس حدیث کا ماخذ ہیں۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (نہی اسرائیل)

اخلاص اور نیک نیتی کے کرشمے اور اعمال صالحہ کے فائدے

وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، قال: سمعتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يقول: " انْطَلَقَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمْ الْمَبِيتُ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنْ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يَنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ. قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي أَبْوَانُ شَيْخَانِ كَبِيرَيْنِ، وَكُنْتُ لَا أُغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، فَتَنَى بِي طَلَبُ الشَّجَرِ يَوْمًا فَلَمْ أَرْحُ عَلَيْهِمَا حَتَّى تَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَوْقِظَهُمَا وَأَنْ أُغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا. فَلَبَسْتُ وَالْقَدْحُ عَلَى يَدِي أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاطَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاعُونَ عِنْدَ قَدَمِي، فَاسْتِيقَظَا فَشَرِبَا غُبُوقَهُمَا. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَفَرَّحَ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهُ. قَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةٌ عَمٌّ، كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ - وَفِي رِوَايَةٍ: كُنْتُ أَحْبَبُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجَالُ النَّسْلَةَ - فَارْدَتْهَا عَلَيَّ نَفْسِيهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمْتُ بِهَا سَنَةً مِنَ السَّنِينَ فَجَاءَهُ نَبِيٌّ فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةً دِينَارٍ عَلَيَّ أَنْ تُحَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِيهَا فَفَعَلْتُ، حَتَّى إِذَا تَوَلَّوَتْ عَلَيَّهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رَجُلَيْهَا، قَالَتْ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْضُضْ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَانصَرَفَتْ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أُعْطَيْتُهَا. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا. وَقَالَ الثَّلَاثُ: اللَّهُمَّ اسْتَأْجَرْتُ أَجْرَاءَ وَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَشَمَرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ، فَجَاءَهُ نَبِيٌّ بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَذْ لِي أَجْرِي، فَقُلْتُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ: مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالغَنَمِ وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تَسْتَهْزِئْ بِي! فَقُلْتُ: لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَأْفَقَهُ فَلَمْ يَبْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ: میں نے مخر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا آپ فرمادے تھے: تم سے پہلے کسی امت کے تین آدمی سفر کو روانہ

ہوئے (راستہ میں) کرات گزارنے کے لئے ان کو ایک غار ملا وہ اسی کے اندر داخل ہو (کر سو) گئے تو (اتفاق سے) پہاڑ کی ایک چٹان پھسلی اور غار (کے منہ پر آگئی اور باہر نکلنے کا راستہ بالکل) بند کر دیا (صبح کو بیدار ہو کر جب انہوں نے اس خوفناک مصیبت کو دیکھا) تو انہوں نے (آپس میں) کہا: اس چٹان (کی آفت) سے تم کو بجز اس کے اور کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی کہ تم (سب اپنی اپنی زندگی کے سبب سے زیادہ اچھے اور) نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو (وہی اس کو ہٹا سکتا ہے) تو ان میں سے ایک (مسافر) نے کہا: اے اللہ (تو جانتا ہے کہ) میرے بہت بوڑھے عمر رسیدہ ماں باپ تھے اور میں (روزانہ) ان سے پہلے اپنے کسی بھی بیوی بچے کو نوٹھی غلام کو شام کا دودھ پینے کے لئے نہیں دیا کرتا تھا (پہلے ان کو پلاتا پھرا اور ان کو) اتفاق سے ایک دن میں چارہ کا تلاش میں (ریوڑ کو ساتھ لئے) بہت دور نکل گیا اور اتنی رات گئے (گھر) واپس آیا کہ وہ (انتظار دیکھتے دیکھتے بھوکے) سو گئے میں (حسب عادت فوراً) ان کے لئے (بکریوں) کا دودھ نکال کر لایا تو ان کو (گہری نیند میں) سوتا ہوا ملایا تو میں نے (ان کے آرام کے خیال سے) ان کو جگانا پسند کیا اور نہ ان سے پہلے بیوی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا گوارا کیا اور رات بھر ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لئے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور بچے رات بھر میرے قدموں میں پڑے بھوک سے ہلکتے رہے بہر حال جب وہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے حصہ کا دودھ پی لیا (تب ہم سب نے) اے اللہ اگر میں نے ماں باپ کا یہ احترام اور خدمت تیری رضا کے لئے کی ہے تو (میرے اس عمل خیر کے طفیل) تو ہم سب سے اس چٹان کی مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور کر دے تو (اس دعا کے بعد) وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی مگر اس سے وہ نکل نہ سکتے تھے دوسرے (مسافر) نے کہا: اے اللہ (تو جانتا ہے کہ) میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی دوسری روایت میں ہے مجھے اس لڑکی سے اس سے بھی زیادہ شدید محبت تھی جنہی کسی بھی مرد کو کسی عورت سے ہوتی ہے چنانچہ میں نے (اس کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کے لئے) اس پر کافی ڈرے ڈالے مگر اس نے صاف انکار کر دیا یہاں تک کہ (اتفاق سے) وہ (مع اپنے خاندان کے) شدید ترین قحط میں مبتلا ہو گئی تو (فقر و افلاس سے مجبور ہو کر) وہ میرے پاس (مدد مانگنے) آئی تو میں نے اس کو ایک سو بیس دینار (سونے کے سکے) اس شرط پر دینا کئے کہ وہ مجھے (تنہائی میں) اپنے نفس پر قدرت دے دے وہ (مجبوراً اس پر) آمادہ ہو گئی یہاں تک کہ جب میں نے اس پر پورا قابو پایا دوسری روایت میں ہے جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے (بڑی عاجزی سے) کہا: اے خدا کے بندے! اللہ سے ڈر بغیر "حق" کے مہر کو مت توڑ (اس امانت کو ہاتھ مت لگا) (اللہی! صرف تیرا واسطہ دینے اور خوف کی وجہ سے) میں فوراً ہٹ گیا حالانکہ مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی (اور وہ اپنے نفس کو میرے حوالہ کر چکی تھی اور میں جو چاہتا اس کے ساتھ کر سکتا تھا) اور وہ سونے کے سکے بھی جو میں نے اس کو دیئے تھے اسی کے پاس چھوڑ دیئے خدایا اگر میں نے یہ نیک کام صرف تیری رضا کے لئے کیا ہو تو اس مصیبت کو جس میں ہم سب گرفتار ہیں دور کر دے

تو (اس دعا کے بعد) چٹان اور تھوڑی سی ہٹ گئی مگر پھر بھی وہ غار میں سے نہیں نکل سکتے تھے تو تیسرے (مسافر) نے کہا: اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے (ایک مرتبہ) چند مزدوروں سے اجرت پر کام کر لیا تھا اور (کام ختم ہو جانے کے بعد) میں نے ان سب کی مزدوری بھی دے دی تھی بجز ایک مزدور کے کہ اس نے (کسی وجہ سے) اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا تو میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا یہاں تک کہ وہ رقم (بڑھتے بڑھتے) بہت زیادہ مال بن گئی تب (ایک دن) وہ مزدور آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے بندے! میری مزدوری تو دے دے میں نے کہا: یہ اونٹ گائیں بکریاں اور لونڈی غلام سب تیری مزدوری (کی پیداوار) ہیں (آؤ اور شوق سے لے جاؤ) تو اس مزدور نے کہا: اللہ کے بندے میرے ساتھ دل لگی نہ کر (مجھے بیوقوف مت بنا) میں نے کہا: میں تمہارے ساتھ مطلق دل لگی نہیں کر رہا (درحقیقت یہ تمام مویشی اور لونڈی غلام تمہاری مزدوری کی پیداوار ہیں اور تمہارے ہیں تم شوق سے لے جاؤ) تو اس نے وہ سب مویشی اور لونڈی غلام مجھ سے لے لئے اور سب کو ہنکا کر لے گیا اور کچھ نہیں چھوڑا اے اللہ اگر یہ کار خیر میں نے صرف تیرے لئے کیا ہے تو (اس کے طفیل) تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں ہم سے دور کر دے چنانچہ چٹان غار کے منہ سے بالکل ہٹ گئی اور وہ (اطمینان سے) چل کر باہر نکل آئے۔ (بخاری و مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات

نام۔ عبداللہ بن عمر بن الخطابؓ والدہ کا نام زینب بنت مظعون تھا۔
اپنے والد کے ساتھ مسلمان ہوئے والد کے ساتھ ہی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ بدر اور احد میں شرکت کی اجازت نہیں ملی بچے ہونے کی وجہ سے۔ (طبقات ابن سعد)

خندق، خیبر، بیعت رضوان، فتح مکہ، غزوہ حنین، محاصرہ طائف، حجۃ الوداع، غزوہ تبوک ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ فتنہ سے بہت دور رہتے تھے۔ یزید کے ہاتھ پر بیعت کی اور فرمایا اگر یہ خیر ہے تو ہم اس پر راضی ہیں اور اگر شر ہے تو ہم نے صبر کیا۔ (طبقات ابن سعد)

حضرت ابن عمرؓ کو لوگ علم و عمل کا مجمع البحرین سمجھتے تھے۔ (تذکرۃ الحفاظ)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انکو قضا کا عہدہ پیش کرنا چاہا تو انہوں نے معذرت کر لی۔

ملکی انتظام میں بالکل شرکت نہ کرتے۔

ان کی زندگی میں چند نمایاں عادات تھیں۔

(۱) پابندی سنت۔ (۲) خشیت الہی۔ (۳) عبادت و ریاضت۔ (۴) مشیہات سے اجتناب۔ (۵) زہد و تقویٰ۔

(۶) مسکینوں سے ہمدردی۔ (۷) سخاوت۔ (۸) مساوات۔ (۹) اختلاف امت سے بچنا۔

قرآن کیساتھ خصوصی شغف تھا، قرآن پر بہت زیادہ غور کرتے اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ صرف سورۃ بقرہ پر ۱۴ سال صرف کئے۔ (موطائنامک)

قرآن کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو حدیث نبوی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اقوال و افعال جو اور لوگوں کے سامنے ہوتے یہ ان سے پوچھ لیا کرتے اور پھر اس کو بھی یاد رکھتے تھے۔ (امابہ)

وفات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو مدینہ منورہ میں وفات کی بہت تمنا تھی فرماتے تھے کہ جس زمین سے میں نے ہجرت کر لی اس زمین میں مرنا نہیں چاہتا۔ (طبقات ابن سعد)

انہوں نے یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ اگر میں مکہ میں مروں تو مجھے حرم سے باہر دفن کرنا۔ آپ رضی اللہ عنہما کا انتقال مکہ میں ہوا اور قبرستان میں دفن کئے گئے۔ حجاج بن یوسف نے نماز جنازہ پڑھائی۔ (طبقات ابن سعد)

مرویات۔ ان سے مرویات کی تعداد ۱۶۳۰ ہے۔ ۱۷۰ متفق علیہ ہیں۔ ۸ میں بخاری اور ۳۱ میں مسلم منفرد ہیں۔ (تہذیب

الکمال) (مرآۃ شرح مشکوٰۃ مظاہر حق)

اعمال صالحہ کا وسیلہ

حدیث کسی تشویح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اخلاص اور نیک نیتی سے کئے ہوئے اعمال صالحہ انسان کو کیسی کیسی آفتوں اور مصیبتوں سے بچاتے اور نجات دلاتے ہیں نیز یہ کہ ایسے اعمال صالحہ کے ”وسیلہ“ سے مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں علماء نے اسی حدیث کی بناء پر ایسے اعمال صالحہ کو دعا کا ”وسیلہ“ بنانے کو آداب دعا میں شمار کیا ہے۔

اس قصہ میں تین اعمال صالحہ کا ذکر آیا ہے (۱) پہلے مسافر کے واقعہ میں ”خدمت والدین“ کا اعلیٰ ترین معیار پیش کیا گیا ہے کہ ایسی ہونی چاہئے ماں باپ کی خدمت کسی نہ کسی درجہ میں سب ہی کرتے ہیں مگر اس درجہ کی ماں باپ کی خدمت واقعی مشکل کام ہے اور پھر ہو بھی محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ”حقوق العباد“ بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم اور اہم حق ماں باپ کا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرا فرض بروالدین (ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک) قرار دیا ہے یہاں تک کہ ماں باپ کو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ اولاد سے دریافت کئے بغیر اپنی ضروریات اس کے مال میں سے پوری کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا ہے: تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ اور ماں باپ کی جھجک کو دور کرنے کے لئے ارشاد ہے ”تمہاری اولاد بھی تو تمہاری کماٹی۔“ (۲) دوسرے مسافر کے واقعہ میں ”عفت“ اور پاک دامنی کا بلند ترین معیار پیش کیا گیا ہے درحقیقت صحیح معنی میں ”عفت“ وہی ہے جہاں گناہ کے تمام ذرائع اور وسائل موجود ہوں اور کوئی مانع بلکہ ذرا سی بھی

رکاوٹ نہ ہو اس کے باوجود اتق اللہ (اللہ سے ڈر) سنتے ہی اور خدا کے خوف کا نام آتے ہی عین موقع پر گناہ سے باز آجائے پاک دامن لوگ بکثرت ہوتے ہیں مگر عموماً ان کی پاکدامنی کا باعث مواقع کا میسر نہ آنا یا نتائج بد کا خوف ہوتا ہے حقیقی پاکدامنی وہی ہے جس میں مواقع بھی میسر ہوں اور نتائج بد کا اندیشہ بھی نہ ہو اور پھر انسان محض خدا کے خوف کی وجہ سے عین گناہ کے موقع سے ہٹ جائے بڑی بہادری کا کام ہے اور کردار کی بہت بڑی بلندی کا ثبوت ہے۔

(۲) تیسرے مسافر کے واقعہ میں انسانی ”ہمدردی“ و خیر خواہی اور ”امانت و دیانت“ کی بلند ترین مثال پیش کی گئی ہے یہ شخص بلا تکلف اس مزدور کی طے شدہ مزدوری دے کر تمام مال بچا سکتا تھا اس لئے کہ ہڑتال اور قانوناً وہ اسی مزدوری کا حقدار تھا جو طے ہوئی تھی اور یہی اس کا مطالبہ بھی تھا مگر اس شخص نے اس کی مزدوری کی رقم کاروبار میں لگا کر اصل رقم اور اس کا پورا پورا تجارتی منافع اس کو دے کر امانت و دیانت کا بھی اعلیٰ ترین ثبوت دیا اور ہمدردی و خیر خواہی کی بھی قابل تقلید مثال قائم کی اور صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی دوسری غرض مطلق نہیں بڑا مشکل کام ہے۔

”فلمنعت اجروہ حتی کثرت من الاموال“ اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا لیا حتیٰ کہ اس سے بہت سمال بن گیا۔ اس جملہ سے معلوم ہوا کہ وہ مال جو دوسرے کا ہو اس کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ بعد میں اس کی اجازت لے لی جائے۔ یہی مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ فضولی کا تصرف مالک کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے اگر مالک اجازت دے دے تو تصرف نافذ العمل ہو جاتا ہے ورنہ ختم ہو جائے گا۔ (مرقات شرح مشکوٰۃ)

”فانفرجت الصخرۃ“ پس وہ چٹان بالکل سرک گئی۔

اس جملہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خرق عادت کے طور سے مدد فرماتے ہیں اس کو کرامت کہا جاتا ہے جسے انبیاء علیہم السلام کی مدد معجزات کے ذریعہ سے اللہ فرماتے ہیں۔ معجزہ اور کرامت دونوں حق ہیں۔ یہی مسکت ہے اہلسنت والجماعت کا۔ (مرقات مظاہر حق ص ۵۲۸)

اس واقعہ کے بیان فرمانے کا مقصد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی اس قصہ کو سنانے سے اپنی امت کو بطور مثال ”اعمال صالحہ“ کے بلند ترین معیار اور اعلیٰ ترین مثال سے آگاہ فرمانا اور ایسے ہی اعلیٰ اعمال صالحہ اور بلند ترین کردار کی ترغیب دینا ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس حدیث کی روشنی میں اپنے اعمال و اخلاق کا جائزہ لے اور محاسبہ کرے اور تمام خامیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرے وباللہ التوفیق۔

باب ۲

باب التوبہ... توبہ کا بیان

گناہ اور توبہ کی قسمیں اور شرطیں

قَالَ الْعَلَمَةُ: التَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَعَلَقُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ فَلَهَا ثَلَاثَةٌ شُرُوطٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يُقْلِعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ. وَالثَّانِي: أَنْ يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا. وَالثَّلَاثُ: أَنْ يَعْزِمَ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَدًا. فَإِنْ فُيِّدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ. وَإِنْ كَانَتْ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَقُ بِآدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، وَأَنْ يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا، فَإِنْ كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَدًّا قَذَفَ وَنَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْبَةً اسْتَحْلَهُ مِنْهَا. وَيَجِبُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ، فَإِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ الْبَاقِي. وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلَالَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى وُجُوبِ التَّوْبَةِ.

علماء دین نے فرمایا ہے: ہر گناہ سے توبہ فرض ہے گناہ کی دو قسمیں ہیں اسی لحاظ سے توبہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔

(۱) اگر وہ گناہ جس سے توبہ کرتا ہے کوئی ایسی نافرمانی (معصیت) ہے جس کا تعلق کسی بندہ کے حق سے بالکل

نہ ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کا تعلق ہو تو اس گناہ سے توبہ کے صحیح اور معتبر ہونے کی تین شرطیں ہیں۔

(۱) اول یہ کہ اس گناہ اور نافرمانی سے کلی طور پر باز آجائے یعنی بالکل چھوڑ دے۔

(۲) دوسرے یہ کہ اس گناہ پر دل سے نادام اور شرمندہ ہو۔

(۳) تیسرے یہ کہ دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور عزم ہو۔

ان تینوں شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی جائے گی تو توبہ صحیح نہ ہوگی۔

ترجمہ۔ علما فرماتے ہیں ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر گناہ کا اللہ اور بندے کے ساتھ تعلق ہے کسی

دوسرے بندے کے ساتھ تعلق نہیں تو اس کیلئے تین شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ گناہ سے باز آجائے۔ دوسری یہ

کہ وہ گناہ پر نادام ہو تیسری یہ کہ وہ عزم کرے کہ پھر کبھی اس گناہ میں مبتلا نہ ہوگا۔ اگر ان تین میں سے ایک کا بھی

نقصان ہوگا تو توبہ صحیح متصور نہیں ہوگی۔

اور اگر گناہ کا تعلق کسی آدمی کے ساتھ ہے تو اس کیلئے چار شرطیں ہیں، پہلی تین شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط یہ ہے

کہ متعلقہ آدمی کے حق سے برأت کا اظہار کرے۔ اگر کسی سے مال وغیرہ لیا ہے تو اس کو واپس کرے۔ اگر تہمت کا معاملہ ہے تو اس کو حد لگانے کی گنجائش عطا کرے یا اس سے معاف کروائے اور اگر غیبت ہے تو اس سے معافی طلب کرے۔ نیز تمام گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر بعض گناہوں سے توبہ کرے تو اہل حق کے نزدیک ان بعض گناہوں سے توبہ صحیح ہے اور باقی سے توبہ کرنا اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور اجماع امت کے دلائل توبہ کے فرض ہونے پر شہادت دے رہے ہیں۔

حدیث کی تشریح

توبہ کے لفظی اور شرعی معنی

توبہ کے لفظی معنی ہیں ”لوٹنا“ اسی اعتبار سے شریعت کی اصطلاح میں توبہ کرنے کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی (معصیت) سے فرمانبرداری (طاعت) کی طرف لوٹنا اسی لئے توبہ کی شرط یہ ہے کہ جو گناہ اور نافرمانیاں کر رہا ہوا نہیں فوراً اور قطعاً چھوڑ دے اور دوبارہ ان کے نہ کرنے کا عزم اور عہد کر لے اس لئے کہ اگر اس گناہ کو نہیں چھوڑتا تو گناہ اور نافرمانی سے لوٹنا نہ پایا جائے گا اور اگر اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم اور عہد نہیں کرتا تو فرمانبرداری (طاعت) کی طرف لوٹنا نہ پایا جائے گا اور دونوں صورتوں میں توبہ درحقیقت توبہ نہ ہوگی۔

حقوق العباد، بندوں کے حقوق سے متعلق گناہ

ہر گناہ کرنا اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہے اگر اس کے ساتھ ہی اس میں کسی انسان کی حق تلفی بھی ہو تو وہ گناہ حقوق العباد سے متعلق ہوگا اور بندوں کے ہاں تلف شدہ حق کو ادا کرنا یا ان سے معاف کرنا بھی توبہ کے صحیح ہونے کے لئے ضروری ہوگا مثلاً اگر نماز نہیں پڑھی تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا گناہ ہے مذکورہ بالا تینوں شرطوں کے ساتھ توبہ کر لینا اس گناہ کے معاف ہونے کے لئے کافی ہے اور اگر کسی کا مال دھوکا دے کر لے لیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے اور بندوں کی حق تلفی بھی اس لئے صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینا اس گناہ کے معاف ہونے کے لئے کافی نہ ہوگا بلکہ اس شخص کا حق ادا کرنا یا اس سے معاف کرنا بھی ضروری ہوگا لہذا ایسے گناہوں سے توبہ کرنا جو حقوق العباد سے متعلق ہوں بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور عفو و رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ وہ بغیر توبہ کے بھی اپنے حق سے متعلق گناہ بخش دے مگر کسی بندہ کا حق اگر ادا نہ کیا یا اس سے دنیا میں معاف نہ کر لیا تو آخرت میں اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں اس لئے کہ لینا دینا معاف کرنا کرنا اسی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ یہ دار عمل ہے اور آخرت تو دار جزا ہے نہ وہاں کوئی کسی کو کچھ دے لے سکتا ہے اور نہ معاف ہی کر سکتا ہے علاوہ ازیں اگر اللہ تعالیٰ از خود ایسے گناہ معاف فرمادیں تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی

جن کے حقوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی ہرگز نہیں کر سکتے رہے خود وہ لوگ تو دنیا میں تو وہ ضرورت مند ہونے کے باوجود معاف بھی کر سکتے تھے اسی لئے کہ دنیا دار عمل ہے لیکن آخرت تو دار جزا ہے وہاں تو ہر انسان محتاج ہی محتاج ہو گا اس لئے وہ اپنے حقوق کے عوض میں حق تلفی کرنے والے کی نیکیاں ہرگز نہ چھوڑے گا یا ان کے عوض میں اپنی بد کرداریوں کا بوجھ حق تلفی کرنے والے پر ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔

اسی لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو خبردار فرمایا ہے

جس شخص کے ذمہ اپنے مسلمان بھائی یا آبرو سے متعلق کوئی حق ہو اسے آج ہی سبکدوشی حاصل کر لینی چاہئے (ادا کر کے یا معاف کر کے) اس سے پہلے کہ وہ وقت (حساب آخرت اور جزا و سزا کا) آئے جبکہ اس کے پاس نہ دینار (سونے کا سکہ) ہو گا نہ درہم (چاندی کا سکہ) تو اگر اس کے پاس نیک عمل ہو گئے تو (مظلوم کی) حق تلفی کے بقدر اس (ظالم) سے لے لئے جائیں گے (اور مظلوم کو دے دیئے جائیں گے) اور اگر ان نیکیوں سے (مظلوم) کا حق پورا نہ ہو تو مظلوم کی برائیاں اس (حق تلفی کرنے والے ظالم) پر ڈال دی جائیں گی۔

اعاذنا اللہ منہ خدا ہمیں بچائے اس حق تلفی سے۔

اس لئے حقوق العباد سے متعلق گناہوں سے توبہ کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا یا معاف کرنا از بس ضروری اور لا بدی ہے۔ وباللہ التوفیق

دوسری قسم:..... اور اگر وہ گناہ جس سے توبہ کرتا ہے کوئی ایسی نافرمانی ہو جس کا تعلق کسی انسان کی حق تلفی سے بھی ہو تو اس گناہ سے توبہ کے صحیح ہونے کی چار شرطیں ہیں تین تو وہی ہیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس شخص کے حق سے سبکدوشی ضرور حاصل کر لے اور اگر وہ حق مال وغیرہ کی قسم سے ہو یعنی کسی کا مال مار لیا ہو تو اس کو واپس کرے یعنی ادا کر دے اور اگر ”حد فذف“ (ہتک عزت کی شرعی سزا) وغیرہ کی قسم سے ہو تو (اس جرم کا اقرار کر کے اپنے آپ کو سزا کیلئے) عدالت میں پیش کر دے یا اس شخص سے مل کر معاف کر لے اور اگر غیبت (پس پشت بد گوئی وغیرہ کی قسم سے ہو تو اس سے صفائی کر لے یعنی اس پر ظاہر کر کے معافی چاہ لے۔

توبہ کا حکم:..... تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کرنا واجب ہے (خواہ کسی بھی قسم کے گناہ ہوں) اگر کسی خاص گناہ سے توبہ کر لے (باقی اور گناہوں سے توبہ نہ کرے) تو اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ جب بھی اس گناہ سے توبہ صحیح ہو جائے گی اور باقی گناہ اس کے ذمہ رہیں گے۔

توبہ کے واجب ہونے کے دلائل

قرآن و حدیث اور اجماع امت تینوں کی دلیلیں اس پر متفق ہیں کہ ہر انسان پر ”توبہ فرض“ ہے۔

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ۳۱]

اے ایمان والو! تم سب اللہ کی طرف لوٹو (توبہ کرو یعنی احکام الہیہ کی پابندی میں کہ تاہی نہ ہو) تاکہ تم فلاح پاؤ
 نیز ارشاد ہے: وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ [ہود: ۳]

(اے لوگو!) تم اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو پھر اسکی طرف رجوع بھی کرو۔

نیز ارشاد ہے: وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ﴾ [التحریم: ۸]

اے ایمان لانے والو! تم اللہ کے سامنے توبہ کرو سچی توبہ۔

توبہ 'مغفرت اور عفو کے شرعی معنی اور ان میں فرق

تفسیر۔ جیسا کہ ماقبل میں گزر چکا ہے۔ توبہ کے لغوی اور لفظی معنی ہیں ”لوٹنا“ اس لفظ کا استعمال قرآن و حدیث میں دو طرح ہوا ہے (۱) ایک یہ کہ اس توبہ ’لوٹنے‘ کی نسبت بندہ کی طرف ہو یعنی لوٹنے والا بندہ ہو اس صورت میں بندہ کے توبہ کرنے کے معنی ہیں ”خدا کی نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف لوٹنا“ اسی کو اردو محاورہ میں ”توبہ کرنا“ کہتے ہیں عربی میں اس کے لئے فعل استعمال ہوتا ہے تاب الیہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی (۲) دوسرا استعمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کی نافرمانی سے ناراض ہو جاتے ہیں یعنی اپنی رحمت خاصہ سے ان کو محروم کر دیتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف جب توبہ کی نسبت کی جائے یعنی لوٹنے والے اللہ ہوں تو توبہ ’لوٹنے‘ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراضگی سے رضامندی کی طرف لوٹے ”یعنی“ مہربان ہو گئے“ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہو کر پھر رضامند ہو جانے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عظمیٰ کار فرما ہوتی ہے جس کے متعلق ”حدیث قدسی“ میں ارشاد ہے سبقت رحمتی علی غضبی میرے غصہ پر میری رحمت غالب ہے۔ اس لئے اس توبہ ’لوٹنے‘ میں رحمت کے معنی شامل ہوتے ہیں اس لئے عربی میں اس دوسرے استعمال کے تحت فعل اس طرح استعمال ہوتا ہے تاب اللہ علیہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو گیا یا اس نے معاف کر دیا چونکہ بندہ کو توبہ کرنے کی توفیق دینا بھی اس کی رحمت ہی کا تقاضہ ہے اس لئے تاب اللہ علیہ کا حاصل ترجمہ ”اللہ تعالیٰ نے بندے کو توبہ کی توفیق دے دی“ یہی صحیح ہے اور چونکہ بندے کی توبہ یعنی آئندہ نافرمانی کی طرف نہ لوٹنے کا عہد قبول کر لینا بھی اس کی رحمت ہی کا تقاضہ ہے اس لئے تاب اللہ علیہ کا یہ ترجمہ بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی توبہ قبول کر لی یا معاف کر دیا مختصر لفظوں میں یوں سمجھئے (۱) کہ جب توبہ کی نسبت حضرت حق تعالیٰ کی طرف ہوگی تو تاب اللہ علیہ کے معنی ہوں گے اللہ تعالیٰ بندے پر مہربان ہو گیا یا معاف کر دیا اگر گناہ سے توبہ کرنے کے بعد کی حالت ہو تو معنی ہوں گے ”اللہ تعالیٰ نے بندے کی توبہ قبول کر لی“ اور اگر گناہ سے توبہ کرنے سے پہلے کی حالت ہو تو معنی ہوں گے ”اللہ تعالیٰ نے بندے کو توبہ کی توفیق دے دی“ پہلا ترجمہ ”مہربان ہو گیا“ یا ”معاف کر دیا“ دونوں حالتوں میں صحیح ہے (۲) اور جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہوگی تو تاب الی اللہ

کے باحوارہ معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی یعنی گزشتہ گناہ ترک کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کیا اس باب میں قرآن عظیم کی آیات اور احادیث کے ترجمہ میں یہ فرق پیش نظر رکھنا ضروری ہے اس فرق کو مزید ذہن نشین کرنے کی غرض سے ”غزوہ تبوک“ سے متعلق سورۃ برأت کی دو آیتیں نقل کی جاتی ہیں ارشاد ہے۔

(۱) لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من

بعدهما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم

(۱) بیشک اللہ تعالیٰ مہربان ہوا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین و انصار پر جنہوں نے تنگدستی کے (کٹھن) وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی (شرکت جہاد میں) پیروی کی اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل بھٹک جائیں (اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہ جائیں) پھر اللہ تعالیٰ ان پر (بھی) مہربان ہو گیا (اور ان کی توبہ قبول کر لی) بیشک اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے ان پر۔

(۲) ثم تاب عليهم ليتوبوا

پھر ان (تینوں) شرکت جہاد سے گریز کرنے والوں پر مہربان ہو گیا (توبہ کی توفیق دے دی) تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ دیکھئے ان دونوں آیتوں میں تاب اللہ کا لفظ تین قسم کے لوگوں کیلئے دوسرے استعمال کے تحت (جب اللہ کی طرف نسبت ہو) آیا ہے۔ (۱) تاب اللہ علی النبی الایہ اس کے معنی محض ”مہربان ہونا“ ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مہاجرین و انصار سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا (۲) ثم تاب علیہم اس کے معنی ہیں توبہ قبول کر لی اس لئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلو تہی کا ارادہ کیا تھا مگر اس ارادہ سے باز آگئے یعنی توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی (۳) دوسری آیت میں ثم تاب علیہم کے معنی ہیں توبہ کرنے کی توفیق دے دی اس لئے کہ یہ وہ تین آدمی ہیں جو اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو سچ بولنے کی وجہ سے توبہ کی توفیق دے دی اسی طرح اسی آیت میں پہلے استعمال کے تحت ليتوبوا آیا ہے جس کے معنی ہیں وہ (گریز کرنے والے) توبہ کر لیں دیکھئے ان دو آیتوں میں ہر دو استعمال کے تحت توبہ کے تمام مذکورہ بالا معنی آگئے۔

مغفرة کا لفظ غفر سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں ”ڈھانپ لینا“ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کی مغفرت فرمانے کے معنی ہیں ”ان کے گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا“ چھپا دینا“ یعنی بخش دینا خواہ ان سے توبہ کرنے کے بعد خواہ بغیر توبہ کے محض اپنی شان کریمی اور بے نیازی کی بنا پر۔

عفو کے لفظی معنی ہیں مٹا دینا اللہ تعالیٰ کے عفو کے معنی ہیں اپنے بندوں کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دینا ان کے نامہ اعمال سے مٹا دینا خواہ توبہ و استغفار کے بعد خواہ اس کے بغیر ہی محض اپنی صفت ربوبیت اور رحمت کی بنا پر۔

ان تینوں لفظوں میں فرق

بندوں کا اپنے رب رؤف رحیم کے سامنے توبہ کرنا یعنی پچھلے گناہوں کی معافی چاہنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا پہلا مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کا پردہ ان کے گذشتہ گناہوں پر ڈال دینا اور آئندہ کے لئے عہد کو قبول کر لینا یعنی بخش دینا یہ مغفرت ہے اور دوسرا مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ کا مزید رحم و کرم کی بنا پر ان گناہوں کو بالکل معاف کر دینا اور نامہ اعمال میں سے مٹا دینا یہ غفو ہے اور تیسرا مرحلہ ہے اصل معنی کے لحاظ سے ترتیب یہی ہے باقی یہ تینوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں اس لئے ان تینوں کا سرچشمہ رحمت الہیہ ہے اتنا فرق ضرور ہے کہ توبہ صرف گذشتہ گناہوں سے ہوتی ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد ہوتا ہے مغفرت اگلے اور پچھلے گذشتہ اور آئندہ تمام گناہوں اور خطاؤں کی ہو سکتی ہے نیز مغفرت کے لئے توبہ کرنا بھی ضروری نہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتے ہیں۔

لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخو (الفتح آیت ۲)

(یہ فتح سب سے پہلے کے ہوئے اور پچھلے کئے ہوئے گناہ معاف کر دے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اذعیہ مسنونہ میں اپنی امت کو دعاء مغفرت کی تعلیم دیتے ہیں۔

اللهم اغفر لی ذنوبی جميعاً ما قدمت وما آخرت وما أعلنت وما أسررت وما أسرفت
وما أنت اعلم به منی انک انت الغفور الرحیم

اے اللہ تو معاف کر دے میرے سب گناہ جو میں نے پہلے کئے اور جو پیچھے کئے اور جو علانیہ کئے اور جو چھپا کر کئے اور جو میں نے بے اعتدالی کی اور جن گناہوں کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے بیشک تو بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔

آپ بھی ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہی مسنون دعاء مغفرت مانگا کیجئے بہت جامع دعاء مغفرت ہے۔
اس آیت کریمہ اور حدیث کی دعا سے معلوم ہوا کہ مغفرت عام ہے اگلے پچھلے سب گناہوں سے ہو سکتی ہے اور توبہ بھی اس کے لئے ضروری نہیں ہے۔

غفو معاف کر دینے کے لئے توبہ کی طرح گناہوں یا خطاؤں کا وجود ضروری ہے لیکن توبہ کرنا ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم وبعفوا عن کثیر (شوری آیت: ۳۰)

اور جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کئے اعمال کی وجہ سے آتی ہے اور بہت سی بد اعمالیوں کو تو وہ (خود ہی) معاف کر دیتا ہے۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ غفور معاف کرنے کے لئے توبہ ضروری نہیں ہے۔ یہی فرق ان تینوں لفظوں میں آپ مذکورہ بالا آیات اور آنے والی احادیث میں پائیں گے اسی لئے یہ طویل تشریح ضروری سمجھی گئی نیز اس سے توبہ کا مرتبہ اور اہمیت بھی واضح ہو گئی۔

توبہ اور استغفار کی کثرت

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :
” وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً “ رواه البخاري .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دن میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔

وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
” يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِثَّةَ مَرَّةٍ “ رواه مسلم .

ترجمہ: حضرت اغر بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کیا کرو اور مغفرت چاہا کرو (دیکھو) میں (بھی) کون میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔

احادیث کی تشریح: پہلی حدیث میں ستر اور دوسری حدیث میں سو سے تعداد کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ توبہ و استغفار کی کثرت کا بیان کرنا مقصود ہے عربی زبان کے محاورات میں سواور ستر کا لفظ کثرت کو ظاہر کرنے کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے توبہ و استغفار کے ذکر کرنے کا مقصد

دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توبہ و استغفار کا تذکرہ لوگوں کو اس فرض توبہ و استغفار کو ادا کرنے کی ترغیب دلانے کیلئے کیا ہے کہ جب میں خود اتنی کثرت سے توبہ و استغفار کرتا ہوں حالانکہ میں نبی محصوم ہوں مجھ سے جان بوجھ کر کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم میں میری تمام اگلی جھجھکی کو تباہیوں کو معاف کر دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ تو تمہیں تو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے بہت زیادہ ڈرنا چاہئے اور زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہئے۔

کثرت سے توبہ و استغفار کی ضرورت

اس لئے کہ انسان اس گناہ آلود دنیاوی زندگی میں چاروں طرف سے گناہ اور محصیت کی طرف بلانے اور کھینچنے والی خواہشات میں اور گناہ پر آمادہ کرنے والے اندرونی اور بیرونی محرکات میں گھرا ہوا ہے، اندرونی دشمن تو خود اپنا نفسِ لمارہ

ہے جو پہلو میں چھپا ہوا ہر وقت گناہ اور معصیت پر اکساتا رہتا ہے اور بیرونی دشمن وہ شیاطین جن و انس ہیں جو ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے اور اس سے گناہ کرانے کی گھات میں لگتے رہتے ہیں اس لئے انسان انتہائی پھونک پھونک کر قدم رکھنے کے باوجود بھی دن بھر میں دانستہ یا نادانستہ طور پر نہ معلوم کتنے گناہ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ اور کوئی بھی انسان خواہ بڑے سے بڑا ”ولی اللہ“ ہی کیوں نہ ہو گناہوں سے معصوم نہیں ہو سکتا اس لئے ہمارے لئے ان گناہوں اور نافرمانیوں کے وبال اور عذاب سے بچنے کی اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہیں کہ ہم اپنے دانستہ یا نادانستہ سرزد ہونے والے گناہوں پر زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتے رہا کریں تاکہ جو گناہ سرزد ہوتے رہیں وہ اس توبہ و استغفار سے معاف بھی ہوتے رہیں علاوہ ازیں اس زندگی میں اس قدر گونا گوں اور قسم قسم کے گناہ ہیں کہ ہر وقت ان کو پیش نظر رکھنا اور ان سے بچتے رہنا اس مصروف زندگی میں بیحد دشوار ہے اس لئے بھی عافیت اور سلامتی اسی میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ نہ سہی تو کم از کم سو مرتبہ روزانہ ایک وقت میں یا مختلف اوقات میں توبہ اور استغفار ضرور کر لیا کریں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر کا ثواب بھی میسر آجائے اور گناہ بھی معاف ہو جائیں۔

نبی کی توبہ و استغفار پر اشکال اور اس کا جواب

اشکال۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم اور محفوظ ہیں تو آپ سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتے پھر توبہ و استغفار کا کیا مطلب؟ اور اللہ تعالیٰ کے آپ کے گناہوں کو معاف کر دینے کا اعلان کرنے کے کیا معنی؟

پہلا جواب۔ بے شک گناہ اور معصیت تو آپ سے سرزد نہیں ہو سکتے لیکن بتقاضا بشریت منشاء الہی کو اعلیٰ مرتبہ پر پورا کرنے میں غفلت یا کوتاہی یا خلاف اولیٰ مگر جائز امور کا ارتکاب ہو سکتا ہے جس پر عام انسانوں سے توبہ پر س نہیں ہوتی مگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جلالت شان اور تعلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنا پر ان سے ان غفلتوں کو تاہیوں اور اجتہادی غلطیوں پر بھی باز پرس ہوتی ہے اس لئے ان گناہوں سے یہی غفلتیں کوتاہیاں، خلاف اولیٰ امور، اجتہادی غلطیاں مراد ہیں۔

دوسرا جواب

علاوہ ازیں خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا کہ: جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلی پچھلے گناہ معاف فرمادیئے تو آپ اتنی کثرت سے توبہ و استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنی شان کریمی سے میری تمام اگلی پچھلی کوتاہیوں اور دانستہ یا نادانستہ خطاؤں کو معاف فرمادینا بہت بڑا انعام و احسان ہے اس کا شکر نعمت اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ میں اس معاف کر دینے کے باوجود کثرت سے توبہ و استغفار کرتا ہوں یہی میری ”عبدیت“ بندگی کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ۔

تیسرا جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہے کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ ہوتے تو اس وقت کو ایک قسم کا گناہ سمجھتے اور بے چین ہوتے پھر اس پر استغفار کرتے۔

عبدیت کا تقاضا

انسان کی بندگی کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ وہ بہر حال خود کو خطا کار اور قصور وار سمجھتا اور توبہ و استغفار کرتا رہے اسی میں اسی کی نجات اور فلاح مضمر ہے جیسا کہ قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ کے آخری جملہ لعلکم تفلحون (تاکہ تم فلاح پا جاؤ) سے ظاہر ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں

وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِلَّهِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَيَّ بَعِيرُهُ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "لِلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَيَّ رَاحِلَتِي بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَأَنْفَلْتُ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيْسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ أَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِي، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخَطَمِهَا" ۳، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ! أَلْخَطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ ".

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ اپنے بندہ کی توبہ سے (جبکہ وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے) اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی مسافر کو اپنے اس (سواری کے) اونٹ کے مل جانے سے ہوتی ہے جس پر وہ چھیل بیابان میں سفر کر رہا ہو اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بندھا ہو اور (اتفاق سے) وہ اونٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ جائے اور وہ (اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے) مایوس ہو جائے اور اسی مایوسی کے عالم میں (تھکا ہوا بھوکا پیاسا) کسی درخت کے سایہ کے نیچے لیٹ جائے اور اسی حالت میں (اس کی آنکھ لگ جائے اور جب آنکھ کھلے تو) اچانک اس اونٹ کو اپنے پاس کھڑا ہوا پائے اور (جلدی سے) اس کی مہار پکڑ لے اور پھر خوشی کے جوش میں (زبان اس کے قابو میں نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی غرض سے) کہنے لگے: اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں (اور خوشی کے مارے اسے پتہ بھی نہ چلے کہ میں کیا کہہ گیا)

اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے خوشی کی وجہ

حدیث کی تشریح۔ بندہ کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ بے انتہا خوشی بھی اس کی شان ربوبیت اور رافت و رحمت کا تقاضا ہے کہ اس کا ایک بھٹکا ہوا بندہ جس کو اس نے نہ صرف پیدا کیا تھا بلکہ پیدائش کے وقت سے ہوش سنبھالنے تک اس کی پوری پرورش ہی اس نے کی تھی اپنی نادانی سے ازلی دشمن، نفسِ امارہ اور شیطان کے فریب میں آکر اس کی عبادت و طاعت کی راہ سے بھٹک گیا تھا راہِ راست پر آگیا ورنہ تو (العیاذ باللہ) بندہ کی توبہ و استغفار سے اس کی معبودیت کو چار چاند نہیں لگ جاتے اس لئے کہ حدیثِ قدسی میں آیا ہے کہ:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اگر تمہارے اگلے اور پچھلے زندہ اور مرے ہوئے، بُرے اور بھلے تمام انسان بھی میرے سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بندے کے سے دل کے مالک بن جائیں (اور سب مل کر شب و روز میری عبادت کریں) تو اس عبادت سے ایک مچھر کے پر کی برابر بھی میری خدائی میں اضافہ نہ ہوگا اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے زندہ اور مرے ہوئے بُرے اور بھلے تمام انسان میرے ایک نافرمان ترین سرکش بندے کے سے دل کے مالک بن جائیں (اور سب مل کر شب و روز میری نافرمانی کرنے لگیں) تو اس سے ایک مچھر کے پر کی برابر بھی میری خدائی میں کمی نہ ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کی شان

یعنی اللہ تعالیٰ کی شان ”الوہیت“ و ”معبودیت“ تمام اولادِ آدم کی عبادت و طاعت سے بے نیاز اور بالاتر ہے اسی طرح ان کی نافرمانی و سرکشی سے بھی بے نیاز اور برتر ہے بندوں کی عبادت و طاعت، توبہ و استغفار کا نفع بھی انہی کو پہنچتا ہے اور سرکشی و نافرمانی اور کفر و انکار کی مضرت و نقصان بھی انہی کو پہنچتا ہے خدا سب سے بے نیاز اور غنی مطلق ہے۔

توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا

وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا “ رواه مسلم .

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ رات میں اپنی رحمت کا ہاتھ دراز فرماتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا گنہگار بندہ رات کو اس پر توبہ کر لے۔ اسی طرح دن میں اپنی شفقت کا ہاتھ دراز فرماتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کرنے والا گنہگار بندہ دن میں اس پر توبہ کر لے (یہ بندہ نوازی کا سلسلہ قیامت آنے تک جاری رہے گا اور یہ رحمت کا دروازہ کھلا رہے گا) یہاں تک کہ سورج (مشرق کے بجائے) مغرب سے نکلے (اور قیامت آجائے)۔

توبہ قبول ہونے کی آخری حد

حدیث کی تشریح: علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں قبول توبہ کی حد بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہے گی جب تک قیامت کے نزدیک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔

اس کے بعد جو پیدا ہوں گے یا اس وقت وہ بالغ مکلف نہیں تھے کیا ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں وہ فرماتے ہیں طلوع الشمس میں مغربہا کے بعد قیامت تک توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور دوسرے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس واقعہ کے وقت جو بالغ ہوں گے ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا بعد والوں کی توبہ قبول اور ایمان معتبر ہوگا۔

بعض لوگوں نے فرمایا جو حضرات اس واقعہ کے بعد پیدا ہوئے اور ان کو تواتر کے ساتھ اس واقعہ کی خبر ہوئی اور اس کا یقینی علم ہو گیا تو ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی اگر یقینی علم نہیں ہوا تھا تو اس وقت ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ (روضة القاصین ۵۱۱)

حضرت حکیم الامت نے روح المعانی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جب لوگ اس واقعہ کو بھول جائیں گے اور اس کی ہولناکی ذہنوں سے نکل جائے گی تو توبہ دوبارہ قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ (بیان القرآن)

یہ کب ہوگا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے کافی عرصہ کے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے علامہ بلقینی رحمہ اللہ سے نقل فرمایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے کہ ایمان اور توبہ قبول نہ ہونے کا یہ حکم جو آفتاب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے وقت ہوگا آخر زمانہ تک باقی نہ رہے بلکہ کچھ عرصہ کے بعد یہ حکم بدل جائے اور پھر ایمان اور توبہ قبول ہونے لگے۔ (روح المعانی)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ " رواه مسلم .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے سورج کے (مشرق کے بجائے) مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔

آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے کے وقت ایمان اور توبہ واستغفار معتبر نہ ہونے کی وجہ

حدیث کی تشریح: (یہ مسلم و مشاہد ہے کہ دنیا کا موجودہ نظام شمسی کے ساتھ وابستہ اور قائم ہے، آفتاب کے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے سے مراد اس نظام شمسی اور اس کے ساتھ وابستہ نظام عالم اور تمام

کائنات کا درہم برہم اور تباہ و برباد ہو جانا اسی کا نام قرآن وحدیث کی اصطلاح میں ”قیامت آنا“ ہے۔ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو اس کے ماننے میں ذرا برابر تردد نہ ہونا چاہئے۔ مترجم)

یعنی نظام عالم درہم برہم ہوتا ہوا دیکھ لینے کے بعد اس آباد دنیا کے فنا ہونے اور قیامت آجانے کا یقین اور اقرار کرنے پر ہر تنفس غیر اختیاری طور پر مجبور ہو جائے گا مگر اس وقت قیامت کے برحق ہونے کا یہ یقین اور اقرار کچھ مفید نہ ہو گا اس لئے کہ انسان کے ایمان و اقرار اور اعمال و افعال پر جزا اور سزا اسی وقت مرتب ہوتی ہے جبکہ اس کو ایمان لانے نہ لانے، ماننے نہ ماننے دونوں پر اختیار اور قدرت حاصل ہو اس لئے سورج کے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے کے وقت کا نہ ایمان معتبر ہے نہ توبہ واستغفار یا کوئی اور نیک کام، لہذا توبہ کا دروازہ جو آغاز آفرینش سے کھلا ہوا تھا اس وقت بند ہو جائے گا اور عمل کے بجائے ”مکافات عمل“ کا وقت آجائے گا۔

دونوں احادیث کا ماخذ

یہ حدیث آیت کریمہ ذیل کی تفسیر ہے۔

یوم یاتی بعض آیات ربك لا ینفع نفساً ایمانہا لم تکن امنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیراً جس دن تیرے رب کی (قدرت کی) کوئی نشانی (قیامت آنے کی) آجائے گی اس دن جو نفس اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اس کا ایمان لانا مفید نہ ہو گا یا (جس نے کوئی نیک کام، توبہ واستغفار، نہیں کیا تھا) اس کا ایمان لانے (اور مومن ہونے کی صورت) میں کوئی نیک کام کرنا مفید نہ ہو گا۔

کوئی گنہگار کب تک اپنے گناہ سے توبہ کر سکتا ہے

وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغتر" رواه الترمذي، وقال: "حديث حسن".
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: حبیب رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: بیشک اللہ بزرگ و برتر اپنے بندہ کی توبہ اس وقت تک بھی قبول فرما لیتے ہیں جب تک کہ وہ نزع کی حالت کو نہ پہنچا ہو۔

نزع کے وقت کی توبہ معتبر نہ ہونے کی وجہ

حدیث کی تشریح: جس طرح ”عالم کبیر“ (تمام دنیا) کی حالت نزع یعنی آفتاب کے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے کے وقت کا ایمان اور کوئی بھی عمل خیر، مثلاً توبہ واستغفار معتبر نہیں اسی طرح ہر انسان جو ایک ”عالم صغیر“ ہے کی حالت نزع کا ایمان عمل خیر، توبہ واستغفار بھی معتبر نہیں اس لئے کہ نزع کے وقت ہر مرنے والے کا ایمان و اقرار قطعاً غیر اختیاری ہوتا ہے اس کا بھی عمل کا وقت ختم اور مکافات عمل کا وقت شروع ہو جاتا ہے لہذا اس حالت کی توبہ بے سود ہے۔

توبہ کے متعلق قرآن و حدیث کے بیان میں تطبیق

اگرچہ قرآن کریم کی آیت کریمہ: **انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم (النساء آیت ۱۷)**

اس کے سوا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ (وعدہ) توبہ (قبول) کرنے کا انہی لوگوں کیلئے ہے جو نادانی سے کوئی برکام کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں پس وہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ سے تو متبادر یہ ہے کہ توبہ نادانی سے کئے ہوئے گناہ پر ہونی چاہئے اور گناہ کر لینے کے فوراً بعد توبہ کر لینا چاہئے مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ بالا حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دانستہ کئے ہوئے گناہ کی توبہ بھی قبول فرما لیتے ہیں نیز مرنے سے پہلے تک بھی اگر کوئی گنہگار بقائے ہوش و حواس و قدرت و اختیار توبہ کر لے تو اپنی شان کریمی سے اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتے ہیں اس لئے کسی بھی گنہگار کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہئے اور جب بھی گناہ آلود زندگی سے ہوش میں آئے فوراً توبہ کر لینا چاہئے توبہ میں تاخیر بہر حال نہ کرنی چاہئے کیا پتہ ہے کب اور کس حالت میں موت آجائے؟ توبہ کی مہلت ملے یا نہ ملے؟ اس کے علاوہ بھی توبہ میں تاخیر کرنا قہر و غضب الہی سے بے پروائی کی دلیل ہے جو بجائے خود اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے بہر حال بندہ کی "عبدیت" کا تقاضا یہ ہے کہ اول تو جان بوجھ کر اپنے مجبور کی نافرمانی اور گناہ ہرگز نہ کرے اور اگر کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو خدا کے قہر و غضب سے ڈرے اور فوراً توبہ کر لے۔

توبہ کا اعلیٰ مرتبہ اور ادنیٰ مرتبہ

بالفاظ دیگر آیت کریمہ میں توبہ کے اعلیٰ مرتبہ کا بیان ہے اور حدیث شریف میں توبہ کے ادنیٰ درجہ کا بیان ہے مذکورہ بالا حدیث کا مطلب توبہ میں ڈھیل دینا ہرگز نہیں ہے بلکہ ساری زندگی گناہوں میں بسر کرنے والے گنہگاروں کو بھی خدا کی رحمت اور قبول توبہ کی بشارت دینا ہے۔

حدیث کا ماخذ

حدیث کئی تشبیح: یہ حدیث آیت کریمہ ذیل کی تفسیر ہے۔

وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انى تبت الان

ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذاباً اليماً (النساء آیت ۱۸)

اور ان لوگوں کی توبہ معتبر نہیں ہے جو (ساری عمر) برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت ان

سے سامنے آجاتی ہے (اور مرنے لگتے ہیں) تو کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں۔

اور نہ ان لوگوں کی (توبہ معتبر ہے) جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں ان لوگوں کیلئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

توبہ کے دروازے کی وسعت

وعن زَرِّ بْنِ حَبِيشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا زَرُّ؟ فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لَطَالِبِ الْعِلْمِ رَضِيَ بِمَا يَطْلُبُ. فَقُلْتُ: إِنَّهُ فَذَّحَكَ فِي صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ. وَكُنْتُ أَمْرَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِيفَانَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي الْمَوْتِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٌّ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَجَابَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْ صَوْتِهِ: "هَازِمٌ" فَقُلْتُ لِي: وَيْحَكَ "۳"! اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ نَهَيْتَ عَنْ هَذَا! فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا اغْضُضْ. قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَابًا مِنَ الْمَغْرِبِ مَسِيرَةَ عَرَضِيهِ أَوْ يَسِيرِ الرَّكَّابِ فِي عَرَضِيهِ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ عَامًا قَالَ سُبَيْانُ أَحَدَ الرُّوَاةِ: قَبِلَ الشَّامَ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ.

رواه الترمذی وغیره، وقال: "حدیث حسن صحیح"

ترجمہ: حضرت زرار بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مسح علی الخفین (چرمی موزوں پر مسح) کے متعلق مسئلہ دریافت کرنے کے لئے گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا: میاں ذرا کہو کیسے آئے؟ میں نے عرض کیا "آپ سے علم حاصل کرنے کی غرض سے آیا ہوں" تو فرمانے لگے: علم حاصل کرنے والے کے قدموں کے نیچے تو فرشتے بھی اس کے طالب علم کے جذبہ سے خوش ہو کر اپنے پر بچھاتے ہیں (چہ جائیکہ انسان) کہو کیا دریافت کرنا چاہتے ہو) میں نے عرض کیا: پاخانے پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد وضو میں چرمی موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں ایک عرصہ سے خلجان ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اس لئے میں آپ کے پاس یہ دریافت کرنے آیا ہوں کہ آپ نے اس مسئلہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ فرمایا: ہاں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سفر کی حالت میں تین رات دن تک پیشاب پاخانے یا سو جانے کی وجہ سے وضو میں چرمی موزے نہ اتارنے (اور انہی پر مسح

کرنے) کا حکم دیا کرتے تھے بجز جنابت (غسل ناپاکی) کے (کہ ناپاکی کے غسل میں موزے اتارنے ضروری ہیں، مسح کافی نہیں ہے) اس کے بعد میں نے (ایک اور بات پوچھی اور) عرض کیا: آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (کسی گروہ سے) محبت کرنے کے بارے میں بھی کچھ سنا ہے؟ فرمایا ہاں ایک مرتبہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے اثناء سفر میں ہم ایک دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک اعرابی (دیہاتی) نے اپنی کرخت آواز میں آپ کا نام لے کر آپ کو پکارا: اؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے بھی اسی کے سے کرخت لہجہ میں جواب دیا: ہاں اؤ دیہاتی کیا ہے؟ اس پر میں نے اس دیہاتی سے کہا: تیرا بھلا ہو، ذرا تو اپنی آواز کو پست کر (اور نرم لب و لہجہ میں بات کر) اس لئے کہ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے اور تمہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس طرح بے ادبانہ خطاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو وہ دیہاتی کہنے لگا بخدا میں تو اپنی آواز پست (اور لہجہ کو نرم) نہیں کروں گا (بہر حال) اس دیہاتی نے دریافت کیا ایک آدمی ایک گروہ سے محبت کرتا ہے مگر (عمل کے اعتبار سے) وہ ان سے میل نہیں کھاتا (اور ان جیسا نہیں ہے اس کا خدا کے ہاں کچھ درجہ ہے یا نہیں؟) رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی جن لوگوں سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا، اس کے بعد آپ ہم سے (اس سلسلہ میں) گفتگو فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ نے مغرب کی جانب ایک ایسے (عریض و طویل، چوڑے چپکے) دروازہ کا ذکر فرمایا جس کے عرض میں چالیس سال تک ایک سوار برابر چلتا رہے یا فرمایا ستر سال تک چلتا رہے (جب بھی وہ مسافت طے نہ ہو اور جب عرض، چوڑائی کا یہ حال ہے تو لمبائی کا حال تو خدا ہی جانتا ہے) اس حدیث کے ایک راوی سفیان نے اپنی روایت میں (مغرب کی جانب کے بجائے) شام کی جانب کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس دن سے آسمان وزمین پیدا فرمائے ہیں اسی دن سے اس دروازہ کو توبہ کے لئے کھلا پیدا فرمایا ہے یہ بند نہ ہوگا یہاں تک کہ (قیامت آنے کے وقت مشرق کے بجائے) اسی دروازے سے سورج نکلے گا (جب بند ہو جائے گا اور قیامت آجائے گی)۔

امام ترمذی نے اس طرح نقل کی ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

حدیث شریف میں اس زندگی کے متعلق اہم ترین کار آمد تین تعلیمات

حدیث کئی تشبیح: اس حدیث شریف کے تین حصے ہیں (۱) ایک مسح علی الخنین (جرمی موزوں پر مسح) کا مسئلہ ہے زر بن حبیش کے دل میں بول و براز جیسی غلیظ نجاستوں کے خارج ہونے کے بعد وضو میں موزے اتار کر پاؤں دھونے کے بجائے موزوں پر مسح کرنے میں تردد تھا صفوان بن عسال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث

سن کر وہ خلیجان دور ہو گیا اور سمجھ میں آ گیا کہ وضو کو واجب کرنے والی تمام چیزوں کا حکم ایک ہے اور موزے اتار کر پاؤں دھونے کے بجائے موزوں پر مسح کر لینا کافی ہے ہاں غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں مسح کافی نہیں ہے موزے اتار کر پاؤں دھونے ضروری ہیں گویا پاؤں دھونے کے بجائے موزوں پر ہی مسح کر لینا شریعت کی جانب سے ایک تخفیف اور سہولت ہے جو وضو کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کہ وضو بار بار کرنا پڑتا ہے ہر مرتبہ چرمی موزے اتارنا دشواری کا موجب ہے اس لئے اس میں تخفیف اور سہولت کی ضرورت ہے اس کے برعکس غسل کی ضرورت بہت کم اور شاذ و نادر پیش آتی ہے اس میں تخفیف کی چنداں ضرورت نہیں علاوہ ازیں جنابت (موجب غسل ناپاکی) نجاست غلیظہ ہے اس میں تمام جسم کا دھونا اور غسل کرنا ضروری ہے حدیث شریف میں آتا ہے تحت کل شعرة جنبیہ (ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہے) اسی لئے غسل جنابت (ناپاکی کے غسل) میں بالوں کی جڑوں تک میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔

سبق آموز بات

اس حدیث میں دیکھنے اور سبق لینے کی بات یہ ہے کہ قرون اولیٰ (پہلی صدیوں) کے مسلمانوں کے ایمان خدا اور اس کے رسول کی تعلیمات پر اتنے قوی ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا سن لینا ان کے ہر طرح کے خلیجان اور تردد کو دور کرنے کیلئے کافی ہوتا تھا اس کے برعکس ہم آج قرآن و حدیث میں منصوص اور صریح احکام سنتے ہیں مگر ہمارے دل مطمئن نہیں ہوتے طرح طرح کے شکوک و شبہات اور احتمالات و تاویلات ہمارے ذہنوں پر مسلط رہتے ہیں اور اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا یہ ہمارے ضعف ایمان کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اور پختہ ایمان نصیب فرمائیں۔ آمین

حقیقی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرشمہ

(۲) حدیث کا دوسرا حصہ کسی جماعت یا گروہ سے محبت کرنے سے متعلق ہے اول تو زر بن حبیش کا سوال ہی ان کی تمنا اور آرزو کی غمازی کر رہا ہے کہ ان کا معہائے آرزو یہ ہے کہ کسی طرح آخرت میں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رفاقت نصیب ہو جائے مگر اعمال کے اعتبار سے اپنی پستی اور کمتری کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں پھر محبت کا جذبہ سر ابھارتا ہے پھر اپنی کمتری کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اسی کشمکش سے نجات پانے کے لئے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت نواز جواب بلکہ خوشخبری سن کر مطمئن ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ اس حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرشمہ ہے جس کے متعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين

تم میں سے کوئی کامل مومن نہ ہو گا یہاں تک کہ میں اس کے لئے اس کے ماں باپ سے اولاد سے اور تمام

لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

یعنی جب تک محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مسلمان کیلئے احب خلق اللہ (خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب) نہ بن جائے اس وقت تک اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔

کسی سے محبت کا تقاضا

یاد رکھئے! کسی قوم یا گروہ یا فرد سے واقعی محبت کا فطری تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے بقدر اعمال و اخلاق میں گفتار و کردار میں صورت و سیرت میں معیشت و معاشرت میں غرض ہر چیز میں اپنی ہستی کو محبوب کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے اور اس کے ہر قول و فعل پر عمل کرنے میں غایت درجہ لطف و لذت اور سرور و انہساط محسوس کرتا ہے اسی لئے یہ محبت محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کامل (مکمل پیروی) کا وسیلہ بن جاتی ہے جس پر خالق کائنات کی محبت و مغفرت کا مدار ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں:

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم (ال عمران آیت ۳۱)

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

لہذا اس مبنی بر محبت اتباع کے بعد آخرت میں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر آنے میں کوئی تردد ہو ہی نہیں سکتا اسی لئے آپ نے ارشاد فرمایا ہے: المرء مع من احب يوم القيامة (آدمی جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا)

اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنے والوں کو اس ”رفاقت“ کی خوشخبری اس آیت کریمہ میں سنائی ہے۔

ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً (النساء آیت ۶۹)

اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہی لوگ ان کے ہمراہ ہونگے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے انبیاء کے اولیاء کے شہداء کے اور نیکو کاروں کے اور یہی (چاروں گروہ سب سے) اچھے رفیق ہیں (دنیا اور آخرت کی زندگی کے ساتھی ہو سکتے ہیں)۔

کس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کی کسوٹی اور اس کی وجہ

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان و جی ترجمان سے نکلے ہوئے اس چند کلمات پر مشتمل چھوٹے سے فقرہ میں صرف عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رفاقت محبوب کی خوشخبری ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک فطری اور طبعی معیار اور کسوٹی بھی ہے جس پر پرکھ کر ہر فرد اور قوم کے متعلق باسانی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ قیامت کے

دن اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ اس لئے کہ انسان فطری طور پر اعمال و اخلاق گفتار و کردار، صورت و سیرت، لباس و ہیئت، معیشت و معاشرت غرض اپنی پوری زندگی میں غیر شعوری یا شعوری طور پر انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلنے بلکہ ہو بہو ان کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے جن کو دل سے اچھا سمجھتا ہے اس محبت و پسندیدگی کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں انہی کا اتباع اور پیروی کرتا ہے اور پھر مرنے کے بعد انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے یہی مطلب ہے صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا۔

من تشبه بقوم فهو منهم۔ جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے اور اس خطرہ کے پیش نظر سر تا پا رفت و رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو متنبہ فرماتے ہیں۔

المراء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من ینخاللہ آدمی اپنے جگری دوست کے دین پر ہو کر تا ہے اس لئے تم میں سے ہر شخص کو خوب اچھی طرح دیکھ لینا چاہئے کہ وہ کس (فرد یا قوم) سے دلی محبت کرتا ہے۔

اس معیار کی روشنی میں جب ہم اپنی زندگی اور معیشت و معاشرت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زندگی کے ہر شعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اور انبیاء و اولیاء صحابہ و تابعین اور صلحاء و اتقیاء امت کی پیروی کرنے کے بجائے شعوری یا غیر شعوری طور پر فرنگیوں کے نقش قدم پر چلنے بلکہ گفتار و کردار اور معیشت و معاشرت میں ان کی مکمل نقل اتارنے میں سرگرداں ہیں خاص کر ہماری نئی اور تعلیم یافتہ نسل تو اسلام کو بھی ”ماڈرن“ بنانے میں مصروف ہے اس کا نتیجہ خاتم بدہن اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارا حشر قیامت کے دن فرنگیوں اور یورپین اقوام کے ساتھ ہوگا۔ العیاذ باللہ

اس لئے ہمارا فرض ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عبرت آموز فرمان المرء مع من احب یوم القیامۃ سے سبق حاصل کر کے جلد از جلد اپنی معیشت و معاشرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اور صلحاء و اتقیاء امت کی زندگی کے سانچے میں ڈھال لیں اور اپنے اسلاف کی اسلامی معاشرت کو اختیار کریں اور غیر مسلموں، خصوصاً فرنگیوں کی تمام خصوصیات اور غیر اسلامی شعار یکسر ترک کر دیں۔

یاد رکھئے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اب سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے کی زندگی کو اختیار کریں اور موجودہ زمانے کی ترقیات، ایجادات اور مصنوعات سے فائدہ نہ اٹھائیں آپ ہر چیز کو استعمال کیجئے اس سے فائدہ اٹھائیے وہ اللہ کی نعمت ہے مگر اپنی معاشرت میں غیر مسلموں کی خصوصیات اور غیر اسلامی شعار (امتیازات) کو یک قلم ترک کر دیجئے کسی بھی قوم کی نقالی اور ریس نہ کیجئے یہی آپ کی قومی خودداری کا تقاضا بھی ہے۔

سورج کے مغرب سے نکلنے اور توبہ کے دروازے بند ہونے کا باہمی ربط

حدیث کا تیسرا حصہ توبہ کے دروازہ کی انسانی تصور سے بالاتر وسعت و فراخی کے بیان سے متعلق ہے اسی کے ساتھ آفتاب کے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کے باہمی ربط و تعلق کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ گناہ

اور توبہ انسانی خلقت کے لوازمات میں سے ہیں جب تک یہ عالم اور اس میں انسان رہیں گے گناہ اور توبہ کا سلسلہ بھی باقی رہے گا اور جب یہ عالم اور اس میں آباد انسان فنا ہو جائیں گے یعنی قیامت آجائے گی تو نہ گناہ کا وجود ہو گا نہ توبہ کا۔

زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑے گناہ بھی صدق دل سے کی ہوئی

توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں (ایک عجیب واقعہ)

وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ” كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ ، فذَلَّ عَلَى رَاهِبٍ ، فَأَتَاهُ . فقال : إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فقال : لا ، فَقتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِئَةً ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ ، فذَلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ . فقال : إِنَّهُ قَتَلَ مِئَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فقال : نَعَمْ ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضٍ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنْاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضٌ سُوءٌ ، فإنْطَلِقْ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ ، فإخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ . فقالت مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَلَّةٌ نَائِبًا ، مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وقالت مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ : إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ أَيْ حَكَمًا فقال : قيسُوا ما بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيْتَهُمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ . ففَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ ، فَقبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ “ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وفي رواية في الصحيح : ” فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِيرٍ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا “ . وفي رواية في الصحيح : ” فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعِدِي ، وَإِلَى هَذِهِ أَنْ تَقْرَبِي ، وَقَالَ : قيسُوا ما بَيْنَهُمَا ، فَوَجَدُوهُ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِيرٍ فَغَفِرَ لَهُ “ . وفي رواية : ” فَتَأَى بِصُدْرِهِ نَحْوَهَا “ .

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم سے پہلی ایک امت میں ایک آدمی تھا جو ۹۹ آدمیوں کو قتل کر چکا تھا اس نے (لوگوں سے) روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ دریافت کیا تو (لوگوں نے) اس کو ایک (عیسائی) ”راہب“ کا پتہ بتلایا یہ شخص اس راہب کے پاس آیا اور کہا: میں ننانوے آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں کیا اب بھی میرے لئے توبہ (کا امکان) ہے؟ راہب نے کہا: نہیں تو اس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور اس طرح سو قتل پورے کر دیئے اور پھر (لوگوں سے) روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ دریافت کیا تو (لوگوں نے) اس کو ایک اور عالم کا پتہ بتلایا یہ (ایک سوبندگان خدا کا قاتل) اس کے پاس گیا اور کہا میں سو آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں کیا اب بھی میرے لئے توبہ (کا امکان) ہے؟ اس نے کہا ”ہاں ضرور ہے اور بھلا

اللہ کے بندے اور توبہ کے درمیان کوئی امر حائل (اور مانع) ہو سکتا ہے؟ تم فلاں فلاں بستی میں جاؤ وہاں اللہ کے کچھ عبادت گزار و مقبول بندے شب و روز اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہیں تم ان کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ اور ہاں دیکھنا! اپنی اس گناہ کی سر زمین (بستی) کی طرف پھر واپس آنے کا نام تک نہ لینا یہ بہت بری سر زمین ہے ”وہ شخص اس بستی کی جانب چل دیا آدھا راستہ طے کیا تھا کہ موت آگئی تو اس کی روح کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ شخص (اپنے گناہوں سے) تائب ہو کر دل سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو چکا (لہذا اس کی روح کو ہم علیین میں لے جائیں گے) عذاب کے فرشتوں نے کہا (یہ تو صحیح ہے لیکن) اس نے کوئی نیک کام مطلق نہیں کیا (پھر یہ رحمت کا مستحق کیسے ہو گیا) تو (اللہ کے حکم سے) ایک فرشتہ انسانی صورت میں ان کے سامنے آیا دونوں فریق نے اس کو اپنا (جھگڑا طے کرنے کے لئے) حکم (عالت) بنا لیا تو اس (انسان نما فرشتہ) نے کہا ”بھئی (جھگڑا کیوں کرتے ہو) دونوں سر زمینوں (گناہ کی بستی اور عبادت و طاعت کی بستی) کی پیمائش کر لو جس علاقہ سے یہ قریب تر ہو اسی علاقہ کے لوگوں میں شامل کر دو“ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی اس علاقہ سے قریب تر پایا جس میں عبادت الہی کے ارادے سے وہ جا رہا تھا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تو اس روایت کے الفاظ یہی ہیں لیکن ایک اور صحیح روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ نیکو کاری کے علاقہ کی جانب، صرف ایک باشت مسافت زیادہ تھی اسی لئے اس بستی والوں میں شمار کیا گیا ایک اور صحیح روایت میں ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بدکاری کی سر زمین کو حکم دیا کہ: تو دور ہو جا“ اور نیکو کاری کی سر زمین کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا اور (اس کے بعد) اس فرشتہ نے کہا اب دونوں علاقوں کی مسافت ناپ لو“ تو نیکی کی سر زمین سے ایک باشت قریب تر نکلا اور اس کی مغفرت کر دی گئی ایک اور روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ (مرتے وقت) اس نے اپنا سینہ (رخ) نیکو کاری کی سر زمین کی طرف کیا ہوا تھا۔

راوی حدیث حضرت سعد بن مالک بن سنان

ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات

نام۔ سعد رضی اللہ عنہ، کنیت ابو سعید، والد کا نام مالک رضی اللہ عنہ، دادا کا نام سنان، والدہ کا نام انیسہ رضی اللہ عنہ بنت ابی حارثہ تھا۔

ان کے والد اور والدہ بیعت عقبہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اس لئے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی سے مسلمان والدین کے دامن میں تربیت پائی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں انہوں نے حصہ لیا۔ (مسند احمد) غزوہ احد کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے رہے، بخاری کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ۱۲ غزوات میں انہوں نے شرکت فرمائی۔

مدینہ میں ہی مقیم رہے عہد فاروقی اور عہد عثمانی میں فتویٰ دیا کرتے تھے ان کے پاس کافی وسیع حلقہ ہوتا جب کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا تو کافی دیر کے بعد اس کا نمبر آتا۔ (مسند احمد)

اپنے عہد کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ (اسابہ)

ان کے خصوصی نمایاں اوصاف میں سے حق گوئی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اتباع سنت، بردباری و تحمل، سادگی، بے تکلفی اور یتیموں کی پرورش تھی۔

وفات۔ مدینہ منورہ میں ۷۴ھ میں جمعہ کے دن ہوئی بیچ میں مدفن ہوئے اس وقت ان کی عمر ۷۴ سال تھی مگر علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ ۸۶ سال تھی۔ (تذکرۃ الحفاظ) اور اسی کو صحیح کہا گیا ہے۔

مرویات۔ ان کی مرویات کی تعداد ۷۵۱۱ ہے ان میں ۳۶ میں بخاری اور مسلم دونوں متفق ہیں ۱۶ میں بخاری اور ۲۵ میں مسلم منفرد ہیں۔ (تہذیب الکمال) (مرقاۃ)

سو آدمیوں کے قاتل کا واقعہ

حدیث کی تشریح۔ ”فاختصمت فیہ ملائکة الرحمة وملائکة العذاب“

اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہوا رحمت کے فرشتوں کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ شخص توبہ کیلئے اس بہستی کی طرف جا رہا تھا اور تائب تھا اس لئے ہم اس کی روح لے کر جائیں گے، عذاب کے فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ اس شخص نے سو آدمیوں کو ناحق قتل کیا ہے ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی تھی اس لئے ہم اس کی روح کو لے کر جائیں گے۔ عذاب کے فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ اس شخص نے سو آدمیوں کو ناحق قتل کیا ہے ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی تھی اس لئے ہم اس کی روح کو لے کر جائیں گے۔ پھر اللہ نے فیصلہ فرمادیا کہ زمین کو ناپو جس جگہ کی مسافت کم ہوگی اس کا استحقاق اسی بنیاد پر ہوگا۔ (مرقاۃ)

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جتنا بڑا گناہ گار بن جائے گا مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے۔

اف کتنا ہے تاریک گز گار کا عالم انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم

علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے دشمنوں کو بھی راضی کر لیتے ہیں۔ (مرقاۃ)

حدیث کی آیت قرآنیہ سے بھی تائید

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا یہ اگرچہ کبیرہ گناہ ہے مگر اس کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ جیسے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔

الا من تاب وامن وعمل عملاً صالحاً فاو لئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات
ترجمہ۔ مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرے تو اللہ ان کی بد کرداریوں کو نیک کاریوں سے بدل دے گا۔

اس واقعہ کے مضمون کی تائید قرآن و حدیث سے

یہ واقعہ اگرچہ کسی پہلی امت کا ہے مگر صادق و صدوق علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اس کو امت کے سامنے بیان کرنا اس کے سچے اور صحیح ہونے کی دلیل ہے چنانچہ قرآن و حدیث کی تصریحات کی رو سے بھی کتنے ہی شدید اور کثیر گناہوں کا کوئی شخص مرتکب کیوں نہ ہو چکا ہو توبہ کا دروازہ پھر بھی اس کے لئے کھلا ہے صدق دل سے کی ہوئی توبہ زیادہ سے زیادہ اور سخت سے سخت گناہوں کی مغفرت کیلئے بھی کافی ہے ارجمین کا ارشاد ہے۔

یا عبادى الذین اسر فوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً (الزمر آیت ۵۳)
اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کر چکے ہو (ساری عمر بڑے بڑے گناہوں میں گزاری ہے) تم (اب بھی) اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو بیشک اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔

اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض کفار و مشرکین نے عرض کیا آپ کا دین بہت اچھا ہے اور ہم اس کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں بشرطیکہ ہمیں اپنے کثرت سے کئے ہوئے سابقہ گناہوں کفر و شرک، قتل و زنا وغیرہ کے کفارہ کا یقین اور ان کے معاف ہونے کا اطمینان ہو جائے تو اس پر مذکورہ بالا آیت کریمہ اور آیت کریمہ ذیل نازل ہوئی۔

والذین لا یدعون مع اللہ (الی) الامن قاب وامن وعمل عملاً صالحاً فاو لئک یبدل

اللہ سیئاتهم حسنات، وکان اللہ غفوراً رحیماً (سورۃ فرقان آیت ۷۰)

اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے (ترجمہ والے قرآن سے پوری آیت پڑھئے اور سمجھئے) بجز ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک کام کئے تو اللہ ان کی بد کرداریوں کو نیک کاریوں سے بدل دے گا (ایمان کے بعد نیک کاریوں کو ایمان سے پہلے کی بد کاریوں کا کفارہ بنا دے گا) اور اللہ تو بڑا ہی مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ نیز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

الاسلام یهدم ما کان قبلہ ”اسلام مٹا ڈالتا ہے اسلام سے پہلے کے جو بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو“
مگر شرط یہی ہے کہ صدق دل سے کی ہوئی توبہ ہو اور توبہ نصوحاً (گناہوں سے باز رکھنے والی سچے دل سے توبہ) کا مصداق ہو ادعیہ ماثورہ میں آتا ہے۔

واستلک توبۃ نصوحاً ”اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں (گناہوں سے) باز رکھنے والی توبہ کا“

حضرت کعب بن مالک کی عظیم توبہ کا واقعہ اور سچ بولنے کے برکات

وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بني حنيفة عُمِي . قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِهِ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ . قَالَ كَعْبُ : لَمْ أَتَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا قَطُّ إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، غَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ ، وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهُ ؛ إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَيَّ غَيْرَ مِعَادٍ . وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاقَفْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَا أَحَبُّ أَنْ لِي بِهَا مَشْهَدٌ بَدْرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا . وَكَانَ مِنْ خَبْرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ ، وَاللَّهُ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ غَزْوَةَ إِلَّا وَرَى^٣ بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ ، فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَنَازًا ، وَاسْتَقْبَلَ عَدَدًا كَثِيرًا ، فَجَلَى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرُهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيدُ ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ كَثِيرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ (يُرِيدُ بِذَلِكَ الْدَيَّانُ) قَالَ كَعْبُ : فَقُلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ سِيخْفِي بِهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ ، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الشَّمَارُ وَالظَّلَالُ ، فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَمٌ . فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا ، وَأَقُولُ فِي نَفْسِي : أَنَا قَادِرٌ عَلَيَّ ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَتِمَادَى بِي حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجُدُّ ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْئًا ، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا ، فَلَمْ يَزَلْ يَتِمَادَى بِي حَتَّى اسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَجِلَ فَأُفْرِكَهُمْ ، فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ ، ثُمَّ لَمْ يُنْتَرِ ذَلِكَ لِي ، فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْزُنُنِي أَنِّي لَا أَرَى لِي أَسْوَةَ ، إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا^٣ عَلَيْهِ فِي النَّشَاقِ ، أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَدَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الضَّعْفَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ : " مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمْةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حَسْبَهُ بَرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفِيهِ . فَقَالَ لَهُ مَعَاذُ بَنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بِشَسِّ مَا أَنْتَ ! وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ . فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ رَأَى رَجُلًا مُبِضًّا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُنْ أَبَا خَيْشَمَةَ " ، فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْشَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُتَأَفِّفُونَ . قَالَ كَعْبٌ : فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَوَجَّهَ فَإِذَا مِنْ تَبُوكِ حَضْرَتِي بَشِي . فَطَفِيفْتُ أَتَذَكُرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ : بِمِ أَخْرَجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا ؟ وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي . فَلَمَّا قِيلَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَظْلَلَ قَادِمًا ، زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُو مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا ، فَاجْمَعْتُ صَدَقَهُ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِمًا ، وَكَانَ إِذَا قِيمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ ، وَكَانُوا بَعْضًا وَثْمَانِينَ رَجُلًا ، فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَابِعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَّلَ سَرَايِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، حَتَّى جِئْتُ ، فَلَمَّا سَأَلْتُ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ . ثُمَّ قَالَ : " تَعَالَى " ، فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ لِي : " مَا خَلَقَكَ ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ ؟ " قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بَعْدُ ؛ لَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَيْتَنُ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذَبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لِيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسَخِّطَكَ عَلَيَّ ، وَإِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَقْبَى اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ ، وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عَذْرٍ ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَتَوَى وَلَا أَيْسَرُ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتَ عَنكَ . قَالَ : فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَا هَذَا فَقَدْ صَدَّقَ ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ " . وَسَارَ رَجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِيمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي : وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنِبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ ، فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ . قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤْتِبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُكَذِّبُ نَفْسِي ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ : هَلْ لَقِيْتُ هَذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ ، وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هُمَا ؟ قَالُوا : مُرَارَةُ بِنُ الرَّبِيعِ الْعُمَرِيُّ ، وَهَيْلَالُ ابْنُ أُمَيَّةَ الْوَاتِقِيُّ ؟ قَالَ : فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أَسْوَةٌ ، قَالَ : فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي . وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا كَلَامَنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ ، فَاجْتَنَبْنَا النَّاسُ أَوْ قَالَ : تَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرْتُ لِي فِي نَفْسِي الْأَرْضِ ، فَمَا هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِي أَعْرَفُ ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً . فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ . وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ

أَسْبَبَ الْقَوْمَ وَأَجْلَدَهُمْ فَكَنتُ أَخْرَجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ ، وَآتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي : هَلْ حَرَّكَ شَفْتَيْهِ بَرْدَ السَّلَامِ أَمْ لَا ؟ ثُمَّ أَصْلِي قَرِيبًا مِنْهُ وَأَسَارِقُهُ النَّظَرَ ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ وَإِذَا التَّمْتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي ، حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا قَتَادَةَ ، أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعَلَّمْنِي أَحَبُّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَسَكَتَ . فَعَدْتُ فَنَاشِدْتُهُ فَسَكَتَ ، فَعَدْتُ فَنَاشِدْتُهُ ، فَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . ففَاضَتْ عَيْنَايَ ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبْطِيٌّ مِنْ نَبْطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَلِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ : مَنْ يَدُلُّ عَلَيَّ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ حَتَّى جَلَنِي فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مِلِكِ غَسَّانَ ، وَكَنتُ كَاتِبًا . فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ : أَمَا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ صَاحِبِكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بَدَارَ هَوَانٍ وَلَا مَضْبِيعَةٍ ، فَالْحَقُّ بِنَا نَوَاسِكَ ، فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتَهَا : وَهَلِيهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ ، فَتَيَمَّمْتُ بِهَا النَّتُورَ فَسَجَرْتُهَا ، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزَلَ امْرَأَتَكَ ، فَقُلْتُ : أَطَلَّقَهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ ؟ فَقَالَ : لَا ، بَلِ اعْتَزَلِيهَا فَلَا تَقْرَبِيهَا ، وَأَرْسَلْ إِلَيَّ صَاحِبِي بِمِثْلِ ذَلِكَ . فَقُلْتُ لَامْرَأَتِي : الْحَقِّي بِأَهْلِكَ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ . فَجَلَتْ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أُخْدَمَهُ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبَنَّكَ " فَقَالَتْ : إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ مِنْ حَرَكَةٍ إِلَيَّ شَيْءٍ ، وَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَيَّ يَوْمِهِ هَذَا . فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي : لَوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَتِكَ فَقَدْ أُذِنَ لَامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدَمَهُ ؟ فَقُلْتُ : لَا اسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْتَهُ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ ! فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ فَكَمَلْتُ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَيْتُ عَنْ كَلَامِنَا ، ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بِيوتِنَا ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى

مِنَّا ، فَذُضِقتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضِقتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحِبتُ ، سَمِعتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَيَّ سَلَعٌ يَقُولُ بِأَعلى صَوْتِهِ : يَا كَعْبُ بَنَ مَالِكِ أبَشِيرُ ، فَخَرَرْتُ ساجِداً ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَهِ فَرَجٌ . فَاذنَ رسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَینَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُشِرُّونَنَا ، فَذَهَبَ قَبْلَ صَاحِبِي مُبَشِّرُونَ وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَساً وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسَلَمَ قَبْلِي ، وَأَوْفَى عَلَيَّ الجَبَلُ ، فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الفَرَسِ ، فَلَمَّا جَهِ نِي الَّذِي سَمِعتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ تَوْبِي فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبِشارَتِهِ ، وَاللهُ مَا أَمَلِكُ غَیرَهُمَا یَوْمَئِذٍ ، وَأَسْتَعَرْتُ تَوْبِینَ فَلَبِستُهُمَا ، وَأَنْطَلَقْتُ أَتِیْتُ رسولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَتَلَقَانِي النَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً یُهَنِّئُونَنِي بِالتَّوْبَةِ ویَقُولُونَ لِي : لِنَهْنِكَ تَوْبَةَ اللهِ عَلَیْكَ . حَتَّى دَخَلْتُ المَسْجِدَ فِإِذَا رسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ ، فَقَامَ^(٣) طَلْحَةَ بَنُ عُبَیدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ یَهْرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي ، وَاللهُ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِینَ غَیرَهُ فَكَانَ كَعْبٌ لَا یَسَاها لِطَلْحَةَ . قَالَ كَعْبٌ : فَلَمَّا سَلَمْتُ عَلَیَّ رسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ یَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السَّرُورِ : ” أَبَشِيرُ بِخَیرِ یَوْمٍ مَرَّ عَلَیْكَ مُذْ وَلَدْتِكَ أُمَّكَ “ فَقُلْتُ : أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رسولُ اللهُ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ ؟ قَالَ : ” لَا ، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ “ ، وَكَانَ رسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَتْ وَجْهُهُ قِطْعَةً قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَینَ یَدَیْهِ قُلْتُ : يَا رسولُ اللهُ ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أُتَخَلِّعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رسولِهِ . فَقَالَ رسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : ” أَمْسِكْ عَلَیْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَیرٌ لَكَ “ . فَقُلْتُ : إِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَیْبِرٍ . وَقُلْتُ : يَا رسولُ اللهُ ، إِنَّ اللهُ تَعَالَى إِتَمَّا أَنْجَانِي بِالصَّدَقِ ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أَحْدِثَ إِلَّا صِدَقاً مَا بَقِیتُ ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِینَ أَبْلَاهُ اللهُ تَعَالَى فِي صِدَقِ الحَدِیثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرسولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي اللهُ تَعَالَى ، وَاللهُ مَا تَعَمَّدَتْ كِذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذَلِكَ لِرسولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلَى یَوْمِي هَذَا ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ یَحْفَظَنِي اللهُ تَعَالَى فِیما بَقِیَ ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِیِّ وَالْمُهَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ فِی سَاعَةِ العُسْرَةِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ إِنَّهُ بِهِمْ رُؤُوفٌ رَحِیمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ خَلَفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَیْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحِبتُ ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ ﴾ [التَّوْبَةِ : ١١٧١١٩] قَالَ كَعْبٌ : وَاللهُ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَیَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللهُ لِلإِسْلامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رسولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ .

فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا؛ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرًّا مَا قَالَ لِأَحَدٍ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنِعْرَضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِنِعْرَضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ التَّوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ۹۵۹۶] قَالَ كَعْبٌ: كُنَّا خَلْفَنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أَرْلِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَانُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنَا حَتَّىٰ تَقْضَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِيهِ بِذَلِكَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا﴾ وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ مِمَّا خَلَفْنَا تَخَلَّفْنَا عَنِ الْعَزْوِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيئُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فقبل مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رَوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُخْرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ. وَفِي رَوَايَةٍ: وَكَانَ لَا يَنْدُمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَىٰ، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّىٰ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ.

توجہ: حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے فرزند عبداللہ بن کعب سے، جن کو حضرت کعب بن مالک کے ناپینا ہو جانے کے بعد ان کے تمام لڑکوں میں اپنے باپ کے رہبر ہونے کا شرف حاصل ہے روایت ہے کہتے ہیں: میں نے خود اپنے والد کعب بن مالک کی زبان سے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ میں شریک نہ ہونے کا واقعہ سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (کفار و مشرکین سے) جتنی لڑائیاں لڑی ہیں ان میں بجز جنگ تبوک کے کبھی کسی لڑائی میں میں آپ سے پیچھے نہیں رہا (بلکہ ہر لڑائی میں آپ کے ساتھ رہا ہوں) باقی جنگ بدر میں میرا شریک نہ ہونا قابل مواخذہ نہیں ہے کیونکہ جنگ بدر میں نہ شریک ہونے والے کسی بھی شخص سے آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اس لئے کہ جنگ بدر کے واقعہ میں تو آپ اور آپ کے ہمراہ مسلمان (اپنے خیال میں) قریش کے تجارتی قافلہ پر حملہ کرنے کے ارادہ سے نکلے تھے یہ مشیت الہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کرائے بغیر قریش کے جنگجو لشکر سے بڑھ کر ادی۔

جیسا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ سے ظاہر ہے لو تو اعدا تم لاختلفتم فی الميعاد ولكن ليقضى الله امراً كان مفعولاً (الانفال آیت ۴۲) اگر تم (اور مشرکین) آپس میں لڑائی کا فیصلہ کرتے (اور اعلان جنگ کرتے) تو تم (دونوں فریق) یقیناً مقررہ وقت پر وعدہ خلافی کرتے (اور میدان جنگ میں نہ آتے) لیکن اللہ تعالیٰ تو شدنی امر (لڑائی اور مشرکین کی شکست) کا فیصلہ کر چکے تھے (اس لئے بغیر اعلان جنگ کے لڑایا) فرماتے ہیں: اور میرے لئے تو بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لیلۃ العقبہ کی شرکت بہت کافی ہے۔

لیلۃ العقبہ کا بیان : لیلۃ العقبہ (عقبہ کی رات عقبہ منیٰ میں ایک پہاڑ کی گھاٹی ہے جس کے قریب جمرہ عقبہ واقع ہے جس کی رمی (کنکریاں مارنا) مناسک حج میں داخل ہے آج کل عوام اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں اس گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے تین سال قبل ایام حج کے اندر خفیہ طور پر تین سال میں تین مرتبہ مدینہ کے عرب قبائل، اوس و خزرج کے حجاج اور نمائندوں سے اسلام اور مسلمانوں کو مدینہ میں پناہ دینے اور حمایت کرنے کے بارے میں تین تاریخی ملاقاتیں کی ہیں پہلی مرتبہ پہلی لیلۃ العقبہ میں اوس و خزرج کے چھ یا سات آدمیوں سے ملاقات فرمائی اور ان کو اور ان کے ذریعہ ان کے قبائل اوس و خزرج کو صرف اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ان لوگوں نے مدینہ واپس جا کر اپنے قبائل کو وہ دعوت پہنچائی اس پر دوسرے سال دونوں قبائل کے بارہ سرکردہ نمائندوں نے اسی گھاٹی عقبہ میں آپ سے ملاقات کی اور آپ نے ان کو اور ان کے واسطے سے ان کے قبائل کو اسلام اور مسلمانوں کو مدینہ میں پناہ دینے اور حمایت کرنے کی بھی دعوت دی اور اس کی تفصیلات و شرائط بتلائیں یہ دوسری لیلۃ العقبہ ہے تیسرے سال مدینہ کے قبائل اوس و خزرج نے اپنے ستریا چھتر سرکردہ نمائندے انتخاب کر کے باقاعدہ معاہدہ کرنے کے لئے بھیجے چنانچہ اسی گھاٹی عقبہ میں وہ لوگ آپ سے ملے اور انہوں نے اپنے قبائل کی جانب سے عہد و پیمانہ کئے اور حلف اٹھائے اس معاہدہ کے بعد آپ نے خفیہ طور پر آہستہ آہستہ مسلمانوں کو مدینہ بھیجنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ماہ ربیع الاول ۱ھ میں خود بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے یہ تیسری لیلۃ العقبہ ہے اسی لیلۃ العقبہ میں کعب بن مالک نے اپنے قبیلہ کی جانب سے عہد و پیمانہ کیا تھا اسی کا ذکر کعب بن مالک کر رہے ہیں چونکہ اس معاہدہ کی تکمیل میں کعب بن مالک نے سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سر توڑ کر کوشش کی تھی اس لئے وہ اس واقعہ اور اس کی شرکت کو اپنے مفاخر میں سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں بعض مورخین پہلی ملاقات کو ایک عام اور اتفاقی چیز سمجھتے ہیں اس لئے وہ صرف دو لیلۃ العقبہ، ثانیہ و ثالثہ کا ذکر کرتے ہیں تفصیلات کتب تاریخ و سیر میں ضرور ملاحظہ فرمائیے یہی وہ تاریخ ہے جس کو پڑھ کر مسلمانوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے ہماری بد قسمتی یہ ہے کہ ہم دنیا بھر کی تاریخ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے تو اسلام کی تاریخ نہیں پڑھتے اور نہ اس کو کچھ اہمیت دیتے ہیں۔ انا اللہ۔

جس میں ہم نے اسلام (اور مسلمانوں) کی حمایت کے عہد و پیمانہ کئے تھے اور میں تو کبھی بھی یہ پسند نہ

کروں گا کہ لیلۃ العقبہ کے بجائے مجھے جنگ بدر کی شرکت نصیب ہوتی اگرچہ لوگوں میں جنگ بدر کی شرکت زیادہ اہم اور قابل ذکر سمجھی جاتی ہے (یعنی درحقیقت بے یار و مددگار اسلام اور مسلمانوں کی حمایت کرنے اور پناہ دینے کے سلسلہ میں لیلۃ العقبہ کے عہد و پیمانہ کرنے والے لوگوں، انصاریوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ جنگ بدر میں لڑنے والے غازیوں کے کارنامہ سے بدرجہا اہم اور قابل ذکر ہے بہر صورت جنگ بدر میں میرے شریک نہ ہونے سے میری سرخروئی پر کوئی حرف نہیں آسکتا جبکہ اس سے اہم تر معرکہ لیلۃ العقبہ میں شریک رہ چکا ہوں)۔ بہر حال غزوہ تبوک میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک نہ ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ (بچی بات یہ ہے) میں اپنی عمر میں کبھی بھی اس وقت سے زیادہ قوی اور خوشحال نہیں ہوا جتنا میں اس غزوہ میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہونے کے وقت تھا بخدا (اس سے پہلے) بیک وقت دو سواری کے قابل اونٹنیاں میرے پاس کبھی نہیں ہوئیں مگر اس جنگ تبوک کے وقت دو اونٹنیاں (مع ساز و سامان سفر) میرے پاس موجود تھیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس سمت آپ کو جنگ کرنے کے لئے جانا ہوتا (ازراہ احتیاط) کبھی صراحت کے ساتھ اس کا نام نہ لیتے بلکہ اس کے علاوہ کسی اور سمت کا مبہم الفاظ میں ذکر فرماتے (تاکہ دشمنوں کو پہلے سے خبر نہ ہو جائے) مگر خلاف عادت اس جنگ تبوک کا آپ نے صراحت کے ساتھ اعلان فرمایا تھا اس لئے کہ آپ شدید گرمی کے موسم میں پورے ایک ماہ کا دور دراز سفر بے آب و گیاہ بیابانوں میں طے کر کے دشمنوں کے ایک بڑے بھاری لشکر سے یہ جنگ کرنا چاہتے تھے اس لئے آپ نے واضح الفاظ میں صاف صاف بتلادیا تھا (کہ شام کے سرحدی مقام تبوک میں رومی افواج سے جنگ کرنی ہے) تاکہ لوگ اس دور دراز سفر اور عظیم جنگ کا سامان اور تیاری مکمل طور پر کر لیں (حالات کی اس ناسازگاری کے باوجود) مسلمان مجاہدوں کی تعداد اس مقدس جہاد میں شرکت کرنے کے لئے اتنی زیادہ تھی۔ کہ کسی محاسب کے دفتر اور رجسٹر میں ان کے نام نہیں آسکتے

غزوہ تبوک کی تاریخ اور مجاہدوں کی تعداد

ماہ رجب ۹ھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مسرت اور بے سرو سامانی کے عالم میں اسی لئے اس لشکر کو ”جیش سرۃ“ اور اس جنگ کو ”غزوہ عسرت“ بھی کہتے ہیں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے اور مدینہ کے قریب ”ثمیۃ الوداع“ میں لشکر گاہ (فوجی کیمپ) قائم کی تھی بروایت محمد بن اسحاق تیس ہزار سے زیادہ سرفروش مجاہد آپ کے ساتھ تھے جن میں دس ہزار سوار تھے اور حاکم نے بروایت ابو زرہ

اس لشکر کی تعداد ستر ہزار بتلائی ہے دراصل تیس ہزار مسلح اور جنگجو فوج تھی جن میں دس ہزار سوار تھے باقی پیادہ اور نوکر چاکر کمیزے دکان دار وغیرہ سب ملا کر لشکر کی تعداد ستر ہزار تھی۔

کعب کہتے ہیں کہ (اس کثرت تعداد اور انبوه کثیر کا ہی ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ) جو لوگ اس جنگ سے غائب ہونا چاہتے تھے ان میں سے کم ہی کوئی شخص ہو گا جس کا یہ گمان نہ ہو کہ (اس بیکراں لشکر اور انبوه کثیر میں سے) ہمارے غائب ہونے کا آپ کو پتہ چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہمارے متعلق اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل نہ ہو (اور آپ کو اس کی اطلاع نہ دی جائے سوا یہاں ہوتا ہے)

(بڑی صبر آزمایاں یہ تھی کہ) آپ نے یہ لڑائی ٹھیٹ گرمی کے موسم میں لڑنے کا قصد فرمایا تھا جبکہ کھجور اور انگور کے باغوں کے پھل پک رہے تھے اور سائے خوشگوار ہو رہے تھے (اور طبعی طور پر ہر شخص سفر و جنگ کے بجائے باغوں میں ڈیرے ڈال کر راحت و آسائش کی داد دینا پسند کرتا تھا جیسا کہ اہل مدینہ کا معمول تھا کہ اس موسم میں باغات کے اندر جا کر رہا کرتے تھے) اور یہی دلکشی اور راحت پسندی میرے لئے اس جنگ میں شرکت کرنے سے جان چرانے کا سبب بن رہی تھی۔

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ تمام سرفروش غازیوں نے اس دشوار ترین سفر اور عظیم ترین جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں میں بھی روزانہ گھر سے نکل کر جاتا کہ میں بھی سب کے ساتھ مل کر سامان سفر و جنگ کروں لیکن (دل کی چوری اور نفس کی خواہش کی بنا پر) اسی طرح لوٹ آتا اور کچھ نہ کرتا مگر ساتھ ہی دل میں برابر یہ کہتا رہتا تھا کہ اگر میں چاہوں تو اس سفر و جنگ کا سامان میں بھی کر سکتا ہوں (میرے لئے کوئی امر مانع نہیں ہے)

غرض ادھر میرا یہ پہلو تہی کا سلسلہ بڑھتا رہا ادھر جفاکش اور سرفروش مسلمانوں میں اس سفر و جنگ کے اہتمام کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ ایک دن صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام سرفروش مسلمان پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو کر لشکر گاہ (فوجی کیمپ) میں پہنچ گئے اور میں ابھی تک (گوگو کے عالم میں تھا اور مطلق) کوئی تیاری اور سامان نہ کر پایا تھا حسب معمول اگلے روز بھی میں صبح سویرے گھر سے نکلا اور شام کو اسی طرح واپس آ گیا اور کچھ نہیں کیا اور پہلو تہی کی یہی صورت حال قائم رہی آخر مجاہدین نے پوری سرعت کے ساتھ لشکر گاہ (جھاڑنی) سے روانگی کا اہتمام شروع کر دیا اور سفر جہاد شروع ہو گیا تو میں نے دل میں کہا کہ لشکر روانہ ہو گیا تو کیا ہے میں اگر چاہوں تو اب بھی براہ راست مدینہ سے کوچ کر کے لشکر سے جا ملوں گا۔ کاش کہ میں ایسا کر لیتا مگر جب مقدر میں تھا ہی نہیں تو کیسے کریتا (غرض مجاہدین اسلام کا یہ بیکراں لشکر چلچلاتی دھوپ اور تپتی ہوئی ریت میں گامزن تھا اور میں اسیر ہوئے نفس ہرے بھرے پھلدار درختوں کے سایہ میں راحت و آسائش کی داد دے رہا تھا)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اور مسلمانوں) کے مدینہ طیبہ سے چلے جانے کے بعد جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر غم و اندوہ اور یاس و حرمان چاروں طرف سے گھیر لیتا کہ پوری بستی میں مجھے اپنا جیسا کوئی آدمی نظر نہ آتا بلکہ یا اکاد کا کوئی بدنام منافق نظر آتا یا وہ کمزور و ناتواں، بوڑھے بیمار اور معذور لوگ نظر آتے جن کی شرکت جنگ سے معذور و مستثنیٰ ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔

(ادھر) محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی (اس پورے ایک ماہ کے سفر میں) کبھی ایک مرتبہ بھی صحابہؓ کے سامنے میرا تذکرہ نہیں فرمایا یہاں تک کہ جب آپ تبوک پہنچ گئے تو ایک دن آپ صحابہؓ کے درمیان تشریف فرما تھے فرمانے لگے: کعب بن مالک کا کیا ہوا؟ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص بولا: خوشحالی و ثروت مندی کی فراوانی اور خود پسندی و جاہ پرستی کی تمکنت اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی، تو اس پر فوراً معاذ بن جبلؓ بولے: بری بات ہے ایسا مت کہو، بخدا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے اس کے اخلاق و کردار میں خیر و صلاح کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا، یہ سن کر آپ بھی خاموش ہو گئے۔

اس اثنا میں آپ نے دور سے ایک سفید پوش رہبر و کے ساتھ سراب کو کھیلتا ہوا (اور اپنی طرف آتا ہوا) دیکھا تو زبان مبارک سے نکلا (خدا کرے) تو ابوخیثمہ ہو چنانچہ وہ آنے والا (خوش نصیب) ابوخیثمہ انصاری ہی نکلا۔

سچی محبت

ابوخیثمہ اپنے تخلص (ساتھ نہ جانے) کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک روانہ ہوئے چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن شدید گرمی پڑ رہی تھی میں دوپہر کو اپنے گھر (باغ) میں گیا تو دیکھا کہ میری دونوں بیویوں نے کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں کے سائبانوں کے نیچے اپنی اپنی جگہ کو پانی چھڑک کر خوب ٹھنڈا کر رکھا ہے ٹھنڈے پانی کی صراحیاں تیار کر رکھی ہیں کھانا تیار ہے ابوخیثمہ نے جو نہی عریش (حسنانہ) کے دروازے میں قدم رکھا تو اپنی بیویوں اور اس کھانے پینے کے سامان عیش و عشرت کو دیکھتے ہی بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا: سبحان اللہ! اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تمام اگلی پچھلی کوتاہیوں کی مغفرت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دے دی ہے اس شدید گرمی، چلچلاتی دھوپ، ریگستانی لوؤں کے تھپڑوں اور تپتے ہوئے ریت کے ریگستانوں میں جسم مبارک پر ہتھیاردوں کا بوجھ اٹھائے، مسلح اللہ تعالیٰ کی راہ میں دشمنوں سے لڑنے کے لئے سفر کی مشقتیں برداشت کر رہے ہوں اور ابوخیثمہ سرسبز درختوں کے خشک سایہ میں حسین و جمیل بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر لذیذ کھانے کھائے؟ ٹھنڈا پانی پئے اور عیش و عشرت کی داد دے؟ خدا کی قسم یہ ہرگز انصاف نہیں ہے خدا کی قسم میں تم دونوں میں سے کسی کے حسنانہ میں ہرگز قدم نہیں رکھوں گا تم اسی وقت میری سواری اور سامان سفر تیار کر دو تاکہ میں پہلی

فرصت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں چنانچہ دونوں فرمانبردار بیویوں نے اسی وقت آب کشی کے اونٹ پر ان کا سامان سفر باندھا اور یہ اسی وقت سوار ہو کر یہ جاہد جا'تن تنہا تبوک کی راہ لی یہاں تک کہ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ایک سفید پوش تن تنہا سوار کو سراب کے تھیسڑوں کے ساتھ دست و گریبان دیکھا تو فوراً زبان مبارک سے نکلا کن ابا خیشمة جس کا ذکر حضرت کعب کی حدیث میں آچکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی سعادت حاصل کر لی اور تحلف کے بنگ و عار اور گناہ عظیم کے ارتکاب سے بال بال بچ گئے۔

یہ وہی مخلص صحابی تھے جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل پر ایک صاع کھجور لڑائی کے چندے (دار فند) میں دینے پر منافقین نے خوب طعن و تشنیع کی تھی (جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے)۔

کعب بن مالک کہتے ہیں: (ایک ماہ بعد) جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک سے واپس روانہ ہونے کی خبر ملی (تو غم و اندوہ اور شرم و ندامت کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا) اور طرح طرح کے جھوٹے بہانے مجھے یاد آنے لگے اور ایسے عذر تراشنے لگا جن کے ذریعہ میں کل (آپ کی واپسی پر) آپ کی ناراضگی سے بچ سکوں اسی سلسلہ میں اپنے گھر کے ہر ذی رائے شخص سے مشورے بھی کئے اور مدد بھی لی۔

لیکن جب مجھے بتلایا گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنا ہی چاہتے ہیں تو یہ کذب بیانی اور بہانہ تراشی کے شیطانی خیالات میرے دل و دماغ سے محو ہو گئے اور میں نے یقین کر لیا کہ میں ان (منافقانہ) بہانہ تراشیوں اور حیلہ سازیوں کے ذریعہ ہرگز نجات نہیں پاسکتا۔

چنانچہ میں نے آپ کے سامنے بالکل سچ بولنے کا تہیہ (فیصلہ) کر لیا اگلے روز صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے، تو پہلے مسجد میں تشریف فرما ہوتے اور دو رکعت نماز (تحیۃ القدم) پڑھتے اس کے بعد لوگوں سے ملاقات کے لئے تشریف رکھتے۔

چنانچہ جب آپ حسب عادت مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کی خدمت میں وہ تمام لوگ حاضر ہوئے جو اس غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور طرح طرح کے جھوٹے عذر پیش کرنے اور ان پر قسمیں کھانے لگے یہ سب کچھ اوپر اسی آدمی تھے آپ نے جو بھی عذر انہوں نے پیش کئے (بلا تحقیق و تنقید) قبول کر لئے اور ان کو دوبارہ بیعت بھی کر لیا اور مغفرت کی دعا بھی فرمادی باقی ان کے دلوں میں چھپے ہوئے امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرمادیا۔

رفتہ رفتہ میری بھی باری آگئی اور میں بھی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو جب میں نے سلام عرض کیا تو

آپ نے ایک ناراض آقا کی طرح (طنزیہ) تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا: 'آؤ، آگے آؤ' تو میں شرم و ندامت کے بارے بوجھل قدم اٹھاتا آگے بڑھا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے (دو زانو) بیٹھ گیا تو آپ نے ناراضگی کے لہجہ میں فرمایا: کہو جی! تم کیوں اس جہاد سے پیچھے رہے؟ کیا تم نے اس جہاد کے لئے سواری کی اونٹنی نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کی قسم اگر میں آپ کے علاوہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے انسان کے سامنے پیش ہوتا تو میں نہایت خوبی کے ساتھ بر محل معذرت کر کے اس کی ناراضگی سے بچنے کی تدبیروں پر غور کرتا بخدا مجھے برجستہ بات بنانے کی بڑی قدرت حاصل ہے لیکن خدائے وحدہ لا شریک کی قسم! مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کی خدمت میں کوئی ایسا عذر گھڑ کر پیش بھی کر دوں جس کو سن کر آپ میری مجبوری کا یقین فرمائیں اور مجھ سے راضی بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ (میری دروغ بیانی کی بنا پر) بہت جلد حقیقت حال سے آگاہ کر کے آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا اور اگر میں سچی بات عرض کروں (کہ میرے لئے شرکت جہاد سے کوئی بھی امر مانع نہ تھا) تو آپ کو مجھ پر اور بھی زیادہ غصہ آئے گا لہذا میں (اپنی راست گوئی کی بنا پر) اللہ تعالیٰ سے ہی حسن انجام کی توقع قائم کرتا ہوں اور سچی بات عرض کرتا ہوں کہ باللہ العظیم میں (اپنی عمر میں) کبھی اتنا قوی اور خوشحال نہیں ہوا جتنا آپ کی رفاقت سے منہ موڑنے کے وقت تھا۔

تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا: جو بھی اس نے تو بالکل سچی بات کہہ دی اور مجھ سے فرمایا تو اب تم جاؤ تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائیں گے (کہ تمہیں معاف کیا جائے یا نہیں) میں جب اپنی قسمت کا یہ فیصلہ سن کر وہاں سے چلا تو میرے قبیلہ بنو سلمہ کے متعدد سرکردہ آدمی میرے پیچھے آئے اور ملامت و سرزنش کے طور پر کہنے لگے ہم نے اس سے پہلے تو کبھی تم کو (دوسرے منافقوں کی طرح) کسی گناہ کا مرتکب نہیں پایا (یہ تمہارا پہلا منافقانہ قسم کا گناہ ہے) تو کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ دوسرے جنگ میں شریک نہ ہونے والے لوگوں کی طرح تم بھی کوئی عذر پیش کر دیتے اس لئے کہ تمہارے اس عذر گناہ کی مغفرت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء مغفرت کافی ہوتی؟

کعب کہتے ہیں: ان لوگوں نے میری اس بظاہر رسوا کن راست گوئی پر اس قدر طعن تشنیع اور سرزنش و ملامت کی کہ میں نے (تنگ آکر) ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس جاؤں اور اپنے بیان کی خود تکذیب کروں (کہ میں نے جو کچھ عرض کیا وہ سب جھوٹ تھا واقعہ یہ ہے کہ فلاں فلاں عذر کی وجہ سے میں اس غزوہ میں شریک نہ ہوسکا۔

پھر میں نے ان سے دریافت کیا جیسا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے ایسا کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے؟

انہوں نے کہا ہاں دو آدمی اور ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی بیان دیا ہے جیسا تم نے دیا اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا ہے جو تم کو دیا گیا ہے (کہ تمہاری معافی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے) میں نے کہا: وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا: ایک مرارۃ بن ربیعہ عامری ہے اور دوسرا بلال بن اُمیہ واقفی ہے یہ دونوں بڑے صالح اور مخلص مسلمان تھے دونوں جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے دونوں پیروی کے لائق دینداری کے مالک تھے اس لئے ان دونوں کا حال سن کر (میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور) میں (راضی برضا الہی) اپنے گھر چلا گیا۔

(چند روز بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ”مُخْلِفين“ (غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں) میں سے ہم تین سے (جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد تھا) تمام مسلمانوں کو سلام و کلام کرنے سے منع فرما دیا چنانچہ مسلمانوں نے ہم سے کلی طور پر قطع تعلق، مقاطعہ کر لیا اس ممانعت کے بعد نہ صرف تمام مسلمانوں نے ہم سے منہ پھیر لیا بلکہ مجھے تو زمین و آسمان بھی (بدلے ہوئے محسوس ہونے لگے) ایسا لگتا تھا کہ یہ زمین وہ ہے ہی نہیں جسے میں جانتا پہچانتا تھا۔

مختصر یہ کہ میرے دونوں ساتھی تو اس صورت حال کی تاب نہ لا کر اپنے گھروں میں (منہ چھپا کر) بیٹھ گئے (شب و روز گریہ و زاری اور توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے) میں چونکہ سب سے جواں ہمت اور بیباک تھا اس لئے (مجھ سے گھر میں نہ بیٹھا گیا) میں مسجد نبوی میں جاتا مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا بازاروں میں چکر لگاتا مگر کوئی تنفس مجھ سے سلام کلام مطلق نہ کرتا۔

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا اور نماز سے فارغ ہو کر جب آپ صحابہ کے مجمع میں اپنی جگہ تشریف فرما ہوتے تو آپ کو سلام کرتا اور بغور دیکھتا کہ لب مبارک جواب سلام کے لئے حرکت میں آئے یا نہیں؟ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا اور نکلیوں سے دیکھتا کہ آپ میری طرف دیکھتے ہیں یا نہیں تو جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے لیکن جو نہی میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ منہ پھیر لیتے۔

یہاں تک کہ جب مسلمانوں کے اس قطع تعلق کا سلسلہ دراز اور میرے لئے بھی ناقابل برداشت ہو گیا تو میں ایک دن اپنے سب سے زیادہ محبوب دوست اور (رشتہ کے) چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے باغ کی جانب چلا (کہ دیکھوں گھر پر بھی وہ مجھ سے سلام و کلام کرتا ہے یا نہیں؟ دروازہ بند تھا) میں باغ کی دیوار پر چڑھ گیا اور وہیں سے اس کو سلام کیا تو خدا کی قسم اس نے وہاں بھی سلام کا جواب نہیں دیا تو میں نے (دیوار سے اتر کر اور قریب جا کر) اس سے کہا: اے ابو قتادہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں تو بتلا تجھے

میرے متعلق یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں؟ وہ کچھ نہیں بولا، تو میں نے پھر قسم دے کر یہی سوال کیا پھر بھی وہ خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر یہی سوال کیا تو اس کی زبان سے صرف اتنا نکلا اللہ ورسولہ اعلم (اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں) یہ دیکھ کر بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان اُٹ پڑا اور میں منہ پھیر کر وہاں سے چل دیا اور دیوار پر چڑھ کر باغ سے نکل آیا۔

ایک دن اسی کرب و بے چینی کے عالم میں مدینہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک شام کا ایک نبطی تاجر جو خوردنی اشیاء مدینہ کی منڈیوں میں فروخت کرنے آیا تھا چلا چلا کر کہہ رہا تھا ”کوئی ہے جو کعب بن مالک کا پتہ بتلائے“ لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے (کہ یہ ہے کعب) تو وہ میرے پاس آیا اور غسانی ”فرماندوں“ کا ایک (سر بمبر) خط مجھے دیا میں لکھتا پڑھتا جانتا تھا میں نے اسی وقت (اس کو کھول کر) پڑھا تو اس میں لکھا تھا ”سلام و دعا کے بعد! ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ انتہائی بد سلوکی اور بے مروتی کا معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو نہ ذلیل و خوار ہونے کے لئے پیدا کیا ہے نہ یوں تباہ و برباد ہونے کے لئے تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہارے ساتھ (شایان شان) سلوک اور ہمدردی کریں گے“ یہ خط پڑھتے ہی فوراً میری زبان سے نکلا: یہ ایک اور آزمائش ہے“ اور اس خط کو اسی وقت ایک تنور کے حوالہ کیا جو قریب ہی تھا اور جلا کر راکھ کر دیا۔

جب اس ابتلا یا کہئے سزا کے پچاس دنوں میں سے چالیس دن گزر چکے اور اب تک ہماری توبہ کے بارے میں کوئی وحی آسانی نازل نہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرستادہ (قاصد) آپ کا پیغام لے کر آیا اور کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لو“ میں نے پوچھا: طلاق دے دوں؟ اس نے کہا: نہیں، طلاق تو مت دو صرف علیحدگی اختیار کر لو (اس کے پاس مت جاؤ) اسی طرح کا حکم میرے دونوں شریک بلا ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا: تم اپنے میکے چلی جاؤ اور ہمارے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے فیصلہ فرمانے تک وہیں رہو“ مگر ہلال بن اُمیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلال بن اُمیہ بہت بوڑھا اور معذور آدمی ہے۔ کام کاج کرنے کے لئے اس کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے کیا آپ اس کی خدمت کرنے سے بھی مجھے منع فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں خدمت کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن وہ تجھے ہاتھ نہ لگائے“ تو اس نے عرض کیا: بخدایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کسی چیز کی طرف اس کا رجحان ہے ہی نہیں اسے تو جس دن سے یہ واقعہ پیش

آیا ہے آج تک زار و قطار رونے کے سوا اور کچھ کام ہی نہیں تو اس پر میرے ایک رشتہ دار نے کہا: تم نے اپنی بیوی کے لئے (گھر میں رہنے کی) اجازت کیوں نہیں لے لی دیکھو: آپ نے ہلال بن امیہ کی بیوی کو اس کی خدمت کرنے کی اجازت دے دی "میں نے کہا: میری توجرت نہیں کہ میں اپنی بیوی کے لئے (گھر میں رہنے کی) اجازت لوں، پتہ نہیں اگر میں نے اجازت مانگی تو اس پر آپ کیا فرمائیں؟ دریاں حالیکہ میں نوجوان آدمی ہوں (امیہ تو بڑھا تھا آپ نے اجازت دے دی)

غرض دس دن رات اسی حالت میں بیت گئے اور ہم سے سلام و کلام کی ممانعت کے وقت سے اب تک پورے پچاس دن ہو گئے پچاسویں دن فجر کے وقت میں نے اپنے مکان کی چھت پر صبح کی نماز پڑھی اور میں بالکل اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے "کہ میں اپنی زندگی سے بالکل بیزار ہو چکا تھا زمین (و آسمان) اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو چکے تھے کہ اتنے میں میں نے سلح پہاڑی کے اوپر سے کسی چیخنے والے کی آواز سنی جو بلند آواز سے (خوب زور زور سے چلا چلا کر) کہہ رہا تھا: اے کعب بن مالک خوشخبری ہو اے کعب بن مالک خوشخبری ہو اے کعب بن مالک خوشخبری ہو اے کعب بن مالک خوشخبری ہو یقین ہو گیا کہ کشائش آگئی۔

ہوایہ کہ آخر شب میں آپ کے پاس وحی آئی اور آپ نے فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہم تینوں کی توبہ قبول کر لینے سے لوگوں کو آگاہ کیا تو فوراً لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لئے دوڑ پڑے کچھ لوگ میرے دونوں ساتھیوں کو خوشخبری دینے کے لئے گئے اور ایک سوار اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا میری طرف چلا اس کے ساتھ قبیلہ اسلم کا ایک شخص پیادہ بھی میری طرف دوڑا مگر اس نے ہوشیاری یہی کہ وہ میرے گھر کے قریب پہنچ کر پہاڑی پر چڑھ گیا (اور اس نے وہیں سے چلانا شروع کر دیا ابشر یا کعب ابشر یا کعب چنانچہ اس پہلے کے آواز دوسرے سوار کے گھوڑے سے پہلے پہنچ گئی یہی تھا وہ خوشخبری دینے والا جس کی آواز میں نے سنی تھی۔

جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اپنے دونوں کپڑے (قمیص اور تہبند) اُتار کر اس خوشخبری پہنچانے کے انعام میں اس کو دے دیئے (میری تنگدستی کا ان دونوں یہ عالم تھا کہ) خدا کی قسم ان دونوں ان دو کپڑوں کے علاوہ اور میرے پاس کچھ نہ تھا (ورنہ بہت کچھ انعام دیتا) چنانچہ اس کو اپنے کپڑے دے دینے کے بعد خود میں نے قمیص اور تہبند کسی سے مانگ کر پہنے۔

یہ خوشخبری سن لینے کے بعد میں (گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی غرض سے) چلا تو راستے میں جوق در جوق لوگ مجھ سے ملتے گئے اور میری توبہ قبول ہونے کی مبارک باد دیتے گئے ان سب کی زبان پر یہی تھا: لو کعب بن مالک اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، مبارک ہو " یہاں تک کہ جو نبی میں نے مسجد نبوی میں قدم رکھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدوہ

ابی و امی تشریف فرما ہیں اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبید اللہ اٹھے اور دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے مصافحہ کیا اور مبارک باد دی خدا کی قسم طلحہ کے علاوہ مہاجرین میں سے اور کوئی بھی تو نہیں اٹھا کعب زندگی بھر طلحہ کی اس اظہار ہمدردی کو نہیں بھولے۔ کعب کہتے ہیں: جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ کا چہرہ انور خوشی کے مارے دک رہا تھا آپ نے حسب ذیل الفاظ میں مجھے بشارت دی۔

ابشر بخیر یوم مر عليك منذ ولدتك املك

اے کعب! تمہیں خوشخبری (اور مبارک) ہو ایسا بابرکت دن (آج کا دن) جو جب سے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو اس سے بہتر دن (تمہاری زندگی میں) نہیں آیا

میں نے عرض کیا: ”یہ خوشخبری آپ کی جانب سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے“ آپ نے فرمایا: (میری جانب سے نہیں) بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ خوش اور مسرور ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح دکھتا تھا جیسے آپ کا چہرہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے (یہی کیفیت اس وقت چہرہ انور کی تھی)

جب میں ذرا اطمینان سے خدمت اقدس میں بیٹھا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میری توبہ کا تمہ یہ ہے کہ میں اپنے تمام اموال و املاک سے دست بردار ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں صدقہ کر دوں (اس لئے کہ یہی مال و منال سے ولیستگی میرے لئے وبال جان بنی ہے) آپ نے فرمایا: کچھ مال اہل و عیال کے لئے بھی رکھنا چاہئے میں نے عرض کیا: اچھا میں اپنا خیر کا حصہ اپنی ملک میں رکھتا ہوں (باقی خیرات کرتا ہوں) آپ نے قبول فرمایا (پھر میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ”سچ بولنے“ کی وجہ سے معاف فرمایا ہے لہذا میری توبہ کا ایک تمہ (اور اس انعام کا شکر یہ) یہ بھی ہے کہ میں (آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ) مدت العمر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔

کعب بن مالک کہتے ہیں: خدا کی قسم میرے علم میں اور کوئی کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کو اللہ نے اس طرح خوبی کے ساتھ آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق دی ہو جس طرح مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کا عہد کرنے کے دن سے آج تک سچ بولنے کی توفیق دی ہے چنانچہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کا عہد کرنے کے دن سے آج تک میں نے جان کر کبھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں بھی مرتے دم تک مجھے جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے گا اور اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔

کعب کہتے ہیں: تو اللہ تعالیٰ نے (اس غزوہ تبوک میں شرکت کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کے متعلق حسب ذیل آیتیں نازل فرمائیں۔

لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم (التوبة آیت ۱۱۷ و ۱۱۸)

پیشک اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا نبی پر اور ان مہاجرین و انصار پر جنہوں نے آڑے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل پھر جائیں پھر وہ (ان پر بھی) مہربان ہو گیا (اور ان کی بھی توبہ قبول کر لی) پیشک وہ تو ان سب پر بہت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے اور ان تین آدمیوں پر بھی مہربان ہو گیا (جن کے معاملہ) کو پیچھے رکھا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا گیا تھا) یہاں تک کہ جب (شدت غم و اندوہ سے) زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں (وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے) اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ (کے قہر و غضب) سے بجز اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے اور کہیں پناہ نہیں مل سکتی تو پھر ان پر بھی مہربان ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی توبہ قبول کرنے کی اجازت دے دی) تاکہ وہ بھی توبہ کر لیں پیشک اللہ تعالیٰ ہی ہے بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔

کعب کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی ہدایت فرمانے (کے انعام و احسان) کے بعد میرے نزدیک مجھ پر اس سے بڑھ کر کوئی فضل و انعام نہیں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں سچ بولا (اور اپنے قصور کا صاف صاف اقرار کر لیا) اور جھوٹ نہیں بولا اور نہ تو میں بھی ایسے ہی ہلاک ہو جاتا جیسے اور جھوٹ بولنے والے ہلاک (اور رسوا) ہوئے اس لئے کہ اس واقعہ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں ان میں ان جھوٹ بولنے والوں کے متعلق وہ کچھ فرمایا ہے کہ اس سے زیادہ برا اور کسی کے متعلق نہ فرمایا ہو گا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

سبحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لتعرضوا عنهم فان تعرضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين

وہ قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی جب کہ تم (سفر سے) واپس ان کے پاس جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو (اور جہلا میں شریک نہ ہونے کے جرم پر مواخذہ نہ کرو) سو تم ان سے درگزر ہی کرو اس لئے کہ

وہ لوگ تو (سرتاپا) پلید ہی ہیں اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے ان کے کرتوتوں کی سزا وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے (صرف) اس لئے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ تو اگر (بالفرض) تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بیشک اللہ ایسے نافرمان لوگوں سے ہرگز راضی نہیں ہوتا۔

کعب بن مالک (پہلی آیت کریمہ کے کلمہ خلفوا کے معنی پر روشنی ڈالنے اور غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی غرض سے) کہتے ہیں۔

خلفوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جھوٹے منافقوں کی طرح پیچھے رکھے گئے اور خدا کی رحمت سے محروم کر دیئے گئے بلکہ (اس کا مطلب یہ ہے کہ) ہم تین آدمیوں کا معاملہ ان جھوٹے لوگوں کے معاملہ سے پیچھے رکھا گیا تھا (اور ہماری توبہ قبول کرنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا گیا تھا) جن کے (جھوٹے) عذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قبول کر لئے جب انہوں نے آپ کے سامنے حلف اٹھائے اور ان کو (دوبارہ) بیعت بھی کر لیا اور دعائے مغفرت بھی کر دی تھی (مگر بعد کو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت میں ان کا جھوٹ کھول دیا اور خوب خوب رسوا کیا) اور ہماری توبہ کے معاملہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ فرمانے تک کیلئے مؤخر کر دیا تھا (چنانچہ آیت کریمہ و اخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما ینوب علیہم واللہ علیم حکیم میں اس کی تصریح فرمادی ہے) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمادیا: *و علی الثلاثة الذین خلفوا الایة* اور ہم کو پیچھے رکھنے سے مراد غرہ تبوک سے پیچھے رکھنا (اور گریز کرنا) نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری توبہ کے معاملہ کو ان لوگوں کے معاملہ سے پیچھے رکھنا (اور نزول وحی تک مؤخر کرنا) ہے جنہوں نے جھوٹے حلف اٹھائے تھے اور یہاں تراشے تھے (اور آپ نے حقیقت حال سے واقف نہ ہونے کی بنا پر) ان کے عذر قبول فرمائے تھے (اور ان کے حلفوں کی بناء پر ان کو معاف کر دیا تھا)

ایک روایت میں اسکی بھی تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کیلئے جمعرات کے دن روانہ ہوئے تھے اس لئے کہ آپ عموماً جمعرات کے دن جہاد کیلئے روانہ ہونا پسند فرمایا کرتے تھے (تاکہ جمعہ کے دن سفر کرتے پڑے) ایک اور روایت میں ہے کہ آپ عموماً سفر سے دن میں چاشت کے وقت آیا کرتے تھے اور جب مدینہ میں داخل ہوتے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور دو رکعت (حجۃ القدوم من السفر) پڑھتے اس کے بعد مسجد میں ہی تشریف رکھتے اور لوگوں سے ملاقات کرتے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات

نام۔ کعب رضی اللہ عنہ کنیت ابو عبد اللہ۔ والد کا نام مالک رضی اللہ عنہ والدہ کا نام لیلیٰ بنت زید بن ثعلبہ تھا

ہو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کی کنیت ابو بشر تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ رکھ دی۔ عقبہ ثانیہ میں ۷۰ آدمیوں میں یہ بھی تھے۔ (بخاری)

بدر میں شرکت نہ کر سکے اُحد کے بعد سے تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ تبوک میں شرکت نہ کر سکے باوجود نیت کے اگرچہ اس غزوہ کیلئے حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اونٹ بھی تیار کئے لیکن آج کل اور آج کل میں رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے پھر پچاس دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی لڑائیوں میں دونوں سے الگ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تین شاعر تھے ان میں ایک کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے کلام میں بڑا اثر تھا صرف دو شعر جب قبیلہ دوس والوں نے سنے تو سب مسلمان ہو گئے وہ شعر یہ ہیں۔

ففضینا من تہامۃ کل ویو وخیبر لم اغمدنا السیوفا

ترجمہ: ”تہامہ اور خیبر سے ہم نے کینہ کو دور کر دیا۔ تلواریں نیام میں کر لیں“

بخیروا ولو نطق لقاقت قوا طعن حوسا وثقیفا

ترجمہ: ”اب ہم پھران کو اٹھاتے ہیں اور اگر بول سکیں تو کہیں کہ اب دوس یا ثقیف کا نمبر ہے۔“

وفات: امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں ۵۰ھ میں ۷۷ سال کی عمر میں انتقال ہوا۔

مرویات: ان سے روایات کی تعداد ۸۰ ہے بخاری اور مسلم تین میں متفق ہیں بخاری میں ایک اور

مسلم دو میں منفرد ہیں۔ (کتابیر)

سبق آموز بات جس پر توبہ کے موثر ہونے کا مدار ہے

اس واقعہ میں سب سے زیادہ عبرت آموز چیز جس سے ہر مسلمان کو سبق لینا چاہئے وہ حضرت کعب بن مالک اور ان کے شریک گناہ رفقہ رضی اللہ عنہم کی قوت ایمانی اور دلوں میں خوف و خشیت الہی کی شدت ہے کہ بتقاضا بشریت طبعی محرکات اور نفسانی خواہشات کے غلبہ سے جو گناہ ان سے سرزد ہو گیا تھا۔ اس پر وہ کس قدر کرب و بے چینی میں مبتلا، شب و روز گریہ و زاری میں مصروف اور اس قدر اپنی زندگی سے بیزار تھے کہ زمین و آسمان کی وسعتیں ان پر تنگ سے تنگ تر ہوتی جا رہی تھیں اور شدت غم و اندوہ سے ان کا برا حال ہو گیا تھا۔ یہی ہے گناہ پر وہ ”ندامت“ جس پر قبول توبہ کا انحصار ہے اور یہی طبعی خواہشات اور بشری علائق کا غلبہ وہ ”نادانی“ ہے جس کو آیت کریمہ *یعملون السوء بجهالة* میں ”جهالت“ سے تعبیر فرمایا ہے اور یہی ارتکاب گناہ کے بعد ”فوری احساس گناہ“ اور ”ندامت“ ہے جس کو *ثم یتوبون من قریب* سے تعبیر فرمایا ہے (یہ پوری آیت اور اس کا ترجمہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یاد نہ ہو چند ورق الٹ کر دیکھ لیجئے) یہ تمام امور قوت ایمانی کی دلیل ہیں اس کے برعکس عمد اور جان

بوجھ کر گناہ کا ارتکاب کرنا اور پھر احساس گناہ اور شرم و ندامت کا نہ ہونا یہ بے حیائی اور ”بے باکی“ ضعف ایمان کی دلیل ہے اور منافقانہ کیفیت ہے اعاذنا اللہ منہ (اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے)

محرمات گناہ سے حتی الامکان بچنا بھی توبہ کی قبولیت کیلئے ضروری ہے

اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو دنیوی چیزیں ارتکاب گناہ کی محرک بنی ہوں حتی الامکان ان سے قطع تعلق کرنا اس حد تک کہ حقوق العباد پر اثر انداز نہ ہو، بھی توبہ کی صحت کا عملی ثبوت ہے چنانچہ کعب بن مالک نے اس مال و دولت کو جس کی فراوانی ان کے لئے وبال جان بنی تھی اور مرارہ بن الریح نے اس پھلوں سے لدے ہوئے ہرے بھرے باغ کو جس کی محبت ان کے پاؤں کی زنجیر بنی تھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیا اور ہلال بن امیہ نے اپنے برادری کے ان آدمیوں کو جن کے کہنے میں آکر انہوں نے اس مقدس جہاد سے منہ موڑا تھا چھوڑ دیا لہذا ہر مسلمان اور مومن گنہگار کو توبہ کرنے کے وقت جائزہ لینا چاہئے اگر گناہ کا محرک مال و دولت کی فراوانی ہو تو اپنی ضروریات سے زائد مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دینا چاہئے اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا اگر قرابت داروں سے حد سے بڑھی ہوئی محبت اور وابستگی ہو تو ان سے حد سے بڑھے ہوئے روابط قطع کر لینا چاہیں صرف اتنا تعلق رکھنا چاہئے۔ جس سے قطع رومی نہ ہو اور اگر وہ محرک کوئی خاص ذریعہ معاش ہو تو اس کو فوراً چھوڑ کر دوسرے ایسے ذرائع معاش اختیار کر لینے چاہئیں جو گناہوں اور خدا کی نافرمانی کے محرک نہ بنیں اگر محرک گناہ کوئی خاص ماحول (سوسائٹی) یا کوئی خاص گروہ (پارٹی) یا بستی ہو تو فوراً اس ماحول (سوسائٹی) سے گروہ (پارٹی) سے بستی سے نکل جانا اور دور سے دور تر ہو جانا چاہئے۔ تاکہ آئندہ ارتکاب گناہ کا اندیشہ نہ رہے جیسا کہ مذکورہ سابق کسی پہلی امت کے واقعہ میں عیسائی عالم نے سو بے گناہوں کے قاتل کو توبہ کرنے کے وقت وصیت کی تھی کہ فوراً اس گناہوں کی بستی کو چھوڑ کر نیکو کاروں کی بستی میں چلا جائے چنانچہ وہ فوراً چل دیا تھا اور صرف اسی لئے قابل مغفرت قرار پایا تھا کہ وہ اس گناہوں کی بستی کی بہ نسبت نیکو کاروں کی بستی سے صرف ایک بالشت قریب تھا اس لئے کہ اس ترک تعلق کے بغیر آئندہ اس گناہ کے ارتکاب سے محفوظ رہنا عادی و تاد شوار ہے اور توبہ بیکار آپ اس باب کے شروع میں شرائط صحت توبہ کے بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ ترک گناہ کا عزم مصمم اور پختہ ارادہ صحت توبہ کی اولین شرط ہے بلکہ اسی کا نام توبہ ہے محرمات گناہ سے چٹھے رہنے کے باوجود اور ان سے وابستگی ترک کئے بغیر، صرف زبانی توبہ و استغفار محض ڈھونگ ہے اور فریب نفس۔

جھوٹ میں نجات نہیں ہے

”عرفت لم انجح منہ بشنی ابدأ“

منافقین جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے انکی تعداد اسی ۸۰ سے کچھ زائد تھی ان سب نے جھوٹی قسم کھا کھا کر

اپنے آپ کو وقتی طور سے بچالیا مگر ان تین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سچ بولا، ان پر اللہ نے ان تینوں کی توبہ کو قبول فرما کر قرآن مجید کی آیات کا نزول فرمایا۔

”لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار..... وكونوا مع الصادقین“ حضرت کعب رضی اللہ عنہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولتا تو میں بھی تباہ ہو جاتا جیسے کہ وہ تباہ ہوئے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا جن کے بارے میں قرآن مجید نے سخت وعید نازل فرمائی۔

ترجمہ۔ ”وہ قسمیں کھائیں گے اللہ جل شانہ کی جب تم واپس ان کے پاس جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، تم ان سے اعراض ہی کرو اس لئے کہ وہ لوگ پلید ہی ہیں اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے ان کے کرتوتوں کی سزا میں۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بے شک اللہ ایسے نافرمان لوگوں سے ہرگز راضی نہیں ہوتا۔“

خوشخبری سنانے والوں کو ہدیہ دینا مستحب ہے

”نزع لہ ثوبی“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص خوشخبری سنانے تو اس کو کچھ دینا مستحب ہے۔ اسی طرح جو شخص حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر آیا تھا انہوں نے بھی اس کو انعام دیا تھا۔

اہل تاریخ کا خیال ہے کہ بشارت دینے کیلئے دو آنے والے شخص حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کو پسند فرماتے تھے

”وكان يحب ان يخرج يوم الخميس“۔ آپ جمعرات کے دن سفر کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ تمام کے تمام ایام مبارک ہیں کوئی دن بھی منحوس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے منحوس ہونے کا ذکر کیا تو وہ غصہ میں آگئے اور فرمایا ”لو كان بیدی سیف لاقتلنک“ بہر حال تمام دن ہی مبارک ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کو سفر کیلئے کیوں پسند فرماتے تھے۔

محدثین رحمہ اللہ نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں مثلاً۔

جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کئے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ جمعرات کے دن جب اعمال نامہ اللہ کے دربار میں پہنچے تو اس دن جہلا کا مبارک سفر بھی ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جمعرات کلان پورے ہفتہ کے اعتبار سے کامل دن ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے۔

ہماری توبہ و استغفار بے اثر کیوں ہیں

مادر رکھے ہماری دعائیں خصوصاً توبہ و استغفار جو آج بے اثر ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم گناہوں اور گناہ آلود زندگی سے اپنے آپ کو پاک اور علیحدہ نہیں کرتے توبہ و استغفار بھی کرتے رہتے ہیں اور گناہ بھی یا ایک گناہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اس سے بڑے گناہ میں آلود ہوتے ہیں۔

قبول توبہ کی علامت

نزول وحی کا سلسلہ تواب بند ہو چکا ہے اس لئے قبول توبہ کا یقینی علم تو اب نہیں ہو سکتا تاہم مذکورہ بالا انداز میں حضرت کعب کی طرح صدق دل سے مسلسل توبہ کرتے رہنے کے بعد مخلص مسلمان کو فی الجملہ اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے جو قبول توبہ کی علامت ہے تاہم اس گناہ یا گناہوں کو فراموش کبھی نہ کرنا چاہئے اور بطش الہی (خدا کی پکڑ) سے غافل و مطمئن کبھی نہ ہونا چاہئے اسی لئے ادعیہ ماثورہ میں آتا ہے۔

اللھم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم بہ منی

اے اللہ میں نے جتنے گناہ (اب سے پہلے ساری زندگی میں) کئے ہیں اور جو بعد میں کروں اور جو چھپ کر کئے ہیں اور جو علانیہ کئے ہیں اور وہ گناہ جن کو تو ہی جانتا ہے (مجھے ان کا پتہ بھی نہیں) میرے ان سب گناہوں کو بخش دے اور علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کو کرتے وقت اپنے ذہن میں ہر قسم کے بڑے بڑے گناہوں کو سامنے رکھنا چاہئے۔

عظیم توبہ

وَعَنْ أَبِي نُجَيْدٍ بَضَمَ التُّونَ وَفَتَحَ الْجِيمَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ الْخَزَاعِمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَبْلَى مِنَ الزَّنَى ، فَقَالَتْ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَتَيْتُهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهَا ، فَقَالَ :
"أَحْسِنُ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَتِنِي " فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرَجَمَتْ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : تَصَلِّيَ عَلَيْهَا يَا
رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ ؟ قَالَ : " لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ نُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
لَوْ سَعَتُهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ؟ " رواه مسلم .

ترجمہ: حضرت ابو نجید عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: قبیلہ جہینہ کی ایک عورت جو ناجائز طور پر (زنا سے) حاملہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: میں نے قابل سزا جرم (زنا) کا ارتکاب کیا ہے آپ مجھ پر حد (زنا) جاری کیجئے آپ نے اس کے سر پرست کو بلایا

اور فرمایا: (دیکھو یہ عورت حاملہ ہے اس حالت میں اس پر کوئی حد نہیں لگائی جاسکتی) تم اس کو اچھی طرح اپنے پاس رکھو جب بچہ پیدا ہو جائے (اور ایام زچگی گزر جائیں) تو اس کو میرے پاس لانا چنانچہ اس سرپرست نے ایسا ہی کیا (اور ایام نفاس (زچگی) گزر جانے کے بعد اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے جسم پر کپڑے اچھی طرح باندھ دو (تاکہ پتھروں کی چوٹ سے کپڑے پھٹ کر جسم سے الگ نہ ہوں) چنانچہ اس کے کپڑے خوب کس کر ری سے باندھ دیئے گئے اس کے بعد آپ نے اس کو سنگسار کرنے (پتھر مار کر ہلاک کرنے) کا حکم دیا (چنانچہ سینے تک گہرا گڑھا زمین میں کھود کر اس کو گڑھے کے اندر کھڑا کر دیا گیا اور) پتھروں سے مارا سے ہلاک کر دیا گیا (اس کے بعد اس کی تجہیز و تکفین کی گئی اور) آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس عورت نے تو زنا کیا تھا اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (اے عمر) خدا کی قسم اس عورت نے ایسی (عظیم) توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستر گنہگاروں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت کے لئے کافی ہے اور کیا تمہارے خیال میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی توبہ ہو سکتی ہے کہ اس عورت نے محض اللہ تعالیٰ کے (قہر و غضب سے بچنے کے) لئے (برضا و رغبت) جان دے دی (اگر وہ نہ بتلاتی یا اقرار نہ کرتی تو اگرچہ دنیا میں تو اس کی جان بچ جاتی مگر خدا کے قہر و غضب اور جہنم کے عذاب سے تونہ بچتی)۔

تشوہیح: اس عورت پر بھی خوف و خشیت الہی شدت کے ساتھ طاری تھا ورنہ توبہ کا دروازہ اس کے لئے کھلا تھا لیکن اول تو اس توبہ کے قطعی طور پر قابل قبول ہونے کے یقینی علم کی کوئی سبیل نہ تھی علاوہ ازیں حمل اس عورت کی پیشانی پر ایک ایسا کلنک کا ٹیکہ تھا جو کسی طرح مٹ ہی نہ سکتا تھا اس لئے دنیا کی رسوائی سے تو کسی طرح بچ ہی نہ سکتی تھی پھر شادی شدہ عورت ہونے کی وجہ سے زندگی اور بھی اجیرن ہو جاتی اس لئے اس عورت کے واسطے دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی اور خدا کے قہر و غضب اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی اس کے سوا اور کوئی صورت ہی نہ تھی کہ اس نے خود کو خدائی سزا یعنی حد کے لئے پیش کر دیا اور جان دے دی دنیا میں بھی پردہ ڈھک گیا اور آخرت میں مغفرت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی اس کے علاوہ خدا کے عدل و انصاف سے قطعی بعید ہے کہ وہ ایک جرم کی سزا دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی اس عورت نے اگرچہ زبان سے توبہ نہیں کی مگر اس کا خود کو گناہ کی سزا بھگتنے کے لئے پیش کر دینا اور خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہی سب سے بڑی توبہ ہے اگر یہ عورت خود کو اس طرح حکم خداوندی کے لئے پیش کرنے کے بجائے خود خود کشتی کر لیتی تو مغفرت تو درکنار دو گناہوں کی مرتکب اور دو جرموں کی مجرم بن جاتی ایک زنا اور ایک خود کشتی اور آخرت میں دو گناہوں کے عذاب میں گرفتار ہوتی۔

گناہوں کی جڑ اور اس سے توبہ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : ((لَوْ أَنَّ لَابْنَ آتَمٍ وَادِيًّا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابَ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ابن آدم (انسان) کے پاس سونے (چاندی) کی ایک وادی بھی ہو (یعنی زر و سیم سے بھری ہوئی ایک وادی بھی ہو) تب بھی چاہے گا کہ اس کے پاس (سونے چاندی کی ایک کے بجائے) دو وادیاں ہوں اس کی ہوس کا منہ تو قبر کی مٹی (موت) کے سوا اور کوئی نہیں بھر سکتا اور اللہ تعالیٰ اسی پر مہربان ہوتا (اور اس ہوس مال و زر سے بچاتا) ہے جو توبہ کرتا ہے۔

تشریح: مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا بنا دیتی ہے ساری عمر حرام و حلال کا فرق نہا جائز و ناجائز کی تمیز اور گناہ و ثواب کی پرواہ کئے بغیر ہمہ وقت مال جمع کرنے میں منہمک اور سو کے بعد دو سو ہزار کے بعد دو ہزار لاکھ کے بعد دو لاکھ اور کروڑ کے بعد دو کروڑ کے چکر میں پھنسا رہتا ہے اور جہنم کی طرح ہل من مزید کا نعرہ اس کی زبان پر رہتا ہے۔ یہی ہوس زر اندوزی اس سے بے شمار گناہ کراتی ہے اور بے حساب مصیبتوں کا مرتکب بناتی ہے اور ساری عمر اسی گناہ آلود زندگی میں گزر جاتی ہے اور اسی حالت پر مر جاتا ہے اور دوزخ کا کندہ بنتا ہے۔ بجز اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ اس ہوس زر سے توبہ کرنے اور حلال مال پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمادیں وہی اس ہوس کے چکر سے نکل سکتا ہے اور گناہوں سے بچ سکتا ہے اسی لئے اوعیہ ماثورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب ذیل وعادیں کی تعلیم دیتے ہیں۔

(۱) رب قنعنی بمارزقتی وبارک لی فیما اعطیتی

اے میرے پروردگار! جو روزی تو نے مجھے دی ہے اس پر مجھے قانع بنا دے اور جو (مال و منال) مجھے تو نے عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما (کہ ضروریات پوری ہو جائیں)

(۲) اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغني بفضلك عن سواك

اے اللہ تو مجھے حلال (روزی) کے ذریعہ حرام (روزی) سے اور اپنی فرمانبرداری کے ذریعہ اپنی نافرمانی سے کفایت دے (بچالے) اور اپنے فضل و احسان کے ذریعہ اپنے ماسوا سے بے نیاز فرمادے۔

توبہ کا کرشمہ حدیث

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " يَضْحَكُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَيَّ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسَلِّمُ فَيَسْتَشْهَدُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ (اپنی بے نیازی اور شان کریمی پر) ان دو آدمیوں (کے انجام) کے بارے میں تبسم فرماتے ہیں جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اور قاتل و مقتول دونوں جنت میں جاتے ہیں اور اس طرح کہ ایک مسلمان اللہ کی راہ میں لڑتا ہو اور دوسرے کافر کے ہاتھ سے شہید ہوتا ہے (جنت میں جاتا ہے) اس قاتل کو اللہ تعالیٰ کفر و شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمادیتا ہے وہ کفر و شرک سے توبہ کرتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہوتا ہے (اور جنت میں جاتا ہے)

تشریح: قاتل اور مقتول دونوں کے جنت میں جانے کی صورت اور وجہ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ توبہ کا کرشمہ ہے یہ قاتل کفر و شرک سے توبہ کرنے اور پھر بطور کفارہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کافروں سے جنگ کرنے کی بدولت ہی شہید اور جنت کا مستحق ہوتا ہے ورنہ ایک مسلمان کو قتل کرنے کے جرم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جاتا۔ اس لئے توبہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے توبہ کرنے میں ذرہ برابر تساہل اور تاخیر نہ کرنی چاہئے خواہ کفر و شرک سے ہو خواہ اور گناہوں سے اسی لئے امام نووی اس حدیث کو توبہ کرنے کے باب میں لائے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدق دل سے توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائیں۔

باب الصبر

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا ﴾ [آل عمران : ۲۰۰] .
ترجمہ: اے ایمان والو! تم (خود بھی) صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر پر آمادہ کرو۔
وقال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة : ۱۵۵]
اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کسی قدر خوف اور بھوک (پیس کی تکلیف) سے اور کچھ جان و مال اور پھلوں کے نقصان (کے صدمہ) سے اور خوشخبری دیدو (ان معیبتوں میں) صبر کرنے والے لوگوں کو۔
وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر : ۱۰]
اس کے سوا نہیں کہ حساب کے بغیر پورا پورا اجر تو صبر کرنے والوں کو ہی دیا جاتا ہے۔
وقال تعالى: ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى : ۴۳]
اور البتہ جس شخص نے (دوسروں کے جوہر و ستم پر) صبر کیا اور معاف کر دیا (تو) بے شک یہ (صبر کرنا اور معاف کر دینا) ہی دشوار اور اہم کاموں میں سے ہے۔

وقال تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة : ۱۵۳]

اور تم (اپنے کاموں میں) مدد لو ثابت قدمی سے اور نماز سے بے شک اللہ (کی مدد) صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ ﴾

اور ہم تم کو (غزوات و محاربات میں) ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور (جنگ کی سختیوں پر) صبر کرنے والوں کو جان لیں گے۔ ان چھ آیات کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں صبر اور اس کی فضیلت کے بیان میں قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں۔

ان چھ آیات کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں صبر اور اس کی فضیلت کے بیان میں قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں

تفسیر صبر کے لغوی اور شرعی معنی

عربی زبان میں لفظ صبر تین طریق پر اور تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

۱- الصبر علی الشیء . کسی چیز کو برداشت کرنا۔

۲- الصبر عن الشیء . کسی چیز سے بچنا اور باز رہنا۔

۳- الصبر فی الشیء . کسی چیز (حالت) میں جزع و فزع (ردنا پھینا) اور شکوہ و شکایت نہ کرنا۔

امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم ج ۴ میں باب الصبر کے تحت ستر سے زائد آیات بتلائی ہیں اگر قرآن کریم کا اول سے آخر تک تتبع کیا جائے تو اس سے بھی زیادہ آیات میں صبر اور اس کی فضیلت کا بیان ملے گا۔

صبر کی تین قسمیں

اسی طرح شریعت میں بھی صبر کی تین قسمیں ہیں۔

۱- الصبر علی طاعة الله - اللہ کی عبادت و طاعت میں نفس پر گراں گزرنے اور ناگوار محسوس ہونے والے تمام امور (اعمال و افعال) کو بخندہ پیشانی برداشت کرنا اور خدا کی عبادت و طاعت میں مصروف رہنا اسی صبر کو اردو زبان میں ثابت قدمی اور استقلال سے اور شریعت میں استقامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

۲- الصبر عما نهی الله - جن امور - چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اگرچہ وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب کیوں نہ ہوں اور کتنا ہی ان کے لئے دل کیوں نہ مچلے ان سے کلی طور پر باز رہنا اور بچنا۔

۳- الصبر فیما نزل من المصائب . جو مصیبتیں انسان پر آئیں یا جانی و مالی نقصان اور صدمے اٹھانے پڑیں خواہ انسانوں کا اس میں دخل ہو یا نہ ہو ان کو مخائب اللہ سمجھ کر برداشت کرنا اور راضی برضائے مولارہنا۔

مذکورہ بالا آیات میں:

آیت-۶۱: صبر کی قسم اول الصبر علی طاعة الله کے تحت داخل ہیں۔
 آیت-۴۰۲: صبر کی قسم سوم الصبر فیما نزل من المصائب کے تحت داخل ہیں۔
 آیت-۵۰۳: جملہ اقسام صبر کو شامل ہیں۔

آیات کی مزید تشریح احادیث کی شرح کے ذیل میں آتی ہے۔

صبر ایک عظیم روشنی ہے

وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ . كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعَ نَفْسِهِ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا “ رواه مسلم .

ترجمہ: ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (۱) طہور۔ ظاہری اور باطنی طہارت۔ نصف ایمان ہے۔ (۲) الحمد للہ (اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا) اعمال کی ترازو کو بھر دیتی ہے (۳) اور سبحان اللہ واللہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح (تذبیہ) اور حمد و ثناء دونوں تو آسمان و زمین کے درمیان (کی فضا) کو بھر دیتے ہیں (۴) اور نماز ایک (عظیم الشان) نور ہے (۵) اور صدقہ و خیرات (حب مال نہ ہونے کی) ایک قطعی دلیل ہے (۶) اور صبر ایک (عظیم) روشنی ہے۔
 (یاد رکھو) ہر شخص جو صبح سویرے نکلا (اور عملی زندگی میں قدم رکھتا) ہے تو وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے پس (یا) اسکو (خدا کی اطاعت کر کے آخرت کی پلڑے سے) آزاد کر لیتا ہے یا (اسکی نافرمانی کر کے) ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔

حدیث کی تشریح

اس مختصر سی حدیث میں جوامع الکلم (ہمہ گیر کلام) کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات عظیم حقائق شرعیہ پر ایمان افروز روشنی ڈالی ہے اور آخر میں انسان کی عملی زندگی کا تجزیہ فرمایا ہے ارشاد ہے۔
 ۱- الطہور شطر الایمان۔ کامل طہارت آدھا ایمان ہے۔ اس لئے کہ ایمان عقائد و اعمال کے مجموعہ کا نام ہے اور طہارت پر۔ خواہ جسمانی اور ظاہری نجاستوں اور گندگیوں سے طہارت ہو، خواہ روحانی اور باطنی غلاظتوں یعنی کفر و شرک، اخلاق، رذیلہ، منہیات شرعیہ (شرعاً حرام اور ممنوع کام) اور خواہشات نفس سے طہارت ہو۔ تمام اعمال۔ عبادات و طاعات۔ کی قبولیت کا مدار ہے اور عبادات و طاعات یعنی اعمال نصف ایمان ہیں لہذا ”طہارت“ بھی نصف ایمان ہوئی۔
 یا یوں کہئے کہ ایمان کے معنی ہیں: شرک و کفر اور ریاد سمعہ (دکھلاؤ اور شہرت طلبی) وغیرہ عقائد باطلہ اور

رزائل باطنیہ سے قلب و روح کا پاک و صاف ہونا اور طہور کے معنی ہیں جسمانی حسی اور شرعی نجاستوں سے بدن لباس وغیرہ کا پاک و صاف ہونا اول کانام ”طہارت باطن“ یعنی ایمان ہے دوم کانام ”طہارت ظاہر“ یعنی طہور ہے اور دین میں دونوں قسم کی طہارتیں مطلوب ہیں اس لحاظ سے طہور ایمان کا نصف ثانی ہے۔

۲- الحمد لله تملاء المیزان . ”تمام تر تعریف اللہ کی ہے“ یہ کہنا عمل کی ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اس لئے کہ تمام تر کمالات اور تعریفیں خواہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہوں یا اور اس کی کسی مخلوق کی، کیونکہ مصنوع (بنی ہوئی چیز) کی تعریف دراصل اس کے صانع (بنانے والے) کی تعریف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہونے کا دل سے اقرار کرنا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا اگر ریاکاری اور شہرت طلبی کی آلودگی سے پاک ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول، تو بندہ کی عمل کی ترازو کو بھر دینے کے لئے بہت کافی ہے۔

۳- سبحان الله والحمد لله تملان ما بین السماء والارض . اللہ پاک و مبرا ہے اور تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں دونوں کلمے آسمان و زمین کے درمیان (کی فضا) کو بھر دیتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام عیوب اور کمزوریوں سے مبرا اور پاک ہونے اور تمام تر کمالات کے تہما لک ہونے کا خلوص قلب سے اقرار اور زبان سے اعلان حاصل فرینش ہے اور نہ صرف زمین و آسمان بلکہ خلاصہ کائنات ہے اور ریاکاری و شہرت طلبی سے پاک دل اور زبان سے ایک مومن بندہ کا یہ اقرار و اعلان زمین و آسمان کو اجر و ثواب سے بھر دینے کے لئے کافی و دانی ہے۔

۴- الصلوٰۃ نور . نماز (عظیم الشان) نور ہے۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مخلص نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات (راز و نیاز کی باتیں) کرتا ہے اور اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے اسی لئے نماز کو معراج المؤمنین (ایمان والوں کی معراج) کہا گیا ہے۔ لہذا ایسی عاشقانہ اور والہانہ نماز دنیا میں بھی نور علی نور۔ نور ہی نور ہے جو قلب مومن کی تمام ظلمتوں کو دور کرنے کے لئے ”صیقل“ کا کام دیتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلوٰۃ تنھی عن الفحشاء والمنکر (بے شک نماز فحش اور برے اعمال و اخلاق سے روکتی ہے) اور اسی لئے حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: قرة عینی فی الصلوٰۃ (میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے) نیز آخرت میں یہی آیت کریمہ سیمامہ فی وجوہہم من اثر السجود (ان کی (مخصوص) نشانی ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں) کے تحت نمازیوں کی پیشانیوں کا یہ نور ہی آیت کریمہ نودھم یسعی بین یدہم (ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا) کے مطابق وہ نور ہوگا جو قیامت کے دن جنت کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا بہر صورت حضور قلب کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز دنیا و آخرت دونوں جہان میں نور ہی نور ہے۔

۵- الصدقة بوهان . صدقہ (کرتا) قطعی دلیل ہے۔ اس لئے کہ خدا پرستی اور عبادت و طاعت الہی کی راہ میں ”سنگ گراں“ (بھاری پتھر) حب مال۔ مال کی محبت ہے ایک مخلص مومن بطیب خاطر اپنی حلال کمائی میں سے

مرغوب ترین اور بہترین چیز خالصاً لوجہ اللہ جب اپنے محبوب پروردگار کی راہ میں قربان اور صدقہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے حب مال سے پاک ہونے کی قطعی اور واضح دلیل ہے۔

۶- الصبر ضیاء۔ صبر ایک عظیم روشنی ہے اس لئے کہ خدا پرستی اور احکام الہیہ کی پابندی کی راہ میں جو بھی سختیاں، دشواریاں یا آفات و مصائب پیش آئیں یا جانی و مالی نقصانات اٹھانے پڑیں خواہشات نفس کی مقاومت کرنی پڑے بخندہ پیشانی ان سب کو برداشت کرنا اور صبر کرنا ایک کبھی نہ بھجنے والی عظیم روشنی ہے جو ”رضاً و تسلیم“ کے مقام تک انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور آیت کریمہ ان اللہ مع الصابرين (بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے) کے تحت معیت الہیہ کی سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے۔

نیز انسان کا سب سے بڑا راز آستین دشمن نفس لمارہ اس کے پہلو میں بیٹھا ہر وقت شہوانی جذبات کو مادی لذائذ پر براہیختہ کرنے میں لگا رہتا ہے اس کی سرکوبی کرنے اور خواہشات نفسانی کو قابو میں رکھنے اور انوار و تجلیات الہیہ سے روح کو روشن کرنے والی ”عظیم روشنی“ یعنی صبر کا مظہر کامل روزہ ہے چنانچہ بہت سے مفسرین آیت کریمہ: واستعینوا بالصبر والصلوة میں صبر کی تفسیر روزہ سے کرتے ہیں بہر صورت صبر ایک آفتاب ہے جس کی ضیاء انسان کے ظاہر و باطن کو سر تا پا روشن رکھتی ہے اسی لئے حدیث میں آیا ہے۔ الصبر نصف الايمان (صبر نصف ایمان ہے)

۷- القرآن حجة لك او عليك۔ قرآن حجت (دلیل) ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف۔ اس لئے کہ قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے اس کی تلاوت کرنا اس کی تعلیمات پر بقدر طاقت بشری عمل کرنا، آخرت کی پکڑ سے بچنے کی ایک حجت (دلیل) ہے اور قرآن کو جزو دان میں لپیٹ کر طاق لسیاں پر رکھ دینے اور اسکی تعلیمات کو پس پشت ڈال دینے والوں کے خلاف، یہی قرآن مستحق قہر خداوندی ہونے کی ایک حجت (دلیل) ہے چنانچہ قیامت کے دن قرآن دونوں گروہوں کے حق میں موافق اور مخالف گواہی دے گا جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔

کل الناس یفعلوا فبائع نفسه فمعتقها او موبقها: ہر آدمی صبح سویرے لگتا ہے اپنی جان کا سودا کرتا ہے پس یا اس کو آزاد کرا لیتا ہے یا ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک انسانی نجات یا ہلاکت کا معاملہ ہے جو شب و روز ہر قدم پر انسان کے سامنے رہتا ہے اسی حقیقت کو اس موجز (مختصر) جملہ میں الفصح العرب والعجم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے افرمایا ہے کہ ہر شخص صبح ہوتے ہی لگتا، یعنی عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو وہ درحقیقت اپنے نفس (جان) کا سودا کرتا ہے جس شخص نے صبح سے شام تک ہر کام میں اطاعت خداوندی کو سامنے رکھا اس نے اپنے آپ کو آخرت کی پکڑ سے بچا لیا اور عذاب الہی سے آزاد کرا لیا اور جس شخص نے نفسانی خواہشات اور دنیاوی اغراض کو سامنے رکھا اور خدا کی اطاعت کو پس پشت ڈال دیا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت۔ عذاب الہی۔ میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے۔

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة (توبہ: ۱۱۱)
 بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے
 اللہ تعالیٰ خریدار ہیں بندہ ”سوداگر“ ہے اور ”جان و مال“ وہ متاع عزیز ہے جس کو جنت کے عوض بندہ
 بیچتا اور اللہ تعالیٰ خریدتے ہیں اور دنیا و آخرت دونوں میں سرخروئی حاصل کرتا ہے یا اس متاع عزیز کو اغراض
 دنیوی اور خواہشات نفسانی کے عوض انسان بیچتا اور شیطان خریدتا ہے اور دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و خوار
 ہوتا ہے اور عذاب الہی میں اپنی جان کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔

صبر سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں

وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما : أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ
 سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ
 ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ : ” مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ
 يَسْتَعْفِفْ يُعِفْهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ . وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً
 خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ “ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: انصار میں سے بعض (ضرورت مند) لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (مالی امداد کا) سوال کیا آپ نے (بقدر ضرورت) ان کو دے دیا پھر (کچھ دن بعد) انہوں نے آپ سے (اسی طرح مالی امداد کا) سوال کیا تو آپ نے پھر (جو مناسب سمجھا) ان کو دے دیا یہاں تک کہ جو (بیت المال کا مال) آپ کے پاس تھا سب ختم ہو گیا چنانچہ جب آپ نے جو کچھ (مال و متاع) آپ کے پاس تھا سب (اسی طرح ضرورت مند مسلمانوں پر) خرچ کر ڈالا تو ان سے فرمایا: جو بھی مال و متاع میرے پاس ہو گا میں اس کو تم سے بچا کر ہرگز نہیں رکھوں گا لیکن (تم یاد رکھو کہ یہ مانگنے کی عادت بری ہے) جو شخص مانگنے سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ (اس کی ضرورت کو خود پورا فرمادیں گے اور) اس کو مانگنے سے بچادیں گے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے غنا (مخلوق سے بے نیازی) کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو (اپنے فضل و انعام سے) غنی بنا دیں گے اور جو کوئی صبر (و ضبط) سے کام لے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر (کی توفیق) عطا فرمادیں گے اور (یاد رکھو) صبر (کی دولت) سے بڑھ کر اور وسیع تر کوئی خیر و برکت (کسی کو) عطا نہیں کی گئی۔

تشریح: اس حدیث شریف میں صبر سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر اکتفا کرنا اور زیادہ کی حرص و طمع سے بچنا ہے۔ جس کو علم اخلاق اور شریعت کی اصطلاح میں قناعت کہتے ہیں اور ”ادعیہ ما ثورہ“ میں اس کی دعا ذیل کے الفاظ میں مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔

رب قنعنی بمارزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی رب جو تو نے مجھے روزی دی اس پر تو مجھے قناعت دے اور جو تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں برکت دے دے۔

ایک اہم سوال کا جواب

اس دعا میں اس سوال کا جواب بھی آگیا جو اللہ تعالیٰ نے دیا اگر اس میں ضروریات پوری نہ ہوں تو کیا کریں؟ فرمایا: اللہ سے دعا کرو وہ اسی میں اتنی برکت عطا فرمادیں گے کہ ضروریات پوری ہو جائیں گی "خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صدق دل سے ایمان رکھنے والے جانتے ہیں کہ "برکت آسمان سے اترتی ہے" اس کے ہوتے مقدار رزق کو ضروریات کے پیمانے سے ناپنے کا خیال شیطانی و سوسہ اور نفس کا فریب ہے اس سلسلہ میں بکثرت واقعات احادیث میں مذکور ہیں کتب حدیث کی مراجعت کیجئے اور دل سے حرص و طمع کی بیخ کنی کرنے اور جو خدا نے دیا ہے اس پر سچے دل سے قناعت کرنے کے بعد برکت کے کرشمے مشاہدہ کیجئے۔

غنی کا بیان

اس حدیث میں غنا کا بھی ذکر آیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے۔

خیر الغنی غنی النفس . بہترین غنی نفس کا غنی ہوتا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کا نفس "ما سوا اللہ" سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو اگرچہ اس کا ہاتھ خالی ہو اس کا دل غنی ہوتا ہے اور اسے صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر اعتماد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی شخص 'نیامال و منال پر بھروسہ کرتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے جو وہ مانگتا ہے حسب ضرورت و مصلحت عطا فرماتے ہیں اسی لئے حضرات صوفیا کا مقولہ ہے الغنی هو الفقیر الی اللہ غنی ہے ہی وہ جو صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہو۔

عفت کا بیان

اس حدیث میں عفت کا بھی ذکر آیا ہے اس کے معنی ہیں حتی الامکان اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے مانگنے اور غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا علم اخلاق کی رو سے بھی عفت اخلاق فاضلہ میں سے ہے شرعاً بھی اگرچہ بحالت اضطرار۔ انتہائی مجبوری کی حالت میں۔ کسی سے سوال کرنے اور مانگنے کی اجازت ہے مگر مجبوری کے بغیر سوال کرنے سے بڑی تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہے چنانچہ ممانعت سوال سے متعلق احادیث بکثرت کتب حدیث میں مذکور ہیں غنی مطلق اللہ تعالیٰ ثروت مندوں کو ایسے ہی عفت پسند ضرورت مندوں کی ضروریات پورا کرنے کی ترغیب اور اس کی اہمیت و فضیلت سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔

یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیماہم لایستلون الناس الحافاً

ناواقف آدمی ان (ضرورت مندوں) کو غنی گمان کرتا ہے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، حالانکہ تم ان کے چہرہ بشرہ سے ان کو پہچان لو گے (کہ یہ ضرورت مند ہیں) وہ لوگوں سے نہ مانگتے ہیں نہ پیچھے پڑتے ہیں۔ صبر، غنی اور عفت کی اس تشریح کے بعد آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی اور سب سے وسیع (ہمہ گیر) فضیلت صبر ہے اس دولت کے میسر آجانے کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور مانگنے کی نوبت ہی نہیں آتی اللہ تعالیٰ بغیر مانگنے سب کچھ دے دیتے ہیں اپنی شب و روز کی زندگی میں صدق دل سے اس صبر و قناعت اور غنی و عفت کو اپنا کر دیکھئے پھر حدیث کی حقانیت اور زندگی کی اعلیٰ اقدار کا پتہ چلے گا۔

یہ صبر، صبر کی تیسری قسم صبر عن الشئی کے تحت داخل ہے۔

صبر و شکر خیر ہی خیر ہیں

وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ : إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ " رواه مسلم .

توجہ: حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے؟ بیشک مومن کا معاملہ (ہر حالت اور ہر صورت میں) خیر ہی خیر ہے اور یہ سعادت مومن کے سوا اور کسی کو میسر ہی نہیں (وہ معاملہ یہ ہے کہ) اگر مومن کو خوشحالی نصیب ہوئی ہے تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ خوشحالی اس کے لئے باعث خیر بن جاتی ہے (اس لئے کہ اس کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خوشحالی اور مال و اولاد اور دوسری نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتے ہیں) اور اگر مومن بد حالی (اور تنگدستی) میں گرفتار ہوتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے (اور رضائے الہی پر راضی رہتا ہے) تو وہ بد حالی اس کے لئے باعث خیر بن جاتی ہے (اور رضاد تسلیم کا بلند ترین مقام میسر آ جاتا ہے۔

تشریح: صبر و شکر کے خیر بننے کی وجہ شکر موجب خیر اس لئے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ: لئن

شكرتم لازيدنكم (ابراہیم: ۷)

بخدا اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں یقیناً تم کو اور زیادہ دوں گا صبر موجب خیر اس لئے بنتا ہے کہ صبر سے رضاد تسلیم کا مرحلہ میسر آتا ہے جو اولوالعزم انبیاء و رسل کا مقام ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں:

فاصبر كما صبر اولوالعزم من الرسل (احقاف: ۳۵)

پس اے نبی تم صبر کرو جیسے اولوالعزم انبیاء و رسل نے صبر کیا ہے۔

صبر کی آزمائش کا سب سے سخت مقام

وعن أنس رضي الله عنه ، قَالَ : لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَنْعَشُهُ

الكَرْبُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَأَكْرَبَ أَبْنَاءَهُ. فَقَالَ: "لَيْسَ عَلَيَّ أَيْبُكَ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ" فَلَمَّا مَاتَ، قَالَتْ: يَا أَبْنَاءَهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ! يَا أَبْنَاءَهُ، جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ! يَا أَبْنَاءَهُ، إِلَيَّ جَبْرِيلُ نَنْعَاهُ! فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْتُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّرَابَ؟! رواه البخاري.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: جب (مرض الموت میں) محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض زیادہ شدت اختیار کر گیا اور (تھوڑی تھوڑی ذریر کے بعد) آپ پر کرب اور بے چینی کے دورے پڑنے لگے تو (آپ کی اس غیر معمولی تکلیف کو دیکھ کر) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے نکلا: "ہائے میرے پیارے باپ کی بے چینی" تو اس پر آپ نے ان کی تسلی کے لئے فرمایا: آج کے بعد تمہارے باپ پر (کبھی) کوئی بے چینی نہ ہوگی" (ساری بے چینیوں آج کے بعد ختم ہو جائیں گی) پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو (شدت غم سے) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے نکلا: ہائے میرے باپ! ان کے پروردگار نے جب ان کو بلایا تو انہوں نے فوراً اس بلاوے پر "لبیک" کہا (اور اپنے رب سے جا ملے) ہائے میرے باپ! اب جنت الفردوس جن کا مسکن ہے ہائے میرے باپ! جبریل امین ہی کو ہم ان کی خبر مرگ سناتے ہیں" (اور غم و اندوہ کا اظہار کرتے ہیں) پھر جب صحابہ کرامؓ نذر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر چکے تو حضرت فاطمہؓ نے ان سے کہا: تمہارے دلوں نے رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر زمین دفن کرنا اور ان پر مٹی ڈالنا گوارا کر لیا؟

تشریح: سیدۃ نساء اہل الجنة (جنتی عورتوں کی سردار) حضرت فاطمہ الزہراءؓ تقاضائے بشریت اپنے اس عزیز اور

محبوب باپ کی جانکشی کی شدت پر۔ جس نے حسب ذیل الفاظ میں فاطمہ سے اپنے غیر معمولی تعلق خاطر کا اظہار فرمایا تھا۔
فاطمۃ بضعة منی من آذاها فقد آذانی فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہیں جس نے ان کو ستایا بیشک اس نے مجھے ستایا۔ تمللا اٹھتی ہیں اور بے ساختہ زبان سے وا کرب اتاہ۔ ہائے میرے پیارے باپ کی بے چینی۔ نکلا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغرض تسلی و دلاسا فرماتے ہیں: "لیس علیک کرب بعد الیوم" اسی طرح وفات اور تجسیم و تکفین کے بعد کے بے ساختہ حزنیہ کلمات یہ سب کمال رافت و رحمت کا تقاضا ہیں اور عند اللہ مطلوب ہیں اگر عزیز ترین ہستی کی وفات پر یہ فطری تاثر اور ان حزنیہ کلمات کا اظہار نہ ہو تو یہ "قسوة قلبی" اور سنگدلی کی دلیل ہے جو ہرگز بشریت کا تقاضا نہیں ہو سکتی اور عند اللہ رحمت الہی سے محرومی کا موجب ہے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے مزید تفصیل اگلی حدیث کی تشریح میں آتی ہے۔

بے ساختہ آنسو اور بغیر آواز کے رونا صبر کے منافی نہیں

وعن أبي زيدٍ أسامةَ بنِ زيدِ بنِ حارثةَ مَوْلَى رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِبِّهِ وابنِ حَبِّهِ رضي اللهُ عنهما ، قَالَ : أُرْسِلْتُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنِي قَدْ احْتَضَرَ فَأَشْهَدُنَا ، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ : ” إِنَّ لَهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبِ “ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لِيَأْتِيَنَهَا . فقامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَرَجَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَرَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيَّ ، فَأَقْعَدَهُ فِي حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقْعَقُعُ ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : ” هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ “ وَفِي رِوَايَةٍ : ” فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرَحِمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحِمَةَ “ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَمَعْنَى ” تَقْعَقُعُ “ : تَتَحَرَّكُ وَتَضْطَرِبُ .

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب بن حبیب (محبوب کے محبوب) آزاد کردہ غلام حضرت أسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی (حضرت زینب رضی اللہ عنہا) نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا بچہ نزع کی حالت میں ہے، ذرا آپ تشریف لے آئیں (ہم لوگوں کو تسلی ہو جائے گی) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس اندوہناک منظر اور ان کی تکلیف کو بچشم خود دیکھنے سے بچنے کی غرض سے) پیغام بھیجا: رسول اللہ سلام فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں (دختر عزیزا!) بیٹھک جو اللہ تعالیٰ نے لے لیا وہ بھی اسی کا ہے اور جو دیا تھا وہ بھی اسی کا تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے تم صبر کرو اور اس صبر پر اللہ سے اجر کی امید رکھو“ (مرضی مولیٰ از ہمہ اولیٰ) اس پر انہوں نے پھر پیغام بھیجا: اور بقسم درخواست کی کہ آپ اس وقت ہمارے پاس ضرور ضرور تشریف لائیں“ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور چند سربر آوردہ انصاری صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اٹھ کر چلے اور صاحبزادی صاحبہ کے مکان پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچہ کو پیش کیا گیا آپ نے اس کو گود میں لے لیا بچہ کا گھونگر و بول رہا تھا (اور سانس رک رک کر آ رہا تھا) یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی مقدس آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ پڑے تو اس پر حضرت سعد بولے: یہ کیا یا رسول اللہ (یہ آنسو کیسے)؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: یہ جذبہ رحم ہے (اے سعد!) جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ودیعت فرمایا ہے“ اور ایک روایت میں ہے: ”اپنے جن بندوں کے دلوں میں چاہا ودیعت فرمادیا ہے“ اور (یاد رکھو) رحم کرنے والوں ہی پر اللہ تعالیٰ بھی رحم فرماتے ہیں۔

تشریح: نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء:

رحم کرنے والوں ہی پر رحمن بھی رحم فرماتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو تو تم پر آسمان والا بھی رحم کرے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آنکھوں سے آنسو نکلنے اور بغیر آواز کے رونے کو بھی صبر کے خلاف خصوصاً آپ کی جلالت شان کے منافی سمجھ کر سوال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلط فہمی کو دور فرماتے ہیں کہ رحم اور ترحم تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خوش آئند نعمت ہے رحمت اور اسم جلالت الرحمن (بہت بڑا رحم کرنے والا) کا مظہر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظہر کمالات 'مقدس ذات گرامی' عالم بشریت میں اسماء و صفات الہیہ کا مظہر اتم (کامل ترین مظہر ہے) اس لئے یہ رنج و غم اور صدمہ اور اس پر بے ساختہ نکلنے والے آنسو نہ صبر کے منافی ہیں اور نہ آپ کی شان کے 'صبر کے منافی چیخا چلانا' دھاڑیں مار کر رونا' بین کرنا' کپڑے پھاڑنا' بال نوچنا' منہ یا سینہ پیٹنا وغیرہ جاہلانہ رسوم ہیں جو نہ صرف شرعاً ممنوع اور حرام ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ کا موجب بھی ہیں جیسا کہ تفصیل کے ساتھ احادیث میں مذکور ہے۔

ان دونوں حدیثوں میں صبر کی قسم

حدیث نمبر ۱۳ اور نمبر ۵ صبر کی تیسری قسم الصبر عند المصیبة کے تحت داخل ہیں۔

حدیث الاخذ و: خند قوں کا قصہ

خندق والوں کے قصہ کا پس منظر

عیسائی مذہب پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جس میں اول یہودیوں نے اور ان کے بعد بت پرست قوموں اور ظالم و جابر بادشاہوں نے عیسائیوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے ہیں اور بت پرستی پر ان کو مجبور کیا ہے اس عہد میں عیسائیوں کے لئے اپنے دین عیسوی کو چھپائے بغیر زندہ رہنا محال تھا عیسائی مذہب کے رہنما اور تارک الدنیا راہب بھی بستیوں سے دور یا خانقاہوں میں یا دیوانوں میں بالکل الگ تھلگ زندگی بسر کرتے تھے اور جوان کے ہم مذہب لوگ چھپ چھپا کر ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں ان کو چھپے چوری انجیل اور دین عیسوی کی تعلیم دیتے و عظ و نصیحت کرتے رہتے تھے یہ وہ زمانہ تھا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانی کتاب انجیل اپنی اصلی حالت پر اور دین عیسوی کی تعلیمات اپنی اصلی صورت میں موجود و برقرار تھیں کسی قسم کا تغیر و تبدل اور مسخ و تحریف ان میں نہیں ہوئی تھی اس زمانہ میں وہی دین حق تھا اور اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا ہی نجات کا ذریعہ تھا۔

اس زمانہ میں دنیا کے بعض ملکوں۔ عرب، شام، فارس وغیرہ۔ میں انہی بت پرست و خود پرست ظالم و جاہل بادشاہوں نے خدا پر ایمان لانے والوں خصوصاً عیسائیوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے جرم میں خوفناک آگ کے الاؤ سے بھری ہوئی خندقوں میں زندہ جلادیا ہے چنانچہ یمن کے شہر نجران کے اندر یمن کے بت پرست بادشاہ ذونواس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوا کر ایسی خوفناک آگ سے جس کی لپٹیں دو در دو تک پہنچتی تھیں اور آسمان سے باتیں کرتی تھیں، بھروادیا تھا اور ہر اس شخص کو جو دین عیسوی اور خدا پرستی سے منحرف نہ ہو۔ بوڑھا ہو یا جوان یا بچہ مرد ہو یا عورت۔ زندہ آگ میں جلادینے کا حکم دے رکھا تھا ایسے مواقع پر خود بادشاہ اور اس کے پرستار بھی اس انسانیت سوز تماشے کو دیکھنے کے لئے خندق کے ارد گرد کرسیوں پر بیٹھتے اور خدا پرستوں کے جلنے جلانے کا تماشا دیکھا کرتے تھے۔

آخر قہر الہی اور انتقام خداوندی نے اسی آگ کی خوفناک لپٹوں میں اس بادشاہ اور اس کے پرستاروں کو جلا کر راکھ کر دیا اس واقعہ کا اجمالی تذکرہ سورۃ البروج میں آیا ہے حضرت صہیب کی اس حدیث میں بھی اس کی کچھ تفصیل مذکور ہے پورا مفصل بیان کتب تفسیر و تاریخ میں پڑھیے

اس زمانہ کے فرعون و نمرود

اس زمانہ کے فرعون و نمرود۔ امریکہ، روس، برطانیہ وغیرہ قہرمانی طاقتیں بھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تیار کر کے روئے زمین کو جہنم زار بنانے اور خدا کی مخلوق کو اس میں پھونک ڈالنے کے منصوبے بنانے میں مصروف ہیں قہر الہی جب جوش میں آئے گا تو ان شاء اللہ یہ بم خود ان کو ہی پھونکیں گے اور انکے ملکوں کو جہنم بنا دینے کے ہی کام آئیں گے۔

وعن صہیب رضی اللہ عنہ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبُرَ قَالَ لِلْمَلِكِ : إِنِّي قَدْ كَبُرْتُ فَأَبْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أَعْلَمُهُ السَّحْرَ ؛ فَبِعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يَعْلَمُهُ ، وَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ ، فَتَعَدَّ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ ، وَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ ، مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَّ إِلَيْهِ ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَتْهُ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ ، فَقَالَ : إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ ، فَقُلْ : حَبَسَنِي أَهْلِي ، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ ، فَقُلْ : حَبَسَنِي السَّاحِرَ . فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتْ النَّاسَ ، فَقَالَ : الْيَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرَ أَفْضَلَ أَمْ الرَّاهِبَ أَفْضَلَ ؟ فَأَخَذَ حَجْرًا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ ، فَرَمَاهَا فَفَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ . فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ : أَيُّ بَنِي أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلَ مِنْي قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى ، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِنْ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ ؛ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ ،

ويداوي الناس من سائر الأدواء . فسمع جليس للملك كان قد عمي ، فأتاه بهذا يا كثيرة ، فقال : ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني ، فقال : إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى ، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك ، فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى ، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس ، فقال له الملك : من رد عليك بصرك ؟ قال : ربي ، قال : ولك ربٌ غيري ؟ قال : ربي وربك الله ، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام ، فجيء بالغلام ، فقال له الملك : أي بني ، قد بلغ من سحرك ما تبرى الأكمة والأبرص وتفضل وتفضل ! فقال : إني لا أشفي أحدا ، إنما يشفي الله تعالى . فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الرأهب ؛ فجيء بالرأهب فقيل له : ارجع عن دينك ، فأبى ، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه ، فشقه حتى وقع شقاه ، ثم جيء بجليس الملك فقيل له : ارجع عن دينك ، فأبى ، فوضع المنشار في مفرق رأسه ، فشقه به حتى وقع شقاه ، ثم جيء بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك ، فأبى ، فدفعه إلى نفر من أصحابه ، فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل ، فإذا بلغتُم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه . فذهبوا به فصعدوا به الجبل ، فقال : اللهم أكفنيهم بما شئت ، فرجف بهم الجبل فسقطوا ، وجه يمشي إلى الملك ، فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله تعالى ، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا به فاحملوه في قرقر وتوسطوا به البحر ، فإن رجع عن دينه وإلا فافذوه . فذهبوا به ، فقال : اللهم أكفنيهم بما شئت ، فانكفات بهم السفينة فغرقوا ، وجه يمشي إلى الملك . فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله تعالى . فقال للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به . قال : ما هو ؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ، ثم خذ سهما من كنانتي ، ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل : بسم الله رب الغلام ، ثم ارمني ، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني ، فجمع الناس في صعيد واحد ، وصلبه على جذع ، ثم أخذ سهما من كنانته ، ثم وضع السهم في كبد القوس ، ثم قال : بسم الله رب الغلام ، ثم رماه فوق في صدغيه ، فوضع يده في صدغيه فمات ، فقال الناس : أمنا برب الغلام ، فأتى الملك فقيل له : أرايت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرک . قد آمن الناس . فأمر بالأخدود بأفواه السكك فحذت^٣ ، وأضرم فيها النيران وقال : من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها ، أو قيل له : اقتحم ففعلوا حتى جلت امرأة ومعها صبي لها ، فتقاعست أن تقع فيها ، فقال لها الغلام : يا أمه اصبري فإنك على الحق ! رواه مسلم . ” ذروة الجبل ” : أعلاه ، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها و” القرقر ” : بضم القافين نوع من السفن و” الصعيد ” هنا :

الأَرْضُ الْبَارِزَةُ وَالْأَخْدُودُ“ الشَّقُوقُ فِي الْأَرْضِ كَالنَّهْرِ الصَّغِيرِ ، وَ” أَضْرِمَ “ : أَوْقَدَ ، وَ” انْكَفَأَتْ “ أَي : انْقَلَبَتْ ، وَ” تَفَاعَسَتْ “ : تَوَقَّفَتْ وَجِبَتْ .

ترجمہ: حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں پر ایک بادشاہ گذرا ہے اس بادشاہ کا (مدار النہام) ایک جادوگر تھا جب وہ

سحر اور کہانت کی ان بت پرستوں میں اہمیت

عام طور پر یہ بت پرست اور خود پرست جابرو قاہر بادشاہ جادو اور کہانت کے زور سے ہی مخلوق سے اپنی خدائی منواتے اور حکومتیں چلاتے رہے ہیں اور ساحرو کاہن (جادوگر اور کاہن نجومی) ہی ان کے سب سے بڑے مقرب اور مدار النہام ہوا کرتے ہیں فرعون مصر کے عہد میں تو سحر شریف ترین علم اور ساحرو کاہن ہی سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے پچھلے دور کے عیسائیوں (رومیوں) کے عہد میں بھی سحر کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔

اس ترقی یافتہ زمانہ کا حال

آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی بھارت کے نجومی اور جوتشی حکومت اور عوام دونوں کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں عوام تو اپنے ہر اہم کاروبار اور بیہ شادی وغیرہ کے لئے نیک ساعت اور اچھا شگون معلوم کئے بغیر کوئی قدم اٹھاتے ہی نہیں حکومت بھی اپنے اہم اقدامات میں نجومیوں کی پشتگونیوں کو نظر انداز نہیں کرتی۔ ساحر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا: میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں (اب دربار میں حاضری اور ذمہ داری کے ساتھ فرائض کی بجا آوری مجھ سے نہیں ہو سکتی) لہذا تم کسی (شاہی خاندان کے) نو عمر لڑکے کو میرے پاس بھیج دیا کرو میں اسے جادو سکھا دوں (وہ میری نیابت میں دربار میں کام کرے گا) چنانچہ بادشاہ نے ایک نو عمر لڑکے کو مقرر کر دیا اور جادو کرنے سے جادو سکھانا شروع کر دیا۔

جادو سیکھنے والے لڑکے کا حال: یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو اس کے راستہ میں ایک راہب (عیسائی عالم) کی خانقاہ پڑتی تھی کبھی کبھی اس کے پاس بھی جا بیٹھتا اور اس کی باتیں کان لگا کر سنتا چنانچہ اب یہ اس لڑکے کا معمول ہو گیا کہ روزانہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کے پاس ضرور بیٹھتا۔ (اور روزانہ جادوگر کے ہاں پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی) تو جب جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تو وہ (دیر سے آنے پر) زرد کوب کرتا۔ آخر لڑکے نے اس (روزانہ کی مار پیٹ) کی راہب سے شکایت کی راہب نے (اس سے بچنے کی تدبیر بتلائی اور) کہا: جب تمہیں (دیر ہو جانے کی وجہ سے) جادوگر کی مار پیٹ کا ڈر ہوا

ایک شبہ کا ازالہ

ظالم و جابر لوگوں کے ظلم و جور سے بچنے اور اپنی یلادوسروں کی جان بچانے کی غرض سے خدا پرستوں کے لئے

بحالت مجبوری اس قسم کے جھوٹ اور فریب پر مبنی تدابیر کی گنجائش تھی اور ہے شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے ایسے ہی مواقع کیلئے فرمایا ہے دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی قنہ انگیز۔ مصلحت پر مبنی جھوٹ فتنے کھڑے کر دینے والے سچ سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے الحرب خدعہ۔ لڑائی سرتا سر دھوکہ اور فریب کا نام ہے۔

ہماری شریعت کا حکم

تاہم ہماری شریعت میں صریح جھوٹ بولنے کی مطلق اجازت نہیں ہو سکتا ہے کہ عیسائی مذہب میں اس کی گنجائش ہو۔

کرے تو اس سے کہہ دیا کرو کہ مجھے گھر والوں نے (کسی کام سے روک لیا تھا) اس لئے دیر ہو گئی اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے استاد (جادو کرنے) روک لیا تھا (اس لئے دیر ہو گئی) چنانچہ اس نے یہی تدبیر اختیار کی اور اس تدبیر سے باطمینان تمام علم دین حاصل کرنے کا موقع مل گیا)

اس لڑکے کی کرامت: ایک دن حسب معمول جب وہ جارہا تھا تو راستہ میں ایک بڑا خوفناک چوپائے جیسا اڑ رہا اس کو نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا تھا (ڈر کے مارے کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا) تو اس لڑکے نے دل میں کہا: چلو آج آزمائیں کہ راہب افضل (اور اللہ کا مقبول بندہ) ہے یا جادو گر افضل ہے؟ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور خدا سے دعا کی: اے اللہ اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادو گر سے افضل ہے تو اس پتھر سے اس اڑدھے کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستہ چل سکیں اور (یہ کہہ کر) پتھر مارا خدا کی قدرت سے وہ اڑدھا ہلاک ہو گیا اور لوگ آنے جانے لگے۔

راہب کی تصدیق اور وصیت: تو اس کے بعد وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس کو بتلایا تو راہب نے کہا: اے میرے عزیز شاگرد اب (اس کرامت کے بعد) تم (اللہ تعالیٰ کے نزدیک) مجھ سے بھی افضل (اور مقبول بارگاہ الہی) ہو گئے ہو، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا اللہ تعالیٰ سے تعلق اس عظیم مرتبہ تک پہنچ گیا ہے (کہ ایسی کرامتیں ظاہر ہونے لگیں) مگر (تم یاد رکھو کہ یہ واقعہ چھپا نہیں رہ سکتا بادشاہ کے کانوں تک ضرور پہنچے گا اور وہ دین کا سخت دشمن ہے لہذا) تم سخت آزمائش میں پڑ گئے ہو مگر دیکھنا اگر تم مصیبت میں گرفتار ہو تو میرا نام ہر گز نہ لینا (ورنہ میں بھی مارا جاؤں گا)

اس لڑکے کی اور کرامتیں: اس واقعہ کے بعد اس لڑکے کی اور کرامتیں بھی ظاہر ہونے لگیں چنانچہ اب وہ ماورزاد پانچاؤں کو پیداور جزا میوں کو اچھا کرنے لگا اور پھر تو تمام امراض کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ لا علاج مریضوں کے علاج کی شرط: (مگر علاج اسی مریض کا کرتا جو آرام ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ

پر ایمان لانے کا پختہ عہد کرتا رفتہ رفتہ انہی کرامتوں کے ذریعہ دین الہی لوگوں میں پھیلنے لگا (بادشاہ کے ایک مصاحب نے بھی اس طبیب روحانی کا شہرہ سنا اس کی بیٹائی جاتی رہی تھی اور بالکل اندھا ہو گیا تھا وہ بھی اس نصرانی لڑکے کے پاس پیش بہا تھے تماخوف لے کر آیا اور کہا: اگر تم نے مجھے شفا دے دی (اچھا کر دیا) تو یہ سب تھے تمہاری نذر ہیں لڑکے نے کہا: میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا شفا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے لہذا اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ تم کو شفا دے دے گا چنانچہ وہ بادشاہ کا مصاحب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو شفا دے دی اور اس کی بیٹائی لوٹ آئی)

بادشاہ کو اطلاع اور اس کا رد عمل: اور اس کے بعد وہ مصاحب حسب معمول بادشاہ کے دربار میں آیا اور اپنی جگہ (کرسی پر) بیٹھ گیا بادشاہ نے (حیران ہو کر) کہلایا تمہاری بیٹائی کس نے لوٹائی؟ اس نے کہا میرے رب نے بادشاہ نے (غصہ میں آگ بگولا ہو کر) کہا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ مصاحب نے کہا میرا اور تیرا دونوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔

مصاحب کو خدا پرستی کی سزا اور اس کی کمزوری: بادشاہ نے اس کو فوراً گرفتار کر لیا اور پوچھا یہ دین تو نے کس کے کہنے سے اختیار کیا ہے؟ جب اس نے نہیں بتلایا تو بادشاہ (کے حکم سے جلادوں) نے سخت ترین ایذا میں اور تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں یہاں تک کہ اس نے عاجز آ کر اس عیسائی لڑکے کا حال بتلادیا۔

صاحب کرامات لڑکے کی گرفتاری اور اس کی وعدہ خلافی: چنانچہ فوراً اس لڑکے کو گرفتار کر کے لایا گیا تو بادشاہ نے غصہ میں آ کر اس سے کہا: او لڑکے! تیری جادوگری اب یہاں تک پہنچ گئی کہ تو اندھوں کو سوا نکھا کر دیتا ہے جذا میوں کو اچھا کر دیتا ہے اور فلاں فلاں لا علاج مریضوں کو تندرست کر دیتا ہے (کیا میرے ہوتے خدائی کا دعویٰ کرنے کا ارادہ ہے؟) تو لڑکے نے کہا: میں تو کسی کو بھی شفا نہیں دیتا شفا تو صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے (جو اس پر ایمان لے آتا ہے وہ اس کو شفا بخش دیتا ہے) تو بادشاہ نے اس لڑکے کو بھی گرفتار کر کے اس پر سخت ترین عذاب توڑنے شروع کر دیئے یہاں تک کہ لڑکے نے عاجز آ کر عیسائی راہب کا حال بتلادیا۔

راہب کی گرفتاری اور اس کا لرزہ خیر قتل اور شہادت: تو فوراً (بادشاہ کے حکم سے) اس خدا پرست راہب کو گرفتار کر کے لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اپنا یہ نصرانی مذہب چھوڑ دے اس نے صاف انکار کر دیا تو ایک آدم کش ”آرا“ لایا گیا اور اس راہب کے بیچ سر پر رکھ کر آرے سے اس طرح اس کے دو ٹکڑے کر دیئے گئے کہ ایک ٹکڑا دھر گر اور دوسرا دھر۔ اور وہ شہید ہوا۔

مصاحب کا قتل اور شہادت: پھر بادشاہ کے مصاحب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اس دین سے باز آ جا اس نے بھی صاف انکار کر دیا تو اس کے بھی بیچ سر پر آ راکھ کر دو کلڑے کر دیئے گئے ایک ادھر گرادوسرا ادھر اور وہ بھی شہید کر دیا گیا۔

صاحب کرامت لڑکے کو ہولناک طریقوں سے ہلاک کرنے کی تدبیریں اور ان میں ناکامی: پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اپنا یہ دین چھوڑ دے تو اس نے بھی انکار کر دیا تو (اس سے زیادہ ہولناک سزا دینے کی غرض سے) اس کو چند جلادوں کے سپرد کیا اور کہا کہ: اس کافر کو فلاں جگہ لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر چڑھاؤ جب چوٹی پر پہنچ جاؤ تو (اس سے دریافت کرو) اگر یہ اپنے اس دین سے باز آ جائے تو فیہا ورنہ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے (غار میں) پھینک دو "چنانچہ وہ لوگ اس کو وہاں لے گئے پہاڑ کے اوپر چڑھایا (اور چوٹی پر پہنچ کر) اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: اے اللہ تعالیٰ تو جس طرح چاہے مجھے ان ظالم مشرکوں کے شر سے بچالے "چنانچہ پہاڑ ایک دم اتنے زور زور سے لرزنے لگا کہ وہ سب جلاد پہاڑ کی چوٹی سے نیچے (غار میں) گر پڑے (اور ہلاک ہو گئے) اور وہ لڑکا (صحیح سلامت) وہاں سے چل کر بادشاہ کے سامنے آ موجود ہوا تو اس نے پوچھا: وہ لوگ کیا ہوئے؟ لڑکے نے کہا: اللہ نے مجھے ان سے بچا دیا اور ان کو ہلاک کر دیا تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے (مخصوص) مصاحبوں کے سپرد کیا اور کہا کہ: اس کافر لڑکے کو (سمندر پر) لے جاؤ اور ایک ڈونگی (چھوٹی کشتی) میں سوار کرو اور بیچ سمندر میں لے جاؤ (وہاں پہنچ کر اس سے دریافت کرو) اگر یہ اپنے دین (خدا پرستی) سے باز آ جائے تو فیہا ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو "چنانچہ وہ مصاحب اس کو (ڈونگی میں سوار کر کے بیچ سمندر میں) لے گئے تو اس خدا پرست لڑکے نے پھر (ہاتھ اٹھا کر) دعا کی: اے اللہ تو جس طرح مناسب سمجھے ان ظالموں کے شر سے مجھے بچالے "چنانچہ دفعتاً (سمندر میں طوفان آیا اور موجوں کے تھپڑوں سے) کشتی ڈوب گئی اور وہ سب کے سب مصاحب بھی ڈوب گئے اور وہ لڑکا بیچ گیا اور سیدھا بادشاہ کے پاس آدرا آمد ہوا بادشاہ نے پوچھا: وہ تیرے ساتھ کے آدمی کیا ہوئے؟ اس نے کہا: اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا دیا اور ان کو ڈبو دیا۔

صاحب کرامت خدا پرست لڑکے کا بادشاہ کو خود اپنی ہلاکت کی تدبیر بتلانا اور شہید ہونا: اس کے بعد اس خدا پرست لڑکے نے بادشاہ سے کہا: تم مجھے ہرگز ہلاک نہیں کر سکتے تاؤ فکیہ جو تدبیر میں

ایک شبہ کا ازالہ

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ایماندار لڑکے نے خود اپنی ہلاکت کی تدبیر بادشاہ کو کیوں بتلائی اور اپنے آپ کو قتل کے لئے کیوں پیش کیا؟

جواب (۱) اس کا جواب واضح ہے کہ اس کو یقین تھا کہ اگرچہ میں تو شہید ہو جاؤں گا مگر اس تدبیر پر عمل کرنے کے بعد تمام شہر کے باشندوں پر اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کی خدائی کی حقیقت کھل جائے گی کہ یہ تو اتنا عاجز اور بے بس انسان ہے کہ بسم اللہ رب العلام کہے بغیر اپنی خدائی کے منکر دشمن کو بھی ہلاک نہیں کر سکتا لہذا پرستش کے لائق رب العلام ہے نہ کہ یہ عاجز و بے بس انسان چنانچہ ایسا ہی ہو اور پورا شہر اسی وقت اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا علاوہ ازیں ایک خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی زبان سے اپنے رب کی خدائی کا اعتراف کرادیا مثل مشہور ہے کہ ”جادو وہ ہے جو سرچڑھ کر بولے“ یہی جواب اس شبہ کا بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی پہلی دونوں تدبیروں کو ناکام بنا دیا اور اپنے ایک مومن بندے کو ہلاکت سے بچا لیا اور الٹا بادشاہ کے پرستاروں کو انہی تدبیروں سے ہلاک کر دیا اسی طرح اس لڑکے کی بتلائی ہوئی تدبیر کو بھی ناکام بنا دیتے“ ظاہر ہے کہ اس صورت میں شہر کے تمام باشندے یکدم ایمان نہ لاتے علاوہ ازیں لڑکے کا بیان جھوٹا ہوتا اور اللہ تعالیٰ اپنے ایک مومن و مقرب بندے کو جھوٹا بتانا گوارا نہیں کر سکتے۔

جواب (۲)

حکم و مصالح سے بحث کرنے والے بعض محققین اس سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس عیسائی لڑکے سے صاحب کرامات ولی ہونے کے باوجود ایک ایسا گناہ سرزد ہوا تھا جو وعدہ خلافی اور عہد شکنی کے علاوہ راہب کے قتل ناحق کا سبب بھی بنا اور وہ یہ کہ اس نے بادشاہ کی سختیوں سے عاجز اگر راہب کا نام بتلا دیا حالانکہ راہب اس کو بتلا چکا تھا کہ اگر تم نے میرا نام بتلا دیا تو مفت میں میری جان جائے گی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مقرب بندے کو آخرت کے دائمی عذاب اور جہنم سے بچانے کے لئے دنیا میں ہی اس کا کفارہ کرادیا جان کا بدلہ جان ہو گیا اور شہادت کا مرتبہ مزید برآں عطا فرمادیا۔ یہی گناہ اس خدا پرست مصاحب سے سرزد ہوا تھا اس کے قتل کو اس کے گناہ کا کفارہ، کرادیا اور اس کو بھی شہادت کا مرتبہ مزید برآں عطا فرمادیا۔ خالص شہادت کا مرتبہ راہب کو نصیب ہوا اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت ابدی زندگی کا دوسرا نام ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف شہدا کو ”اموات“ مانگا کرنے سے منع فرمایا ہے بلکہ ان کو ”اموات“ کہنے سے بھی منع فرمایا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہونے والے ”زندہ جاوید“ ہو جاتے ہیں وہ کبھی نہیں مر سکتے۔

بتلاؤں اس پر عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے کہا: وہ تدبیر کیا ہے؟ لڑکے نے کہا: تم (شہر کے باہر) کھلے میدان میں (شہر کے تمام) لوگوں کو جمع کرو اور سب کے سامنے تم مجھے (خدا پرستی کے جرم میں) سولی پر لٹکاؤ

پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر نکالو (ان تیروں پر اللہ کا نام لکھا تھا) اور ان کو کمان کے چلہ پر چڑھاؤ اور بسم اللہ رب الغلام۔ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ کہہ کر میرے تیر مارو اگر پورے طور پر تم نے اس تدبیر پر عمل کیا تو تم مجھے قتل کر سکو گے (ورنہ نہیں) تو اس ناعاقبت اندیش دشمن حق بادشاہ نے (شہر کے تمام چھوٹے بڑے عورت مرد سب) لوگوں کو ایک بہت بڑے اور کھلے میدان میں جمع کیا اور اس خدا پرست لڑکے کو سولی پر لٹکایا۔ پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور کمان کے چلہ پر چڑھایا پھر کہا بسم اللہ رب الغلام اور تیر چلا دیا وہ تیر لڑکے کی کپٹی پر لگا تو لڑکے نے کپٹی پر ہاتھ رکھ لیا اور مر گیا سب لوگ (اس خدائی کے دعویدار بادشاہ کی عاجزی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا نام لئے بغیر اس خدا پرست لڑکے کو ہلاک نہ کر سکا ایک زبان) کہنے لگے امنا رب الغلام (اور سارا شہر خدا پر ایمان لے آیا) تو بادشاہ کے پاس اس کے مصاحب آئے اور اس کو بتلایا کہ جس چیز سے آپ ڈرتے تھے بخدا وہ (خود آپ کے ہاتھوں) وقوع میں آگئی تمام شہر کے باشندے اس لڑکے کے رب پر ایمان لا چکے ہیں بادشاہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے فوراً حکم دیا کہ شہر کے تمام شاہراہوں کے سروں پر بڑی بڑی خندقیں (کھائیاں) کھدوائی جائیں (اور ان کو آگ کی خوفناک الاؤ سے بھر دیا جائے) چنانچہ شاہی حکم کے مطابق (شہر میں آنے کے تمام راستوں پر) بڑی بڑی خندقیں کھود دی گئیں اور ان میں آگ کے الاؤ لگا دیئے گئے اور حکم دیا کہ جو کوئی شہر کا باشندہ اس مذہب کو نہ چھوڑے اسے زندہ آگ میں جلا دیا جائے چنانچہ بادشاہ کے نوکروں نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا لوگ جوق در جوق آتے اور (بخندہ پیشانی) آگ میں کود پڑتے ہیں یہاں تک کہ ایک ایمان دار عورت آئی اس کا شیر خوار بچہ بھی اس کے ساتھ تھا اس معصوم بچہ کی وجہ سے وہ آگ کی خندق میں کودنے سے بچکپائی تو فوراً شیر خوار بچہ بلند آواز سے بولا: اے میری پیاری ماں صبر کر اور اس آگ میں کود جا بیشک تو حق پر ہے (یہ بھڑکتی ہوئی آگ خندق نہیں بلکہ گلزار ابراہیم ہے)

ذروۃ الجبل: پہاڑ کی چوٹی، یہ لفظ ذال کے زیر اور پیش دونوں سے ہے۔ قر قور: دونوں قاف پر پیش ہے، کشی کی ایک قسم۔ صعید: کھلا میدان: أخذود: زمین نہر کی طرح کھائیاں۔ اضرم: آگ جلائی گئی۔ انکفات پلٹ گئی۔ کف کفاء (باب فتح) پھرنا، کلست کھانا۔ انکفا: (باب انفعال) متفرق ہونا، واپس ہونا، تقاعست: ٹھٹھک گئی، بزدلی پیدا ہو

گئی۔ تعس تعسا (باب نصر) سینہ ابھار کر اور پیٹھ دھنسا کر چلنا۔ تعاس (باب تفاعل) عن الأمر: پیچھے ہٹنا۔

حدیث کی تشریح:

اس طویل حدیث اور واقعہ کے چند اہم فوائد

یہ طویل حدیث چند عظیم فوائد اور احکام پر مشتمل ہے

پہلا فائدہ: (۱) اول یہ کہ ہر ایمان لانے والے کے لئے ”ابتلا“ لابدی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امانا وهم لایفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین (عنکبوت: ۳)

کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ آمنے۔ ہم ایمان لے آئے۔ کہنے پر ہی چھوڑ دیئے جائیں گے اور ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا اور بیشک ہم نے تو ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائشوں میں ڈالا ہے پس اللہ (عملی طور پر) ضرور جان لے گا (آزمائے گا) ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا (کہ ہم ایمان لے آئے) اور جان لے گا (آزمائے گا) ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔

یہ ابتلا اور آزمائش عام ہے خواہ جان یا مال پر کوئی مصیبت اور آفت آئے چاہے فقر و افلاس میں مبتلا ہو چاہے اور کسی بھی قسم کی دشواریاں اور مشکلات پیش آئیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانس والسموت وبشر

الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا اناللہ وانا الیہ راجعون: (بقرہ: ۱۵۶)

اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کسی قدر (دشمنوں کے) خوف سے اور بھوک (پیاس) سے اور کسی قدر (مالوں) جانوں اور سچلوں کے نقصانات سے اور (انے نبی) تم خوشخبری سناؤ ان مصیبتوں اور نقصانات پر صبر کرنے والوں کو جو جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں: بیشک ہم اللہ ہی کے لئے (زندہ) ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں“

مومن کیلئے مصیبتیں گھبرانے کی چیز نہیں ہیں

بلکہ صبر کرنے کی صورت میں درجات بلند ہونے کا موجب ہیں

اس ابتلا اور آزمائش میں صبر و ضبط کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ سے حسن ظن (نیک گمان) رکھنا نہ صرف یہ کہ ایمان کی دلیل بلکہ ہم درجات عند ربہم ان کے مختلف درجے اور مرتبے ہیں اللہ کے ہاں۔ کے تحت رفع درجات۔ مرتبوں کی بلندی۔ کا بھی موجب ہے چنانچہ جتنا اچھا اور کامل صبر ہوگا اتنا ہی کامل اور قوی ایمان ہوگا اس لئے ایسے ابتلا اور آزمائشیں ایک مومن کے لئے ہرگز گھبرانے یا مایوس ہونے کی چیز نہیں ہیں اگرچہ انسان کو از خود کوئی مصیبت اپنے سر مول لینا یا ابتلا کے وقت موت کی دعا مانگنا بھی ممنوع ہے بلکہ ادعیہ ماثورہ۔ مسنون دعاؤں۔ میں اللہ تعالیٰ سے غم اور عافیت کی دعا مانگتے رہنے کی تاکید آئی ہے اسی طرح کسی مصیبت میں گرفتار ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کو رفع کر دینے کی دعا کرنا اور عالم اسباب میں مصیبت سے بچنے یا اس سے نجات پانے کی

تدبیریں اختیار کرنا اور اس کے لئے جدوجہد کرنا بھی صبر کے معانی نہیں ہے بلکہ اس طرح کی کوششیں پسندیدہ ہیں۔ غرض اس طویل حدیث میں اہل ایمان پر محض مسلمان ہونے کی وجہ سے جو آزمائشیں اور مصیبتیں پیش آئیں ان میں صبر و ضبط، ثابت قدمی و پامردی اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے جیسا کہ ان خدا پرست عیسائیوں نے اختیار کر لیا تھا اور اسی غرض سے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو صبر کے باب میں لائے ہیں۔

ایک ضروری تنبیہ

یاد رکھئے! مسلمان پر مصیبتیں، بلائیں اور آفتیں اس کی بد اعمالیوں، احکام الہیہ کی نافرمانیوں اور گناہوں کی سزا کے طور پر بھی آتی ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (شوری: ۴۰)

اور جو مصیبت بھی تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کئے کاموں (بد اعمالیوں) کا نتیجہ ہوتی ہے اور بہت سے گناہ اور خطائیں تو اللہ تعالیٰ (ویسے ہی) معاف فرمادیتے ہیں۔

اس لئے ہر مصیبت میں گرفتار مسلمان کو اپنے گلے پچھلے تمام اعمال کا فوراً جائزہ بھی لینا چاہئے اور اگلے پچھلے علانیہ خفیہ کئے ہوئے گناہوں سے صدق دل سے توبہ اور استغفاد بھی کرتے رہنا چاہئے اور اس صورت میں بھی ان پر نہ صرف صبر کرنا چاہئے بلکہ شکر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی سزا لٹائی ہے، دے کر آخرت کے عذاب الیم (دردناک عذاب) سے بچا دیا ہے اس کے غایت کرم اور شفقت کی دلیل ہے بہر حال صبر و شکر کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفاد بھی بڑی ضروری ہے۔

دوسرا فائدہ، کرامت کا بیان

دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں اور اللہ کے رسول کے دنیا میں موجود نہ ہونے کے زمانہ میں یہ کرامتیں مخلوق کے لئے دین و ایمان کی رہنمائی کا سبب بھی بنتی ہیں اس خدا پرست عیسائی لڑکے کا ایمان لانے کا وعدہ کرنے والے لا علاج مریضوں کو محض اللہ سے دعا کے ذریعہ تندرست کر دینا اس کی کرامت تھی مگر اس کی خدا پرستی دیکھنے کے شفا دینے والا صرف اپنے رب کو بتلاتا ہے اور خود کو محض دعا گو کہتا ہے اولیاء اللہ کی شان یہی ہوتی کہ وہ کرامت کے ذریعے کسی کام کے ہو جانے کو اپنا کارنامہ ہرگز نہیں قرار دیتے اس مقرب بارگاہ الہی عیسائی لڑکے کی یہ کرامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھی۔

کرامت اور معجزہ میں فرق

معجزہ اور کرامت میں اہم ترین فرق یہی ہے کہ صاحب کرامت ولی کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا اور اس کو اپنا کوئی کارنامہ بھی نہیں بتلاتا بلکہ اس کے برعکس علانیہ رسول کے امتی ہونے کا اعلان کرتا ہے اور اس کرامت کو اللہ

تعالیٰ کا فضل اور رسول کا فیض بتلاتا ہے وہ لوگوں کو اپنی کرامت و ولایت کے ماننے کی دعوت دینے کی بجائے ان کو اپنے رب کی عبادت و طاعت کی دعوت دیتا ہے۔

دوسرا فرق

معجزہ اور کرامت میں دوسرا فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی کے مرسل من اللہ (اللہ کا فرستادہ نبی) ہونے کی دلیل ہوتا ہے اس معجزہ کی بنا پر ہی اس نبی پر اور اس کی نبوت پر ایمان لانا لوگوں پر فرض ہوتا ہے اس کے برعکس کرامت نہ ولی کی ولایت کی دلیل ہوتی ہے اور نہ ہی کرامت کی بنا پر کسی ولی کی ولایت کو ماننا ضروری ہوتا ہے اسی معنی کے اعتبار سے کرامات الاولیاء حق امت مسلمہ کے عقائد میں داخل ہے۔

آج کل کے ولیوں کی کرامتیں

آج کل دکاندار قسم کے صاحب کرامت ولیوں کا بہت زور ہے ان سے بچنے کے لئے ہم نے ذرا وضاحت کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے ان کی کرامتیں عموماً مسریزم، شعبدے، نظر بندی وغیرہ کی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔

سچے ولیوں کی پہچان

اولیاء اللہ کی سب سے بڑی پہچان اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پابندی احکام شریعہ ہے خصوصاً حقوق العباد کی ادائیگی اس کے بعد ورع و تقویٰ جس کا بیان آپ عنقریب پڑھیں گے) میں جس قدر کوئی شخص بلند درجہ پر ہے اسی قدر وہ اللہ کا مقرب بندہ اور پہنچا ہوا ولی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

الان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون

یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

الذین امنوا وکانوا یتقون (یونس ۶۲-۶۳)

وہ لوگ جو (ایمان لائے اور اللہ سے) ڈرتے رہے۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے بغیر کوئی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا لہذا جو شخص تقویٰ کے معیار پر پورا نہ ہو وہ کچھ بھی کرشمے دکھلائے سمجھ لو یہ سب ”شعبدے“ ہیں خدا مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے بچائے آمین۔

صبر کی ایک اہم شرط

وعن أنس رضي الله عنه ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ ، فَقَالَ : ” أَتَقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي “ فَقَالَتْ : إِلَيْكَ عَنِّي ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ

تَجِدُ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ ، فَقَالَتْ : لَمْ أَعْرِفَكَ ، فَقَالَ : ” إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى “ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : ” تَبْكِي عَلَيَّ صَبِيًّا لَهَا “ .

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر (جاہلیت کی رسم کے مطابق) رو رہی تھی (اور بین کر رہی تھی) تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (نیک بخت عورت!) خدا سے ڈر اور صبر کر “ تو اس (نادان) عورت نے کہا: ہٹ پرے نہ تجھ پر میری جیسی مصیبت پڑی ہے نہ تو اس سے واقف ہے (جب ہی تو مجھے نصیحت کر رہا ہے) اس عورت نے (شدت غم و اندوہ میں) آپ کو نہ پہچانا تو لوگوں نے اس سے کہا: (بیوقوف عورت!) یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ عورت (سٹپٹائی اور) آپ کے دروازہ پر (دوڑی) آئی مگر وہاں اس نے نہ کوئی دربان پایا نہ پاسان (تو وہ حیران رہ گئی اس نے سمجھا تھا کہ بادشاہوں اور حکمرانوں کی طرح آپ کے دروازے پر جنے کتنے دربان و پاسان ہوں گے بہر حال) اس عورت نے عرض کیا: حضور! میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا (آپ میری گستاخی معاف کر دیجئے) تو آپ نے فرمایا! صبر تو صرف وہی ہے جو صدمہ پڑتے ہی کیا جائے (اب کیا ہوتا ہے) صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اس عورت کا بچہ مر گیا تھا (اس پر) وہ رو رہی تھی (اور بین کر رہی تھی)

صبر کی اس اہم شرط کی وجہ

تشویح: اس حدیث پاک میں رہبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی ایک اہم شرط اور انسانی فطرت کی ایک اہم خصوصیت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے ناقابل برداشت صدمہ اور غم کو بھی انسان وقت گزرنے پر بھول جایا کرتا ہے مرور وقت کو صدمہ اور غم کے بہلا دینے یا قابل برداشت بنا دینے میں بڑا دخل ہے صدمہ پڑنے کے بعد جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے صدمہ اور غم کا ناقابل برداشت بوجھ ہلکا اور قابل برداشت ہوتا جاتا ہے اور پھر بالکل بھول جاتا ہے یا معمولی سی بات بن کر رہ جاتا ہے لہذا وہ صبر جس پر اللہ تعالیٰ نے نیکران اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور جو اولوالعزم انبیاء و رسل کا ”شعار“ ہے وہ صرف وہی ہے جو صدمہ پڑتے ہی کیا جائے اور شدید ترین احساس غم و اندوہ کے باوجود محض اللہ مالک ملک کی رضا اور خوشنودی کے لئے کیا جائے۔

صبر کا ایک اہم مقام اور اس کی جزا

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ أَحْتَسِبُهُ لِإِلْجَانَةِ “ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں اپنے جس مومن بندے کی دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہستی (مثلاً اکلوتے

بیٹے) کو جب اس سے چھین لوں اور وہ اس پر (بیت اجر و ثواب) صبر اختیار کرے تو اس (سر پائ تسلیم) مومن بندے کے لئے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی جزائے خیر نہیں ہے۔

تشریح۔ صبر کی حقیقت کا ایک پہلو

حدیث میں لفظ تم احتسابہ آیا ہے، عربی میں احتساب کا لفظ ”حسان“ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں سمجھنا، گمان کرنا، لہذا کلام نبوت علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام میں احتساب کے معنی ہیں کسی دشوار اور باشقت کام کو اجر و ثواب کا موجب سمجھ کر اختیار کرنا یہی صبر کی عند اللہ مطلوب حقیقت ہے۔

صبر کا ایک اور اہم مرتبہ اور اس کی جزاء عظیم

وعن عائشة رضي الله عنها: أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذاباً يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمةً للمؤمنين، فليس من عبدي يقع في الطاعون فيمكث في بليته صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري.

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ”طاعون“ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے بتلایا: یہ (طاعون میری امت سے پہلے) اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب تھا جس (سرکش و نافرمان) قوم پر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اس کو مسلط فرمادیتا تھا۔ لیکن میری امت کے اہل ایمان کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسی طاعون کو ایک رحمت کا ذریعہ بنا دیا چنانچہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا مومن بندہ طاعون کی وبا میں گھر جائے اور صبر و ضبط کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے (بیت اجر و ثواب اپنی (طاعون زدہ) بستی میں مقیم رہے اس یقین کے ساتھ کہ مجھ پر وہی منصبت آسکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی ہے (اگر میرا اس مرض میں مبتلا ہونا مقدر نہیں ہے تو میں ہرگز ہرگز بیمار نہ ہوں گا اور اگر مقدر ہے، تو ہرگز نہیں بچ سکتا چاہے اس بستی میں رہوں چاہے نہ رہوں پھر یہاں سے بھاگنے سے کیا فائدہ) تو اس (صبر و ضبط اور یقین و ایمان پر اس) کا اجر و ثواب شہید کے اجر کی مانند ہوگا (اور اس طرح یہ طاعون اس کے لئے باعث رحمت بن جائے گا)۔

تشریح۔ اجر عظیم کی وجہ اور شریعت کا حکم

شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ جس بستی میں طاعون پھیلا ہوا ہو کوئی مسلمان طاعون کے ڈر سے اس بستی سے ہرگز نہ بھاگے اگرچہ اسی کیساتھ یہ بھی حکم ہے کہ جس بستی میں طاعون یا اور کوئی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہو بغیر کسی شدید ضرورت یا مجبوری کے وہاں نہ جانا چاہئے اصل یہ ہے کہ نہ صرف دنیا کی ان

قوموں میں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتیں بلکہ ضعیف الایمان مسلمانوں میں بھی پیار سے چھوت چھات اور ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ راسخ ہو چکا ہے۔

اسلام میں چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں

اسلام نے بڑی شدت کے ساتھ اس بیماری کے لگنے کی تردید کی ہے قرآن عظیم کی تعلیم یہ ہے کہ:

لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولنا و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون (توبہ: ۵۱)

”ہر گز ہر گز نہیں آئے گی ہم پر کوئی مصیبت بجز اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہئے ایمان والوں کو“

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لاعدوی ولا طیرة فی الاسلام: نہ اسلام میں بیماری لگنے کی کوئی حقیقت ہے نہ بد شگون کی۔

لہذا ایک خدا پر پختہ ایمان لانے والے مسلمان سے قطعاً بعید ہے کہ وہ کسی طاعون زدہ بستی سے بھاگے

یا طاعون کے مریض کی عیادت کو نہ جائے۔

جس بستی میں وبا پھیلی ہوئی ہو اس میں نہ جانے کے حکم کی وجہ

باقی دوسرے حکم کا مقصد صرف مسلمان کے عقیدہ کو خراب ہونے سے بچانا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی طاعون زدہ بستی

میں چلا گیا اور وہاں چلے جانے کی وجہ سے نہیں بلکہ فضلہ الہی سے بیمار ہو گیا تو خدا نکر وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس بستی میں آنے

کی وجہ سے میں بیمار ہوں نہ یہاں آتا نہ بیمار ہوتا حالانکہ جب اس کے مقدر میں تھا کہ وہ اس مرض میں گرفتار ہوگا تو چاہے یہاں آتا

یا نہ آتا ضرور بیمار ہوتا جیسا کہ مذکورہ بالا آیت کریمہ سے ظاہر ہے بہر حال طبعی طور پر طاعون زدہ بستی سے نہ بھاگنا بڑے دل

جگرے کا کام ہے اور صبر و استقلال اور ایمان کی پختگی کی دلیل ہے اسی لئے اس کا اجر و ثواب شہید کے برابر ہے۔

شہید کے برابر ثواب ملنے کی وجہ

اس لئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والا موت کی پرواہ کئے بغیر میدان جنگ یعنی ”موت

کے منہ“ میں چلا جاتا ہے اسی طرح یہ شخص بھی موت کی پرواہ کئے بغیر اس طاعون زدہ بستی میں مقیم رہتا ہے اور

بیماروں کی تیمارداری یا عیادت کر کے گونا گوں اجر و ثواب سنبھلتا ہے باقی موت تو جب آتی ہوگی، آکر رہے گی، کہیں

بھی ہو، وہ کسی طرح نہیں ٹل سکتی پھر اجر و ثواب سے خود کو محروم کرنا سراسر حماقت اور ضعف ایمان کا نتیجہ ہے۔

اس زمانہ کی جہالت

اس ترقی یافتہ دور میں خصوصاً تعلیم یافتہ طبقہ میں ”بیماری لگنے“ یا کہنے ”بیماری کے جراثیم“ لگ جانے کا ہوا بری

طرح دماغوں پر مسلط ہے بیمار کا تو ذکر ہی کیا تندرست لوگ بھی ایک دوسرے کے گلاس تک میں پانی نہیں پیتے حد یہ ہے کہ بعض خردماغ لوگ تو ہسپتال کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ سانس کے ذریعہ مریضوں کے جراثیم منہ اور ناک میں گھس جائیں گے یہ کیفیت نہ صرف ایمان باللہ کے ضعف کی بلکہ اعلیٰ درجہ کی حماقت اور جہالت کی دلیل ہے حالانکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے جھوٹے کو ”شقا“ بتلایا ہے براہو جہالت کا۔

صبر کا ایک اور اہم مقام اور اس کا اجر عظیم

وعن أنس رضي الله عنه ، قَالَ : سمعتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يقول : ” إِنَّ الله عز وجل ، قَالَ : إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيئَتِيهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ “ يريد عينيه ، رواه البخاري
ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا آپ فرما رہے تھے: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جب میں اپنے کسی بندے کی دونوں محبوب ترین چیزیں یعنی آنکھیں (اس کے صبر و ضبط کی آزمائش کیلئے) لے لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے (اور راضی برضا مولیٰ زندگی بسر کر دیتا ہے) تو میں اس کو ان کے عوض جنت ہی دیتا ہوں۔

تشریح۔ اس اجر عظیم کی وجہ اور ہماری حالت

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک صابر و شاکر ناپینا بندے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی قدر و منزلت ہے مگر براہو ہماری اس نخوت پرستی کا کہ ہم عام طور پر ایک ناپینا مسلمان کو حقیر و خوار انسان سمجھتے ہیں اس کا احترام تو کجا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شادی بیاہ بھی گوارا نہیں کرتے اگر اس کی کسی طرح کی امداد کرتے ہیں تو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھ کر حالانکہ اس حدیث کی روشنی میں وہ بڑی عزت و احترام کا مستحق ہے آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ایک مومن ناپینا عبد اللہ بن أم مكتومؓ سے بے اعتنائی برتنے پر۔ حالانکہ وہ ایک خالص دینی مصلحت کے تحت تھی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا عتاب فرمایا کہ پوری سورت عیس نازل فرمادی چنانچہ اس کے بعد جب بھی آپ کی خدمت میں وہ آتے تو آپ عتابی فیہ رہی۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں میرے رب نے مجھ پر عتاب فرمایا۔ فرما کر ”خوش آمدید“ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

جنتی عورت

وعن عطلة بن أبي رباح ، قَالَ : قَالَ لي ابنُ عباس رضي الله عنهما : أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : هَذِهِ الْمَرْأَةُ السُّودَاءُ أَنْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَصْرَعُ ، وَإِنِّي أَتَكشَّفُ ، فَادْعُ اللهَ تَعَالَى لي . قَالَ : ” إِنَّ شَتَّى صَبْرَتِ وَلَكِ

الْجَنَّةُ ، وَإِنَّ شَفِيعَ دَعْوَتِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُعَالِيكَ “ فَقَالَتْ : أَصْبِرُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَنْتَكشَفُ فَادَعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَنْتَكشَفُ ، فَدَعَا لَهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ: (ایک دن) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کیا تم جنتی عورت کو دیکھنا پسند نہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ کہنے لگے: دیکھو یہ سیاہ فام عورت جنتی ہے یہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھ پر مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور اس دورہ کی حالت میں میرا بدن کھل جاتا ہے (مجھے برہنگی کے گناہ میں پکڑے جانے کا ڈر ہے) آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس موذی مرض سے نجات دے دے آپ نے فرمایا تو چاہے تو اس (لاعلاج) بیماری پر صبر کرو اور اس صبر کے صلہ میں جنت لے لے اور تو چاہے تو میں تیرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ تجھے اس مرض سے نجات دے دے اس عورت نے عرض کیا میں (بخوشی) صبر کرتی ہوں پھر عرض کیا تو اسکے لئے تو دعا فرما دیجئے کہ میرا بدن (دورہ کے وقت) نہ کھلے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا فرمادی۔

صبر کا ایک اور اہم مقام اور ایک سبق آموز واقعہ

تشویح: اس سیاہ فام جنتی عورت کا خوف و شہیتہ دیکھنے اور سبق لینے کے قابل ہے مرگی جیسے موذی اور روح فرسا مرض کی اذیت اور تکلیف سے بچنے کی غرض سے اچھا ہونے کی دعا نہیں کرانا چاہتی بلکہ برہنگی کے گناہ اور معصیت سے بچنے کی غرض سے تندرست ہونے کی دعا کرنا چاہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسی جذبہ کو محسوس فرما کر اسے اختیار دیا کہتے صبر کرنے کی تلقین فرمائی چنانچہ اس نے دنیا کی چند روزہ تکلیف برداشت کرنے اور اس کے عوض جنت یعنی ابدی مقام قرب و رضا الہی میسر آنے کو تندرست ہونے پر ترجیح دی اور پھر برہنگی کے گناہ اور عار سے بچنے کی غرض سے صرف دورہ کے وقت بدن نہ کھلنے کی دعا کرائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس خوف کو دور کرنے کے لئے بدن نہ کھلنے کی دعا فرمادی جو یقیناً مقبول ہوئی ہوگی تاکہ وہ مطمئن ہو جائے ورنہ تو ایسی بے ہوشی کی حالت میں بے اختیار بدن کھل جاتا نہ گناہ نہ معصیت۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے دل میں ایسا ہی خوف و شہیتہ پیدا فرمادیں۔

انبیاء علیہم السلام کے صبر کا امتحان

وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قَالَ : كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، صَلَّاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَادَمَوْهُ ، وَهُوَ يَمْسَحُ الْمَءَ عَنْ وَجْهِهِ ، يَقُولُ : ” اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ “ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: میری آنکھوں کے سامنے ہے وہ منظر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں سے ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ اس (رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم) نبی کو اس کی قوم نے مارتے مارتے لہو لہان کر دیا اور وہ (اولو العزم) نبی اپنے چہرہ سے خون پونچھتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا: اے اللہ! تو میری قوم کے اس گناہ کو معاف کر دے یہ نادان "ہیں جانتے نہیں (کسی خلاصہ کائنات ہستی پر دست درازی کر رہے ہیں)

یہ اولو العزم نبی کون ہیں

تشریح: یہ نبی خود رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ واقعہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل فراخ حوصلگی بلند ہمتی اور صبر کی روشن دلیل ہے طائف میں اس وقت پیش آیا جب آپ مکہ سے الہ طائف کو اسلام کی دعوت دینے کی غرض سے تشریف لے گئے تھے تفصیلات "سیرت" کی کتابوں میں ضرور پڑھیں ایمان تازہ ہوگا۔

معمولی سے معمولی مصیبت یا دکھ تکلیف پر

صبر کرنا بھی خطاؤں کا کفارہ بنتا ہے

وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : "مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ ، وَلَا وَصَبٍ ، وَلَا هَمٍّ ، وَلَا حَزَنٍ ، وَلَا أذى ، وَلَا غَمٍّ ، حَتَّى الشُّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . و"الْوَصَبُ" : المرض .
ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ: آپ نے فرمایا: مسلمان کسی بھی مشقت و تعب میں دکھ بیماری، فکر و پریشانی میں غم و اندوہ میں یا تکلیف و اذیت میں گرفتار ہو یہاں تک کہ کوئی کاٹنا بھی لگ جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس (تکلیف یا مصیبت) کو اس کی خطاؤں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔

معمولی معمولی چیزوں پر صبر کرنے کا فائدہ

تشریح: اس حدیث پاک کے تحت ہر معمولی سے معمولی مصیبت یا تکلیف بھی ثواب کی نیت سے اس پر صبر و ضبط اختیار کرنے کی صورت میں مسلمان کے لئے رحمت بن جاتی ہے یعنی خطاؤں کا کفارہ بن جاتی ہے اور صبر کرنے کا مستقل ملکہ اور عادت پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اس حدیث پاک میں اسی بناء پر معمولی سے معمولی دکھ تکلیف یا مصیبت پر صبر کی ترغیب دی گئی ہے اس لئے انسان کا فرض ہے کہ ہر چھوٹی بڑی مصیبت یا تکلیف جو نبی پیش آئے قرآن کریم کی تعلیم کے تحت فوراً اس پر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے گناہوں سے توبہ

واستغفار کرے اور صبر و ضبط کے ساتھ جائز تدابیر اختیار کرے ان شاء اللہ بہت جلد رستگاری نصیب ہوگی اور گناہوں کے کفارہ میں تو کوئی شک ہی نہیں۔

صبر کرنے سے خطائیں اور گناہ خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں

وعن ابن مسعود رضي الله عنه ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ تُوعَكُ وَعَكَأَ شَدِيداً ، قَالَ : " أَجَلٌ ، إِنِّي أُوَعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ " قُلْتُ : ذَلِكَ أَنْ لَكَ أَجْرَيْنِ ؟ قَالَ : " أَجَلٌ ، ذَلِكَ كَذَلِكَ ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَدْنَى ، شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَرَ اللهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ ، وَحَطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَّهَا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ" الْوَعَكُ " : مَغْتُ الْحُمَى ، وَقِيلَ : الْحُمَى .

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: میں (ایک مرتبہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کی مزاج پر سی کیلتے) حجرہ مبارک میں داخل ہوا آپ کو بڑے زور کا بخار چڑھا ہوا تھا میں نے (جسم مبارک پر ہاتھ لگا کر بخار کی شدت کو محسوس کیا تو) عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو تو بڑی شدت کا بخار چڑھا ہوا ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تو بخار بھی تم میں کے دو آدمیوں کے برابر زور کا چڑھتا ہے " میں نے عرض کیا جی ہاں اسی لئے تو آپ کا اجر بھی دو گنا ہے آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے (اس کے بعد) آپ نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو چاہے کائنات اس سے بھی کمتر کوئی چیز چھ جائے (اور وہ جیتا اجر و ثواب اس پر صبر کرے) تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کی خطاؤں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اور اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے (موسم خزاں میں) درخت کے پتے گر جلیا کرتے ہیں۔

ہر ایک کے صبر کا امتحان اس کے رتبہ کے اعتبار سے لیا جاتا ہے

تشریح: سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض اور دکھ بیماریوں کی یہ دو چندہ چند شدت آپ کے غایت قرب الہی اور عند اللہ بلند ترین مرتبہ پر فائز ہونے پر مبنی ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يتلى الرجل على حسب دينه فان كان في دينه صلماً اشده بلاءه وان كان في دينه رقيقاً هون عليه.

سب سے زیادہ سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے اس کے بعد جو ان سے ملتے جلتے ہوں پھر جو ان سے ملتے جلتے ہوں آدمی کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے پس اگر وہ دین میں پختہ اور محکم ہوتا ہے تو اس کی

آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اور اگر وہ دین میں نرم اور کمزور ہوتا ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے (اس لئے کہ یہ آزمائش اور مصیبتوں میں گرفتاری تو اس کے درجے بلند کرنے کے لئے ہوتی ہے)

موت کی شدت بھی مرنے والے کے صبر کا

امتحان اور درجات کی بلندی کا وسیلہ ہے

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب کسی کو آسانی سے مرنا دیکھتیں تو اس پر رشک کرتیں موت کی شدت اور سکرات موت کی تکلیفوں کو خدا کا عذاب سمجھتی تھیں اور موت کی سہولت اور آسانی کو اللہ تعالیٰ کی قابل رشک رحمت سمجھتی تھیں مگر جب انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات موت کی شدت کا عالم پیشم خود دیکھا تو ان کو اپنی کوتاہ فہمی کا احساس ہوا اور اس کے بعد فرماتی ہیں۔

مَا أَغْضَبَ أَحَدًا أَبْهَوْنَ مَوْتَهُ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت موت کی کیفیت دیکھ لینے کے بعد اب میں کسی کی موت کی آسانی پر رشک نہیں کرتی۔

ایک شبہ کا ازالہ

اس حدیث کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ موت کی سہولت اور آسانی اللہ کی ”رحمت“ نہیں ہے اس لئے کہ مسنون دعاؤں میں موت کی سختی سے پناہ مانگنے اور موت کی آسانی کی دعا مانگنے کا ذکر آتا ہے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی آخری آزمائش تھی باقی اور انبیاء اکرام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں سے حضرت ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا صبر تو ضرب المثل ہے قرآن کریم میں ان کی بیماریوں مصیبتوں اور ان پر صبر کا حال تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

مصیبتیں مومن کیلئے باعث خیر ہیں

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِيبْ مِنْهُ " رواه البخاري . وَضَبَّطُوا " يُصِيبُ " بَفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا "۳" .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو اللہ تعالیٰ کوئی خیر پہنچانا چاہتے ہیں (یعنی بلند مرتبہ عطا فرمانا چاہتے ہیں) اسے کسی مصیبت میں گرفتار کر دیتے ہیں۔

مصیبتیں کن لوگوں کیلئے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہیں

تشوہیح: یہ اللہ کے وہی نیکو کار بندے ہوتے ہیں جن کے مصیبت میں گرفتار ہونے کا بظاہر کوئی سبب گناہ وغیرہ نظر نہیں آتا انتہا درجہ کے نیکو کار اور پرہیزگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیکو کاری سے خوش ہو کر جنت میں جو

اعلیٰ درجات ان کو دینا چاہتے ہیں ان کو حاصل کرنے کیلئے جہاں اور نیک کاموں کی ان کو توفیق دیتے ہیں وہیں مصیبت میں گرفتار کر کے مبر کرنے کی توفیق بھی دے دیتے ہیں تاکہ مرنے سے پہلے وہ ہر اعتبار سے ان درجات کے مستحق ہو جائیں سبحان اللہ کیا شان کریمی ہے رب العالمین کی پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔

کیسی ہی مصیبتیں آئیں موت کی دعا ہرگز نہ مانگنی چاہئے

وعن أنس رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لَضُرِّ أَصَابَةٍ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فاعلًا ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے زیادہ سے زیادہ یہ دعا کیا کرے اے اللہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ میرے لئے زندہ رہنا بہتر ہو اور جب مر جانا میرے لئے بہتر ہو تو اس وقت مجھے دنیا سے اٹھالے۔

موت کی دعا کیوں نہ مانگنی چاہئے

تشریح: عام طور پر لوگ بیماری کی شدت یا درازی سے گھبرا کر موت کی دعا مانگنے لگتے ہیں یہ بڑی نادانی کی بات ہے اس لئے کہ موت کا توجو وقت مقرر ہے اسی وقت آئے گی موت کی تمنا یا دعا کر کے بلاوجہ اور بلا فائدہ خود کو اجر و ثواب سے محروم کر لیتے ہیں اس سے بڑھ کر خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے اسی لئے حدیث شریف میں موت کی تمنا سے سختی سے منع فرمایا ہے اسی کے ساتھ مذکورہ بالا دعا کرنے کی تلقین فرما کر اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں سمجھنا چاہئے کہ زندہ رہنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔

پہلی اُمتوں کے اہل ایمان پر کیسی کیسی مصیبتیں آئی ہیں

وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه ، قَالَ : شَكَّوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرَّةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فَقُلْنَا : أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو لَنَا ؟ فَقَالَ : " قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالنَّشْرِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نَصْفَيْنِ ، وَيُمَشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ ، مَا يَصُلُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَاللَّهُ لَيَتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّكَّابُ مِنْ صَنْعَةِ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذُّبَّ عَلَى غَنَمِهِ ، وَلَكِنْكُمْ تَسْتَمْعِلُونَ " رواه البخاري .
وفي رواية : " وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرَّةً وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً "

ترجمہ: حضرت ابو عبد اللہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: (ایک مرتبہ) ہم نے (قریش کے وحشیانہ مظالم سے عاجز آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے نفع و نصرت طلب نہیں کرتے؟) (اس ظلم و جور سے رشتگاری کی) ہمارے لئے دعا نہیں کرتے؟ آپ اس وقت کعبہ شریف کی دیوار کے سایہ میں اپنی چادر کا تکیہ لگائے (آرام سے) بیٹھے ہوئے تھے (یہ شکوہ سن کر سیدھے ہو بیٹھے اور) فرمایا: (تم ابھی سے تلملا اٹھے؟ ارے) تم سے پہلی امتوں میں تو (خدا پر) ایمان لانے والے شخص کو (ایمان کے جرم میں) گرفتار کیا جاتا پھر اس کے لئے زمین میں قد آدم گڑھا کھودا جاتا پھر اس مومن کو اس میں کھڑا کیا جاتا تھا (اور مٹی بھر دی جاتی تھی) پھر آرا لایا جاتا پھر اس کے بیچ سر پر رکھا جاتا اور چیر کر دو ٹکڑے کر دیئے جاتے اور (یا) لوہے کے کنگھیوں سے اس کے بدن کا گوشت ہڈیوں تک کھرچ کر اتار دیا جاتا اور یہ (وحشیانہ مظالم) بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے دین و ایمان سے منحرف نہ کر پاتے۔

خدا کی قسم اللہ تعالیٰ (کا وعدہ ہے کہ وہ) اس دین کو ضرور بالضرور تمام و کمال کی حد تک پہنچا کر (اور روئے زمین پر پھیلا کر) رہے گا یہاں تک کہ ایک سوار (تن تہا) صنعا (یمین) سے چل کر حضر موت پہنچ جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا ڈر اور خوف نہ ہو گا یا (زیادہ سے زیادہ) بکریوں پر بھیڑیے کا ڈر ہو گا ایک روایت میں حضرت خبابؓ اس شکایت کا عذر پیش کرتے ہیں ہم قریش کے (بیرحمانہ) نختیوں کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔“

اس امت کی اور پہلی امتوں کی آزمائشوں میں فرق اور اس کی وجہ

تشریح: پہلی امتوں کے مومنین پر مظالم کا کچھ تذکرہ اجمالی طور پر قرآن کریم اور احادیث میں موجود ہے خند قوں والوں کا قصہ آپ اسی باب میں پڑھ چکے ہیں اور تاریخ خصوصاً بنی اسرائیل کی تاریخ کی کتابیں تو ان قصوں سے بھری پڑی ہیں یہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سر تا پا رحمت ذات گرامی کا فیض ہے کہ اس امت کے مومنین پر محض ایمان لانے کے جرم میں اس قسم کے لرزہ خیز و وحشیانہ مظالم نہیں ہوئے پیشک ابتداء میں قریش نے کچھ وحشیانہ مظالم کئے مگر وہ اس طرح کے لرزہ خیز نہ تھے اور بہت تھوڑی مدت جاری رہے اور وہ بھی چند گنے چنے افراد پر اور ہر مظلوم مسلمان کو جلد ہی کسی نہ کسی طرح نجات مل گئی اللہ اللہ اسی لئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شکوہ پر چلیں۔ جبیں ہوئے اور سیدھے ہو کر بیٹھے گئے اور نصیحت کیساتھ ساتھ صبر کرنے کی تلقین فرمادی بہر صورت مسلمانوں کی کمی زندگی کی تاریخ قریش کے ان مظالم اور مسلمانوں کے ان پر صبر کرنے کی شاہد یہ اس کو ضرور پڑھیے تاکہ ایمان تازہ ہو۔

عظیم بشارت

حدیث کے آخری حصہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بشارت دے رہے ہیں کہ عنقریب

جزیرۃ العرب خدا رسول اور مسلمانوں کے دشمنوں سے پاک و صاف ہو جائے گا اسلامی حکومت کے قیام اور اس کے نظام عدل و انصاف اور احکام جرم و سزا کے نفاذ کے بعد امن و امان اس قدر عام ہو جائے گا کہ نہ کفار اور دشمنان اسلام کا نام و نشان جزیرۃ العرب میں باقی رہے گا اور نہ کسی جرائم پیشہ چور ڈاکو کی ہمت ہوگی کہ کسی مسلمان کی جان و مال پر دست درازی کر سکے اس لئے کہ اسلام ہر مسلمان یازمی۔ غیر مسلم رعایا۔ کی جان و مال کی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے ہاں صرف جنگلوں بیابانوں میں درندے تو باقی رہ جائیں گے جن سے مسافروں کو بچنے کی فکر ہوگی انسان کے جان و مال کا دشمن انسان کوئی باقی نہ رہے گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی جزیرۃ العرب کافر و مشرک کے وجود سے پاک ہو گیا تھا صرف کچھ یہودی اور نصرانی جزیرہ (ٹیکس) ادا کر کے اسلامی حکومت کی رعایا کے طور پر رہ گئے تھے سو آپ نے وفات سے پہلے وصیت فرمادی تھی اخرجوا الیہود و النصارى من جزیرۃ العرب (جزیرۃ العرب سے یہود و نصاریٰ کو ضرور نکال دینا) چنانچہ عہد فاروقی ہی میں یہ وصیت اس طرح پوری کی گئی کہ اس وقت سے اس وقت تک کوئی غیر مسلم جزیرۃ العرب میں مستقل سکونت اختیار نہ کر سکا آج بھی اسلامی حکومت کے اجازت نامے (ویزا) کے بغیر کوئی کافر حجاز میں داخل نہیں ہو سکتا مستقل سکونت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ مندی اور بے مثل صبر و ضبط کا ایک واقعہ

وعن ابن مسعود رضي الله عنه ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ ، فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَأَعْطَى عَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَأَعْطَى نَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَأَثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ . فَقَالَ رَجُلٌ : وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا ، وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجْهَ اللَّهِ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لِأَخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصَّرْفِ . ثُمَّ قَالَ : ” فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟ ” ثُمَّ قَالَ : ” يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ . ” فَقُلْتُ : لَا جَرَمَ لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيثًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَقَوْلُهُ : ” كَالصَّرْفِ ” هُوَ بِكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ : وَهُوَ صَيْغٌ أَحْمَرٌ .

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ: جب (فتح مکہ کے بعد) جنگ حنین کا واقعہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے وقتی شکست کے بعد شاندار فتح نصیب فرمادی اور بے شمار مال غنیمت فاتحین کے ہاتھ آیا) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم میں (شرعی مصلحت کے تحت) بعض لوگوں کو (جو فتح مکہ کے وقت ہی مسلمان ہوئے تھے اور ابھی مسلمان ہوئے ایک مہینہ بھی نہ گزرا تھا) تالیف قلوب کے طور پر ترجیح دی چنانچہ (ایک نو مسلم قبیلہ کے سردار) اقرع بن حابس کو

سوانٹ دیئے عیینہ بن حصن کو بھی اتنے ہی (سوانٹ) دیئے اور ان دونوں (سردارانِ قبائل) کے علاوہ اور بھی عرب (قریش) سرداروں کو (اسی طرح گرفتار مالِ غنیمت) کو یا اور ان (نو مسلم سردارانِ قبائل) کو اس تقسیم پر (پرانے مسلمان انصار و مہاجرین پر ترجیح دی تو ایک (گستاخ) شخص بولا: خدا کی قسم نہ اس (مالِ غنیمت کی تقسیم) میں انصاف کیا گیا ہے اور نہ یہ تقسیم اللہ کے لئے کی گئی ہے (بلکہ اپنی قوم قریش کو خوش کرنے کے لئے یہ تقسیم کی گئی ہے) تو۔ عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا: بخدا میں اس (مگر اہ کن پروپیگنڈے) کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دوں گا چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو اس شخص نے کہا تھا آپ کو اس کی اطلاع دی (کہ فلاں شخص نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک (یہ سن کر ایک دم غصہ کے مارے کندن کی طرح) سرخ ہو گیا پھر (قدرے سکون کے بعد) ارشاد فرمایا تو پھر اور کون انصاف کرے گا جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی انصاف نہ کریں گے (یعنی انصاف اور محل انصاف کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا جب اس دریدہ دہن شخص کے بقول اس تقسیم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے انصاف نہیں کیا تو اور دنیا میں کون انصاف کر سکتا ہے حقیقت صرف یہ ہے کہ اس شخص کو کچھ نہیں ملا اس لئے یہ بکواس کر رہا ہے اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہزاروں ہزار رحمت فرمائیں بیشک ان کو تو (ان کی امت کی جانب سے) اس سے بہت زیادہ ایذائیں پہنچائی گئی ہیں مگر انہوں نے ہمیشہ صبر و ضبط سے کام لیا (اور کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی اسی طرح ہمیں بھی صبر و ضبط سے کام لینا چاہئے) حضرت عبد اللہ بن مسعود آپ کی اس اذیت کو دیکھ کر اس اطلاع دینے پر بہت پچھتائے اور انہوں نے (دل میں) کہا کہ آئندہ میں ہر گز ہر گز کوئی تکلیف دہ بات آپ کی خدمت میں پیش نہ کروں گا۔ حدیث میں وارد صرف کالفظ ”ص“ کے زیر کے ساتھ ہے جس کے معنی سرخ رنگ کے ہیں۔

تشریح۔ اس تقسیم کے واقعہ کی تشریح اور آپ کا صبر

حدیث کے ترجمہ میں ہم قوسین (بریکٹ) کے درمیان واضح کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نو مسلم قبائل اور ان کے سرداروں کو مالِ غنیمت کی تقسیم میں قدیم ترین مہاجر و انصار غازیوں پر فوقیت اور ترجیح محض دینی مصلحت اور شرعی حکم تالیف القلوب (نو مسلموں کی دلجوئی) کے نیت دی تھی چنانچہ قرآن کریم میں مولفۃ القلوب کی ایک مستقل قسم مذکور ہے اس لئے آپ چاہتے تو رسولِ فطین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلاف اس گمراہ کن پروپیگنڈہ کرنے والے کو سزا دے سکتے تھے مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم:

واصبر کما صبر اولوا العزم من الرسل (احقاف: ۵)

اور صبر کرو (اے نبی) جیسے اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا ہے کے تحت صبر و ضبط سے کام لیا اور حضرت موسیٰ کا واقعہ یاد کر کے اپنی اذیت اور غم و غصہ کو تسکین دی۔

قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کی ایذا کا ذکر

اور حضرت موسیٰ کی ایذا رسانی خود ان کی زبانی قرآن کریم میں مذکور ہے ارشاد ہے۔

و اذ قال موسیٰ لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم (الصف: ۵)

اور جب کہ (حضرت) موسیٰ نے اپنی (موزی) قوم سے کہا: تم یہ جانتے ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا تمہارا رسول ہوں، مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو؟

اس امت کو ایذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے

بچنے کی تاکید اور موزی کی سزا

اسی لئے اُمت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔

یا ایہا الذین امنوا لا تکنوا کالذین اذوا موسیٰ (احزاب: ۶۹)

اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح (موزی) مت بنو جنہوں نے موسیٰ کو ایذا پہنچائی اور ایذا رسول کی شدید ترین سزا کا بھی اعلان کیا ہے۔

ان الذین یؤذون رسول اللہ (احزاب: ۵۷)

پیشک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں۔

ایذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں سزا

مگر اس کے باوجود بعض اشقیاء امت ایذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب ہو کر ابدی ہلاکت میں گرفتار ہوئے ہیں یہ شقی ازلی وہی منافق ہے جس کی اولاد اور پیرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی پشتگونی کے مطابق عالم اسلام کے لئے ایک عظیم اور ہلاکت خیز داخلی فتنہ کے موجب بنے ہیں اور تاریخ میں خوارج کے نام سے مشہور ہوئے ہیں اور تقریباً تین صدی تک امت کے لئے جان لیوا مصیبت بنے رہے ہیں بے شمار مسلمانوں کا بے دریغ خون بہایا ہے مسلمانوں کا قتل و غارت ان کا خاص شیوہ رہا ہے خوزیر لڑائیوں کے بعد خدا خدا کر کے امت ان کی بیخ کنی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اس شخص کا نام ذوالخویرہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے رفیق جہاد غازیوں نے جنگ نہروان میں اسے قتل کیا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو ایذا پہنچانے کا حکم

یاد رکھئے ایذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب شخص جیسے آپ کی حیات میں کافر اور واجب القتل تھا ایسے ہی آپ کی وفات کے بعد بھی امت قطعی دلائل کی روشنی میں ایسے شخص کے کفر اور قتل پر متفق ہے چنانچہ تقریباً ہر دور میں ایسے موذی اور شاتم رسول پیدا ہوتے رہے ہیں اور اسلامی حکومتیں یا غیرت ایمانی کے مالک مسلمان ان کو قتل کرتے اور کیفر کر دیا کرتے رہے ہیں اس ترجمہ کے وقت بھی ایک غیور مسلمان نے ایک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے موذی کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات سے مشتعل ہو کر قتل کر دیا ہے اور سندھ میں اس پر مقدمہ چل رہا ہے اور کابل میں امیر کابل کے شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سزا دینے کا واقعہ تو مشہور ہی ہے۔

مومن زیادہ تر مصیبتوں میں کیوں گرفتار رہتے ہیں

وعن أنس رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُؤَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضى الله الرضا ومن سخط الله السخط رواه الترمذى وقال: حديث حسن.

توجہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی (نیکی کار) بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو (اسکی کوتاہیوں اور خطاؤں کی) جلدی سے دنیا میں ہی کسی مصیبت میں گرفتار کر کے سزا دیتے ہیں (اور آخرت کے دردناک ابدی عذاب سے بچا لیتے ہیں) اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی (نافرمان و بدکار) بندے کا برا چاہتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتے تاکہ قیامت کے دن (اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی) پوری پوری سزادیں۔

نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجر و ثواب کی زیادتی ابتلاء کی زیادتی کے ساتھ ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو محبوب جانتا ہے ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے جو اللہ کی رضا پر راضی رہا۔ اس سے اللہ راضی ہو اور جو ناراض ہو اللہ اس سے ناراض ہو۔ (ترمذی) اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔

مصیبتوں یاد رکھ بیماریوں میں گرفتار ہونے کے وقت ایک مومن کو کیا کرنا چاہئے

تشریح: یہ حدیث پاک ہر مسلمان کو سبق دیتی ہے کہ جب بھی وہ کسی آفت و مصیبت یاد رکھ بیماری میں گرفتار ہو تو فوراً اس کو اپنے شب و روز کے اعمال کا جائزہ لینا چاہئے اگر کوئی گناہ یا نافرمانی سرزد ہوئی ہو تو فوراً اس سے

توبہ و استغفار کرنا چاہئے اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو جلد از جلد اس کی تلافی کرنی چاہئے اور اسی کے ساتھ صبر و شکر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کریمی سے دنیا میں ہی سزا دے کر آخرت کے عذاب سے بچالیا اور اگر بظاہر خدا کی ناراضگی کا کوئی سبب نظر نہ آئے تب بھی توبہ و استغفار کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ بہت سے گناہوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور صبر و شکر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے کفارہ سینات اور رفع درجات کا سامان پیدا کر دیا بہر حال مصائب و آلام اور دکھ بیماری میں گرفتار ہونے کے وقت ایک مومن کا وظیفہ اور شعار بجائے شکوہ و شکایت اور جزع و فزع (رونے دھونے و ادیلا کرنے) کے توبہ و استغفار اور صبر و شکر ہونا چاہئے۔

ہماری حالت اور اس کی اصلاح کی تدبیر

اس زمانے میں ہماری خدا سے بے تعلقی کا یہ عالم ہے کہ ہم ان مصائب و آلام کو رفع کرنے اور دکھ بیماری کا علاج کرنے کے لئے ہر طرف دوڑتے ہیں دنیاوی تدابیر و اسباب میں تو سرگرداں رہتے ہیں مگر خدا کی طرف بھول کر بھی متوجہ نہیں ہوتے خدا کا نام زبان پر آتا بھی ہے تو گستاخانہ شکوہ و شکایت اور اظہار ناراضگی کے لئے۔ اس سے خدا کی ناراضگی اور بھی بڑھتی ہے اور اس کے نتیجے میں مصیبتوں اور دکھ بیماری میں اور اضافہ ہوتا ہے حالانکہ مسبب الاسباب اور کار ساز مطلق وہی ہے اس کے حکم کے بغیر نہ کوئی تدبیر کارگر ہو سکتی ہے نہ ودا علاج اور نہ کوئی مددگار و ہمدرد ہی کچھ کر سکتا ہے نہ طیب و ڈاکٹر ہی، کس قدر خسارہ اور تباہی کا موجب ہے ہماری یہ غفلت اور بے تعلقی خدا سے 'نسوا اللہ فنسیہم' کے مطابق ہم نے خدا کو بھلا دیا خدا نے ہم کو بھلا دیا: خدا ہماری حالت پر رحم کرے اور ہمیں توبہ و استغفار، صبر و ضبط اور شکر کی توفیق عطا کرے آمین۔

مومنوں کیلئے مصیبتیں ایک بشارت ہیں

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ" رواه الترمذی، وَقَالَ: "حدیث حسن"

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بڑی جزائے خیر بڑی ہی مصیبت (برداشت کرنے) پر ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت فرماتے ہیں انہیں (مصیبتوں دکھ بیماریوں اور جانی و مالی نقصان میں گرفتار کر کے) آزما تے ہیں پس جو شخص (اللہ کی مرضی پر راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں اور جو شخص (ان مصیبتوں میں جزع و فزع اور وادیلا کرتا ہے اور) اللہ تعالیٰ سے (شاک اور) ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔

اس بشارت کی شرط صبر ہے

تشریح: اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کے لئے یہ حدیث بہت بڑی بشارت ہے بشرطیکہ وہ صبر و ضبط سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کی مرضی پر دل سے راضی رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مصائب و آلام پر صبر و ضبط کی اور اپنی مرضی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائیں قرآن کریم بھی اس کی تاکید کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ (اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔)

صبر و ضبط کا ایک بے نظیر اور سبق آموز واقعہ

وعن انس رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقَبَضَ الصَّبِيَّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ، قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ وَهِيَ أُمُّ الصَّبِيِّ: هُوَ اسْكَنَ مَا كَانَ، فَفَرَّبْتُ إِلَيْهِ الْعَشَّةَ فَتَعَشَى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَتْ: وَأَرَاوُ الصَّبِيَّ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: "أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا"، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: أَحْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَعَثَ مَعَهُ بِتَمْرَاتٍ، فَقَالَ: "أَمَعَهُ شَيْءٌ؟" قَالَ: نَعَمْ، تَمْرَاتٌ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَعَهَا، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدِ اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: فَرَأَيْتُ تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدَ قَرَأُوا الْقُرْآنَ، يَعْنِي: مِنْ أَوْلَادِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُوَلُودِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: مَاتَ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سَلِيمٍ، فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا: لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَحَدُهُمْ، فَجَلَّةٌ فَفَرَّبْتُ إِلَيْهِ عَشَّةً فَأَكَلَ وَشَرِبَ، ثُمَّ تَصَنَّمَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصْنَعُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا. فَلَمَّا أَنْ رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا، قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتِ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ، أَلَيْسَ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَتْ: فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ، قَالَ: فَغَضِبَ، ثُمَّ قَالَ: تَرَكْتَنِي حَتَّى إِذَا تَلَطَّخْتُ، ثُمَّ أَخْبَرْتَنِي بِابْنِي؟! فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَارَكَ اللَّهُ فِي لَيْتِكُمَا"، قَالَ: فَحَمَلْتُ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لَا يَطْرُقُهَا طَرُوقًا فَذَنَبُوا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَهَا الْمُخَاضُ، فَاحْتَسَبَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ، وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبُّ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ وَأَدْخَلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ

وَقَدْ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى ، تَقُولُ أُمُّ سَلِيمٍ : يَا أَبَا طَلْحَةَ ، مَا أَجْدُ اللَّيْلِي كُنْتُ أَجْدُ انْطَلِقُ ، فَاَنْطَلَقْنَا وَضَرَبْنَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِيمًا فَوَلَدْتُ غُلَامًا . فَقَالَتْ لِي أُمِّي : يَا أَنْسُ ، لَا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَعُدُّوْهُ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَاَنْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ .

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا بیمار تھا وہ (اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر) سفر میں چلے گئے تو (ان کے پیچھے) اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ جب ابو طلحہ (سفر سے) واپس آئے تو (آتے ہی) انہوں نے (اپنے بیٹے کا حال) دریافت کیا۔ میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ (ان کی اہلیہ اور بچے کی ماں ام سلیم نے کہا: اب تو اس کو پہلے کی نسبت بہت زیادہ سکون ہے (وہ یہ سن کر مطمئن ہو گئے) تو ام سلیم نے شام کا کھانا ان کے سامنے رکھا انہوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا پھر (رات کو) جماع بھی کیا جب وہ (سب کاموں سے) فارغ ہو گئے تو ام سلیم نے بتلایا کہ (تمہارے بیٹے کا تمہارے سفر میں جانے کے بعد انتقال ہو گیا تھا لوگوں نے اس کو دفن کر دیا ہے) انہیں بیٹے کی وفات کے صدمہ کے علاوہ اپنی بیوی کی یہ حرکت بھی بہت ناگوار گزری تو صبح ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور (بطور شکایت) تمام واقعہ بیان کیا تو آپ نے (ام سلیم کے صبر و ضبط سے خوش ہو کر) فرمایا: تو تم نے شب زفاف بھی منائی؟ ابو طلحہ نے عرض کیا: جی ہاں آپ نے ان دونوں کے لئے (اولاد صالح کی) دعا فرمائی اے اللہ تو ان دونوں کو برکت عطا فرما "چنانچہ ام سلیم کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو انس کہتے ہیں مجھ سے ابو طلحہ نے کہا: اس بچہ کو گود میں اٹھاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ چند کھجوریں بھی ساتھ بھیجیں (جب میں آپ کی خدمت میں بچے کو لیکر حاضر ہوا) تو آپ نے دریافت فرمایا: کچھ اس بچے کے ساتھ لائے بھی ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں یہ چند کھجوریں ہیں آپ نے (ان میں سے) ایک کھجور اٹھائی اور دہن مبارک میں چبائی اور اپنے دہن سے نکال کر بچہ کے منہ میں رکھ دی اور پھر تحسین کی (یعنی بچہ کے تالو سے لگا کر چٹا دی) اور اس کا نام عبد اللہ رکھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ مشہور محدث سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں مجھ سے قبیلہ انصار کے ایک آدمی نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا برکت کا کرشمہ دیکھا کہ ابو طلحہ کے اس لڑکے کے (جس کا نام آپ نے عبد اللہ رکھا تھا اور برکت کی دعا فرمائی تھی) نو لڑکے ہیں جو سب کے سب قرآن کے قاری (اور حافظ و عالم) ہیں "۔

صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں (یہی واقعہ زیادہ وضاحت کے ساتھ مذکور) ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

ابو طلحہ کے ایک لڑکے کا جو اُم سلیم کے بطن سے تھا (ان کی عدم موجودگی میں) انتقال ہو گیا تو اُم سلیم نے اپنے تمام اقرباء سے کہا: تم میں سے کوئی بھی ابو طلحہ کو (سفر سے واپسی پر) اس کے بیٹے کی وفات کی خبر نہ دے (اور تعزیت نہ کرے) جب تک کہ میں خود ان کو اس کی اطلاع نہ دے دوں چنانچہ ابو طلحہ (سرشام) سفر سے واپس آئے تو اُم سلیم نے (بڑے اطمینان سے) شام کا کھانا ان کے سامنے رکھا ابو طلحہ نے خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھایا پھر اس کے بعد اُم سلیم نے (بتکلف) اپنے سابقہ معمول سے بھی بہتر بناؤ سنگھار کیا (اور شبِ عروسی کے ہی تیاری کی) چنانچہ ابو طلحہ نے (پورے نشاط کے ساتھ) جماع کیا جب اُم سلیم کو اطمینان ہو گیا کہ انہوں نے شکم سیر ہو کر کھانا بھی کھالیا اور اپنی طبعی خواہش بھی پوری کر لی تو اُم سلیم نے کہا: اے ابو طلحہ! ذرا یہ تو بتلائیے کہ اگر کسی نے کسی اہل خانہ کو کوئی چیز بطور عاریت دی ہو اور وہ اس عاریت کو واپس مانگے تو کیا صاحب خانہ کو واپس دینے سے انکار کرنے کا حق ہے؟ ابو طلحہ نے کہا: نہیں (ہر گز نہیں) تو اُم سلیم نے کہا: تو آپ اپنے بیٹے (کی وفات) پر بھی بیت اجر و ثواب صبر کیجئے“ ابو طلحہ یہ سنتے ہی غصہ سے آگ بگولا ہو گئے اور بولے: ہاری نیک بخت بیوی! اب جبکہ میں حیوانی خواہش (جماع) سے آلودہ ہو چکا اب تو مجھے میرے بیٹے کی وفات کی خبر دینے چلی ہے“ اور (صبح ہوتے ہی) گھر سے چل دیئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور (بڑے غم و غصہ کے ساتھ) پورا واقعہ بیان کیا تو آپ نے (ازراہِ تحسین و تسلی) فرمایا: اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کو تمہاری اس شب (عروسی) میں برکت (یعنی اولاد صالح) عطا فرمائیں (چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں) اُم سلیم کے ہاں (نومہ بعد) لڑکا پیدا ہوا اس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور اُم سلیم بھی (اپنے شوہر ابو طلحہ کے ساتھ) اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ جب کسی سفر سے مدینہ طیبہ واپس تشریف لاتے تو رات کے وقت بستی میں داخل نہ ہوتے (اور شہر کے باہر منزل گاہ (پڑاؤ) پر رات گزار کر صبح کو بستی میں داخل ہوتے) چنانچہ جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا (اور رات کو منزل گاہ پر قیام کیا) تو اُم سلیم کو دردِ روزہ شروع ہو گیا (جس کی وجہ سے صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ میں داخل ہونا دشوار نظر آنے لگا) چنانچہ ان کی وجہ سے ابو طلحہ کو بھی وہیں رُکنا پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو راوی کہتا ہے کہ: ابو طلحہ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے محرومی پر انتہائی یاس کے عالم میں) کہنے لگے: اے میرے رب! تو جانتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ (کسی بھی سفر میں) جب آپ مدینہ سے روانہ ہوں تب بھی میں آپ کے ہمراہ چلوں اور جب آپ (واپس) مدینہ میں داخل ہوں تب بھی میں آپ کے ہمراہ مدینہ میں

داخل ہوں اور اس وقت تو دیکھتا ہے کہ مجھے اُم سلیم کی وجہ سے یہاں رُکنا پڑ رہا ہے تو اُم سلیم بولیں: اے ابو طلحہ اب تو مجھے دردِ زہ کی تکلیف ذرا بھی محسوس نہیں ہو رہی (چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ چلیں) چنانچہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے اور مدینہ پہنچنے کے بعد دردِ زہ ہوا اور لڑکا پیدا ہوا حضرت انسؓ کہتے ہیں میری والدہ اُم سلیم نے کہا: اے انس اس بچہ کو اس وقت تک کوئی دودھ نہیں پلائے گا جب تک کہ تم اس کو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ لے جاؤ گے چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس بچہ کو گود میں لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا اس کے بعد واقعہ وہی ہے جو اوپر والی روایت میں گزر چکا ہے۔

ایک مسلمان عورت کا عظیم الشان صبر و ضبط اور حوصلہ

تشریح: اس حدیثِ پاک میں حضرت اُم سلیم انصاریہ رضی اللہ عنہا کے صبر و تحمل اور شوہر کے ساتھ وفا شعاری کے جذبہ کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے اس لئے کہ اولاد کی فطری محبت خصوصاً زینہ اولاد کی۔ اور اس حالت میں کہ ایک لڑکا جس کا نام عمیر تھا اس سے قبل فوت ہو چکا تھا۔ ماں کو جس قدر محبت ہوتی ہے باپ کو اس کا عشرِ عشر بھی نہیں ہوتی ماں کی گود کا خالی ہو جانا اس کے لئے ایک ہوش ربا سانحہ ہوتا ہے مگر چونکہ اُم سلیم جانتی تھیں کہ ان کے شوہر کو بھی اس بچہ سے بے حد محبت تھی اگر سفر سے واپس آتے ہی ان کو اس سانحہ کی خبر دے دی گئی تو شدتِ غم و اندوہ سے نہ معلوم کتنے دن تک کے لئے کھانے پینے اور آرام و راحت سے محروم ہو جائیں گے اس لئے خود اپنے کلیجہ پر صبر و ضبط کا پتھر رکھا اور شوہر کو سفر کی ٹکان دور کرنے کا موقع دیا نہ صرف یہ بلکہ بتکلف خود کو معمول سے زیادہ آراستہ و پیراستہ کر کے طبعی خواہش (جماع) کی ترغیب کا سامان بھی مہیا کیا اور فراغت کے بعد انتہائی حکیمانہ انداز میں بیٹے کی وفات کی خبر سنائی واقعی بڑے ہی سخت صبر و ضبط عقل ہوش اور حوصلہ کا کام ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسینِ ستائش اور دو عابر کت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل عطا فرمایا ہمارے زمانہ کی خواتین اور ماؤں کے لئے یہ واقعہ انتہائی سبق آموز ہے۔

حضرت اُم سلیمؓ مسلمان خواتین کیلئے قابل تقلید ہستی ہیں

حضرت اُم سلیم انصاریہ رضی اللہ عنہا اپنی خدا پرستی دینداری اور خوبیوں کے اعتبار سے ایک قابل تقلید مسلمان خاتون ہیں خصوصاً مسلمان عورتوں کے لئے ان کے پہلے شوہر حضرت انس کے والد کا نام مالک تھا جو نبی اسلام مدینہ میں پہنچایا فوراً مسلمان ہو گئیں نہ صرف یہ بلکہ اپنے شوہر مالک کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی وہ شقی القلب کافر اس پر بے حد غضب ناک ہوا اور گھر سے نکل گیا اور ملک شام چلا گیا اور وہیں وفات پا گیا ابو طلحہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے

عدت گزرنے کے بعد انہوں نے اُم سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا اُم سلیم نے اسلام قبول کر لینے کی شرط کے ساتھ اپنی آمادگی ظاہر کی چنانچہ ابو طلحہ مسلمان ہو گئے اور اُم سلیم سے نکاح کر لیا اس لحاظ سے ابو طلحہ حضرت انس کے سوتیلے باپ ہیں۔

اُم سلیم کی خدمت گزاری کا صلہ

اُم سلیم بے حد سمجھدار، مدبر اور منتظم اور خدمت گزار خاتون تھیں اسی لئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امور خانہ داری اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن سے متعلق نسوانی انتظامات انہی کے سپرد فرمایا کرتے تھے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حضرت انسؓ کو دس سال کی عمر میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور خادم پیش کر دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تھا اور دس سال تک شب و روز اندرون خانہ اور بیرون خانہ سفر میں ہوں یا حضر میں برابر خدمت میں مصروف رہے۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اُم سلیم نے ایک دن انس کے لئے دعاء برکت کی درخواست کی آپ نے ازراہ کمال شفقت انس کے لئے عمر میں درازی اور مال و اولاد میں برکت کی دعا فرمائی چنانچہ انسؓ نے سو سال سے زیادہ لمبی عمر پائی اور ان کی زندگی ہی میں ان کے بیٹوں پوتوں کی تعداد بھی سو سے اوپر پہنچ گئی تھی اور ان کا شمار ہمیشہ دولت مند صحابہؓ میں رہا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں کہ یہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خدمت اور محبت کی دلیل اور دنیا و آخرت میں کام آنے والا سرمایہ ہے۔

بہادری زور آزمائی کا نام نہیں ہے

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " ليس الشَّدِيدُ بالصُّرْعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَالصُّرْعَةُ : " بَضْمٌ الصَّادِ وَفَتْحُ الرَّاءِ وَأَصْلُهُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَنْ يَصْرَعُ النَّاسَ كَثِيرًا .
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بڑا بہادر وہ نہیں ہے جو (کشتی میں) سب کو پچھاڑ دے شہ زور بہادر تو درحقیقت صرف وہ شخص ہے جو غمیض و غضب (کی حالت) میں خود کو اپنے قابو میں رکھے۔

صرعہ۔ کا لفظ صاد کے پیش اور راء کے زبر سے ہے۔ اس کی اصل اہل عرب میں یہ ہے کہ جو شخص کئی لوگوں کو پچھاڑ دے۔

شجاعت اور بہادری کا معیار

تشریح: حدیث پاک کی تعلیم کا حاصل یہ ہے کہ جسمانی قوت و طاقت اور اس کے استعمال کرنے کی قدرت پر شجاعت کا مدار نہیں شجاعت کا مدار صرف قوت نفس پر ہے اور اس کا پتہ صرف اس وقت چلتا ہے جبکہ انسان انتہائی غیض و غضب اور اشتعال کی حالت میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور وہی کرے جو عقل سلیم، کرم نفس اور قانون عدل و انصاف کا تقاضا ہو اگر عقل اور شریعت جسمانی طاقت سے کام لینے اور مزادینے کو ضروری قرار دیں تو جسمانی طاقت استعمال کرے اور اسی حد تک جس حد تک ضروری ہو ورنہ نہیں خواہ نفس کتنا ہی طاقت استعمال کرنے اور انتقام لینے کا تقاضا کرے مگر اس کے تقاضہ پر عمل نہ کرے بلکہ صبر اور درگزر سے کام لے۔

امام نوویؒ اس حدیث کو صبر کے باب میں کیوں لائے

اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو شجاعت کے بجائے صبر کے بیان میں نقل کیا ہے اس لئے کہ کامل صبر و ضبط کے ملکہ کے بغیر اس حدیث پر عمل نہیں کیا جاسکتا گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں درحقیقت صبر و ضبط کی تعلیم دے رہے ہیں چنانچہ خلق عظیم کے مالک افضل المخلوق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرۃ طیبہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کے رنگ میں رنگے ہوئے صحابہ کرام خصوصاً حضرت علی مرتضیٰ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہم کی سیرت میں اس شجاعت اور صبر و ضبط کی مثالیں آپ کو بکثرت ملیں گی حدیث نمبر ۱۸ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو نا انصافی کا اہتمام لگانے والے لوگ گستاخ شخص پر کتنا شدید غصہ آیا تھا آپ چاہتے تو اس کو توہین و ایذاء رسول کے جرم میں قتل کر سکتے تھے مگر چونکہ آپ کا ذاتی معاملہ تھا اس لئے آپ نے صبر اور درگزر سے کام لیا یہی قرآن مجید کی تعلیم ہے ارشاد ہے۔

ولن صبرتم لہو خیر للصابرین (النحل آیت: ۱۲۶)

اور بخدا اگر تم درگزر کرو (اور انتقام نہ لو) تو یہ تو صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے

صبر اور درگزر کہاں نہیں کرنا چاہئے

باقی اگر اسی اور پر کوئی ظلم کرنا ہو یا کسی کی آبرو پر حملہ کرنا ہو تو آپ ہرگز درگزر نہیں فرماتے تھے اور قرار واقعی سزا دیتے تھے چنانچہ صلوات ماثورہ (مسنون درود) کے کلمات میں آپ کی شان یہ مذکور ہے۔

اللہم صل علی سیدنا محمد بن الذی کان لاتنتھک فی مجالسہ الحرم ولا یغمص عمن ظلم
اے اللہ تو رحمت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی مجلسوں میں کسی کی بے آبروئی نہیں
کی جاتی تھی اور جو ظلم کرنے والے سے چشم پوشی (اور درگزر) نہیں فرمایا کرتے تھے۔

پڑھیے: اللہم صل وسلم علیہ کلاما ذکرہ اللاکرون۔ اللہم صل وسلم علیہ کلاما غفل عن ذکرہ الغافلون

انسان کے صبر و ضبط کی آزمائش کا موقعہ

وعن سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَجُلَانِ يَسْتَبْتَانِ ، وَأَحَدُهُمَا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ ، وَانْتَفَخَتْ أُوْدَاجُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ، لَوْ قَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، ذَهَبَ مِنْهُ مَا يَجِدُ “ . فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ “ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت سلیمان بن صرد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ: میں (ایک دن) رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے ان میں سے ایک کا (غصہ کے مارے بر حال تھا) چہرہ سرخ ہو رہا تھا گردن کی رگیں پھول رہی تھیں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا: مجھے ایک کلمہ ایسا معلوم ہے کہ اگر یہ اس کلمہ کو پڑھ لے تو اس کا یہ سارا غصہ کافور ہو جائے گا اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا یہ سارا غصہ ختم ہو جائے ” تو لوگوں نے اس شخص سے کہا (ارے بے وقوف) نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں نہیں پڑھ لیتا یعنی مردود شیطان سے اللہ کی پناہ کیوں نہیں لے لیتا۔

غصہ کو فرو کرنے اور صبر و ضبط اختیار کرنے کی تدبیر

تشریح: غصہ اور غیض و غضب خاص کر کسی شخص کی بے جا زیادتی پر ایک طبعی چیز اور فطری امر ہے اور انسان کا ازلی دشمن مردود شیطان اس طبعی اور فطری جذبہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر عموماً انسان کو ظلم و جور اور باہمی جھگڑے فساد کا مرتکب بنا دیتا ہے اس حالت میں صبر و ضبط سے کام لینا اور عقل و خرد کے تقاضے یا شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنا اور مردود شیطان کے بچھائے ہوئے جال سے بچنا بڑا ہی مشکل کام ہے اسی لئے اس حدیث پاک میں غیض و غضب کو فرو کرنے کی تدبیر شیطان لعین سے اللہ کی پناہ لینا اور صبر و تحمل اختیار کرنا بتلائی ہے جیسا کہ اگلی حدیث نمبر ۲۳ میں اس صبر و ضبط کے اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے۔

انتقام لینے کی قدرت کے باوجود صبر و ضبط اور درگزر سے کام لینے کا اجر عظیم

وعن معاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” مَنْ كَظَمَ غَيْظًا ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْفِذَهُ ، دَعَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيَّرَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ “ رواه أبو داود والترمذي ، وَقَالَ : ” حَدِيثٌ حَسَنٌ “ .

ترجمہ: حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا: جو شخص اپنا غصہ اُتارنے (اور بدلہ لینے) پر قادر ہو اور اس کے باوجود وہ اپنے غصہ کو دبائے (اور قابو میں رکھے) اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اختیار دیں گے کہ وہ جنت کی آہو چشم حوروں میں سے جس کو چاہے لے لے۔

ان دونوں حدیثوں کو صبر کے باب میں لانے کی وجہ

تشریح: آپ ہر دو حدیثوں کی مذکورہ بالا تشریح سے بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ غیض و غضب اور غصہ جو بقول حکماء جنون ساعۃ و قتی دیوانگی ہے۔ کے حملہ سے بچنے یا اس کے حملہ کے وقت اس کی مضرت سے بچنے کی واحد تدبیر صبر و ضبط اور تحمل و بردباری کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا ہے اسی کی ان دونوں حدیثوں میں تعلیم دی گئی ہے اسی لئے امام نووی ان کو صبر کے باب میں لائے ہیں۔

غیض و غضب اور صبر و ضبط

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْصِنِي . قَالَ : " لَا تَغْضَبْ " فَرَدَّدَ مِرَارًا ، قَالَ : " لَا تَغْضَبْ " رواه البخاري .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیے (جس پر میں عمر بھر کاربند رہوں) آپ نے فرمایا: غصہ کبھی مت کرنا راوی کہتے ہیں: اس شخص نے (اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے) بار بار یہی سوال لوثایا: مجھے وصیت کیجئے " آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا: غصہ کبھی مت کرنا۔

غصہ بڑی بُری بلا ہے اور اس کا علاج صبر و تحمل کا ملکہ ہے

تشریح: حقیقت یہ ہے کہ اچھے سے اچھا سمجھدار انسان بھی شدید غصہ کی حالت میں عقل و خرد سے خارج اور بالکل پاگل ہو جاتا ہے نہ خدا رسول کی تعلیمات کا ہوش رہتا ہے نہ اخلاق و انسانیت کے تقاضوں کا اسی لئے کہا گیا ہے الغضب جنون ساعۃ (غصہ تھوڑی دیر کی دیوانگی کا نام ہے) علماء اخلاق نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ شدت غیض و غضب سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے یا مستقل طور پر پاگل ہو جاتا ہے اور یہ تو بالکل عام بات ہے کہ غصہ فرو ہونے کے بعد انسان خود کو اپنے کئے پر ملامت کیا کرتا ہے اور بسا اوقات بڑے بڑے دور رس نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں اور اس غصہ کے بھوت پر قابو پانا صبر و ضبط کا ملکہ پیدا کئے بغیر اور برداشت و تحمل کی عادت ڈالنے بغیر ممکن نہیں لہذا غصہ نہ کرنے کی وصیت کا منشاء حقیقت صبر و ضبط کی عادت ڈالنے کی وصیت فرمانا ہے اور صبر و ضبط کے دنیوی و آخروی فوائد اور عند اللہ پسندیدہ اور موجب اجر و ثواب ہونے کا حال آپ اس باب کی قرآن آیات میں پڑھ چکے ہیں اور احادیث میں پڑھ ہی رہے ہیں اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو صبر کے باب میں لائے ہیں۔

صبر و شکر اختیار کرنے کا صلہ

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ " رواه الترمذي ، وَقَالَ : " حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ: مومن مردوں اور مومن عورتوں کے جان پر اولاد پر مال پر (ناگہانی) بلائیں اور مصیبتیں برابر آتی رہتی ہیں (اور وہ برابر توبہ و استغفار اور صبر و شکر کرتے رہتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں ان کی خطائیں معاف ہوتی رہتی ہیں) یہاں تک کہ وہ تمام گناہوں اور خطاؤں سے پاک و صاف اللہ سے جا ملتے ہیں۔

صبر و ضبط کا عظیم فائدہ

تشریح: کمال ایمان کا لازمی تقاضہ ہے مصائب پر صبر و شکر اور توبہ و استغفار اور ظاہر ہے کہ جب ایک مخلص مومن کا شب و روز کا وظیفہ توبہ و استغفار ہوگا تو گناہوں اور خطاؤں کے باقی رہنے کا سوال ہی نہیں باقی رہتا حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له (گناہ سے توبہ کر لینے والا اس شخص کی مانند ہو جاتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو) ایسی صورت میں صبر و شکر کا رفع درجات اور قرب الہی کا موجب ہونا سابقہ احادیث کی روشنی میں یقینی ہے اور یہی ایک مومن کی انتہائی معراج ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

حضرت عمرؓ کے صبر و تحمل کا ایک واقعہ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، قَالَ : قَدِمَ عَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ، فَتَزَلَّ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ الْقُرَاءُ ۳۳ " أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمُشَاوِرَتِهِ كَهَوْلًا كَانُوا أَوْ شُبَانًا . فَقَالَ عَيْنَةُ لَابْنِ أَخِيهِ : يَا ابْنَ أَخِي ، لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَاسْتَاذِنْ لِي عَلَيْهِ ، فَاسْتَاذِنَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ . فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ : هِيَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، فَوَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزَلَ وَلَا تَحْكُمُ فِينَا بِالْمَدَلِّ . فَغَضِبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ . فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف : ۱۶۸] وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ ، وَاللَّهُ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى . رواه البخاري .

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: (ایک عرب قبیلہ کا سردار)

عیینہ بن حصن (مدینہ) آیا اور اپنے بھتیجے حرب بن قیس کے پاس ٹھہرایا۔ حرب بن قیس اور لوگوں (یعنی اراکین شوریٰ) میں سے تھے جن کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے سے قریب تر رکھتے تھے حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اہل مجلس (مقربین) اور ارباب شوریٰ (مشیر) حفاظ قرآن ہی ہوا کرتے تھے بڑے ہوں یا چھوٹے، سن رسیدہ ہوں یا نو عمر، تو عیینہ نے اپنے بھتیجے حرب بن قیسؓ سے کہا: برا دروازے! تمہیں ان امیر المؤمنین سے قرب خاص حاصل ہے تو مجھے ملاقات کی اجازت لے دو چنانچہ حرب بن قیسؓ نے ملاقات کی اجازت طلب کی حضرت عمرؓ نے اجازت دے دی جب یہ دونوں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عیینہ نے کہا: اے خطاب کے بیٹے! وہ (شکایت جس کے پیش کرنے کے لئے میں آیا ہوں) یہ ہے کہ خدا کی قسم نہ تم ہمیں (ہمارے قبیلہ کو) عطا کثیر ہی دیتے ہو اور نہ ہمارے حق میں عدل و انصاف ہی کرتے ہو“ فاروق اعظم (اس دریدہ دہنی اور افترا پرداز پر) غصہ (سے آگ بگولا) ہو گئے یہاں تک کہ آپ نے قصد کیا کہ اس (گستاخ مفری) کو قرار واقعی سزا دیں تو حرب بن قیسؓ فوراً بولے! امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاہلین۔ عفو کو اختیار کرو، بھلی بات کا حکم دو اور جاہلوں سے درگزر کرو۔ اور یہ (میرا چچا) یقیناً جاہلوں میں سے ہے (اور اسلامی اخلاق و آداب سے نابلد ہے) راوی حدیث ابن عباسؓ کہتے ہیں: خدا کی قسم جوں ہی حرب بن قیسؓ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی حضرت عمر (کا غصہ بالکل سرد پڑ گیا اور انہوں) نے آیت کریمہ (کے حکم) سے سر موٹجاوز نہیں کیا حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں: فاروق اعظمؓ کتاب اللہ کے حکم کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے۔

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خصوصیت

تشویح: فاروق اعظمؓ جیسے سخت مزاج انسان۔ جن کے متعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے و اشدھم فی امر اللہ عمر (اللہ کے معاملہ میں تمام صحابہؓ سے زیادہ سخت عمر ہیں) کا عمر پر نہیں بلکہ خلیفہ رسول اللہ پر، نا انصافی کا الزام لگانے والے گستاخ شخص پر مشتعل اور غصہ سے آگ بگولا ہو جانا نہ صرف فطری بلکہ دینی تقاضہ تھا۔ مگر آیت کریمہ کو سنتے ہی غیض و غضب کا بیکسرفرو ہو جانا انتہائی صبر و تحمل کی دلیل ہے درحقیقت انتہائی اشتعال اور محل غیض و غضب کی حالت میں صبر و تحمل اختیار کرنا بے حد کٹھن اور مشکل کام ہے اور صبر و ضبط کی سب سے بڑی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص کے بغیر اس کٹھن آزمائش میں پورا اترنا ممکن نہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔

مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی

وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إنها ستكون"

بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا! ” قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: ” تُوَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْنَا، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ ” مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ” وَالْأَثَرَةُ: ” الْإِنْفِرَادُ بِالشَّيْءِ عَمَّنْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ. ”
ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد (غیر مستحق لوگوں کو مستحقین پر ترجیح) فوجیت) دی جائے گی اور ایسے امور پیش آئیں گے جن کو تم اوپر (غیر اسلامی) محسوس کرو گے (یعنی میری سنت اور سیرت کے خلاف محسوس کرو گے صحابہؓ نے عرض کیا: تو (ایسے وقت کے لئے) آپ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو تمہارے اوپر (حکمرانوں کی اطاعت کا) حق ہے اس کو تو پورا پورا ادا کرنا اور جو تمہارا حق ہو (اور وہ مارا جائے اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا (حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہرگز نہ کرنا جب تک کہ کھلے کفر کی نوبت نہ آجائے)
 حدیث میں اثرہ کا لفظ آیا ہے جسکے معنی ایسی کسی شئی کو اپنے لئے خاص کر لینا جس میں دوسرے کا بھی حق ہو۔

صبر کا ایک اہم مقام

تشریح: علانیہ حق تلفی کو برداشت کرنے کے لئے بھی بڑے حوصلہ اور صبر و ضبط کی ضرورت ہے اسلامی ملکوں میں امن و امان برقرار رکھنے کی نیت سے اس ظلم و جور کو برداشت کرنا بہت بڑی قومی اور اجتماعی نیکی اور عند اللہ اجر و ثواب عظیم کا موجب ہے اس لئے کہ ان اللہ لایجب الفساد (بیشک اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا)

قومی اور جماعتی امن و امان کو محفوظ رکھنے کی تعلیم اور صبر

وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه: أن رجلاً من الأنصار، قال: يا رسول الله، ألا تستعمليني كما استعملت فلاناً، فقال: ” إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ” مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ” وَأَسِيدٌ: ” بضم الهمزة. ” و” حَضِيرٌ ”: بفتح المهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم.

ترجمہ: حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ایک انصاری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ مجھے عامل (زکوٰۃ و صدقات کا محصل) نہیں بنا دیجئے؟ جیسے آپ نے فلاں شخص کو بنایا ہے؟ ” تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (میں نے تو کسی غیر مستحق کو مستحق پر فوقیت نہیں دی ہاں تم میرے بعد عنقریب یہ ترجیح (اور حق تلفی) دیکھو گے پس اس وقت تم اس پر مرتے دم تک صبر کرنا (اور حق تلفیاں کرنے والوں کے خلاف کوئی باغیانہ قدم نہ اٹھانا) یہاں تک کہ (اس صبر و تحمل کے صلہ میں) تم مجھ سے حوض کوثر پر آلو۔
 اسید۔ الف کے پیش کے ساتھ ہے۔ حضیر۔ حا کے پیش اور ضاد کے زبر کے ساتھ ہے۔

حکمرانوں کی حق تلفیوں کے باوجود ملکی امن کو باقی رکھنے اور صبر و تحمل اختیار کرنے کی ہدایت

تشریح: اسلام مذہب "امن و سلام" ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات قومی اور اجتماعی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے راعی اور رعایا، حکومت اور اہل ملک کے درمیان مخالفت اور خانہ جنگی کا سدباب کرنے پر مبنی ہیں عموماً حکمرانوں سے حق تلفیاں ہوتی ہیں نہ بھی ہوں تو بھی عوام محسوس کرتے ہیں کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے درحقیقت کچھ حکومت اور حکمرانوں کی بھی مشکلات اور دشواریاں ہوتی ہیں جن کی بنا پر وہ اپنے رویہ میں حق بجانب ہوتے ہیں مگر عوام یا ان سے صحیح معنی میں واقف نہیں ہوتے یا وہ اپنے حقوق کے مطالبہ میں اس قدر مغلوب ہو جاتے ہیں کہ انہیں وہ مشکلات اور دشواریاں نظر ہی نہیں آتیں اور حکمرانوں پر ظلم و جور اور حق تلفی کا الزام لگانے لگتے ہیں جیسا کہ حدیث نمبر ۸۷۰۷ و ۲۹۵۲ کے واقعات سے واضح ہے۔

ملک میں امن و امان قائم رکھنے کی اسلامی تدبیر

ایسی صورت میں ملک کے استحکام کو محفوظ رکھنے کی یہی تدبیر ہو سکتی ہے کہ ایک طرف حکمرانوں کو عدل و انصاف قائم کرنے اور بے رورعایت عوام کے حقوق ادا کرنے کی سخت ترین تاکید کی جائے دوسری طرف لوگوں کو حق تلفیوں پر صبر و تحمل اور ایثار کی ترغیب دی جائے یہی اسلامی تعلیمات کی "روح" ہے اگر راعی اور رعایا حاکم اور محکوم نیک نیتی کے ساتھ ان تعلیمات پر قائم اور کاربند رہیں تو حکومت کی مخالفت اور بغاوت کی نوبت آہی نہیں سکتی اور ملکی استحکام کو نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے عوام اور حکمرانوں کو ان اسلامی تعلیمات پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔

میدان جہاد اور صبر و استقلال کی تعلیم

وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: "يا أيها الناس، لا تسمنوا لِقَاءَ العدو، وأسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، وأعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف". ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم منزل الكتاب، ومُجْرِي السحاب، وهَاكِمَ الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وبالله التوفيق.

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لڑائیوں میں دشمن پر حملہ کرنے میں (سورج ڈھلنے کا) انتظار فرمایا ہے۔

یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا ہے تو پہلے کھڑے ہو کر غازیوں سے خطاب فرمایا ہے: اے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والو! دشمن سے لڑائی کی آرزو مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو پھر جب دشمن سے مقابلہ ہو ہی جائے تو صبر کرو (ثابت قدمی اور پائیداری سے کام لو) اور یقین کر لو کہ تم لوگوں کے سایہ کے نیچے جنت ہے (شہید ہوتے ہی سیدھے جنت میں جاؤ گے اور زندہ و جاوید ہو جاؤ گے) اس خطبہ کے بعد (ہاتھ اٹھا کر) دعا فرمائی ہے: اے اللہ تعالیٰ آسمان سے کتاب (قرآن) نازل کرنے والے، بادلوں کو ادھر سے ادھر، اُدھر سے ادھر لے جانے والے، اور باطل پرستوں کے گروہوں کو ٹھکست دینے والے! تو ان دشمنوں کو پسپا کر دے اور ان کے مقابلہ پر ہماری مدد فرما۔“

صبر و استقلال کی آزمائش کا سب سے بڑا مقام

تشریح: ظاہر ہے کہ انسان کے صبر و ضبط کی سب سے بڑی آزمائش کا مقام میدان جنگ ہے بڑے بڑے بہادروں کے قدم محاذ جنگ پر دشمنوں کی مسخ افواج کو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں اسی لئے قرآن عظیم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا گناہ کبیرہ فواد من النوحف (محاذ جنگ سے فرار) کو قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کی موت کو اشرف الموت قتل الشہداء (سب سے شریف موت شہیدوں کا قتل ہے) کے تحت سب سے زیادہ باعزت موت قرار دیا ہے تاہم دشمنوں سے لڑائی کی آرزو کرنے سے بھی منع فرمایا ہے جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میدان جنگ کے خطبہ سے ظاہر ہے یعنی دشمنوں سے خواہ مخواہ لڑائی مول بھی مت لو مگر جب جنگ ناگزیر ہو جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کی نصرت پر بھروسہ رکھو اور انتہائی پامردی کے ساتھ دشمنوں سے مرتے دم تک لڑو یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جان دے دو اور سیدھے جنت میں جاؤ۔

اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈے کی تردید

اس خطبہ سے دشمنان اسلام کے اس پروپیگنڈے کی بھی زبردست تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تو صرف خونریزی اور غارتگری کی تعلیم دیتا ہے اسے امن و سلامتی سے کیا واسطہ، اسلام اگر ایک طرف۔ جب دشمنان اسلام سے جنگ کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہے تو انتہائی پامردی کے ساتھ لڑنے کی تعلیم دیتا ہے تو دوسری طرف دشمنوں سے باعزت صلح و آشتی کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وان جنحو للمسلم فاجنح لہا (اے پیغمبر اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ)

اسلامی جہاد کا مقصد

اسلام کی تمام تر قتال و جہاد کی تعلیمات کا واحد مقصد کلمہ اللہ۔ اللہ کے حکم کو۔ بلند کرنا اور اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے جس کی زیر سایہ غیر مسلم بھی اسی طرح امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں جیسے مسلمان۔ اسلام جس طرح ایک مسلمان کی جان و مال کی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے اسی طرح وہ ایک ذمی (غیر مسلم رعایا) کی جان و مال کی سلامتی کا بھی ضامن ہے تفصیل کے لئے قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی تعلیمات کی مراجعت کیجئے۔

باب الصدق صدق (سچ) کے بیان میں

صدق کے لغوی اور شرعی معنی

لغت کے اعتبار سے اگرچہ صدق کے معنی ”سچ بولنا“ اور واقعہ کے مطابق بات کہنا کے جاتے ہیں اور اس لحاظ سے صدق انسان کی زبان اور قول کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے مگر شریعت کی اصطلاح میں صدق کے تحت انسان کے قول کی طرح خود اس کا اپنا فعل بھی داخل ہے اور صدق فی الفعل کے معنی یہ ہیں کہ انسان جو زبان سے کہے اس پر عمل بھی کرے اس کو پورا بھی کرے اس لحاظ سے صدق فی الفعل کا تعلق اپنی ذات سے ہو جاتا ہے جیسا کہ صدق فی القول کا تعلق ”غیر“ سے ہوتا ہے یعنی کسی کے متعلق جو بات کہے بالکل سچی اور واقعہ کے مطابق کہے بالفاظ دیگر عربیت کی اصطلاح کے مطابق صدق فی القول ”خبر“ ہے اور صدق فی الفعل ”انشا“ ہے۔

قرآن کریم میں صدق کا استعمال

قرآن کریم کی جو آیات ذیل میں پیش کی گئی ہیں ان میں آیت کریمہ نمبر ۵۳ و ۵۴ یقیناً صدق فی الفعل سے متعلق ہیں اور آیت نمبر ۲۶ و ۲۷ میں صدق فی القول اور صدق فی الفعل دونوں کا احتمال ہے آیت کریمہ (۱) بیشک صرف صدق فی القول سے متعلق ہے جیسا کہ آپ ابھی پڑھیں گے۔

صدق فی القول صدق فی الفعل کی خلاف ورزی۔

صدق فی القول کی خلاف ورزی یعنی جان بوجھ کر جھوٹ بولنا اور واقعہ کے خلاف بات کہنے پر تو قرآن کریم میں بے شمار وعیدیں آئی ہیں حتیٰ کہ لعنتہ اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ تک کی تصریح ہے اسی طرح صدق فی الفعل کی خلاف ورزی۔ یعنی جو زبان سے کہنا اس پر عمل نہ کرنا۔ بھی شدید وعید آتی ہے ارشاد ہے۔

یا ایہا الذین امنوا لم تقولون مالا تفعلون (الصف: ۳)

اے ایمان والو! جو تم کرتے نہیں وہ زبان سے کیوں کہتے ہو

یعنی بڑی بُری بات ہے بلکہ زبردست اخلاقی کمزوری ہے کہ جو زبان سے کہو اس پر عمل نہ کرو انسان کو اپنی زبان کا پاس ہونا چاہئے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے جو زبان سے کہا اسے پورا کرنا چاہئے گویا ایمان کے دعویٰ کے بالکل

منانی ہے کہ جو تم زبان سے کہو اس پر عمل نہ کرو یا جو عہد کرو اس کو پورا نہ کرو۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ارشاد ہے۔

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصف: ۳)

بہت بڑی ناراضگی کا موجب ہے اللہ کے نزدیک کہ تم جو کہو اس پر عمل نہ کرو۔

اس لئے ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ صادق القول یعنی ”راست گفتار“ بھی ہو اور صادق الفعل یعنی

”راست کردار“ بھی ہو تب ہی وہ کامل مومن ہو سکتا ہے خدا کی ناراضگی اور قہر و غضب سے بچ سکتا ہے اور

اگر کبھی دانستہ یا نادانستہ طور پر قول یا فعل میں جھوٹ سرزد ہو جائے تو فوراً اس سے توبہ و استغفار کرے اور

اگر وہ قول یا فعل کسی دوسرے شخص کے حق سے متعلق ہو تو اس کی تلافی کرنا یا اس سے معاف کرنا بھی از بس

ضروری ہے جیسا کہ آپ توبہ کے شرائط میں پڑھ چکے ہیں۔

ہماری حالت اور اس کا نتیجہ

آج کل ہم مسلمانوں میں دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی جھوٹ۔ دونوں قسم کا۔ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ نہ

صرف یہ کہ اسے کوئی گناہ اور جرم نہیں سمجھتے بلکہ ”ہنر“ سمجھتے ہیں اسی لئے طرح طرح سے اللہ کا قہر و غضب ہم

مسلمانوں پر نازل ہو رہا ہے۔ العیاذ باللہ

۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (توبہ ع ۱۵)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ساتھ رہو سچے لوگوں کے۔

۲۔ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ (احزاب ع ۵)

اور سچے مرد اور سچی عورتیں۔

۳۔ فَإِذَا عَزَمْتَ الْأَمْرَ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (محمد ع ۳)

جب کام ضروری ہو گیا تو (وہ سچے ثابت نہ ہوئے) اگر وہ لوگ اللہ سے (کئے ہوئے عہد میں) سچے (ثابت)

ہوتے تو ان کیلئے بہتر ہوتا۔

۴۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (احزاب ع ۳)

ایمان لانیوالوں میں کتنے ہی ایسے مرد ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اس بات کو جس پر اللہ سے عہد کیا تھا۔

۵۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ (احزاب ع ۳)

تاکہ جزا دے اللہ سچے لوگوں کو ان کے سچ کی اور سزا دے (جھوٹے) منافقوں کو (ان کے جھوٹ کی) اگر چاہے

یا ان کو (جھوٹ سے) توبہ کی توفیق دے دے۔

۶۔ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ (مائدہ ع ۱۶)

اللہ نے فرمایا یہ (قیامت کا دن) سچے لوگوں کو ان کے سچ کے فائدہ پہنچانے کا دن ہے۔

۷۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (النساء ع ۹)

جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہے ہیں وہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہونگے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین اور یہی لوگ بہترین رفیق ہیں۔
تشریح۔ مذکورہ آیات کے شان نزول متعلقہ واقعہ کا بیان۔

امام نووی علیہ الرحمۃ نے صدق اور صادقین کی اہمیت و فضیلت اور منفعت کو بیان کرنے کی غرض سے صرف تین آیتیں ذکر کی ہیں ہم نے قرآن کریم کے تتبع سیم زید چار آیتیں پیش کر دی ہیں مگر اس مقصد کی وضاحت کیلئے ضروری ہے کہ ہم ان آیات کے مصداق اور شان نزول کی مختصر وضاحت کریں۔ الف! آیت کریمہ نمبر ۱ میں اللہ جل جلالہ نے جنگ تبوک میں نہ شریک ہونے والے ان سچے مومنوں کا ذکر اور ان کی توبہ کے قبول ہونے کا اعلان فرمانے کے بعد جنہوں نے محض اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے جھوٹے منافقوں کی طرح جھوٹے بہانے تراشنے اور جھوٹ بولنے کے بجائے بالکل سچ سچ اپنے قصور اور جرم کا اعتراف کیا تھا اور صدق دل سے توبہ کی تھی۔ ہر مومن کو اسی طرح خدا سے ڈرنے سچ بولنے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔

آیت کریمہ نمبر ۲۔ یہ سورہ احزاب کی ایک طویل آیت ہے جس میں اللہ نے ایماندار عورتوں کا شکوہ دور کرنے کیلئے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی نوپسندیدہ خوبیاں جن میں سے ایک صدق ہے الگ الگ بیان فرمانے کے بعد ان کیلئے مغفرت اور اجر عظیم کے وعدہ کا اعلان کیا ہے۔

آیت کریمہ نمبر ۳۔ ان ضعیف الایمان مسلمانوں سے متعلق جو کفار سے جنگ کا حکم دیئے جانے سے پہلے تو تقاضے کر رہے تھے کہ ہمیں کفار سے لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی لیکن جو نبی لڑائی کا حکم دیا گیا تو ڈر کے مارے ان پر موت کی سی مردنی چھائی گئی۔ اللہ ان کی اس کمزوری اور کچے پن کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کیلئے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر یہ تھا کہ وہ اپنی بات کو سچا کر دکھاتے۔

آیت کریمہ نمبر ۴۔ اللہ حشر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائیوں کے لگائے ہوئے جھوٹے الزامات کی تکذیب اور ان کی برأت فرمانے کے بعد سچے لوگوں کی ترغیب کیلئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کا دن ہی تو ہے جس میں حقیقی معنی میں سچے لوگوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔

آیت کریمہ ۵۔ میں ان صادق القول اور صادق الفعل مومنین کی تعریف کی گئی ہے جنہوں نے جنگ احزاب

میں جھوٹے منافقوں کے برخلاف انتہائی ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ کفار کے تمام حملہ آور گرد ہوں کی متحدہ پورش کا مقابلہ کیا اور اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔

اور آیت نمبر ۶۔ میں انہی راست گفتار اور راست کردار مومنوں کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر دینے کی بشارت دی ہے اور جھوٹے منافقوں کے مستحق عذاب و سزا ہونے کی خبر دی ہے۔

آیت کریمہ نمبر ۷۔ اللہ اور رسول کی دل و جان سے اطاعت کرنے والے مومنین کو حسن خاتمہ کی بشارت دی ہے اور بتلایا ہے کہ اللہ کے وہ منعم علیہم انعام الہی سے سرفراز بندے جن کے راستہ پر چلنے اور ان کی رفاقت حاصل کرنے کی تم رات دن ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے اندر دعا مانگتے ہو۔ جن میں صدیقین کی جماعت بھی شامل ہے وہ یہ ہیں اور ان سے بڑھ کر رفیق کون ہو سکتا ہے۔

ب۔ یہ تو آیات کی تشریح تھی اب صدق، صادقین اور صدیقین سے متعلق ان آیات کو اس طرح ترتیب دیجئے۔
آیت کریمہ ۱۔ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں اس سے ڈرنے والے مقرب بندوں کی ایک جماعت ہے جس کا نام صادقین ہے آیت کریمہ ۲ سے معلوم ہوا کہ اس جماعت میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی۔ آیت کریمہ نمبر ۵ میں ان مومنین صادقین کی تعریف کی گئی ہے جو اپنے قول کے پکے اور سچے ہیں اور آیت کریمہ نمبر ۳ میں ان مسلمانوں کی کمزوری بیان کی گئی ہے جو اپنے قول کے پکے اور سچے نہیں ثابت ہوئے۔ آیت کریمہ نمبر ۶ میں مومنین صادقین کے صدق کی دنیا و آخرت میں جزائے خیر دینے کا وعدہ اور ان کے بالمقابل جھوٹے منافقین جن کی زبان پر کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور کے مستحق عذاب و سزا ہونے کی وعید مذکور ہے اور آیت کریمہ نمبر ۴ میں اللہ کی طرف سے حشر کے دن سچے لوگوں کو ان کے سچ کے حقیقی معنی میں نفع پہنچانے کا اعلان، گویا ایفاء وعدہ کے وقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ سچ کس دن کام آئے گا؟ آیت کریمہ نمبر ۷ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ صادقین کی جماعت کا ایک سب سے اعلیٰ طبقہ بھی ہے جس کا نام صدیقین ہے ان کا درجہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ہی ہے یعنی انبیاء علیہم السلام کے بعد افضل البشر تمام مخلوق سے افضل یہی ہیں۔ جن میں سب سے بڑے صدیق اکبر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ حدیث نمبر ۱۔ میں نبی رحمت فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر مومن مرد و عورت کو اس مرتبہ تک پہنچنے اور صدیقین میں شامل ہونے کی تدبیر بتلائی ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی شفیق نبی ہو سکتا ہے؟ قربان جائیے آپ کی شفقت و رافت کے سچ ارشاد فرمایا اللہ نے۔

بے شک تمہارے پاس آگیا، تم ہی میں کا ایک رسول، جس پر شاق ہے ہر وہ چیز جو تمہیں میں ڈالے، تم پر (تمہاری فلاح و نجات پر) بڑا ہی حریص ہے مومنوں کے ساتھ بے حد شفیق و مہربان ہے۔

اللهم صل علیہ کلما ذکرہ الذاکرون اللهم صل علیہ کلما غفل عن ذکرہ الغافلون

وسلم تسلیما کثیرا کثیرا

احادیث صدق

سچ بولنے کی عادت اور اس کا انجام نیک جھوٹ بولنے کی عادت اور اس کا انجام بد

وأما الأحادیث فالأول : عن ابن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا . وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیشک سچ (انسان کو) نیکوکاری کا راستہ بتلاتا ہے اور نیکوکاری یقیناً (انسان کو) جنت میں پہنچا دیتی ہے اور بیشک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں (اس کا نام) صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے (اس کے برعکس) جھوٹ (انسان کو) بدکاری کا راستہ بتلاتا ہے اور بدکاری یقیناً (انسان کو) جہنم میں پہنچا دیتی ہے اور بیشک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں (اس کا نام) کذابین بڑے جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔

صادقین سے صدیقین تک کا ذہین سے کذابین تک

تشریح: اس حدیث میں صدق سچ بولنے کے اس فائدہ کو واضح کیا ہے جس کی طرف آیت کریمہ نمبر (۶) میں ارشاد فرمایا ہے نیز اس کے برعکس کذب جھوٹ بولنے کی اس مضرت کو ظاہر فرمایا ہے جس کی بناء پر جھوٹا آدمی عذاب اور سزا کا مستحق ہو جاتا ہے نیز یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ قول اور فعل میں سچائی اختیار کرنے اور عادت ڈالنے کا ثمرہ یہ ہے کہ انسان صادقین کے درجہ سے ترقی کر کے صدیقین کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے جن کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ہے جس کی تفصیل آپ آیت کریمہ (۷) کے فائدہ میں پڑھ چکے ہیں اس کے برعکس جھوٹ اور اس کی عادت کا اندازہ کیجئے کہ جھوٹ کی جرأت پیدا ہو جانے کے بعد بے شمار گناہوں اور جرموں کی راہ ہموار ہو جاتی ہے انسان بڑے سے بڑے گناہ اور جرم کا ارتکاب کرنے سے بھی نہیں جھجکتا محض اس بنیاد پر کہ اگر بات کھلی تو میں صاف انکار کر دوں گا نتیجہ ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور رسوا ہوتا ہے اپنے کئے

کی سزا بھگتنا ہے اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب اس کے لئے ہے ہی اسی لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے عادی جھوٹے کا نام کذابین میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا مقام جہنم کا سب سے نچلا طبقہ منافقین کا خاص مقام ہوتا ہے۔ العیاذ باللہ۔

منافقین کی نشانیاں

اسی لئے مجرب صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت بتلائی ہے اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا عاهد غدر۔ جب بھی بات کرے جھوٹ بولے اور جب بھی وعدہ کرے اس کا خلاف کرے اور جب بھی کسی سے عہد کرے تو عہد شکنی کرے پہلی صفت سے صدق فی القول کے منافی اور کذب فی القول ہے دوسری اور تیسری صفت میں صدق فی الفعل کی ضد اور کذب فی الفعل ہے۔

صدق اور کذب کا خاصہ

یہ صدق اور کذب سچ اور جھوٹ۔ کی دینی اور اخروی منفعت اور مضرت ہوئی حدیث ذیل میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق اور کذب کا ایک ایسا خاصہ (خاص وصف) بیان فرمایا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں پایا جاتا ہے۔

الصدق ینجی والکذب یرہلک: سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔

یعنی صدق نجات کا ذریعہ ہے اور کذب ہلاکت کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے واقعات اور تجربات شاہد ہیں کہ سچ بولنے کی عادت دنیوی زندگی میں بھی انسان کی قدر و منزلت اور عزت و سرخروئی کا سبب بنتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی صدیقین کے مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے اس کے برعکس جھوٹ بولنے کی عادت دنیا میں بھی ذلت و خواری اور رسوائی کا موجب ہوتی ہے اور آخرت میں تو جھوٹے منافقوں کے ساتھ اس کا حشر ہو گا ہی اگرچہ سچ بولنے کی وجہ سے دنیوی اور مادی اعتبار سے کچھ نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے اور جھوٹا آدمی جھوٹ بول کر دنیوی اعتبار سے کچھ منفعت ہی کیوں نہ حاصل کر لے حتیٰ کہ سچے آدمی کی تو "موت" بھی باعزت موت سمجھی جاتی ہے اور جھوٹے آدمی کی سلامتی اور زندگی بھی لعنت اور پھٹکار کی زندگی سمجھی جاتی ہے لعنة الله على الكاذبین جھوٹے آدمی کیلئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

ایک قیمتی نصیحت

الثانی: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ؛ فَإِنَّ الصُّدْقَ طَمَآنِينَةٌ، وَالكَذِبَ رِيَّةٌ" رواه الترمذي، وقال: "حديث صحيح". قوله: "يَرِيكَ" هُوَ بفتح الياء وضمها: ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه.

ترجمہ: حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: مجھے اپنے نانا خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قیمتی نصیحت خوب اچھی طرح یاد ہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا: جس بات میں شک یا تردد ہو اس کو چھوڑ دو اور جس میں کوئی شک و شبہ یا تردد نہ ہو اس کو اختیار کرو (تاکہ جھوٹا بننے کا امکان نہ رہے) اس لئے کہ سچ قلبی اطمینان کا نام ہے اور جھوٹ بے اطمینانی اور تردد کا۔

یہ ایک۔ یہ لفظ یاہ کے زبر اور پیش کے ساتھ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امر جس کے جواز میں شبہ ہو اس کو ترک کر دو اور جس میں شبہ نہ ہو۔ اسے اختیار کرو۔

کسی بات کے سچ یا جھوٹ ہونے کی پہچان

تشریح: اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کی نہایت اہم پہچان بتلائی ہے وہ ہے ”اِطْمِئِنَانِ قَلْبٍ“ جس کو اردو محاورے میں کہتے ہیں ”دل ٹھکانا“ یعنی جس بات پر دل ٹھکے اس کو سچ سمجھو اور جس پر دل مطمئن نہ ہو اس کے سچ مت سمجھو بسا اوقات کوئی بات بظاہر جھوٹی نہیں معلوم ہوتی مگر دل اس پر نہیں ٹھکتا تو احتیاط کا تقاضہ ہے کہ اس بات کو باور بھی نہ کرو اور جھٹلاؤ بھی مت وقت گزرنے پر پتہ چل جاتا ہے کہ واقعہ کیا تھا۔

مومن کا دل

خاص کر ایک مومن کامل کے قلب کے متعلق تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله ایک مومن کی فراست قلبی سے ہو شارر ہو اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔

شریعت کا حکم

شرعاً بھی کسی بات کو سن کر بلا تحقیق بیان کر دینا ممنوع ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولاً (بنی اسرائیل ع ۴)
جس بات کا علم (یقین) نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو بیشک (انسان کے) کان، آنکھیں اور دل ان میں سے ہر ایک سے باز پرس ہونی چاہے۔

اسی لئے جو لوگ سچ بولنے کا اہتمام کرتے ہیں وہ کبھی اطمینان کئے بغیر بات نہیں کہتے اگر کہنا ہی پڑ جائے تو اپنی بے اطمینانی کا اظہار کر دیتے ہیں۔

صدق کا مرتبہ اور مقام

الثالث: عن أبي سفيان صحب بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هيرقل:

قَالَ هِرَقْلُ: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ يَعْنِي: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو سَفِيَانَ: قُلْتُ: يَقُولُ: "اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرَكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالصَّدَقِ، وَالْعَفَافِ، وَالصَّلَاةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ترجمہ: حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے زمانہ میں رومی بادشاہ ہرقل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی ملاقات اور گفتگو کا قصہ ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ: ہرقل نے ابوسفیان سے دریافت کیا کہ: تمہیں وہ نبی کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابوسفیان کہتے ہیں: میں نے جواب دیا وہ نبی کہتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی بھی چیز کو اس کا شریک مت گردانو اور تمہارے باپ دادا جو (شرکیہ باتیں کرتے اور) کہتے چلے آئے ہیں ان سب کو بالکل چھوڑ دو اور وہ نبی ہمیں نماز (پڑھنے) کا حکم دیتا ہے اور سچ (بولنے) کا پکا کد امنی (اختیار کرنے) کا اور صلہ رحمی (کرنے) کا حکم دیتا ہے۔

سچ بولنا نیویوں کا شیوہ ہے

تشریح: صدق در حقیقت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صفات عالیہ میں سے ہے اور تمام انبیاء سابقین کی تعلیمات میں صدق کو ایک متفق علیہ۔ مسلم اور مانی ہوئی۔ فضیلت کا مقام حاصل ہے رومی بادشاہ ہرقل اس حقیقت کو جانتا تھا اسی لئے وہ آپ کے امر بالصدق سچ بولنے کے حکم کو آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل قرار دیتا ہے: نہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام بلکہ دنیا کے تمام حکماء اور علماء اخلاق بھی صدق کو انسانی کمالات و فضائل میں سرفہرست اول نمبر پر شمار کرتے ہیں۔

سچے دل سے کسی بات کے کہنے یا دعائے مانگنے کا ثمرہ

الرابع: عن أبي ثابت، وقيل: أبي سعيد، وقيل: أبي الوليد، سهل ابن حنيفٍ وهو بدري رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ مَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ" رواه مسلم.

ترجمہ: حضرت ابو ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچ (صدق دل سے) شہادت کے درجہ کی دعائے مانگا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے مرتبہ پر پہنچا دیتے ہیں اگرچہ بستر پر پڑ کر ہی اس کو موت آئے۔

صدق فعلی (عملی سچ) کا بیان

تشریح: یہ صدق فعلی ہے جس کو اردو میں سچے دل سے دعائے مانگنا کسی سے وعدہ کرنا کہتے ہیں جس کا دوسرا

نام اخلاص ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ کے ہاں اسکی کتنی قدر ہے کہ لڑائی کے میدان میں شہید ہوئے بغیر ہی محض صدق و اخلاص کی بنا پر اتنا بلند مرتبہ عطا فرمادیتے ہیں اسی لئے مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اللهم ارزقنی موتاً فی بلدنیک وشہادۃ فی سبیلک اے اللہ تو مجھے اپنے نبی کے شہر (مدینہ) میں موت عطا فرما اور اپنی راہ (جہاد) میں شہادت عطا فرما۔ آپ بھی صدق دل سے یہ دعا مانگا کیجئے۔

ایک نبی علیہ السلام کی اُمت کا واقعہ

الخامس : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لَا يَتَّبِعُنِي رَجُلٌ مَلَكَ بَضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا بَيْنَ بَهَا ، وَلَا أَحَدٌ بَنَى بِيُونًا سَمَ يَرْفَعُ سُقُوفَهَا ، وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خِلْفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلَادَهَا " ۳ . فغزاه فذنا من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك ، فقال للشمس : إنك مأمورة وأنا مأمور ، اللهم احسبنا علينا ، فحسبت حتى فتح الله عليه ، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها ، فقال : إن فيكم غلولاً ، فلبيايعني من كل قبيلة رجل ، فلزقت يد رجل بيده فقال : فيكم الغلول فلبيايعني قبيلتك ، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده ، فقال : فيكم الغلول ، فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب ، فوضعها فجاءت النار فأكلتها . فلم تحا الغنائم لأحد قبلنا ، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا " متفق عليه .

" الخلفات " بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام : جمع خلفه وهي الناقة الحامل .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: مخر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ پہلے نبیوں میں سے ایک نبی نے صلوات اللہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنی قوم (امت) میں اعلان کر لیا کہ تم میں سے جس شخص نے شادی کی ہو مگر ابھی تک شب زفاف کی نوبت نہ آئی ہو بلکہ اس کی تیاری کر رہا ہو وہ اس جہاد میں شریک نہ ہو اور نہ کوئی ایسا شخص شریک ہو جو مکان تعمیر کر رہا ہو مگر ابھی تک اس کی چھتیں نہ پڑی ہوں اور نہ کوئی ایسا شخص میرے ساتھ اس جہاد میں جائے جس نے گابھن، بھیر، بکریاں، اونٹنیاں خریدی ہوں مگر ان کے بچے ابھی پیدا نہ ہوئے ہوں بلکہ انتظار میں ہو، چنانچہ وہ نبی علیہ السلام (ایسے فارغ البالی اور یکسوئی کے مالک مخلص غازیوں کے ہمراہ جن کے لئے طبعی اور فطری طور پر اخلاص میں رخصت اندازی کرنے والا کوئی امر مانع نہ تھا) دشمنوں سے لڑنے کے لئے روانہ ہوئے تو دشمنوں کی ایک بستی پر عصر کی نماز کے وقت یا اس کے قریب قریب پہنچے تو انہوں نے سورج سے خطاب کر کے کہا (اے سورج) تو بھی (اپنے نظام حرکت

کو جاری رکھنے پر) مامور ہے اور میں بھی (غروب سے پہلے اس بستی کو فتح کر لینے پر) مامور ہوں (اس کے بعد اللہ سے دعا کی) اے اللہ تو سورج کو روک دے (تاکہ میں تیرے حکم کی تعمیل کر سکوں) چنانچہ سورج کو روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے اس بستی کو (سورج ڈوبنے سے پہلے) فتح کر دیا۔

تو نبی علیہ السلام نے (نماز کے بعد) تمام مال غنیمت (دشمنوں کا مال ایک اونچے مقام پر) جمع کر دیا تو (حسب معمول) اس مال غنیمت کو کھا جانے (جلا کر راکھ کر دینے) کے لئے (آسمان سے) آگ آئی مگر اس نے اس مال کو نہ کھایا (اور چھوڑ کر واپس چلی گئی) تو نبی علیہ السلام نے فرمایا: یقیناً تم لوگوں میں سے کسی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے لہذا تم میں سے ہر قبیلہ کا ایک آدمی (سر دار یا نمائندہ) آکر میرے ہاتھ پر بیعت کرے چنانچہ ایک قبیلہ کے آدمی (نمائندے) کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گیا تو انہوں نے فرمایا: تمہارے قبیلہ میں خیانت ہے لہذا تمہارے قبیلہ کا ہر آدمی فرداً فرداً مجھ سے آکر بیعت کرے "چنانچہ ایک آدمی یا دو تین آدمیوں کے ہاتھ چپک گئے (اور چور پکڑا گیا) تب وہ گائے کے سر کے برابر سونے کا سر (ڈالا) لائے تو اس سونے کو (مال غنیمت کے اوپر) رکھا تب آگ آئی اور سب مال کھا گئی (جلا ڈالا)

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے پہلے کسی اُمت کے لئے مال غنیمت حلال نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہماری کمزوری اور عاجزی کی بنا پر ہمارے (اُمت محمدیہ کے) لئے اموال غنیمت حلال کر دیئے ہیں۔

خلفات۔ خاء کے زبر اور لام کے زیر کے ساتھ۔ بمعنی گابھن اونٹنیاں۔

جھوٹ بولنے کی عبرتناک سزا

تشریح: جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح رسوا کیا عموماً ایسا ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جلد یابدیر جھوٹ بولنے والوں کا جھوٹ کسی نہ کسی طرح کھول دیتے ہیں اور رسوا کر دیتے ہیں۔

یہ نبی کون تھے

اس حدیث میں ان اسرائیل نبی علیہ السلام اور اس بستی کا نام مذکور نہیں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی غالباً حضرت یوشع علیہ السلام ہی ہیں اور یہ بستی بیت المقدس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سورج جب سے یوشع بن نون علیہ السلام کے لئے روکا گیا ہے پھر اور کسی کے لئے نہیں روکا گیا جب وہ بیت المقدس کی طرف (جہاد کے لئے) گئے تھے۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پہلی اُمتوں میں زکوٰۃ و صدقات کی طرح اموالِ غنیمت بھی کسی کے لئے حلال نہ تھے بلکہ آگ آتی تھی اور ان کو جلا ڈالتی تھی یہ صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت بہترین امت کی خصوصیت ہے کہ زکوٰۃ و صدقات (فقراء اور محتاجوں کے لئے اور اموالِ غنیمت غازیوں اور دوسرے ضرورت مندوں کے لئے یا مصارفِ خیر میں خرچ کرنے کے لئے) حلال کر دیئے گئے کتنی بڑی رحمت اور نعمت ہے۔

کن لوگوں کو جہاد میں ساتھ نہیں لے جانا چاہئے اور کیوں

حضرت یوشع علیہ السلام نے مذکورہ بالا تینوں قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ جہاد میں چلنے سے اس لئے منع فرمایا تھا کہ ان تینوں قسم کے لوگوں کے لئے ایک جائز امر اور وقتی عذر سفر کرنے سے مانع موجود تھا اگر وہ جہاد میں جاتے بھی تب بھی ان کو فطری طور پر وہ طمانیت اور یکسوئی یعنی اخلاص اور توجہ الی اللہ میسر نہ آتا جس کی جہاد میں اشد ضرورت ہے فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلصین ہی کے لئے آتی ہے مجاہدین کے لشکر میں دو چار یا دس پانچ ایسے لوگوں کا وجود بھی مضر ہے جو خلوص اور توجہ الی اللہ سے محروم ہوں۔

ہماری اُمت کے لئے حکم

شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں امیر المسلمین کی طرف سے اعلانِ جہاد کی دو صورتیں ہیں (۱) ایک نفیر عام۔ جہاد میں چلنے کا عام حکم۔ اس صورت میں بجز ان دائمی اور مستقل معذور لوگوں کے جو لڑائی میں کام آہی نہیں سکتے۔ جیسے پانچ نابینا وغیرہ اور ہر بالغ اور توانا و تندرست مرد کے لئے بلا استثناء جہاد میں شرکت ضروری ہے (۲) دوسرے نفیر خاص۔ جہاد کا خاص حکم۔ اس صورت میں امیر المسلمین اپنی صوابدید اور اختیار سے ضرورت سے زائد بالغ اور توانا و تندرست لوگوں کو بھی جہاد میں شرکت نہ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ تفصیل کے لئے قرآن وحدیث اور کتب فقہ کی مراجعت کیجئے۔

سورج کا رُک جانا

ایک قادر مطلق خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر ایمان رکھنے والے مسلمان کے نزدیک سورج کا زمین کے گرد یا زمین کا سورج کے گرد گھومنا اور حرکت کرنا یعنی ”وقت کی رفتار“ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہے وہ اس کو مستقل طور پر یا وقتی طور پر جب چاہے روک سکتا ہے اس لئے کہ اس مدبر کائنات اللہ تعالیٰ کے جس امر تکوینی کے تحت یہ نظام شمسی حرکت کر رہا ہے اس کی شان یہ ہے ارشاد ہے:

انما امرہ اذا اراد شینا ان یقول له کن فیکون (یسین ع ۵)
 اس کے سوا نہیں کہ ہمارا امر (حکم) کسی چیز کے (وجود میں آنے کے) لئے جب ہم اس کا ارادہ کر لیں تو
 (صرف) یہ (ہوتا) ہے کہ ہم اس کو کہہ دیں ”ہو جا“ وہ فوراً ہو جاتی ہے۔
 یہ لفظ کن کہنا بھی انسانوں کو سمجھانے کے لئے ہے ورنہ ”کن کہنے“ کی بھی گنجائش نہیں صرف آنکھ
 کا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے ارشاد ہے۔

وما امرنا الا واحدا کلمح بالبصر (القمر ع ۳)
 اور ہمارا امر (حکم) تو (بس) ایک (اشارہ) ہوتا ہے جیسے نگاہ اٹھا کر دیکھ لینا۔ لہذا اس نظام شمسی کی حرکت کو
 وقتی طور پر یا مستقل طور پر روک دینے کے لئے خالق کائنات کا اشارہ کافی ہے۔ اور صادق مصدوق علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کی وہ وحی ترجمان زبان مبارک یوشع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے سورج کے رک جانے کی خبر دے رہی
 ہے جو بغیر وحی الہی کے ہلتی ہی نہیں ارشاد ہے۔

وما ینتطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی (النجم ع ۱)
 اور وہ (تمہارے نبی) اپنی طرف سے مطلق نہیں بولتے وہ (جو کچھ بولتے اور کہتے ہیں وہ) تو وحی ہوتی ہے
 جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔

لہذا خالق کائنات کی عقل انسانی کی رسائی سے خارج قدرت پر اور اس کے معصوم القول (جس کی بات جھوٹ
 اور غلطی سے پاک ہو) رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر سچے دل سے ایمان رکھنے والے ”خدا پرستوں“ کے لئے
 اس نظام شمسی کی حرکت یعنی وقت کی رفتار کے رک جانے کو تسلیم کرنے میں ذرہ برابر شک و شبہ یا تردد نہیں ہو سکتا
 جو اس میں شک یا تردد کرے وہ خدا کا پرستار نہیں بلکہ عقل کا پرستار ہے اس سے ہمیں واسطہ نہیں۔

دنیوی معاملات خرید و فروخت وغیرہ میں بھی سچ بولنا ضروری ہے

السادس : عن ابي خالد حکيم بن حزام رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اليَّمان بالخيار ما لم يتفرقا . فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما “ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (قاعدہ مقرر) فرمایا ہے کہ: بائع اور مشتری (بیچنے والا اور خریدنے والا) دونوں کو (بیچنے نہ بیچنے، خریدنے نہ خریدنے کا) اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں پس اگر ان دونوں نے سچ بولا (اور مال کے عیب داریا بے عیب ہونے کو ظاہر کر دیا) اور بتلا دیا (کہ یہ مال ایسا ہے) تو ان کے

اس سودے میں دونوں کے لئے برکت عطا فرمادی جائے گی اور اگر (عیب کو) چھپایا (اور جھوٹ بولا) تو ان دونوں کے سودے کی برکت مٹادی جائے گی۔

دنیوی معاملات میں جھوٹ بولنا گناہ درگناہ ہے

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح دینی امور میں سچ بولنا ضروری ہے اسی طرح دنیوی امور اور معاملات میں بھی سچ بولنا ضروری ہے بلکہ دنیوی امور اور معاملات میں لین دین میں خرید و فروخت وغیرہ میں جھوٹ تو صرف جھوٹ ہی نہیں بلکہ دھوکہ دہی اور ضرر رسانی بھی ہے اور حقوق اللہ سے متعلق نہیں کہ توبہ و استغفار سے معاف ہو جائے بلکہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے اس لئے جب تک متعلقہ شخص یا اشخاص کا حق ادا نہ کیا جائے اور نقصان کی تلافی نہ کی جائے یا معاف نہ کرایا جائے اس وقت تک اس کی سزا سے بچنا ممکن نہیں۔

ہمارے معاشرہ کی حالت

ہمارے موجودہ معاشرہ میں ویسے تو تمام ہی دنیاوی امور خصوصاً لین دین خرید و فروخت وغیرہ سراسر جھوٹ دھوکے اور فریب پر چل رہے ہیں مگر بد قسمتی سے جو لوگ روزہ نماز کے پابند ہیں اور دیانتدار و پرہیزگار کہلاتے ہیں وہ بھی ان معاملات میں جھوٹ بولنے کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ چیز دکان پر ہوگی اور کہہ دیں گے نہیں ہے نقلی چیز ہوگی بلا تکلف اس کو اصلی بتلا دیں گے علیٰ ہذا القیاس۔

اس حدیث سے کیا سبق لینا چاہئے

اس حدیث سے ہماری آنکھیں کھل جانی چاہئیں اور عہد کر لینا چاہئے کہ کسی بھی معاملہ میں کسی بھی صورت میں جھوٹ ہرگز نہ بولیں گے چاہے سچ بولنے میں کتنا ہی نقصان ہو دشواریاں پیش آئیں نقصان اٹھانے پڑیں، ناراضگیاں مول لینی پڑیں اگر ہم صدق دل سے یہ عہد کریں گے اور اس پر قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے یا نقصانات سے بالکل ہی بچادیں گے یا ان کی تلافی فرمادیں گے یہی مطلب ہے حدیث کے فقرہ بورک لہما فیہ کا۔

باب المراقبة مراقبہ (نگرانی) کے بیان میں

مراقبہ کے معنی اور اس کی تشریح نیز آیات و احادیث کا مراقبہ سے تعلق مراقبہ کے لفظی معنی ہیں ”نگرانی کرنا“ یعنی کسی کے ہر نیک و بد اچھے بُرے، قول و فعل اور نقل و حرکت سے پوری طرح باخبر رہنا اور ان کو محفوظ رکھنا تاکہ اچھے اور نیک کاموں کا صلہ اور جزائے خیر دی جاسکے اور برے اور بد کاموں کی سزا دی جاسکے اس نگرانی کے مؤثر اور نتیجہ خیز ہونے کے لئے نگرانی کرنے والے میں تین وصف پائے جانے ضروری ہیں (۱) اول اس شخص پر نگرانی کرنے والے کا کامل استحقاق ہو، جس کی وہ نگرانی کرتا ہے (۲) دوسرے اس شخص کے ہر قول و فعل اور نقل و حرکت کا اس نگران کو ایسا پختہ اور یقینی علم ہو اور وہ ایسا باخبر ہو کہ کتنا ہی چوری چھپے تنہائیوں، پردوں اور تہ خانوں میں چھپ کر بھی کچھ کیا جائے اس یقین کے ساتھ کہ یہاں نہ کوئی دیکھنے والا ہے نہ ہی کسی کو اس حرکت کی کسی طرح خبر ہو سکتی ہے جب بھی اس نگرانی کرنے والے کو اس کا پورا پورا علم ہو جائے اور اس سے چھپا نہ رہ سکے (۳) تیسرے نگرانی کرنے والے کو ہر اچھے برے نیک و بد کام اور فرمانبرداری و نافرمانی کی جزا اور سزا دینے کی کامل قدرت اور مکمل اختیار حاصل ہو اس قدرت و اختیار کا جتنا پختہ علم اور یقین ہو گا اسی قدر اس نگران کا خوف اس شخص پر غالب اور مسلط ہو گا اسی قدر بدی اور بدکاری اور اس نگران کی نافرمانی و ناراہنگی سے ڈرے گا ہر وقت اور ہر کام میں پوری احتیاط رکھے گا کہ کوئی قول و فعل اور نقل و حرکت نگران کے منشا اور حکم کے خلاف سرزد نہ ہو جائے۔

خدائے قدوس کی ذات و صفات پر اعتقاد و ایمان رکھنے والے ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ تینوں وصف اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کسی اور ہستی میں تصور بھی نہیں کئے جاسکتے وہ نہ صرف انسانوں کا بلکہ تمام کائنات کا خالق و مالک۔ مالک الملک رب العالمین ہے فعال لمایوید (جو بھی ارادہ کرے فوراً کر گزرے) اس کی شان ہے وہ نہ صرف انسانوں کے قول و فعل، بلکہ دل میں چھپے ہوئے خیالات، نیتوں اور ارادوں سے بھی رتی رتی واقف اور باخبر ہے اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں جزا اور سزا دینے کی ایسی کامل قدرت حاصل ہے کہ اس کے

دائرہ اختیار اور حدود قدرت سے کوئی بھی انسان کسی بھی صورت میں باہر نہیں ہو سکتا اس کے قہر و غضب سے نہ زمین میں پناہ مل سکتی ہے نہ آسمان میں نہ ہی کوئی کسی کو اس کے قہر و غضب سے بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہی تینوں اوصاف مندرجہ ذیل آیات و احادیث میں مذکور ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں میں ایک نام رقیب بھی ہے جس کے معنی ہیں ”نگران“ یا نگرانی کرنے والا“ قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ نام آیا ہے۔

قرآن عظیم

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلِبُكَ فِي السَّجْدَيْنِ﴾ [الشعراء: ۲۱۹-۲۲۰] ترجمہ۔ وہ (تیرا رب) جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جب تو (نماز میں) کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرنیوالوں میں تیری نقل و حرکت (رکوع و سجود) کو بھی۔

تفسیر۔ پہلی آیت میں ﴿وَتَقْلِبُكَ فِي السَّجْدَيْنِ﴾ ساجدین سے مراد حضرت عبد اللہ بن عباس، عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مقاتل رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک نماز ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ آپ کو اس وقت بھی دیکھتے ہیں جب آپ تنہا نماز میں ہوتے ہیں اور اس وقت بھی آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ باجماعت نماز میں ہوتے ہیں۔ یا یہ کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور متوسلین کی خبر لیتے ہیں کہ یا واللہ میں ہیں یا عاقل یا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جماعت کی نماز میں رکوع و سجدہ کرتے اور مقتدیوں کی دیکھ بھال فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ۴]

ترجمہ۔ اور وہ (تمہارا پروردگار) تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو کہ اللہ ہی جس کی قدرت اور مشیت پر نظام عالم قائم ہے اس معیت کی حقیقت اور کیفیت کسی مخلوق کے احاطہ علم میں نہیں آسکتی مگر اس کا وجود یقینی ہے اس کے بغیر انسان کا وجود نہ قائم رہ سکتا ہے نہ کوئی کام اس سے ہو سکتا ہے اس کی مشیت و قدرت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے جو ہر حال میں اور ہر جگہ انسان کے ساتھ ہے (معارف القرآن: ۸/۲۹۳)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران: ۶]

بے شک (اے سرکش انسانوں) اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی نہیں رہتی نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ تیسری آیت میں فرمایا ہے کہ جس طرح نظام عالم کی کوئی شے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مشیت سے باہر نہیں ہے اسی طرح اس عالم کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور کوئی ذرہ اس کے احاطہ علم سے خارج نہیں ہے۔ سب مجرم و بری اور تمام جرموں کی نوعیت و مقدار اس کے علم میں ہے اس لیے کوئی

مجرم روپوش ہو کر کہاں جاسکتا ہے اور کس طرح اس کے قبضہ قدرت سے نکل سکتا ہے۔ (تیسری)۔
 وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَالْمِرْصَادِ﴾ [الفجر: ۱۴]

ترجمہ۔ بے شک (اے سرکش انسان) تیرا رب (تیری) گھات میں (لگا ہوا) ہے۔
 چوتھی آیت میں ارشاد ہوا کہ جس طرح کوئی شخص گھات میں پوشیدہ رہ کر آنے جانے والوں کی خبر رکھتا ہے کہ فلاں کیونکر گزرا اور کیا کرتا ہوا گیا اور فلاں کیا لایا اور کیا لے گیا پھر وقت آنے پر اپنی معلومات کے موافق کام کرتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لو کہ حق تعالیٰ انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہ کر سب بندوں کے ذرہ ذرہ احوال و اعمال کو دیکھتا ہے کوئی حرکت و سکون اس سے مخفی نہیں۔ ہاں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ غافل بندے سمجھتے ہیں کہ بس کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں جو چاہو بے دھڑک کیے جاؤ۔ حالانکہ وقت آنے پر ان کا سرا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتا ہے اور ہر ایک سے انہیں اعمال کے موافق معاملہ کرتا ہے جو شروع سے اس کے زیر نظر تھے اس وقت پتہ لگتا ہے کہ وہ سب ڈھیل تھی اور بندوں کا امتحان تھا کہ دیکھیں کن حالات میں کیا کچھ کرتے ہیں اور ایک عارضی حالت پر نظر کر کے آخری انجام کو تو نہیں بھولتے۔ (تیسری)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ۱۹]

ترجمہ۔ وہ (خالق کائنات) جانتا ہے آنکھوں کی خیاںتوں (چوریوں) کو اور (ان نیتوں اور ارادوں کو بھی) جو سینوں میں چھپے ہوتے ہیں۔

پانچویں آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو محیط ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ مخلوق سے نظر بچا کر چوری چھپے کسی پر نگاہ ڈالی یا کن آنکھوں سے دیکھا بدل میں کچھ نیت کی یا کسی بات کا ارادہ یا خیال آیا ان میں سے ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔

دنیوی امور میں محاسبہ کا عظیم فائدہ

یہ محاسبہ جس طرح اللہ کی عبادت و طاعت اور دینی فرائض کے انجام دینے میں، اور ان کے ذریعہ قرب خداوندی حاصل کرنے میں بے حد نافع اور مفید ہے اسی طرح دنیوی معاملات اور کاروباری امور مثلاً تجارت، زراعت، ملازمت وغیرہ کو کامیاب طریق پر انجام دے کر دنیاوی منافع حاصل کرنے اور نقصانات سے بچنے یا ان کی تلافی کرنے کے بارے میں بھی غایت درجہ مفید ہے۔

روزانہ محاسبہ کا طریقہ

روزانہ سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے اپنے دن بھر کے کئے ہوئے دینی اور دنیوی کاموں کا جائزہ لے کر اور دوسرے دن اس جائزہ کی روشنی میں کام کر کے دیکھئے ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے اس ”عمل“ کو انتہا درجہ مفید پائیں گے۔

صوفیا کے ہاں مراقبہ

حضرات صوفیا اور ارباب باطن کے ہاں چونکہ دل میں غیر اللہ کا خیال اور تصور بھی مانع قرب الہی ہے اس لئے تصوف کی اصطلاح میں قلب کو غیر اللہ۔ اللہ کے ماسوا۔ سے فارغ اور پاک کرنے کی غرض سے مراقبہ ایک اہم ترین ریاضت و عبادت ہے۔

تصوف کی اصطلاح میں مراقبہ کے معنی

تصوف کی اصطلاح میں مراقبہ کے معنی یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یکسوئی کے وقت، تنہائی میں آنکھیں بند کر کے ہمہ تن وہمہ شعور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح بیٹھنا کہ پورے یقین کے ساتھ یہ باور کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیٹھا ہوں اور وہ مجھے اور میرے دل کو دیکھ رہے ہیں اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اسی کا نام ذکر قلبی ہے یہ قلبی اور روحانی ریاضت یعنی یہ مراقبہ جس قدر اور جتنی دیر میسر اور ممکن ہو روزانہ کرنا چاہئے۔

مشاہدہ

اس مراقبہ کی مواظبت اور روزانہ پابندی سے رفتہ رفتہ ترقی کر کے سالک مقام شہود پر پہنچ جاتا ہے یعنی ہر ہر عبادت خصوصاً مراقبہ کے وقت پورے یقین کے ساتھ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں اور وہ میرے سامنے ہے پہلے مرتبہ کا نام مراقبہ ہے اور دوسرے مرتبہ کا نام مشاہدہ ہے احادیث کے بیان میں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حدیث کے ذیل میں ان دونوں مرتبوں کا ذکر پڑھیں گے ظاہر ہے کہ یہ عبادت میں اخلاص کا آخری اور انتہائی مقام ہے جس کو حدیث جبریل میں احسان کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔

طریقت اور شریعت

واضح ہو کہ تصوف اور طریقت، شریعت سے کوئی علیحدہ اور جدا چیز نہیں ہے بلکہ شریعت کے آخری اور مطلوب مقام اخلاص تک پہنچنے کے طریقوں اور ریاضتوں کا نام تصوف یا طریقت ہے یہ جملہ معترضہ تھا اب ہم مراقبہ کے مضمون اور آیات قرآن عظیم سے اس کے ربط و تعلق پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔

ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت کا بیان

وأما الأحادیث ، فالأول : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ ، لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرَ السَّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَدَّ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ ، وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَخْبِرْنِي

عَنْ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْإِسْلَامُ : أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "۳" وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " . قَالَ : صَدَقْتَ . فَمَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ! قَالَ : فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْإِيمَانِ . قَالَ : " أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ " . قَالَ : صَدَقْتَ . قَالَ : فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْإِحْسَانِ . قَالَ : " أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ " . قَالَ : فَأَخْبَرَنِي عَنِ السَّاعَةِ . قَالَ : " مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ " . قَالَ : فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا . قَالَ : " أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رَعَلَةَ الشَّيْءِ يَنْطَوُّوْنَ فِي الْبُنْيَانِ " . ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ، ثُمَّ قَالَ : " يَا عُمَرُ ، أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ ؟ " قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : " فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ يَعْلَمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ " . رواه مسلم . ومعنى " تَلِدُ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا " أي سَيِّدَتَهَا ؛ ومعناه : أَنْ تَكْتُمَ السَّرَّارِي حَتَّى تَلِدَ الْأُمَّةَ السَّرِيَّةَ بِنْتًا لِسَيِّدِهَا وَبِنْتُ السَّيِّدِ فِي مَعْنَى السَّيِّدِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ . و" الْعَالَةُ " : الْفُقَرَاءُ وَقَوْلُهُ : " مَلِيًّا " أَي زَمَنًا طَوِيلًا وَكَانَ ذَلِكَ ثَلَاثًا .

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ہم ایک دن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثناء میں ایک سفید براق لباس اور کالے سیاہ بالوں والا شخص نمودار ہوا نہ اس پر سفر (اور مسافر ہونے) کے آثار ظاہر تھے (کہ ہم سمجھتے اجنبی مسافر ہے) نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا (کہ اس کا مقامی آدمی اور شہری ہونا ظاہر ہوتا) یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح دوڑا نو بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیئے اور دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھ لئے (جیسے کوئی مرید بیعت ہونے کے لئے پیر کے سامنے بیٹھتا ہے) اور کہا: اے محمد! آپ مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم (زبان سے) لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت (گوئی) دو نماز کو قائم کرو (پابندی کے ساتھ پنجوقتہ باجماعت نماز ادا کرو) زکوٰۃ ادا کرو: رمضان کے روزے رکھو بیت اللہ کا حج کرو اس نو وارد نے اس پر کہا آپ نے حج فرمایا تو اس پر ہمیں بڑا تعجب ہوا (کہ ایسے عقیدت مندانہ انداز میں) سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق و تصویب بھی کرتا ہے (گویا آپ کا امتحان لے رہا ہے) پھر کہا: تو آپ مجھے بتلائیں کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تم اللہ (اور اس کی صفات) پر اس کے فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر اور یوم آخر (قیامت اور آخرت) پر ایمان لے آؤ (دل سے مان لو) اور اچھی بری تقدیر پر (بھی) ایمان لے آؤ (دل سے مان لو) اس پر بھی اس نے کہا (درست ہے) آپ نے حج فرمایا۔ تو اب آپ یہ بتلائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے

ارشاد فرمایا احسان (حسن عمل) یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو (اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے) اور اگر تم اس کو نہ دیکھ پاؤ (یعنی اگر تم کو یہ مشاہدہ کا مرتبہ میسر نہ آئے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو) تو (کم از کم اتنا تو دل سے) یقین رکھو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے (اور تمہاری نگرانی کر رہا ہے) پھر اس نو وارد نے کہا: تو اب آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے (کہ وہ کب آئے گی؟) اس پر آپ نے ارشاد فرمایا: اس کا تو جواب دینے والے کو بھی سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے (یعنی نہ تم جانتے ہو نہ میں کہ قیامت کب آئے گی؟ اس کو تو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا) اس پر اس نے کہا: تو آپ کچھ قرب قیامت کی علامتیں تو بتلا دیجئے آپ نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ کئی نیریں اپنے آقاؤں کو جھننے لگیں گی (یعنی خانگی روابط و تعلقات میں ایسا انقلاب آجائے گا اور ماں باپ کی نافرمانی اس قدر بڑھ جائے گی کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گی کہ مائیں اپنی لڑکیوں کے سامنے ان کی لوثنیاں معلوم ہوں گی اور باپ اپنے لڑکوں کے سامنے ان کے غلام محسوس ہوں گے) اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، بکریاں چرانے والے گڈریوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر شاندار عمارتیں (کوٹھی، بنگلے) بنانے لگیں گے (یعنی ایسا انقلاب آجائے گا کہ ننگے بھوکے اور نان شبینہ تک کے محتاج لوگ اس قدر دولت مند اور مالدار بن جائیں گے کہ جہالت کی وجہ سے مال و دولت کا مصرف ان کے ہاں اس کے سوا نہ رہے گا کہ وہ ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتلانے اور شیخی بگھارنے کی غرض سے شاندار عمارتیں بنوانے ہی میں دولت صرف کریں گے نہ ان کو مخلوق خدا کی حاجت بر آری سے مطلب ہو گا نہ قومی اور اجتماعی زندگی کی ضروریات اور رفاہ عام کے کاموں سے) پھر وہ نو وارد مسائل اٹھ کر چلا گیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کچھ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا تو (ایک دن جب میں حاضر ہوا تو) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ (وہ نو وارد عجیب و غریب حلیہ اور انداز والا) مسائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں (مجھے تو معلوم نہیں) تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تم کو دین کی تعلیم دینے کی غرض سے آئے تھے (اور دین کے اہم ترین بنیادی اصول و احکام کے سوالات کئے تھے تاکہ میں جواب دوں وہ تصدیق و تائید کریں اور تم سنو اور یاد رکھو۔

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے: تم تو مجھ سے سوال کرتے نہیں (ڈرتے ہو) اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسائل بن کر آئے تھے (دین کے بنیادی امور) کی تعلیم کی غرض سے (کہ ایسے اہم امور کے متعلق سوال کرنے چاہئیں اور ایسے ادب کے ساتھ اس میں کچھ حرج نہیں)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لونڈیاں اپنے ماؤں کو جتنے لگیں گی "اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت کے قریب لوگوں میں اپنی لونڈیوں کو "داشتہ" کے طور پر استعمال کرنے کا رواج عام ہو جائے گا تو ان داشتہ کنیروں سے جو اولاد ہوگی وہ اپنے باپ کی طرح آزاد بھی ہوگی اور اپنی ماؤں کی مالک بھی ہوگی فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی علماء حدیث نے اس فقرہ کے معنی بیان کئے ہیں۔

العالتہ کے معنی ہیں۔ فقراء۔ ملیا کے معنی ہیں زمانہ طویل جو اس حدیث میں تین دن ہیں۔

دین کے معنی اور اس کے بنیادی ارکان

تشویح: دین عقائد و اعمال کے مجموعے کا نام ہے عقائد کا تعلق قلب سے ہے اور اعمال کا تعلق جوارح۔ اعضا ہاتھ پاؤں، آنکھ کان زبان وغیرہ۔ سے ہے اور کتاب کے پہلے باب میں آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ اخلاص خالص عبادت کی نیت۔ کے بغیر کوئی بھی عبادت و طاعت حتیٰ کہ ایمان بھی۔ اللہ کے ہاں مقبول و معتبر اور ذریعہ نجات نہیں بن سکتی اس لئے شریعت کی اصطلاح میں "مجموعہ عقائد" اللہ کی ذات و صفات پر اس کے فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر، یوم آخر (آخرت) پر اچھی بری تقدیر کے برحق ہونے پر سچے دل سے اعتقاد رکھنے اور ماننے۔ کا نام ایمان ہے اور مجموعہ اعمال۔ زبان سے شہادتیں (توحید و رسالت کی گواہی) کا اقرار کرنا، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ادا کرنے کا نام اسلام ہے اور اخلاص نیک نیتی کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت کرنے کا نام احسان ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر یقین کر کے صرف اسی کے لئے عبادت کرنا۔

دین کے بنیادی ارکان

لہذا دین کے اساسی ارکان اور جوہری اصول تین ہیں (۱) ایک ایمان (۲) دوسرا اسلام (۳) اور تیسرا احسان

پورے دین کا نام بھی اسلام ہے

یاد رکھئے اسلام کے مذکورہ بالا معنی اس صورت میں ہیں جبکہ اسلام کا لفظ ایمان کے مقابلہ پر استعمال ہو ورنہ "پورے دین" یعنی مجموعہ عقائد و اعمال و اخلاص کا نام بھی اسلام ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ان الدین عند اللہ الاسلام (آل عمران: ۲)

بیشک اللہ کے نزدیک (پسندیدہ) دین اسلام ہے

احسان کا تعلق مراقبہ سے

سادہ لفظوں میں حدیث جبرائیل علیہ السلام کی روشنی میں۔ احسان کا معنی ہیں پورے یقین کے ساتھ اللہ کو حاضر و ناظر اور بندوں کے اعمال کا نگران جان کر، پورے خلوص کے ساتھ، اس کی عبادت کرنا، اس احسان کے دو

مرتبے ہیں (۱) ایک اعلیٰ مرتبہ مشاہدہ ہے جو حدیث جبرئیل میں کانٹک تراہ گویا (اردو میں ”گویا“ اور عربی میں کان کا لفظ اس لئے لایا گیا ہے کہ اس مادی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا انسانی قدرت سے قطعاً باہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کا قطعی ثبوت ہے اسی طرح مشاہدہ کا مطلب بھی اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہے) تو اس کو دیکھ رہا ہے کے عنوان سے مذکور ہے یہ مرتبہ سالہا سال کی عبادتوں اور ریاضتوں کے بعد بھی خال خال عارفین کو میسر آتا ہے (۲) دوسرا مرتبہ مراقبہ ہے جو حدیث جبرئیل میں فانہ یواک پس یشک وہ تجھ کو ضرور دیکھ رہا ہے کے عنوان سے مذکور ہے اس مرتبہ کا حصول صرف کامل توجہ الی اللہ پر موقوف ہے جو ہر اس مومن مسلمان کو میسر آسکتا ہے جو عبادت کے وقت نفس اور شیطان کی مزاحمتوں خیالات اور وسوسوں سے خود کو محفوظ کر لے یعنی عبادت کے وقت اپنے خیال کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دے اور اس یقین کے ساتھ عبادت کرے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے جیسا کہ آپ قرآن کریم کی آیت کریمہ نمبر (۱) و (۲) و (۳) کے تحت پڑھ چکے ہیں یہی اس حدیث کا مراقبہ سے تعلق ہے اور اسی غرض سے امام نووی اس حدیث کو باب مراقبہ کے تحت لائے ہیں۔

مراقبہ کا یہ درجہ حاصل کرنے کی تدبیر

کم از کم احسان کا یہ مرتبہ جس کا نام مراقبہ ہے حاصل کرنے کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہئے اس کے حصول کے لئے علاوہ روزانہ جس قدر بھی ممکن ہو اس طریق پر مراقبہ میں بیٹھنے کے جس کا ذکر آپ مراقبہ کی تشریح کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں یہ تدبیر بھی نہایت کارگر ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں خواہ زبان سے ہو یا دل سے مصروف رہے اپنی زبان سے پورا کلمہ طیبہ یا صرف اللہ اللہ یا کوئی اور ذکر سبحان اللہ یا الحمد للہ وغیرہ کرتا رہے اور خاموشی کے وقت دل سے اللہ اللہ کرتا رہے بہت مؤثر تدبیر ہے آپ بھی چند روز تجربہ کر کے دیکھئے۔

اس حدیث کی جامعیت اور حضرت جبرئیل کے آنے کی وجہ

اس تفصیل کے بعد آپ باسانی سمجھ سکیں گے جبرئیل علیہ السلام کی یہ حدیث نہ صرف دین کے انہی تینوں بنیادی اصول و ارکان پر مشتمل اور جامع ترین حدیث ہے بلکہ مراقبہ اور مشاہدہ اور ان کے باہمی فرق سے متعلق واحد حدیث ہے۔ حضرت جبرئیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کر ان تینوں ارکان کے سوالات کرنے اور جوابات کی تصدیق و تصویب کرنے کی ہدایت اس لئے فرمائی کہ اول تو صحابہ کرامؓ آپ سے سوالات کرتے ہوئے ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ نے کثرت سوالات سے منع فرمادیا تھا۔ علاوہ ازیں شاید وہ اس قدر جامع و مانع سوالات نہ کر سکتے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعہ جوابات دیئے اور آخر میں فرمادیا: تم تو سوال کرتے نہیں تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جبرئیل کو تمہیں دین کے بنیادی ارکان کی تعلیم دینے کے لئے بھیجا تھا تاکہ صحابہ کرامؓ اور امت اس حدیث کی اہمیت کو سمجھیں اور یاد رکھیں۔

قرب قیامت کی علامات کی تشریح

اس حدیث میں قرب قیامت کی علامات کے سلسلے میں منجر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم ترین چیزیں بیان فرمائی ہیں (۱) ایک یہ کہ عقوق۔ ماں باپ کی نافرمانی۔ اس درجہ بڑھ جائے گی کہ لڑکے تو لڑکے لڑکیوں کے سامنے بھی ماں لوٹتی بن کر رہ جائے گی ان کی نقل و حرکت، آمد و رفت، میل جول اور چال چلن کی نگرانی اور روک ٹوک تو کیا کرتی اپنی آبرو کے ڈر سے لوٹتیوں کی طرح ان کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو جائے گی اسی طرح لڑکوں کے سامنے باپ کی حیثیت خانہ زار غلام یا نوکر کی ہو جائے گی اس لحاظ سے آخر زمانہ میں گویا ماں اولاد جھنے کے بجائے اپنے آقاؤں کو جنم دینے لگیں گی چنانچہ علامات قیامت کی اور احادیث میں ویکٹر العقوق اور ماں باپ کی نافرمانی بہت زیادہ عام ہو جائے گی کی تشریح موجود ہے۔

امام نووی علیہ الرحمۃ کی تشریح پر کلام

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے امامہ اور بہتہ کے الفاظ ان کے حقیقی معنی۔ لوٹتی اور مالکن میں رکھ کر اس فقرہ کے معنی یہ بیان کئے کہ لوگ اپنی زر خرید لوٹتی کو ”داشتہ“ کے طور پر استعمال کرنے لگیں گے عربی میں سر یہ اس زر خرید لوٹتی کو کہتے ہیں جسے مالک ہمستری کے لئے مخصوص کر لے اس فقرہ کے اس معنی پر گونا گوں اشکال وارد ہوتے ہیں اور تمام اشکالات کے علاوہ جن کی تفصیل شروح حدیث میں موجود ہے سب سے بڑا اشکال یہ ہے کہ قیامت تو ابھی معلوم نہیں کب آئے گی زر خرید لوٹتیوں اور غلاموں کا وجود اب سے صدیوں پہلے مفقود ہو چکا قیامت کی علامت تو ایسی عالمگیر چیز ہونی چاہئے کہ جوں جوں قیامت قریب آتی جائے وہ برابر بڑھتی رہے عقوق والدین کی نافرمانی، بیشک عالمگیر اور روز افزوں ہے جس کا ہم شب و روز مشاہدہ کر رہے ہیں اپنے ملک میں بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی۔ (۲) دوسری علامت کا حاصل یہ ہے کہ آخر زمانہ میں دولت سمٹ کر ایسے بھوکے ننھے اور نا اہل لوگوں کے پاس چلی جائیگی جو دولت کو اس کے صحیح مصرف اور حقیقی محل، مخلوق خدا کی حاجت روائی اور قومی و ملکی ضروریات میں خرچ کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صرف شیخی اور خود نمائی کے کاموں میں صرف کریں گے اس کا مشاہدہ بھی روز افزوں ہے آج کل کے کروڑ پتیوں کے ماضی اور حال کا جائزہ لے کر دیکھئے حقیقت کھل جائے گی۔

دولت کے چند ہاتھوں میں سمٹ کر آجانے کا عظیم تر نقصان

دولت و ثروت کے ان نا اہلوں کے ہاتھ میں سمٹ کر آجانے کا نقصان صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ بے محل اور بے مصرف خرچ ہونے لگتی ہے بلکہ ایک طرف یہ نا اہل نو دو لیتے اس دولت کے زور سے ملک و قوم کے تمام وسائل معاش اور ذرائع آمدنی پر قابض ہو کر یا خود اقتدار اعلیٰ اور حکومت پر قبضہ کر لیتے ہیں یا ارباب اقتدار اور حکمران ان کے اشاروں

پر چلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اس طرح بلا واسطہ یا بالواسطہ اقتدار اعلیٰ انہی چند کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں کے ہاتھ آ جاتا ہے مگر صادق صلی اللہ علیہ وسلم علامات قیامت کے سلسلہ میں اسی خطرہ سے آگاہ فرماتے ہیں ارشاد ہے:

اذا وسد الاموالی غیر اہلہ فانظر الساعة

جب کام نااہلوں کے سپرد کر دیئے جائیں تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرنے لگنا۔

دوسری طرف یہ مسلم اور آزموہ حقیقت ہے کہ دولت و ثروت کی فراوانی اور ریل پیل لازمی طور پر زبردستی نفس پرستی عیاشی بے لگام شہوت رانی کو اپنے ساتھ لاتی ہے چنانچہ یہ نااہل نو دولتے حرام و حلال کے فرق و امتیاز اور شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر شراب خوری، حرام کاری، رقص و سرور اور عیاشی کی ہمت افزائی کرنے لگتے ہیں سود خوری، قمار بازی وغیرہ محرمات شرعیہ کو اپنا قابل فخر کارنامہ سمجھنے لگتے ہیں ملک اور قوم کے افلاس زدہ عوام میں اول اول تو ان کی نفسانی خواہشات حرام کاریوں اور بد مستیوں کو بادل نحوستہ پورا کرنے اور ان کا ساتھ دینے پر مجبور ہوتے ہیں بعد ازاں رفتہ رفتہ انہی حرام کاریوں اور عیاشیوں کے خود بھی عادی ہو جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ تباہ اور پوری قوم روحانی اور اخلاقی اعتبار سے ہلاک ہو جاتی ہے۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اُمت کو نصیحت

مگر صادق فداہ انبی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کے متعلق اسی تباہ کاری اور ہلاکت کے خطرہ کا اظہار خیال کے الفاظ میں فرمایا ہے۔

لا اخشی علیکم الفقر ولكن اخشی علیکم الدنيا اذا هي حيزت لكم فتنا فسوا فیہا کماتنا
فس من كان قبلکم فتهلککم کما اهلکت من كان قبلکم.

مجھے تمہارے متعلق فقر اور تنگدستی (سے ہلاکت) کا خطرہ نہیں بلکہ مجھے تمہارے متعلق دنیا (کی دولت و ثروت) سے ڈر لگتا ہے جبکہ وہ سمٹ آئے تمہارے پاس پھر تم ایک دوسرے سے (زراندوزی میں) بڑھنے کی دھن میں لگ جاؤ جیسے تم سے پہلی قوموں نے کیا اور پھر وہ دنیا (کی دولت و ثروت) تم کو ہلاک کر ڈالے جیسے تم سے پہلوں کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ تمام تر ہلاکت اور تباہ کاری اسی نااہلوں کے ہاتھ میں دولت و ثروت سمٹ آنے کا نتیجہ ہے جس کو حدیث جبرئیل علیہ السلام میں قرب قیامت کی علامت قرار دیا ہے یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کا ہم آج علانیہ مشاہدہ کر رہے ہیں کاش کم از کم مسلمان قوموں ہی کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ اپنے رؤف و رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور شفقت آمیز تعلیمات سے سبق حاصل کر لیں اور خود کو اس آخِر زمانہ کی ہلاکت اور تباہی سے بچالیں و ففنا اللہ و ایاکم بالخیر امید ہے کہ اس حدیث جبرئیل علیہ السلام کی اہمیت کی بنا پر اس تشریح کی طوالت میں معذور سمجھیں گے۔

نیکیاں بدیوں کو مٹا دیتی ہیں خوش اخلاقی بہت بڑی نیکی ہے

الثانی : عن أبي ذر جُنْدُب بن جُنَادَةَ وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما ، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّبِيلَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ " رواه الترمذي ، وَقَالَ : " حديث حسن "

ترجمہ: حضرت ابو ذر اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو جہاں بھی تم ہو (اس لئے کہ وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور تم ہر وقت اس کے سامنے ہوتے ہو) اور ہر برائی (اور بدکاری) کے بعد فوراً کوئی نیکی (اور نیک کام) کر لیا کرو تو یہ نیکی اس بدی کو مٹا دے گی اور مخلوق کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آیا کرو (کہ یہ خوش اخلاقی بہت بڑی نیکی ہے خدا بھی اس سے خوش ہوتا ہے مخلوق بھی دعائیں دیتی ہے اس لئے یہ نیکی تمہاری بہت سی برائیوں کو مٹاتی رہے گی)

حدیث کا مراقبہ اور محاسبہ سے تعلق

تشریح: یہ حدیث بھی ہر جگہ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے اور بندے کے ہر وقت اور ہر حالت میں اس کے زیر نگرانی ہونے کو ثابت کرتی ہے اور آیت نمبر (۲) سے ماخوذ ہے نیز یہ حدیث بھی آیت کریمہ نمبر (۱۳) کی طرح اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنے کی طرف اشارہ کرتی ہے اس لئے کہ اپنی بد کاریوں اور کوتاہیوں کے احساس کے بعد ہی ان کے ازالہ کے لئے نیکو کاری خصوصاً خوش اخلاقی اختیار کرنے کا جذبہ پیدا تیز تر ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ ان الحسنات یلھین السیئات آپ پڑھ ہی چکے ہیں یہی اس حدیث کا مراقبہ کے مضمون سے تعلق ہے۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز وصیت

الثالث : عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، فَقَالَ : " يَا غُلَامُ ، إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ : أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، أَحْفَظِ اللَّهَ تَحْذَهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، وَاعْلَمْ : أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُمِعَتِ الصُّحُفُ " (رواه الترمذي ، وَقَالَ : " حديث حسن صحيح)

وفي رواية غير الترمذي: " أَحْفَظِ اللَّهَ تَحْذَهُ أَمَامَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخْلَةِ يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَّةِ ، وَاعْلَمْ : أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَاعْلَمْ : أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا " .

توجہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: میں ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے (پیچھے چل رہا) تھا تو آپ نے مجھ سے خطاب کر کے فرمایا اے لڑکے! میں تمہیں چند (ضروری) باتیں بتلاتا ہوں (انہیں ہمیشہ یاد رکھنا)

(۱) تم اللہ کی (عبادت و طاعت کی) حفاظت کرو تو اللہ (دینی اور دنیوی آفتوں سے) تمہاری حفاظت کریگا۔

(۲) تم اللہ (کے حاضر و ناظر ہونے کے یقین) کی حفاظت کرو تو تم اللہ تعالیٰ کو (ہر وقت) اپنے سامنے پاؤ گے (اور مراقبہ کے مرتبہ سے ترقی کر کے مشاہدہ کے مرتبہ پر پہنچ جاؤ گے)

(۳) اور جب بھی سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرنا (وہی تمہارے سوال کو پورا کرتا ہے کوئی دوسرا اگر کرتا بھی ہے تو وہ بھی اسی کے حکم سے پورا کرتا ہے)

(۴) اور جب بھی مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا (یا اپنے کسی بندے سے کرا دے گا)

(۵) یاد رکھو! تمام مخلوق بھی اگر تم کو کوئی نفع پہنچانے پر متفق و متحد ہو جائے تو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے (تمہارے مقدر میں) لکھ دیا ہے۔

(۶) اور اگر تمام مخلوق بھی تم کو کوئی نقصان پہنچانے پر متفق و متحد ہو جائے تو وہ تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے (تمہارے مقدر میں) لکھ دیا ہے (اس لئے نوشتہ تقدیر پر ہی یقین و ایمان رکھو اور

قناعت کرو مخلوق کی نفع رسانی یا نقصان رسانی کی طرف قطعاً التفات نہ کرو اور کسی کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ)

(۷) یاد رکھو! تقدیر کے قلم (جو لکھتا تھا) لکھ چکے اور نوشتہ ہائے تقدیر خشک ہو چکے (اب نہ اس میں کسی تغیر و تبدل کا امکان ہے اور نہ مٹنے مٹانے کا) امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جامع ترمذی کی روایت ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکو صحیح اور حسن کہا ہے ترمذی کے علاوہ اور کتب حدیث میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

(۱) تم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھو تو اس کو ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گے (وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے)

(۲) تم فراخی اور خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو پہچانو (کہ یہ فراخی و خوشحالی محض اس کا انعام و احسان ہے) تو اللہ تعالیٰ سختی اور تنگدستی میں تمہیں پہچانے گا (کہ یہ میرا وہی شکر گزار بندہ ہے جس نے فراخی و خوشحالی

میں مجھے یاد رکھا تھا اور تمہاری سختی اور تنگدستی کو دور کر دے گا)

(۳) یاد رکھو! جس مصیبت سے تم بچ گئے وہ (در اصل) تم پر آئی نہیں سکتی تھی اور جو مصیبت تم پر آئی اس سے تم (کسی طرح) بچ ہی نہیں سکتے تھے (یعنی جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور جو نہیں ہے وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا)

(۴) اور یہ بھی یاد رکھو! کہ مدد یقیناً صبر کے ساتھ ہے (جو صبر کرتا ہے اس کی ضرورت مدد کی جاتی ہے) اور کشائش یقیناً سختی کے ساتھ ہے اور آسانی یقیناً دشواری کے ساتھ ہے (یعنی ہر تکلیف کے بعد راحت اور ہر دشواری کے بعد آسانی ضرور میسر آتی ہے صبر و تحمل کے ساتھ انتظار کرنا چاہئے گھبرانا اور داویلا نہ کرنا چاہئے نہ کوئی مصیبت اور تکلیف دائمی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی مشکل اور دشواری ہمیشہ رہتی ہے)

ان وصیتوں کا تجزیہ اور یہ کہ کونسی وصیت کس باب سے متعلق ہے

تشریح: اس حدیث کی پہلی روایت میں سات وصیتیں مذکور ہیں ان میں سے

۱- میں تقویٰ کی تعلیم ہے جس کا تفصیلی بیان اگلے باب میں آتا ہے

۲- مراقبہ اور اللہ کی نگرانی سے متعلق ہے اسی جزو کی وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو مراقبہ

کے باب میں لائے ہیں

۳-۴- کا تعلق استعانت باللہ۔ اللہ ہی سے مدد مانگنے سے ہے۔ جو توکل کے تحت داخل ہے اور باب الیقین والتوکل کے ذیل میں اس کا بیان آتا ہے اس استعانت باللہ کا ماخذ سورۃ فاتحہ کی آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔

۵-۶-۷- کا تعلق ایمان بالقدر سے ہے جس کا ذکر آپ حدیث جبرئیل علیہ السلام کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں۔ دوسری روایت میں چار وصیتیں مذکور ہیں ان میں سے (۱) کا تعلق مراقبہ سے ہے جس کا تفصیلی بیان اسی باب میں آپ پڑھ چکے ہیں اور نمبر (۲) کا تعلق شکر سے ہے اور اس کا ماخذ آیت کریمہ ذیل ہے۔

لئن شکرتم لازیدنکم ولنن کفرتم ان عدای لشدید (ابراہیم: ع ۲)

بخدا اگر تم شکر ادا کرو گے تو یقیناً میں تم کو اور زیادہ (نعمتیں) دوں گا اور بخدا اگر تم نے ناشکری کی تو (یاد رکھو) میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ نمبر (۳) کا تعلق ایمان بالقدر سے ہے اور نمبر (۴) کا تعلق صبر سے ہے جس کا تفصیلی بیان آپ مستقل باب کے تحت پڑھ چکے ہیں۔

اس حدیث کی اہمیت اور مسلمانوں کی

ان زریں تعلیمات سے افسوس ناک بے خبری

اس حدیث پاک میں مراقبہ اللہ کی نگرانی اور ذکر اللہ، اللہ کی یاد، کی اہمیت ضرورت اور منفعت کی تعلیم کے علاوہ شفیق اعظم ہادی برحق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو استعانت باللہ، ایمان بالقدر اور صبر و شکر سے متعلق ایسی زریں وصیتوں اور بیش بہا نصیحتوں کی بھی تعلیم دی ہے کہ اگر مسلمان ان کو اپنے دلوں پر پتھر کی لکیر کی طرح نقش کر لیں تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور آخرت کی فلاح و کامرانی ان کے لئے یقینی

ہو جائے دوسری طرف نہ صرف دنیوی زندگی کی تمام دشواریاں آسان اور مشکلات حل ہو جائیں بلکہ دنیا میں مصائب و تکالیف جن سے اس زندگی میں کوئی نہیں بچ سکتا کا باوقار مردانہ وار مقابلہ کر کے نہایت عزت و عظمت اور فلاح و کامرانی کی زندگی بسر کر سکیں نہ کسی تکلیف و مصیبت میں کسی کے بزدلانہ گلہ و شکوہ کی نوبت آئے اور نہ کسی کو اپنی مصیبت و تکلیف کا ذمہ دار قرار دے کر برا بھلا کہنے کی حماقت ان سے سرزد ہو۔

ہماری بے حسی یا بد قسمتی

یہ ہماری بے حسی یا بد قسمتی ہے کہ ہم اپنے مشفق اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سرے سے بے خبر ہیں اگر اتفاق سے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے یا وعظ خطبہ وغیرہ میں سننے کی توفیق بھی ہوتی ہے تو محض عقیدت و احترام کی نیت سے پڑھ یا سن لیتے ہیں ان پر عمل کرنے یا زندگی میں ان سے فائدہ اٹھانے کی طرف توجہ مطلق نہیں ہوتی کتنی بڑی محرومی ہے اللہ رحم کرے۔

بچوں کو ادا نکل عمر میں ہی یہ وصیتیں یاد کر ادینی چاہئیں

راوی حدیث حضرت ابن عباس جن کی عمر اس وقت صرف ۹ یا ۱۰ سال کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا غلام 'اے لڑکے' کے شفقت بھرے الفاظ سے خطاب فرما کر ان زریں نصائح کو بیان کرنے کا مشاہدہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اُمت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے نو عمر لڑکوں اور لڑکیوں کو ادا نکل عمر سے ہی یہ نصیحتیں یاد کر ادینا چاہتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں بچپن سے ہی راسخ ہو جائیں اور ایمان و اعتقاد کا جزو بن جائیں اور ساری عمر وہ ان کی روشنی میں کامیاب و کامران زندگی بسر کر سکیں اور دین و دنیا کی فلاح حاصل کر سکیں۔

غلط فہمی اور اس کا ازالہ

اس حدیث کی پہلی روایت کے فقرہ نمبر (۵) اور دوسری روایت کے فقرہ نمبر (۳) کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عالم اسباب میں مصائب و آفات اور تکالیف و نقصانات سے بچنے کی ظاہری تدابیر و اسباب نہ اختیار کئے جائیں اور سعی و کوشش کو چھوڑ بیٹھیں اس لئے کہ اس تدبیر اور جدوجہد کے توہم شرعاً مامور اور مکلف ہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنی تدبیروں اور کوششوں پر نیز ظاہری اسباب پر بھروسہ اور اعتماد نہ کریں اور کامیابی کی صورت میں مغرور اور خدا فراموش نہ بن جائیں اور ناکامی کی صورت میں خدا کی رحمت سے مایوس اور اس سے بدظن نہ ہوں نیز ہمت نہ ہاریں خود کو یا کسی دوسرے کو مورد الزام ناکامی کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں تقدیر کو نہ کہیں بلکہ صدق دل سے یقین و اطمینان رکھیں کہ جو کچھ ہوایا ہو رہا ہے سب منجانب اللہ ہے اسی میں مصلحت ہے گو ہم نہ سمجھیں رہی ہماری تدبیریں اور کوششیں سو وہ تو صرف تعمیل حکم کے لئے تھیں اور ہیں جو کامیابی ہوئی وہ محض اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان ہے اس پر شکر ادا کریں اور ناکامی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور اس سے

کامیابی یا ناکامی کے نعم البدل بہترین بدلہ کی اور رحم و کرم کی دعائیں یہی اچھی بری تقدیر پر ایمان جس کا ذکر آپ حدیث جبرئیل علیہ السلام میں پڑھ چکے ہیں رکھنے کا مطلب ہے خود ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنا اور دنیاوی اسباب و تدابیر کو چھوڑ بیٹھنا۔ ایمان بالقدر ہے اور نہ ہی صبر و توکل ہے خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدابیر اور اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ ایک دن ایک شتر سوار دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا یا رسول اللہ! میں اس اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کروں یا اس کے گھسنے باندھ دوں اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا: اعقلہا فتوکل اسے باندھ دو اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو یعنی اسباب و تدابیر ضرور اختیار کرو مگر ان پر بھروسہ ہرگز نہ کرو بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر کرو۔

اسی طرح پہلی روایت کے فقرہ نمبر (۳) اور (۴) کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آکر تمہارے سوال کو پورا کرے گا یا مدد کرے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ سے کوئی بھی ہو سوال کرنے یا مدد مانگنے کے بجائے جس میں کفر و شرک لازم آجائے کا قوی اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرو اسی سے مدد مانگو وہ اپنے کسی بندے کے دل میں ڈال دے گا وہ تمہارا سوال پورا کر دے گا یا مدد کرے گا اس کے بعد جو بھی تمہارا سوال پورا کرے یا مدد کرے دل سے یقین کرو کہ یہ کار سازی دراصل اللہ تعالیٰ کی ہے اس پر اول اللہ تعالیٰ کا شکر دل و جان سے ادا کرو اس کے ساتھ ہی اس شخص کا بھی شکر یہ ادا کرو اس لئے کہ شریعت کا حکم ہے کہ جو تم پر احسان کرے یا تمہاری مدد کرے تم اس کا شکر یہ ضرور ادا کرو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جس نے (احسان کرنے والے) لوگوں کا شکر نہ ادا کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔

خطاؤں اور گناہوں کی جرأت پیدا ہونے کا سبب

الرابع : عن أنس رضي الله عنه ، قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَوْبِقَاتِ . رواه البخاري . وَقَالَ : " الْمَوْبِقَاتُ " : الْمُهْلِكَاتُ .

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں بیشک تم آج کل بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ باریک حقیر اور معمولی ہیں اور ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں انہی کاموں کو ہلاک کر دینے والے کاموں میں سے شمار کیا کرتے تھے (یعنی خدا کی نگرانی سے غفلت اور اس کے محاسبہ کا خوف دلوں میں نہ رہنے کی وجہ سے تمہاری نظروں میں خطاؤں اور چھوٹے موٹے گناہوں کی وہ اہمیت باقی نہیں رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اور خوف خدا کے غلبہ کی وجہ سے ہماری نظروں میں تھی اس لئے کہ اول تو صغیرہ گناہ کو معمولی اور حقیر سمجھنا خود کبیرہ ہے علاوہ ازیں یہی صغیرہ گناہ بڑھتے بڑھتے کبیرہ گناہوں کے

ارٹکاب کا سبب بن جاتے ہیں اسی لئے ہم ان صغیرہ گناہوں کو ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے غرض خوف خدا اور محاسبہ اعمال کا احساس باقی نہ رہنے کی وجہ سے ہی تم خطاؤں اور گناہوں کے ارٹکاب پر اس قدر جری ہو گئے ہو۔ الموبقات کا معنی ہے ہلاک کر نیوالی۔

ہماری حالت اور اس کی وجہ اور اس کے سدھارنے کی تدبیر

تشریح: جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کہ پوری ایک صدی بھی نہ گزری تھی اتنا برفرق پڑ گیا تھا اور خدا کے قہر و غضب سے بے خوفی و غفلت اور اس کی نگرانی سے لاپرواہی اور اس کے نتیجہ میں گناہوں کی جرأت کا یہ عالم تھا تو آج چودہ صدیوں کے بعد کا تو کہنا ہی کیا ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں غیبت، دھوکہ دہی، جھوٹ، جھوٹی شہادت، دروغ حلفی، سودی کاروبار، ناجائز لین دین جیسے مہلک کبیرہ گناہ اور کھلے ہوئے حرام کام نہ صرف یہ کہ کچھ برے نہیں سمجھے جاتے بلکہ فخریہ بیان کئے جاتے ہیں اس کی وجہ صرف خدا سے بے تعلقی اور اس کے محاسبہ کے خوف اور نگرانی کے یقین کا دلوں سے نکل جانا ہے ہر عبادت و طاعت کے وقت تو ہم خدا کے سامنے ہونے اور اس کے دیکھنے کو تو کیا باور کرتے ہم تو نماز تک میں یہ نہیں سمجھتے کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ ہماری نقل و حرکت کو اور ہمارے دلوں اور ان کے ادھر ادھر بھٹکنے والے خیالات کو دیکھ رہا ہے اور یہ کہ ہم اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں اور وہ سن رہا ہے حالانکہ مشفق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں آگاہ کیا ہے نمازی نماز میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اور اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان یعنی سامنے ہوتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں اس قادر مطلق اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا بھی نہیں جتنا ایک ٹریفک کے سپاہی کے دل میں اپنے اس افسر کا خوف ہوتا ہے جس کے متعلق اسے یقین ہو کہ اگرچہ افسر مجھے نظر نہیں آ رہا مگر یقیناً وہ کسی خفیہ جگہ سے میری نگرانی کر رہا ہے حالانکہ وہ احکم الحاکمین پکار پکار کر کہہ رہا ہے ان ربك لبالمرصاد۔ بیشک تیرا رب تیری گھات میں ہے۔

اسی تباہ کن صورت حال اور اس کے نتیجہ بد سے قرآن عظیم آیت کریمہ نمبر (۱۴) میں متنبہ کر رہا ہے اور اس کی اصلاح کی تدبیر محاسبہ اعمال، اپنے اعمال کا جائزہ لینا بتلا رہا ہے مگر وائے محرومی کہ ہماری آنکھیں نہیں کھلتیں صرف اس لئے کہ مراقبہ اللہ کی نگرانی کا یقین ہے نہیں یا نہ ہونے کے برابر ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صحبت کا بدل

یاد رکھئے اگرچہ خاتم الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اثر صحبت تو آپ کی وفات کے بعد میسر آنا ممکن نہیں مگر آپ کے وہی انفاں قدسیہ کلمات طیبہ اور پورا اسوۂ حسنہ جس سے صحابہ کرام کی کاپی پلٹ ہوئی تھی محدثین

رحمہ اللہ کی مساعی جلیلہ کے نتیجہ میں کتب حدیث میں موجود و محفوظ ہے اگر پختہ ایمان پچی عقیدت اور اصلاح کی مخلصانہ نیت کے ساتھ ہم آج ان احادیث کو پڑھیں یا پڑھوا کر سنیں تو وہ ہمارے دلوں سے بھی اس غفلت، وبے خوئی اور لاپرواہی کے زنگ کو دور کرنے کے لئے بہت کافی دوائی ہیں بشرطیکہ جیسا چاہے۔ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف روز حساب کا ڈر اور اس کے نتیجہ میں عذاب آخرت سے نجات کی جستجو اور اصلاح احوال کا عزم مصمم اٹل ارادہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کی غیرت

الخامس : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغَارُ ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ تَعَالَى ، أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ " متفق عليه . و " الغيرةُ " : بفتح الغين ، وأصلها الأنفة .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: اللہ کو بھی غیرت آتی ہے اور اللہ کو غیرت اس پر آتی ہے کہ انسان وہ کام کرے جو اس نے حرام کئے ہیں۔ غیرت کے معنی خودداری کے ہیں۔

غیرت کے معنی اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت

تشریح: غیرت کا لفظ اردو میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے (۱) ایک یہ کہ کوئی شخص یہ سمجھ کر کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی برا کام کرے یا ایسا کام کرے جو خود اگرچہ برائہ ہو مگر دوسروں کے سامنے وہ کام کرنا معیوب ہو اور اس حالت میں کوئی آجائے یا اسے دیکھ لے تو اگر وہ فوراً اس کو چھوڑ دے یا چھپنے کی کوشش کرے تو یہ غیرت ہے اور اگر نہ کرے تو یہ بے غیرت ہے گویا یہ غیرت شرم و حیا کے معنی میں ہے اور خود انسان کی ذات اور اس کے اعمال و افعال سے متعلق ہے اس معنی کے اعتبار سے غیرت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی حدوث و تغیر کی کیفیات سے مقدس اور منزہ ذات کی طرف ہرگز جائز نہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے نقائص اور کمزوریوں سے پاک اور پاکیزہ ہیں (۲) غیرت کا دوسرا استعمال یہ ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو یا کوئی آقا اپنے لوگوں کو سختی کے ساتھ کسی کام سے منع کرے اور وہ اولاد یا نوکر خود اس کے سامنے وہ کام کریں تو اس پر اگر اس باپ یا آقا کو ان کی یہ بے پردائی اور دیدہ دلیری غایت درجہ ناگوار گزرے غصہ آئے اور ان کو سزا دینے کے لئے تیار ہو جائے تو یہ غیرت ہے اور وہ باپ یا آقا غیور ہے اگر وہ ایسا نہ کرے تو یہ بے غیرت ہے اور وہ باپ یا آقا بے غیرت اور بے حیثیت ہے سادہ لفظوں میں اس غیرت کے معنی ہیں ناگواری ناراضگی کا اظہار اپنی شفقت و رحمت سے محروم کر دینا اور اس کا تعلق دوسروں کے افعال و اعمال سے ہوتا ہے اس فرق کو سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیرت کے معنی سمجھئے۔

اللہ تعالیٰ خالق کائنات اور پروردگار عالم اپنی پروردہ مخلوق انسانوں کو ان حرام کاموں کو کرتا ہوا دیکھتا ہے جن کو اس نے انہی انسانوں کے فائدہ کے لئے حرام کیا ہے تو اس کو اس مخلوق کی یہ بیباکی اور بے غیرتی سخت ناگوار گزرتی ہے اور شدید غصہ آتا ہے اور پھر یا اسی وقت اس حرام کاری اور حرام خوری کی سزا دیتا ہے اور اگر کسی مصلحت کی وجہ سے اسی وقت سزا نہیں بھی دیتا تو ان سے ناراض ضرور ہو جاتا ہے اور اپنی شفقت و رحمت سے ان کو محروم کر دیتا ہے الایہ کہ وہ اپنے اس گناہ اور نافرمانی کی معافی مانگیں اور آئندہ کے لئے توبہ کریں تو وہ غفور و رحیم پروردگار ان کو معاف کر دیتا ہے اور پھر رحمت و شفقت سے نوازنا شروع کر دیتا ہے مختصر اور سادہ لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی غیرت کے معنی ہیں محرمات حرام کاموں کا ارتکاب کرنے والوں سے ناراض ہو جانا یعنی ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا۔

حدیث کا مراقبہ سے تعلق

یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہر قول اور فعل کی سخت نگرانی کرتے ہیں خاص کر حرام کام کرنے والے نافرمان بندوں کی اگرچہ وہ یہی سمجھتے رہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا چنانچہ آپ آیت کریمہ نمبر (۳) میں پڑھ چکے ہیں ان ربك لبالمرصاد۔

یہ واقعہ ہے اگر کسی سچے مومن بندے کو بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے وقت یہ خیال آجائے یا کوئی خیال دلادے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو فوراً وہ اس گناہ سے باز آجاتا ہے جیسا کہ آپ کتاب کے پہلے باب میں ان تین آدمیوں کے قصہ میں جو ایک غار میں بند ہو گئے تھے دوسرے آدمی کا واقعہ پڑھ چکے ہیں اور ہم اسی خیال کو ہر وقت متحضر رکھنے کی تدبیر مراقبہ کے بیان میں بتلا چکے ہیں یاد نہ رہی ہو تو اس بیان کو دوبارہ پڑھ لیجئے اور اس پر عمل کیجئے تاکہ آپ غیرت خداوندی کا نشانہ بننے سے محفوظ و مامون رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔

اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا ایک عجیب واقعہ

السادس : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : "إنّ ثلاثة من بني إسرائيل : أبرص ، وأقرع ، وأعمى ، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاً ، فأتى الأبرص ، فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : لونٌ حسنٌ ، وجلدٌ حسنٌ ، ويذهب عني الذي قد قذّرني الناسُ ؛ فمسحه فذهب عنه قذره وأعطني لونا حسناً . فقال : فأني المال أحب إليك ؟ قال : الإبل أو قال : البقر شك الراوي فأعطي ناقه عشاءً ، فقال : برك الله لك فيها . فأتى الأقرع ، فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : شعرٌ حسنٌ ، ويذهب عني هذا الذي قذّرني الناسُ ؛ فمسحه فذهب عنه وأعطني شعراً حسناً . قال : فأني المال أحب إليك ؟ قال : البقر ، فأعطي بقره حاملاً ، وقال : برك الله لك فيها .

فَأَتَى الْأَعْمَى ، فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصْرِي فَأُبْصِرَ النَّاسَ ؛ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصْرَهُ . قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْغَنَمُ ، فَأَعْطِي شَاةً وَالِدًا ، فَأَنْتَجِحَ هَذَانِ وَوَلَدٌ هَذَا ، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ .

ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مَسْكِينٌ قَدْ انْقَطَعَتْ بِي الْحِيَالُ فِي سَفْرِي فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ ، وَالْمَالَ ، بَعِيرًا أَتَبْلُغُ بِهِ فِي سَفْرِي ، فَقَالَ : الْحَقُوقُ كَثِيرَةٌ . فَقَالَ : كَأَنِّي اعْرِفُكَ ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَفْزَعُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ ؟! فَقَالَ : إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيِّرْكَ اللَّهُ إِلَيَّ مَا كُنْتُ .

وَأَتَى الْأَفْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيِّرْكَ اللَّهُ إِلَيَّ مَا كُنْتُ .

وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مَسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ انْقَطَعَتْ بِي الْحِيَالُ فِي سَفْرِي ، فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصْرَكَ شَاةً أَتَبْلُغُ بِهَا فِي سَفْرِي ؟ فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصْرِي فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللَّهِ مَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . فَقَالَ : أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتَلَيْتُمْ . فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ ، وَسَخِطَ عَلَيَّ صَاحِبَيْكَ “ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ” وَ” النَّاقَةُ الْعُشْرَاءُ “ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الشَّيْنِ وَبِلَدِّ هِيَ الْحَامِلُ . قَوْلُهُ : ” أَنْتَجِحَ “ وَفِي رِوَايَةٍ : ” فَتَنْجَحَ “ مَعْنَاهُ : تَوَلَّى نِتَاجَهَا ، وَالنَّاتِجُ لِلنَّاقَةِ كَالْقَابِلَةِ لِلْمَرْأَةِ . وَقَوْلُهُ : ” وَلَدٌ هَذَا “ هُوَ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ : أَيُّ تَوَلَّى وِلَادَتِهَا ، وَهُوَ بِمَعْنَى أَنْتَجِحَ فِي النَّاقَةِ ، فَالْمَوْلُودُ ، وَالنَّاتِجُ ، وَالْقَابِلَةُ بِمَعْنَى ؛ لَكِنْ هَذَا لِلْحَيَوَانَ وَذَاكَ لِغَيْرِهِ . وَقَوْلُهُ : ” انْقَطَعَتْ بِي الْحِيَالُ “ هُوَ بِالْحَاءِ الْمَهْمَلَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ : أَيُّ الْأَسْبَابِ . وَقَوْلُهُ : ” لَا أَجْهَدُكَ “ مَعْنَاهُ : لَا أَشَقُّ عَلَيْكَ فِي رَدِّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ أَوْ تَطْلِبُهُ مِنْ مَالِي . وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : ” لَا أَحْمَدُكَ “ بِالْحَاءِ الْمَهْمَلَةِ وَالْمِيمِ وَمَعْنَاهُ : لَا أَحْمَدُكَ بِتَرْكِ شَيْءٍ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، كَمَا قَالُوا : لَيْسَ عَلَى طُولِ الْحَيَاةِ نَمٌّ : أَيُّ عَلَى فَوَاتِ طَوْلِهَا .

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تین (مصیبت زدہ روگ) آدمیوں کو ان پر حجت قائم کرنے کی غرض سے آزمانا چاہا ایک جذامی دوسرا گنجا تیسرا اندھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو (انسانی شکل میں) بھیجا وہ جذامی کے پاس آیا اور کہا: بتلا تجھے کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا: دل آویز رنگ و روپ اور خوش رنگ (بدن کی) کھال مجھے محبوب ہے اور یہ جذام جس کی وجہ سے مجھے لوگوں نے

گندا (اور اچھوت) بنا رکھا ہے اس سے مجھے نجات مل جائے فرشتہ نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا وہ ساری گندگی (جذام کا اثر) ایک دم جاتی رہی اور نہایت حسین رنگ و روپ اور دلکش (بدن کی) کھال اس کو دے دی گئی فرشتہ نے کہا: اب بتا تجھے کون سی قسم کا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے بتلایا: اونٹ یا گائیں راوی کو شک ہے (کہ اونٹ کہا یا گائیں) چنانچہ اسے ایک ماہ کی گابھن اونٹنی دے دی گئی اور فرشتہ نے اس کو دعادی خدا تجھے اس میں برکت دے (اور اونٹوں کی نسل میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو) اس کے بعد گنجدے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا: تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت (لمبے لمبے) بال مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور یہ جو گنجدے جس کی وجہ سے لوگوں نے مجھے گندا پلید بنا رکھا ہے یہ جاتا رہے فرشتہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اس کا گنجدے فوراً جاتا رہا اور خوبصورت (لمبے لمبے) بال اس کو دے دیئے گئے اس کے بعد فرشتہ نے پوچھا: اب بتا تجھے کون سی قسم کا مال زیادہ پسند ہے اس نے کہا گائیں، چنانچہ اسی وقت ایک گابھن گائے اس کو دے دی گئی اور فرشتہ نے دعادی: اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔

اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا: تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو بس خدا بینائی عطا کر دے (اور کچھ نہیں چاہئے) چنانچہ فرشتہ نے اس کے چہرہ پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اسی وقت اس کی بینائی واپس کر دی پھر فرشتہ نے پوچھا: اب تجھے کون سی قسم کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے تو بھیڑ بکریاں پسند ہیں چنانچہ اس کو ایک گابھن بکری دے دی گئی اور فرشتہ نے اس کو بھی برکت کی دعادی اور چلا گیا۔

چنانچہ جذامی، گنجدے اور اندھے تینوں کے ہاں اونٹوں، گایوں اور بھیڑ بکریوں کے خوب بچے ہوئے اور خوب نسلیں بڑھیں اور تینوں خوب مالدار ہو گئے جذامی کے ہاں اونٹوں (کے گلے) سے وادی بھر گئی اور گنجدے کے ہاں گائیں بھینسوں کے گلے سے وادی بھر گئی اور اندھے کے ہاں بھیڑ بکریوں (کے ریوڑ) سے وادی بھر گئی۔

تو پھر وہی فرشتہ جذامی کے پاس بالکل اسی کی سی (جذامی) شکل و صورت اور حلیہ میں آیا (یعنی ایک جذامی آدمی کی صورت میں) اور کہا: بابا! میں ایک مسکین محتاج اپانچ مسافر ہوں سفر جاری رکھنے کے وسائل (سواری اور سفر خرچ) سے محروم ہو گیا ہوں اب میرا سہارا اللہ تعالیٰ کے اور پھر تیرے سوا کوئی نہیں میں تجھ سے اس اللہ تعالیٰ کے نام پر جس نے تجھے یہ دلکش رنگ و روپ اور حسین و جمیل جلد عطا کی ہے اور کثیر مال بھی دیا ہے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے (سواری کے لئے) ایک اونٹ دے دے جس سے میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں اور پورا کر لوں (وطن پہنچ جاؤں) جذامی بولا: میاں میرے ذمے

تو اتنے بہت سارے حقوق ہیں (جن کے لئے یہ مال کافی بھی نہیں، تجھے کہاں سے دے دوں) فرشتہ نے کہا کہ: مجھے تو ایسا یاد پڑتا ہے کہ میں تجھے جانتا پہچانتا ہوں تو وہی جذامی نہیں ہے؟ جس کو لوگ پلید سمجھتے تھے (اور دور بھاگتے تھے) اور کوڑی کوڑی کو تو محتاج تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے (محض اپنے فضل سے) یہ (صحت و حسن اور مال و منال) عطا فرمایا ہے جذامی بولا: جا، جا، میں ایسا کیوں ہوتا) میں تو باپ دادا سے ایسا ہی (حسین و جمیل اور) مالدار چلا آتا ہوں فرشتہ بولا: اگر تو جھوٹ بول رہا ہو تو خدا تجھے پھر ویسا ہی بنا دے جیسا تو تھا (چنانچہ وہ اسی حالت کو پہنچ گیا جس پر تھا)

اس کے بعد گنجدے کے پاس اسی گنجدے کی شکل و صورت اور حلیہ میں آیا اور وہی سوال اسی طرح کیا جس طرح جذامی سے کیا تھا گنجدے نے بھی اس کو وہی جواب دیا جو جذامی نے دیا تھا اس پر فرشتے نے بھی اس کے جواب میں وہی کہا (کہ کیا تو ایسا ایسا نہ تھا) جو جذامی کے جواب میں کہا تھا اور اس کے بعد کہا: اگر تو جھوٹ بول رہا ہو (اور منعم و محسن پروردگار کی ناشکری کر رہا ہو) تو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تھا (چنانچہ وہ بھی کفران نعمت کی سزا کو پہنچا اور ویسا ہی ہو گیا جیسا تھا)

اس کے بعد اندھے کے پاس اسی اندھے کی شکل و صورت اور حلیہ میں آیا اور کہا میں اندھا محتاج مسافر ہوں اور وسائل سفر (سواری اور خرچ راہ) سے محروم ہو گیا ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بعد تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں کہ میں اپنا سفر (جاری رکھ سکوں) پورا کروں (اور اپنے دل سے پہنچوں) میں تجھ سے اس اللہ تعالیٰ کے نام پر جس نے تجھے بینائی واپس کی (اور مال و دولت سے نوازا) چند بکریوں کا سوال کرتا ہوں جن کے ذریعہ میں اپنی منزل مقصود کو پہنچ سکوں اندھے نے کہا: بیشک میں ناپینا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے دوبارہ بینائی عطا فرمادی (اور اس مال و منال سے نوازا اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے) لہذا تم (ان بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں سے) جتنی بھیڑ بکریاں چاہو لے لو اور جتنی چاہو چھوڑ دو (تمہیں اختیار ہے) اللہ تعالیٰ کی قسم جو بھی تم اللہ تعالیٰ کے نام پر لوگے میں اس پر مطلق ناگواری کا اظہار نہ کروں گا (تم بلا تکلف جو چاہو اور جتنا چاہو لے لو) تو اس پر فرشتہ نے کہا: تمہارا مال تمہیں مبارک ہو واقعہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم تینوں آدمیوں (کے صبر و شکر) کا امتحان لیا گیا ہے (تمہیں خوشخبری ہو کہ) اللہ تم سے (تمہاری احسان شناسی اور شکر گزاری پر) خوش ہو گیا اور تمہارے دونوں ساتھیوں (جذامی اور گنجدے) سے (ان کی ناشکری اور جھوٹ بولنے پر) ناراض ہو گیا (اور اس ناشکری کی سزا میں ان کو ویسا ہی جذامی اور گنجا بنا دیا)

الثلاثة العشراء عین کے ضمہ ش کے زیر اور مد کے ساتھ۔ حاملہ اونٹنی۔ آج اور دوسری روایت میں فتح معنی ہیں اس کی پیداوار کا مالک ہو۔ نائج وہ آدمی جو اونٹنی سے بچہ جنوائے جیسے عورت کیلئے قابلہ (دایہ) بولدھل

یعنی بکری سے پیدا ہونے والے بچوں کا مالک ہو۔ ولد ایسے ہی ہے جیسے ناکتہ میں اناج ہے، یعنی مولد ناناچ اور قابلہ کے ایک ہی معنی ہیں، لیکن قابلہ انسان کیلئے ہے اور باقی دو الفاظ حیوان کیلئے ہیں۔ انقطع بی الحبال حاء مہملہ کیساتھ اور باء موحده کیساتھ یعنی اسباب لائحہ ک۔ یعنی میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کہ تم میرے مال سے کیا طلب کرو اور کیا لے لو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے لائحہ ک حاء مہملہ اور میم کے ساتھ اگر تمہیں کسی شے کی ضرورت ہو اور تم نہ لو تو میں تمہاری تعریف نہیں کروں گا (مجھے اچھا نہیں لگے گا) جیسے کہتے ہیں لیس علی طول الحیاة ندم یعنی عمر دراز پر کوئی ندامت نہیں۔ یعنی عمر کے لمبانہ ہونے پر۔

اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا ایک عبرت آموز واقعہ

اور اُمت محمدیہ کو اس سے سبق لینے کی ہدایت

تشریح: یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے صبر و شکر کی نگرانی اور آزمائش سے متعلق کسی پہلی اُمت کا ایک واقعہ ہے خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کے مالدار اور خوشحال لوگوں کی تنبیہ اور عبرت کے لئے بیان فرمایا ہے یہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اُمت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی اس طرح فرشتوں کے ذریعہ بطور امتحان آزمائش نہیں کرتے اور ہاتھ کے ہاتھ بغیر توبہ کا موقع دیئے ناشکری کی سزا نہیں دیتے تاہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اس واقعہ کو بیان کرنے سے یہی ہے کہ آپ کی اُمت کے متمول اور خوشحال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اس نگرانی اور آزمائش سے غافل نہ رہنا چاہئے اور جب بھی کوئی حاجت مند سائل ان کے پاس آئے تو فوراً یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور آزمائش ہے اس نے اس ضرورت مند کو صرف میری آزمائش کے لئے میرے پاس بھیجا ہے ورنہ وہ خود اپنے خزانہ غیب سے اپنے بندے کی حاجت کو پورا کر دیتے اور اس نابینا کی طرح نہایت خندہ پیشانی اور فراخ حوصلگی کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی اور شکر نعمت کی نیت سے کما حقہ اور خاطر خواہ اسکی ضرورت کو پورا کرنا چاہئے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس حاجت مند کا ممنون ہونا چاہئے کہ اسی کی بدولت ہمیں یہ شکر نعمت ادا کرنے اور رضا الہی حاصل کرنے کا موقع ملا۔

اپنا جائزہ لیجئے

اس تفصیل کے بعد ذرا جائزہ لیجئے کہ ہم اور ہمارے دولت مند حضرات اس معیار پر کس قدر پورے اترتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں۔

دنیا میں ہی اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ہدایت اور اس کا فائدہ

السابع: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "

الکَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ“ رواه الترمذی، وَقَالَ: ”حَدِيثٌ حَسَنٌ“. قَالَ الترمذی وغيره من العلماء: معنى ”دَانَ نَفْسَهُ“: حَاسِبَهَا. **ترجمہ:** حضرت ابو یعلیٰ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زیرک (اور عاقبت اندیش) وہ شخص ہے جس نے خود اپنے اعمال کا محاسبہ کیا (اور جائزہ لیا) اور مرنے کے بعد (آخرت) کے لئے کام کیا اور عاجز و ناکارہ وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کی خواہشات اور اغراض کے پیچھے عمر گنوا دی (اور آخرت کے لئے کچھ نہ کیا) اور (ساری عمر) اللہ تعالیٰ سے (بغیر کچھ کئے) تمنائیں کرتا رہا (اور مغفرت کی امیدیں باندھتا رہا) اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے امام ترمذی اور دیگر علما نے فرمایا ہے کہ دان نفسہ کے معنی ہیں۔ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا۔

یہ خوبی روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے سے پیدا کی جاسکتی ہے

تشریح: مسلمان اپنے اسلام میں یہ خوبی اسی وقت پیدا کر سکتا ہے جبکہ وہ اپنے شب و روز کے کاموں کا محاسبہ کرتا رہے اور جائزہ لیتا رہے اس لئے اسے اپنے شب و روز کے اعمال کا روزانہ جائزہ لے کر نہ صرف گناہوں اور معصیوں کو بالکل ترک کر دینا چاہئے بلکہ ان تمام کاموں کو بھی چھوڑ دینا چاہئے جو آخرت میں کام آنے والے نہ ہوں اور ان کی جگہ سوچ سوچ کر وہ کام کرنے چاہئیں جو آخرت میں کام آئیں۔

اس حدیث پر عمل کرنے سے آپ کی

عام زندگی میں کوئی تنگی اور دشواری واقع نہ ہوگی

یاد رکھئے۔ آپ کے جائز معمولات زندگی میں اس حدیث پر عمل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف اتنا کرنا پڑے گا کہ جو کام بھی آپ کریں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نیت سے کریں اس طرح آپ کی ساری دنیا دین بن جائے گی جس کی تفصیل آپ اس کتاب کے پہلے باب میں نیت کی تشریح کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں۔

آخرت میں کام آنے والے اور نہ کام آنے والے کاموں کی تفصیل

یاد رکھئے انسان کی ہر جائز خواہش اور طبعی ضرورت اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نیت سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کی سنت کے مطابق جس کی تفصیل ان شاء اللہ اس پوری کتاب میں پڑھیں گے پوری کی جائے وہ یقیناً آخرت میں کام آنے والی ہے مزید تفصیل کے لئے اور دینی کتابوں کی مراجعت کیجئے خاص کر اس کتاب کا پہلا باب بار بار پڑھئے اور یاد رکھئے۔

اس حدیث پر عمل کرنے کا عظیم فائدہ

اس طریق کار پر عمل کرنے سے رفتہ رفتہ انسان کی زندگی فرشتوں کے لئے بھی قابل رشک بن جاتی ہے اس لئے کہ فرشتوں کی تمام خوبیاں اور پارسائی فطری اور غیر اختیاری ہے وہ کوئی بے کام یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے اسی لئے اس پر ان کے لئے کوئی جزاء اور صلہ و انعام نہیں اور اس انسان کی یہ تمام خوبیاں اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نفس اور شیطان کے علی الرغم برخلاف اور ضد پر خود اپنے قصد و ارادہ سے حاصل کردہ اور کافی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد حاصل شدہ ہیں اسی لئے ان کے عوض میں آخرت میں جزا۔ ے خیر اور جنت الفردوس کی نعمتوں کا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہو گا ایسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک عام فرشتوں سے افضل ہیں والحمد للہ علی ذلک اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔

بیوی بچوں پر دینی امور میں سختی اور تشدد کرنے پر آخرت میں باز پرس نہ ہوگی

الثامن : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ " حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ .
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے حسن اسلام کی ایک علامت یہ ہے کہ لایعنی باتوں کو ترک کر دے۔ (ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے)

حدیث کی شرح: انسان اس دنیا میں عمل کے لیے بھیجا گیا ہے ایسا عمل جس میں اس کی دنیا اور آخرت کی فلاح مضمر ہو انسان کی زندگی مختصر ہے اور اس کو ایک محدود فرصت عمل دستیاب ہے وہ اگر اسے لایعنی اور فضول باتوں میں صرف کر دے گا تو اس محدود مدت میں ان کے اعمال کی کمی واقع ہوگی جو اس کی زندگی سنوارنے اور اس کی آخرت کو کامیاب بنانے میں مفید ہو۔ اس لیے تقاضائے فہم و دانش یہ ہے کہ آدمی ان باتوں سے احتراز کرے جو غیر مفید اور غیر ضروری ہوں خواہ ان کا تعلق افعال سے ہو یا عمل سے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان امور مہمہ کو انجام دینے میں اپنی صلاحیت اور وقت کو صرف کرے جن میں اس کی معاش اور معاد کی اصلاح ہو۔ کمالات علمیہ اور فضائل علمیہ کے حصول میں معروف ہو اور اعمال صالحہ میں اپنے اوقات صرف کرے تاکہ اللہ کے یہاں سرخرو اور کامیاب ہو اور ہر وقت اپنے نفس کا محاسب کرے کہ اس سے کوئی فضول بات یا غیر ضروری کام تو سرزد نہیں ہو گیا۔ حدیث مبارک جو اجماع الکلم میں سے ہے اور دریائے معانی پر مشتمل ہے اور ایک باعمل انسان کے لیے مشعل راہ ہے کہ اسلام کی خوبصورتی اور اس کا حسن لایعنی اور فضول باتوں کا ترک کر دینا ہے۔ (دلیل القالین ۱/۱۷۷)

التاسع : عن عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ .

توجہ: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: مشفق اعظم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (پابند شریعت) آدمی سے اپنے بیوی (بچوں) کو مار پیٹ کرنے پر (قیامت کے دن) کوئی باز پرس نہ ہوگی۔

اس باز پرس نہ ہونے کی وجہ ان کی نگرانی کا حکم ہے

تشریح: جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق اور پروردہ بندوں کے اعمال و اخلاق کے خود نگران ہیں اسی طرح اس نے مسلمان مردوں کو اپنے بیوی بچوں کے اعمال و افعال کا نگران بنایا ہے اور ان سے نماز روزے وغیرہ تمام احکام شرعیہ کی پابندی کرانا اور خلاف شرع کاموں سے باز رکھنے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرنا مردوں پر فرض قرار دیا ہے ارشاد ہے۔

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا (التحریم: ع ۱)

اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو (جہنم کی) آگ سے بچاؤ۔
خاص طور پر نماز کی پابندی کرانے کے متعلق ارشاد ہے۔

وامر اهلك بالصلوة واصطبر عليها لانسئلك رزقا (طہ: ع ۸)

تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا کرو اور سختی سے اس پر قائم رہو ہم تم سے رزق (دینے نہ دینے) کا سوال نہیں کریں گے (نماز پڑھوانے نہ پڑھوانے کا سوال کریں گے)
اور نگران بنانے کا اعلان ذیل کی آیت کریمہ میں فرمایا ہے:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا (النساء: ع ۶)

مرد عورتوں پر نگران ہیں اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ نے بعض کو (مردوں کو) بعض پر (عورتوں پر) دی ہے اور اس لئے کہ وہ ان کا خرچ اٹھاتے ہیں۔

اور اس نگران کے تحت بیویوں کو سمجھانے بچھانے اور اخلاقی سزا دینے اور ضرورت کے وقت (بقدر ضرورت) مار پیٹ کرنے کا اختیار ذیل کی آیت کریمہ میں دیا ہے۔

والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم

فلا تبغوا عليهن سبيلاً (النساء: ع ۶)

اور وہ عورتیں (بیویاں) جن کے سرکش بن جانے کا تمہیں اندیشہ ہو تو (پہلے) ان کو نصیحت کرو اور (ضرورت پڑے تو) ان کو بستر پر اکیلا چھوڑ دو (یعنی ساتھ سونا چھوڑ دو) اور (اس پر بھی نہ باز آئیں تو) ان

کی (ہلکی سی) پٹائی کر دو اگر وہ تمہارا کہاماننے لگیں تو ان کے خلاف (انتقام) کی راہ مت تلاش کرو (جو کچھ کرو اصلاح کی نیت سے کرو نہ کہ انتقام کی نیت سے)

ایک پابند احکام الہیہ مسلمان اپنی بیوی اور بچوں کو خلاف شرع کاموں پر ہی سزا دے سکتا ہے اور اسی نیت سے اور وہی سزا دے سکتا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مار پیٹ کی اجازت دی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ دینے اور کسی عضو کو بیکار کر دینے والی ایسی سزا ہر گز نہ ہونی چاہئے جو ہڈیوں تک اثر کرے باقی ان کاموں کی جن سے روکنا چاہئے اور ان سزاؤں کی مزید تفصیل جن کی اجازت دی ہے کتب حدیث و فقہ میں موجود ہے معلوم کیجئے بہر حال اس نگرانی اور خلاف ورزی پر گرفت کرنے میں نا موافقت ناراضگی اور عداوت و دشمنی کا جذبہ ہرگز کار فرمانہ ہونا چاہئے شریعت نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے چنانچہ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں فلا تبغوا علیہن سبیلاً میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

باب فی التقوی

تقوی کا بیان

تقوی کے لفظی اور شرعی معنی اور مصداق اور دنیوی و اخروی فائدے

تقوی دین اسلام کا خاص شعار اور امتیازی نشان ہے تقوی کے لفظی معنی ہیں کسی چیز یا کام سے باز آنا اور چھوڑ دینا یا بچنا اور دور رہنا اور شرعی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ سے باز آنا اور چھوڑ دینا یا بچنا اور دور رہنا۔

تقوی کے لفظی معنی اور شرعی معنی میں فرق

کسی کام یا چیز سے باز آنے اور چھوڑ دینے یا بچنے اور دور رہنے کا محرک اور سبب اگر دنیوی ہو یعنی دنیا میں اس سے جانی یا مالی نقصان یا مضرت پہنچنے کا اندیشہ یا عقوبت و سزا پانے کا ڈر یا کسی دنیوی شخصیت یعنی حکمران، پولیس وغیرہ کے مواخذہ کا خوف یا رسوائی اور بدنامی کا اندیشہ اس کام یا چیز سے باز آنے یا بچنے اور دور رہنے کا سبب ہو تو یہ محض ایک دنیوی دور اندیشی اور احتیاط کوشش ہے ”شریعت“ میں اسکی کوئی اہمیت اور دین میں اس کا کوئی مقام نہیں نہ یہ کوئی خاص عبادت ہے نہ طاعت نہ ہی موجب اجر و ثواب ہے۔

اور اگر اس کام یا چیز سے باز آنے اور چھوڑ دینے یا بچنے اور دور رہنے کا محرک اور سبب خدا کا ڈر اور آخرت کی پکڑ کا خوف ہے یعنی وہ کام یا چیز شرعاً حرام اور ممنوع ہے اور اس کا اختیار کرنا گناہ اور معصیت ہے خدا کے قہر و غضب یا ناراضگی اور دنیوی و اخروی عذاب یا رحمت الہی سے محرومی کا موجب ہے اور یقین ہو کہ دنیا میں اگر خدا کی پکڑ سے بچ بھی جائے تو آخرت کے عذاب سے تو توبہ و استغفار اور خدا کے معاف کئے بغیر جس کا علم ”روز جزا“ سے پہلے ممکن نہیں بچ ہی نہیں سکتا محض اس خدا کے ڈر اور آخرت کے خوف کی وجہ سے اس کام یا چیز سے باز رہتا اور چھوڑ دیتا ہے یا بچتا اور دور رہتا ہے تو یہ یقیناً خدا پرستی اور عبدیت کی بہت بڑی دلیل ہے اور سراسر عبادت و طاعت ہے اور دین اسلام کا شعار امتیازی نشان ہے اور شریعت کی اصطلاح میں اسی کا نام تقوی ہے۔ اردو میں اسی کو ”پرہیزگاری“ کہا جاتا ہے۔

مختصر لفظوں میں شریعت کی اصطلاح میں: خدا کی نافرمانی اور تکاب گناہ سے محض خدا کے عذاب یا ناراضگی اور آخرت کے مواخذہ یا رحمت الہی سے محرومی کے خوف کی وجہ سے بچنے اور دور رہنے یا بلا آنے اور ترک کر دینے کا نام تقوی ہے۔

شریعت میں تقوی کے دو معنی

چونکہ شریعت میں اس گناہ و معصیت سے باز آنے یا بچنے کے عبادت و طاعت ہونے کا مدار صرف خدا کے

عذاب یا ناراضگی کے ڈر اور محض آخرت کے مواخذہ کے خوف پر ہے اس لئے قرآن وحدیث میں تقویٰ کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے (۱) ایک گناہ و معصیت سے باز آنا اور چھوڑ دینا یا بچنا اور دور رہنا (۲) خدا سے یعنی اس کے عذاب یا ناراضگی سے ڈرنا عام طور پر قرآن وحدیث میں تقویٰ کا لفظ اسی دوسرے معنی میں خدا سے ڈرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ آپ اس باب کی آیات اور احادیث میں پڑھیں گے۔

خوف خدا کا ثبوت اور دلیل

مگر اس خدا سے ڈرنے کا مطلب کہنے ثبوت یہی ہوتا ہے کہ اس کی نافرمانی اور گناہ سے بچنا یا باز آنا اگر کوئی شخص کہتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں مگر جانتے بوجھتے گناہوں اور اس کی نافرمانیوں کا ارتکاب برابر کرتا ہے اور وہ اس کہنے اور دعویٰ کرنے میں جھوٹا ہے خود اس کا فعل اس کے قول کی تردید کر رہا ہے اور عمل زبان کو جھٹلا رہا ہے ایسا شخص درحقیقت ”فریب نفس“ میں گرفتار اور خود فریبی کے مرض میں مبتلا ہے اور اس کا علاج صرف تقویٰ اور پرہیزگاری کی حقیقی زندگی اختیار کرنا ہے۔

خوف و خشیت الہی اور تقویٰ میں فرق

خوف و خشیت الہی کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور جلال و جبروت کے تصور سے دل پر رعب و ہیبت اور خوف و دہشت کی کیفیت طاری ہونا اور اس کے نتیجہ میں انسان کے اندر ظاہری اور باطنی خشوع و خضوع عاجزی اور انکساری کی صفت پیدا ہونا عارضی اور وقتی طور پر یا مستقل اور دائمی طور پر۔

اور تقویٰ کے معنی جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں قہر و غضب الہی کے خوف اور عذاب کے ڈر سے اس کی نافرمانی اور ارتکاب گناہ سے بچنا یا باز آنا سیدھے سادے لفظوں میں اس فرق کو یوں سمجھئے کہ خوف و خشیت الہی سبب بنتا ہے انسان میں عاجزی اور انکساری کی کیفیت پیدا ہونے کا خصوصاً نماز روزہ وغیرہ عبادتوں کے لوا کرنے کے وقت اور تقویٰ سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آنے یا بچنے کا خصوصاً دنیوی امور اور معاملات میں مصروف ہونے کے وقت اس بیان سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسے ان دونوں کے مفہوم اور سبب الگ الگ ہیں ایسے ہی ان کا موقع اور محل بھی الگ الگ ہے۔

ورع اور تقویٰ

شریعت کی اصطلاح میں ایک اور لفظ ورع بھی استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہر ایسی چیز یا کام سے بچنا اور دور سے دور تر رہنا جس میں خدا کی ناپسندیدگی کا شائبہ بھی ہو ایسے ”صاحب ورع“ مسلمان کو متورع کہتے ہیں۔ گویا ورع تقویٰ ہی کا ایک اعلیٰ مرتبہ ہے۔

تقویٰ کے مختلف مراحل و مدارج

اسی طرح خود تقویٰ کے بھی گونا گوں اور مختلف مراحل و مراتب ہیں چنانچہ علماء دین نے قرآن اور حدیث کے مختلف استعمالات کے پیش نظر تقویٰ کے شرعی معنی اور تعریف یہ بیان کی ہے۔

التقویٰ هو التخلی عن الرذائل والتحلی بالفضائل

تقویٰ کے معنی ہیں رذیلوں سے علیحدگی اختیار کرنا یعنی ان سے بچنا یا باز آنا اور فضیلتوں سے آراستہ ہونا یعنی ان کو اپنانا اور اختیار کرنا۔

رذائل میں کفر و شرک، نفاق و دریاہ اور تمام اعتقادی گمراہیوں سے لے کر تمام حرام، مکروہ اور ممنوع افعال و اقوال اور حرکات و سکنات تک سب شامل ہیں اسی طرح اخلاقی رذیلوں میں بغض و عناد، ظلم و جور، حسد و کینہ، بخل و اسراف، کذب و افترا وغیرہ تمام اخلاقی عیب شامل ہیں اور فضائل میں ایمان و اخلاص اور تمام اعتقادات حقہ و کمالات روحانیہ سے لے کر تمام عبادات و طاعات، اقوال و افعال حسنہ، اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ تک سب شامل ہیں۔

تقویٰ کے دو درجے

اسی لئے علماء نے کہا ہے کہ تقویٰ کے علی الترتیب دو درجے اور اس کو حاصل کرنے کے دو مرحلے ہیں (۱) اول یہ کہ انسان تمام اعتقادات باطلہ و فاسدہ، منکرات شرعیہ اور اخلاق رذیلہ سے بچنے اور پاک و صاف رہنے کی کوشش کرے (۲) اس کے بعد اعتقادات حقہ، اعمال صالحہ اور روحانی کمالات حاصل کرنے کی سعی کرے اس لئے کہ تطہیر قلب اور تزکیہ نفس کے بغیر اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ اختیار کرنے کی سعی بے سود ہے۔

مثال: بالکل اسی طرح جیسے کسی سفید مگر میلے کچیلے اور گندے کپڑے کو دلکش اور لطیف رنگ میں رنگنے اور اس پر حسین و جمیل نقش و نگار پھول چیتاں، نیل بوٹے بنانے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کپڑے کو صابون یا سوڈا کاسٹک وغیرہ لگا کر اس طرح دھویا اور نکھارا جائے کہ تمام میل کچیل کٹ جائے اور وہ سفید براق نکل آئے پھر خشک ہونے اور استری کرنے کے بعد آپ جس لطیف اور ہلکے سے ہلکے دل آویز رنگ میں چاہیں رنگ کر اس پر زیادہ سے زیادہ حسین و جمیل نقش و نگار بنا سکتے ہیں بالکل اسی طرح نفس انسانی کو جو اصل فطرت کے لحاظ سے صاف اور سادہ کورے کپڑے کی مانند ہے سب سے پہلے کفر و شرک جلی و خفی، نفاق اور ان کے علاوہ باطل و فاسد عقائد سے پاک و صاف کرنا ضروری ہے جس کا نام ایمان ہے اور اس کی تفصیل آپ حدیث جبرئیل علیہ السلام میں پڑھ چکے ہیں یہ نفس انسانی کی وہ آلودگی گندگی اور میل کچیل بلکہ زنگ اور سیاہی ہے کہ اس کو دور کئے بغیر کوئی بھی عبادت و طاعت کار آمد نہیں اور اخلاقی فضائل روحانی کمالات حاصل کرنے کی کوشش بیکار اور سعی لاجاصل و رائیگاں ہے۔

اللہ کارنگ: اس میل کچیل زنگ و سیاہی کو دور کئے بغیر نفس انسانی پر اسلام کارنگ، جس کے متعلق ارشاد ہے: صبغة الله ومن احسن من الله صبغة (البقرہ: ۱۶) یہ اسلام اللہ تعالیٰ کارنگ ہے اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہتر اور کس کارنگ ہو سکتا ہے۔

نفس پر چڑھ ہی نہیں سکتا اور مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا۔

اس کے بعد نفس کو بچگانہ بنیادی اصول عبادت، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ان کے علاوہ اعمال صالحہ کے حسین سے حسین تر نقش و نگار سے آراستہ کرنے کی کوشش تو ساری عمر جاری رہتی ہے حدیث جبرئیل علیہ السلام میں اسی ترین و آرائش کا نام اسلام ہے۔

قاعدہ ہے کہ کسی سفید و براق کپڑے کو نقش و نگار سے آراستہ کرنے کے لئے کسی لطیف رنگ میں رنگنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جتنا لطیف یہ رنگ ہوتا ہے اسی قدر حسین و جمیل نقش و نگار زیادہ روشن، نمایاں اور دل آویز بنتے ہیں اور ان کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے اور جس قدر ڈارک اور گہرا یہ رنگ ہوتا ہے اسی قدر رنگ اور نقش و نگار ماند پڑ جاتے ہیں اس لطیف رنگ کا نام شریعت میں اخلاص ہے یعنی زیادہ سے زیادہ حضور قلب کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ اور محض اس کی رضا کے لئے اس کی عبادت و طاعت کرنا اور اعمال صالحہ و اخلاق فاضلہ اختیار کرنا۔ حدیث جبرئیل علیہ السلام میں اسی اخلاص کو احسان (حسن عمل) سے تعبیر فرمایا ہے جس قدر یہ اخلاص اور احسان زیادہ پاک و صاف ہوگا اسی قدر عبادت و طاعت، اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کی قدر و منزلت عند اللہ و عند الناس اللہ کے نزدیک بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی زیادہ سے زیادہ ہوگی اور انسان کی زندگی انوار و تجلیات الہیہ کا زیادہ سے زیادہ مظہر ہوگی اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ان مقرب بندوں میں شامل ہو جائے گا جن کی پہچان حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے۔

ان کو دیکھ کر خدا یاد آئے

احتیاط: مگر یاد رکھئے جس طرح سفید شفاف کپڑے کو بے احتیاطی سے رنگنے اور بے پروائی سے نقش و نگار کے ساتھ آراستہ کرنے کے دوران بے احتیاطی کی بنا پر دھبے اور داغ پڑ جاتے ہیں اور اس کو بد نما اور داغدار بنا دیتے ہیں اور اگر یہ داغ دھبے زیادہ ہو جائیں تو رنگ اور نقش و نگار سب کو مسح کر ڈالتے ہیں اسی طرح نفس کو عبادت و طاعات، اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ کرنے کے دوران کبیرہ و صغیرہ گناہوں اور شرعاً حرام اور ممنوع اقوال و افعال اور نافرمانیوں کے ارتکاب سے باز نہ رکھئے اور نہ بچنے کی وجہ سے پرہیزگاری کا چہرہ داغدار ہو جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے بالکل ہی مسخ ہو جاتا ہے اس لئے انتہائی احتیاط اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے اگر غفلت بے احتیاطی بھول چوک سے کوئی گناہ یا بد اخلاقی سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار سے اور بطور کفارہ اس کے مقابل اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ پر عمل کرنے سے اس کا تدارک کرنا از بس ضروری ہوتا ہے ورنہ ساری محنت اکارت جاتی ہے۔

طریق کار: اس لئے ہمیں چاہئے کہ تقویٰ کے ”مقام شرف“ تک پہنچنے کے لئے سب سے پہلے اپنے عقائد کا جائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ کی تحلمات قرآن اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بندے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اس کے احادیث کے معیار پر پرکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے عقائد کھرے اور صحیح ہیں یا نہیں اگر ان میں کوئی فساد اور خرابی ہو تو فوراً اس کی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں اور اس کے

بعد اپنی عبادات و طاعات اعمال و اخلاق کا جائزہ لیں اور تمام بد اعمالیوں، بد اخلاقیوں یا کوتاہیوں کا رفتہ رفتہ الایہم فالایہم ضروری اور اس سے بڑھ کر ضروری کے اصول پر ان کا ازالہ کریں مثلاً عبادات میں سب سے پہلے نماز کی اخلاق میں سب سے پہلے صدق اور عدل و انصاف کی اعمال میں سب سے پہلے کھلی ہوئی نافرمانیوں اور بد کاریوں کی اصلاح کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توبہ و استغفار کرتے رہیں یاد رکھئے اچھے کام بھی برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں ان الحسنات یدھبن السيئات اس لئے زیادہ سے زیادہ اچھے اور نیک کام اسی نیت سے کہ یہ ہماری برائیوں یا کوتاہیوں کا کفارہ کرتے رہیں اور آخری مرحلہ میں تمام عبادات و طاعات اور اعمال و اخلاق میں زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس کی تدبیر وہی ہے جو آپ مراقبہ کے بیان میں پڑھ چکے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمہ وقت حاضر و ناظر اور نگران یقین کر کے ہر کام کریں ان شاء اللہ ضرور اخلاص پیدا ہوگا۔

شریف ترین انسان بننے کا طریقہ

یہ ہے طریقہ تقویٰ کے مراحل طے کر کے ارشاد باری تعالیٰ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یقیناً تم میں سب سے زیادہ شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار انسان ہے۔ کے تحت متقی یعنی دنیا اور آخرت میں شریف تر انسان بننے کا آپ بھی اس کا تجربہ کیجئے ان شاء اللہ العزیز آپ ضرور یہ سعادت اور شرف حاصل کر لیں گے اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا خلاف کبھی نہیں کرتے۔

شرط

مگر تقویٰ اور پرہیزگاری کے یہ تمام مراحل صرف اسی وقت طے ہو سکتے ہیں جبکہ تقویٰ کا حقیقی محرک کار فرما ہو یعنی آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور آخرت کا خوف اس قدر غالب ہو کہ آپ نفس امارہ یعنی بہت بہکانے والے نفس کی شدید ترین مخالفتوں اور مزاحمتوں کو اپنے راستہ سے پرکھ سکیں کی طرح ہٹا دیں ورنہ یاد رکھئے آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا نفس ہے جو ہر وقت آپ کے پہلو میں موجود ہے اور طرح طرح کے دھوکے اور فریب کے جال بچھا کر اور قسم قسم کے رحمت و مغفرت کے سبز باغ دکھا کر آپ کو تقویٰ اور پرہیزگاری کے راستہ سے روکنے یا ہٹانے پر اُدھار کھائے بیٹھا ہے ارحم الرحمن اپنے بندوں کو اس خطرہ سے متنبہ فرماتے ہیں اور اس کے فریب سے بچنے کی تدبیر بھی بتلاتے ہیں ارشاد ہے:

وامامن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي الماوى (النازعات ع: ۲)

اور جو شخص بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور نفس کو (اسکی) خواہشات سے بڑھاتا یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔

پہچان

دنیا کے سب سے بڑے پرہیزگار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ازراہ شفقت اپنی امت کو ایک اور پہچان بتلاتے ہیں ارشاد ہے۔

حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات

جنت کو مکروہات (نفس کو بری لگنے والی چیزوں) سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو شہوات (دل بہانے والی خواہشات) سے گھیر دیا گیا ہے۔

اس لئے ہر کام کو اختیار کرتے وقت ہمارا ”معیار انتخاب“ یہ ہونا چاہئے کہ مکروہات نفس یعنی نفس کو برے لگنے والے کاموں کو لبیک کہیں اور زیادہ سے زیادہ اختیار کریں یعنی ایسے کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں جو نفس کو برے لگتے ہیں تاکہ جنت یعنی مقام قرب الہی میں پہنچیں اور شہوات نفس، نفس کو اچھے لگنے والے اور مرغوب کاموں اور چیزوں سے زیادہ سے زیادہ بھاگنے اور دور رہنے کی کوشش کریں تاکہ جہنم سے مقام قہر الہی سے محفوظ رہیں۔

اصول شہوات

اللہ تعالیٰ نے ان شہوات نفس، نفس خواہشات کے ”اصول“ سے بھی اپنے بندوں کو آگاہ فرمادیا ہے ارشاد ہے:

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة

والخييل المسومة والانعام والحراث: (ال عمران ع ۲۴)

لوگوں کے لئے خواہشات (نفس) کی محبت آراستہ کر دی گئی ہے یعنی عورتوں کی اولاد کی سونے چاندی کے تہ بتہ انباروں کی اعلیٰ درجہ کے گھوڑوں کی مویشیوں کی اور کھیتوں کی (پیداوار کی) محبت۔

ہمارے زمانہ میں خیل مسومہ اعلیٰ درجہ کے گھوڑوں کی جگہ نیو ماڈل۔ تو بنو۔ کاروں نے لے لی ہے۔

ضروری تنبیہ

مگر یاد رکھئے اس ”محبت“ سے وہی ”اندھی“ محبت مراد ہے جو حرام و حلال، جائز اور ناجائز کے فرق اور گناہ و ثواب کی تمیز کو ختم کر دے ورنہ شرعی حدود کے اندر رہ کر ان فطری اور طبعی مرغوب چیزوں سے وابستگی اور تعلق اسی نسبت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو ہمارے لئے حلال فرمادیا ہے رکھنے میں کچھ خرچ نہیں بلکہ موجب اجر و ثواب ہے اس لئے کہ اسلام میں رہبانیت ترک دنیا اور نفس کشی کی اجازت بالکل نہیں ہے قرآن کریم میں اس رہبانیت کے متعلق ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے اور خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم نے توصف لفظوں میں اعلان فرمایا ہے:

لارهبانية في الاسلام:..... اسلام میں رہبانیت مطلق نہیں ہے۔

دنیوی زندگی میں پرہیزگاری کا فائدہ

یہ بھی پیش نظر رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور آخرت کا خوف اور اس کے نتیجہ میں پرہیزگاری کی شریفانہ زندگی صرف آخرت میں ہی کام آنے والی اور حصول جنت ہی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ہماری اس دنیوی زندگی میں بھی، خصوصاً اس زمانے میں سجد کار آمد ہے اور ان تمام بد کاریوں اور جرائم کے زہر کو اتارنے والا تریاق یعنی اتار ہے اور معاشرہ کی ”وبائی بیماریوں“ سے بچانے والا انجکشن ہے جو اس وقت وبائی امراض کی طرح پھیل رہے ہیں آزما کر دیکھئے۔

وَعَا: اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے اور تقویٰ کا شرف حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔

عمل کیجئے عمل، ورنہ خالی اس پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں بنتا آپ کے شاعر حکیم، جن کے کلام پر آپ سردھنتے ہیں رحمۃ اللہ فرمائے گئے ہیں۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ہم مسلمانوں کی بڑی بد نصیبی ہے کہ اقبال جیسا شاعر حکیم ہم میں پیدا ہوا مگر وہ اور اس کا کلام بھی ہماری کایا نہ پلٹ سکا اللہ تعالیٰ ہی ہم پر رحم فرمائیں آمین۔

بہر حال مذکورہ بالا تفصیل کی روشنی میں تقویٰ سے متعلق آیات و احادیث کا مطلب سمجھئے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں۔

قرآن عظیم

(۱) اللہ تعالیٰ اہل کتاب، یہود و نصاریٰ کی گمراہ کن باتوں میں نہ آنے کی ہدایت فرما کر اللہ سے جیسا چاہئے ڈرتے رہنے اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی تاکید فرماتے ہیں ارشاد ہے:

(تقویٰ کے مفہوم اور اس کے ثمرات و برکات پر روشنی ڈالنے کی غرض سے ترجمہ سے پہلے ہر آیت کے سیاق و سباق اور تقویٰ کے متعلق امور کو بھی مختصر بیان کر دیا ہے تاکہ قارئین پوری بصیرت کے ساتھ ان آیات میں تقویٰ کے معنی اور محل استعمال کو سمجھ سکیں وباللہ التوفیق)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ۱۰۲]

اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور (یاد رکھو) تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت پر کہ تم مسلمان ہو۔

(۲) اللہ تعالیٰ اہل و عیال کی تکلیف دہ ”بے عنوانیوں“ پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے صبر و ضبط سے کام لینے کے ساتھ ہی ہر معاملہ میں مقدور بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے اور ان کے حقوق ادا کرتے رہنے کی نیز تمام احکام الہیہ کو دل سے سننے اور ان پر عمل کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں ارشاد ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ۱۶]

پس جتنا مقدور ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور (اللہ کے احکام دل سے) سنا کرو اور ان پر عمل کیا کرو اور (اہل وعیال پر) خرچ کرتے رہو اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔

نوٹ: امام نووی رحمہ اللہ دوسری آیت کو پہلی آیت کا بیان قرار دیتے ہیں یعنی حق تعالیٰ جتنا ڈرنے کا حق ہے کا مطلب یہ ہے کہ ما استطعتم جتنا تمہارے مقدور میں ہو۔ (اس کی تحقیق ابھی تشریح کے ذیل میں آپ پڑھیں گے) (۳) اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی دل آزاری اور ایذا رسانی سے مسلمانوں کو منع فرمانے کے بعد ہر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تاکید فرماتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی بتلاتے ہیں ارشاد ہے:

وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى . وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ۷۰]

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرا کرو اور (ہمیشہ) حق (اور درست) بات کہا کرو تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

(۴) گواہوں کو نفع نقصان یا مشکلات کی پرواہ کئے بغیر سچی اور بے لاگ گواہی دینے کا حکم فرمانے کے بعد ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے پر مشکلات اور نقصانات کو دور کرنے، آسانیاں پیدا کرنے، کوتاہیوں اور برائیوں کا کفارہ کر دینے اور اجر عظیم عطا فرمانے کا وعدہ فرماتے ہیں ارشاد ہے:

وَالآيَات فِي الْأَمْرِ بِالتَّقْوَى كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ ، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ۲۳]

(الف) اور جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کے لئے (مشکلات سے نکلنے کا) راستہ پیدا کر دے گا اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔

(ب) ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا:

(ب) اور جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔

(ج) ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا:

(ج) اور جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کی برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔

(۵) ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنے پر حلال و حرام، جائز و ناجائز حق و باطل اور خیر و شر میں فرق و امتیاز کرنے والی بصیرت عطا فرمانے کا وعدہ فرماتے ہیں ارشاد ہے:

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ تَشَقُّوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الأنفال : ۲۹] والآيات في الباب كثيرة معلومة .
اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں (حق) و باطل، خیر و شر میں فرق کرنے والی ”بصیرت“ عطا فرمائے گا اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور گناہ بخش دے گا۔

مذکورہ بالا آیات کی تفسیر

تشبیح: امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تقویٰ سے متعلق جو پانچ آیات پیش کی ہیں ان میں تقویٰ کا لفظ اللہ سے ڈرنے اور اس کے نتیجے میں گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے یا باز آنے اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے چنانچہ

پہلی آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا یعنی پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنا اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرتے رہنے کا ثمرہ ہے۔

دوسری آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام دل سے سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق یعنی پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے اور فلاح دارین حاصل کرنے کی سعادت بھی مقدور بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا ثمرہ ہے۔

تیسری آیت سے معلوم ہوا کہ حق اور درست بات کہنے کی توفیق، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح اعمال اور گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے تقویٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کے برکات میں سے ہے۔

چوتھی آیت سے معلوم ہوا کہ ہر سختی اور دشواری میں سہولت و کشائش کا راستہ میسر آنا غیر متوقع جگہ سے روزی نصیب ہونا ہر کام میں آسانی اور سہولت میسر آنا نیز برائیوں اور کوتاہیوں کا کفارہ فرمادینے اور اجر عظیم سے نوازنے کا وعدہ جو ضرور پورا ہو گا یہ سب مقدور بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کے بے مثل برکات و ثمرات ہیں جن سے تقویٰ کی اہمیت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے

پانچویں آیت سے معلوم ہوا کہ ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے مقدور بھر ڈرتے رہنے کا عظیم تر اور بے نظیر فائدہ اور ثمرہ، حلال و حرام، حق و باطل، خیر و شر کے درمیان فرق و امتیاز کرنے کی وہ نورانی بصیرت و فراست عطا فرمادینے کا وعدہ جو درحقیقت ولایت کے اس اعلیٰ مرتبہ پر پہنچا دینے کا وعدہ اور خوشخبری ہے جس کے متعلق ارشاد ہے۔

ان اولیاءہ الا المتقون : اللہ کے ولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہی ہوتے ہیں۔

دیکھا آپ نے ایہ ہے دین میں تقویٰ کا شرف و اہمیت اور مرتبہ و مقام اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے دعا کیجئے۔

اللہم ات نفسی تقوہا و زکھا فانک خرمن زکھا أنت ولیہا و مولیہا:

اے اللہ تو میرے نفس کو پرہیزگاری نصیب فرما اور اس کو (تمام آلودگیوں سے) پاک و صاف کر دے اس لئے کہ تو ہی اس کا بہترین تزکیہ کرنے والا ہے تو ہی اس کا ”ولی“ ہے تو ہی اس کا مولیٰ ہے۔

خلاصہ آیات

ان پانچوں آیتوں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ پرہیزگاری کی زندگی جس کی تفصیل آپ تقویٰ کی تشریح میں پڑھ چکے ہیں کا میسر آنا اللہ تعالیٰ سے کما حقہ اور مقدم و بھر ڈرتے رہنے پر موقوف ہے۔

ایک سچی شبہ کا ازالہ

یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرنا جیسا کہ پہلی آیت میں حکم ہے کہ کس کے بس کی بات ہے؟ خطا اور نسیاں، بھول چوک سے مرکب بچا رہنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے شایان شان ڈرے انسان کی قدرت سے باہر ہے ہاں اپنے مقدم و بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جیسا کہ دوسری آیت میں حکم ہے کہ بیشک انسان کے لئے ممکن ہے۔ لہذا پہلی آیت ناممکن العمل ہے نیز دوسری آیت پہلی آیت سے متعارض ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ دوسری آیت کو پہلی آیت کا بیان قرار دے کر اس شبہ کا ازالہ بھی فرماتے ہیں اور اس متعارض کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں یعنی دوسری آیت نے بتلادیا کہ کما حقہ ڈرنے کے معنی مقدم و بھر ڈرنا ہیں اور یہ انسان کی قدرت میں داخل ہے اس لئے ناممکن العمل ہونے کا اعتراض بھی بوجہ ہو گیا اور دونوں آیتوں کا متعارض بھی رفع ہو گیا۔ درحقیقت نہ پہلی آیت پر ناممکن العمل ہونے کا اعتراض صحیح ہے اور نہ دوسری آیت پہلی آیت سے متعارض ہے اس لئے اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں اپنے بندوں کو کما حقہ ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں اور بندوں کو وہی حکم دیا جاسکتا ہے جو ان کے مقدم و بھر میں ہو اس لئے کما حقہ ڈرنے کے معنی مقدم و بھر ڈرنا ہی ہیں بالفاظ دیگر اگر دوسری آیت نہ بھی ہو تب بھی کما حقہ ڈرنے کے معنی مقدم و بھر ڈرنا ہی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری آیت نے پہلی آیت کی وضاحت کر دی۔

تقویٰ کے مختلف مراحل سے متعلق آیات

امام نووی علیہ الرحمۃ نے جن پانچ آیات کو پیش کیا ہے وہ سب تقویٰ کے دوسرے معنی اللہ کا ڈر اور آخرت کے خوف سے متعلق ہیں تقویٰ کے پہلے معنی گناہوں اور مصیبتوں سے باز آنا بچنا اور دور رہنا سے اور تقویٰ کے ان تین مراحل سے متعلق کوئی آیت پیش نہیں کی جن کا ذکر ہم تشریح کے ذیل میں کر چکے ہیں آپ کو یاد ہو گا کہ وہ تین مرحلے حسب ذیل ہیں۔
اول: نفس کو تمام رذیلوں حیوانی خصلتوں گناہوں اور مصیبتوں سے پاک و صاف کرنا۔

دوم: نفس کو تمام روحانی کمالات و فضائل اعتقادات حقہ عبادات و طاعات اعمال صالحہ و اخلاق فاضلہ سے آراستہ کرنا۔ سوم: اخلاص یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمہ وقت حاضر و ناظر اور نگران باور کر کے صرف اور محض اللہ تعالیٰ کے لئے سب کچھ کرنا اگرچہ امام نوویؒ کی انتخاب کردہ پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرتے رہنے کے ضمن میں مکمل پرہیزگاری کی زندگی کے میسر آنے کا ذکر اجمالاً آگیا ہے لیکن ہم پرہیزگاری کے ان تینوں مرحلوں سے متعلق الگ الگ کم از کم ایک ایک آیت کا مزید ذکر کر دینا مناسب سمجھتے ہیں ورنہ تو قرآن عظیم میں پرہیزگاری کے ان تینوں مرحلوں سے متعلق علیحدہ علیحدہ آیات بکثرت موجود ہیں اور اہل علم خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔

(۱) تخلی عن الرذائل: نفس کو رذیلوں سے پاک کرنا اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون (البقرہ ع ۲۳)

تم پر روزے اسی طرح فرض کئے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ حقیقت ہے کہ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ خواہشات نفس کی سرکوبی اور رذائل نفس کھانے پینے اور جماع کرنے کی حد سے متجاوز خواہش اور ان تینوں کے سامان و لوازمات کے لئے مال و دولت جمع کرنے کی حرص و طمع اور بخل و اسراف اور اس کے نتیجے میں حسد و عداوت وغیرہ رذائل نفس کی بیخ کنی کرنے میں روزہ بالخاصہ موثر و مفید ہے خصوصاً مسلسل ایک ماہ کے روزے رکھنے اور ان کے ساتھ ساتھ بقدر مقدرت رمضان کی راتوں میں شب بیداری اختیار کرنے اور کم از کم کامل دس دن تک اعتکاف میں بیٹھنے کا حکم دینے اور اس سنت قیام لیل اور اعتکاف کو قائم فرمانے کا منشا ہی درحقیقت نفس کو رذائل نفس سے پاک کرنے کی غرض سے تین ملکی خصلتوں کا عادی بنانا ہے اول کم خوری دوم کم خوابی سوم کم گوئی و کم اختلاطی، قرآن و حدیث اور شریعت کی تعلیمات کے علاوہ حکماء اخلاق بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نفس کی تمام رذیلیتیں پر خوری، پر خوئی اور بے گوئی کی پیداوار ہوتی ہیں۔

خالق کائنات، حکیم مطلق اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت کریمہ میں نہی تینوں خصلتوں کی بیخ کنی کرنے کی حکمت کے تحت اپنے بندوں کو ایک ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے اور متقی اعظم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام لیلیٰ رمضان، رمضان کی راتوں میں تراویح و نوافل پڑھنے اور کم از کم رمضان کے آخری دس دن رات اعتکاف میں بیٹھنے کی سنت قائم کی ہے تاکہ وہ پرہیزگاری کا پہلا مرحلہ باسانی طے کر سکیں۔

شرط: بشرطیکہ وہ روزے حقیقی معنی میں روزے ہوں نہ کہ قسم قسم کے لذیذ سے لذیذ تر نفس کو فرہہ کرنے والی کھانے پینے کی چیزوں کے حصول کا ذریعہ اور بہانہ جیسے کہ ہم روزے رکھتے ہیں اور پھر صرف ایک ماہ کے روزوں پر اکتفا نہ ہو بلکہ سب سے بڑے پرہیزگار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ حسنہ کے مطابق ہر مہینے میں کم از کم تین روزے برابر رکھتے رہیں اور رمضان المبارک کی پڑی ہوئی عادت کے تحت تہجد کی نماز بھی پڑھتے رہیں

اور اعکاف کی عادت کے تحت دن یارات کے کسی نہ کسی حصہ میں دنیا و مافیہا سے بے تعلق ہو کر ذکر اللہ اور مراقبہ کے ورد کو بھی نہ چھوڑیں تو اللہ کے ارشاد کے مطابق انسان کے لئے متقی اور پرہیزگار بننا ضرور آسان ہو جائے گا اور آیت کریمہ ان اولیاءہ الا المتقون اللہ کے ولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہی ہوتے ہیں۔ کے تحت اولیاء اللہ کے مقدس زمرہ میں شامل ہونے کی سعادت میسر آجائے گی ان شاء اللہ العزیز

(۲) تحلی بالفضائل: نفس کو انسانی فضائل و کمالات سے آراستہ کرنا اس سلسلہ میں ارشاد ہے۔

لیس البران تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر (۱) من امن بالله والیوم
الاخر والملائکة والکتاب والنبیین (۲) واتى المال على حبه ذوالقربی والیتامی
والمساکین وابن السبیل والسائلین وفى الرقاب (۳) واقام الصلوة (۴) واتى الزکوٰۃ
(۵) والموفون بعہدہم اذا عاہدوا (۶) والصابرین فى الباساء والضراء وحين الباس
اولئک الذین صدقوا و اولئک ہم المتقون:۔

نیکی کچھ اسی میں منحصر نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنا منہ (رخ) کر لو بلکہ (اصل) نیکی تو اس شخص کی ہے جو (۱) اللہ (اور اس کی صفات) پر روز قیامت پر، فرشتوں پر، (آسمانی) کتابوں پر اور (تمام) نبیوں پر (دل و جان سے) ایمان لے آئے (۲) اور جو مال کی محبت کے باوجود اس کو رشتہ داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مانگنے والوں پر اور (قرض وغیرہ سے) گرد نہیں چھڑانے میں (حسب ضرورت و مصلحت) خرچ کرے (۳) جو نماز کو قائم رکھے، زکوٰۃ ادا کیا کرے (۴) اور جو لوگ عہد کر لینے کے بعد عہد کو پورا کریں اور تنگدستی میں سختیوں میں اور (اللہ کی راہ میں) لڑائیوں میں صبر اور ثابت قدمی اختیار کریں یہی مذکورہ بالا لوگ (خدا پرستی کے دعوے میں) سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔

ذرا غور فرمائیے یہ آیت کریمہ اعتقادات حقہ اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کے اصول پر کس قدر حاوی اور جامع آیت ہے اور انہی برگزیدہ لوگوں کو جو ان فضائل و کمالات سے آراستہ ہوں سچا پرہیزگار بتلایا گیا ہے بلکہ عربیت کے قاعدہ کے تحت پرہیزگاری کو انہی لوگوں میں منحصر اور انہی کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے۔

(۳) اخلاص: نفس انسانی کو رذائل سے پاک اور فضائل سے آراستہ کرنے کی تکمیل اخلاص سے ہوتی ہے جس کو مذکورہ سابق حدیث جبرئیل علیہ السلام میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے آیت کریمہ ذیل میں اس اخلاص کے الہی رنگ سے مزین پرہیزگار مومنوں کو محسنین کے وصف سے موصوف فرمایا ہے اور تقویٰ کے اس مرتبہ کو احسان سے تعبیر فرمایا ہے ارشاد ہے:

لیس علی الذین امنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و امنوا و عملوا
الصالحات، ثم اتقوا و امنوا، ثم اتقوا و احسنوا واللہ یحب المحسنین:

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان پر کوئی گناہ نہیں (ان چیزوں کے کھانے (پینے) میں جو اس وقت حلال تھیں) جبکہ وہ (اس وقت تک کی حرام چیزوں سے) بچتے رہے اور ایمان پر قائم رہے اور نیک کام کرتے رہے پھر (مزید) پرہیزگاری اور ایمان پر قائم رہے پھر (اور زیادہ ترقی کی اور) پرہیزگاری اور احسان (اخلاص) پر قائم ہے اور اللہ (ایسے مخلص اور) نیکو کاروں سے ہی محبت کرتا ہے۔

دیکھئے اس آیت کریمہ میں تقویٰ پرہیزگاری کے تین مرتبوں کی تصریح ہے پہلا مرتبہ عمل سے متعلق ہے دوسرا ایمان سے اور تیسرا اخلاص سے تفصیل اس کی حسب ذیل ہے۔

(۱) اذما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات: پہلا مرتبہ: محرمات شرعیہ اور کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے کلی طور پر اجتناب کرنا اور فرائض و واجبات شرعیہ کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔

(۲) ثم اتقوا وامنوا: دوسرا مرتبہ: مشتبہ امور، جن میں حرام اور ممنوع ہونے کا شبہ بھی ہو، ان سے بھی اجتناب کرنا اور ایمان کی تکمیل کرنے والی مسنون اور مستحب عبادات و طاعات کی بھی پابندی کرنا۔

(۳) ثم اتقوا وامنوا: تیسرا مرتبہ: شرعاً جائز اور مباح مگر ناپسندیدہ امور کو رجوع الی اللہ میں رخنہ اندازی کرنے والی چیزوں سے بھی اجتناب کرنا اور کامل یقین کے ساتھ ہمہ وقت اللہ کو اپنے سامنے باور کرنا کہ وہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن مجید کے فوائد کے ذیل میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں۔

محققین نے لکھا ہے کہ: تقویٰ دینی مضرتوں سے بچنے کے کئی درجے ہیں اور ایمان و یقین کے مراتب بھی قوت اور ضعف کے لحاظ سے متفاوت (مختلف) ہیں تجربہ اور نصوص شرعیہ (شریعت کی تصریحات) سے ثابت ہے کہ جس قدر آدمی اللہ تعالیٰ کے خوف ذکر فکر عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ میں مجاہدہ) میں ترقی کرتا ہے اسی قدر اللہ کے خوف اور اس کی عظمت و جلال کے تصور سے (اس کا) قلب معمور (آباد) اور ایمان و یقین اور مضبوط اور مستحکم ہوتا رہتا ہے۔ مراتب سیر الی اللہ (سلوک کے مرتبوں) کی اسی ترقی اور عروج کی طرف اس آیت میں تقویٰ اور ایمان کی تکرار (بار بار ذکر کرنے) سے اشارہ فرمایا ہے اور سلوک کے آخری مقام احسان اور اس کے ثمرہ (اللہ کے محبت کرنے) پر متنبہ فرمایا ہے۔

اس آیت کا شان نزول

اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور مطلب کا حقیقہ سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا شان نزول واقعہ جس سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی بیان کر دیا جائے واضح ہو کہ یہ آیت کریمہ تحریم خمر شراب کی حرمت کے بعد صحابہ کرامؓ کے ایک شبہ کا جواب دینے کی غرض سے نازل ہوئی ہے وہ شبہ یہ ہے کہ وہ مسلمان جو شراب کے حرام ہونے سے پہلے شراب پیتے

رہے اور شراب کے حرام ہونے سے پہلے ہی وہ وفات پا گئے ان کی شراب نوشی پر آخرت میں مواخذہ ہو گیا نہیں؟ جواب بالکل واضح ہے کہ انکی زندگی میں جو چیزیں حرام تھیں جب وہ زندگی بھر ان سے بچتے اور اجتناب کرتے رہے تو ان سے شراب پینے پر مواخذہ کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا اس لئے کہ شراب اس وقت حلال تھی اور اس کا پینا گناہ نہ تھا حرام تو ان کی وفات کے بعد ہوئی ہے اب جو کوئی پئے گا وہ ضرور گنہگار ہو گا اور توبہ نہ کی تو آخرت میں اس پر ضرور مواخذہ ہو گا۔

ایک ضروری تشبیہ 'اتباع سنت کے بغیر نہ کوئی متقی بن سکتا ہے نہ ولی اللہ

تقویٰ اور پرہیزگاری کے ان مراحل کو طے کرنے کے دوران اور متقی یعنی اللہ کا ولی اور محبوب بننے کی جدوجہد کے اثنا میں متقی اعظم سب سے بڑے پرہیزگار محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کو ہر قدم پر پیش نظر رکھنا از بس ضروری ہے اور اس کا علم آپ کو احادیث پڑھے اور جانے بغیر نہیں ہو سکتا آپ کی سنت اور سیرت سے ایک انچ بھی ادھر ادھر قدم نہ پڑنا چاہئے اس لئے کہ متقی یعنی اللہ کا ولی اور محبوب بننے کی پہلی اور لا بدی شرط محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع اور آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی اعلان کرتے ہیں: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم (آل عمران: ۴) (اے نبی تم) کہہ دو: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مومن مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ ضرور کا فرما ہونا چاہئے یعنی اگر ہم خود اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اس کے کہنے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے سچی محبت ہوتی بھی دو طرفہ ہی ہے یہی غیرت الہی کا تقاضہ ہے۔

قارئین سے استدعا

ہمیں یقین ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے والے تقویٰ کی ان تفصیلات کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اسلام کے اس عظیم تر شعار اور انسانیت کے اس سب سے بڑے شرف کی حقیقت اور فوائد سے واقف ہو کر جس پر آیت کریمہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بیشک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ شریف سب سے زیادہ پرہیزگار مسلمان ہے کے تحت دنیا اور دین دونوں میں بزرگی اور بڑائی کا مدار ہے اس شرف کو بتلائے ہوئے طریق پر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائیں گے اور ان کو متقی و پرہیزگار بنا دیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور متقی بننے کی سعادت نصیب فرمائیں آمین دعا کیا کیجئے۔

اللهم ات نفسی تقوا و زکھا فانک خیر من زکھا انت ولیہا و مولہا:

اے اللہ تو میرے نفس کو پرہیزگاری نصیب فرمادے اور اس کو (تمام آلودگیوں سے) پاک و صاف کر دے اس لئے کہ تو ہی اس کا بہترین تزکیہ کرنے والا ہے تو ہی اس کا والی (وارث) ہے تو ہی اس کا مولیٰ ہے۔

سب سے زیادہ شریف کون ہوتا ہے

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ : فَلأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ : " أَتَقَاهُمْ " . فقالوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسَأُكَ ، قَالَ : " فَيُؤَسَفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ " "۳" قالوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسَأُكَ ، قَالَ : " فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي ؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَتَهُوا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . و" فَتَهُوا " بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَحُكْمِي كَسْرُهَا : أَيِ عِلْمُوا أَحْكَامَ الشَّرْعِ .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: (ایک مرتبہ) فخر کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا: یا رسول اللہ! لوگوں میں سب سے زیادہ شریف کون ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا "جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو" تو صحابہؓ نے عرض کیا ہم آپ سے یہ تو دریافت نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ شریف کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو (نسب کے اعتبار سے تو) سب سے زیادہ شریف سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں جو خود بھی نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں جو خود بھی نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں (یعنی یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں ان کے باپ بھی نبی ہیں دادا بھی نبی ہیں اور پردادا نہ صرف نبی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خلیل بھی ہیں تو یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر شریف النسب اور کون ہو سکتا ہے) صحابہؓ نے عرض کیا: ہم یہ بھی آپ سے دریافت نہیں کرتے (تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا ہم تو عام انسانوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں) تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تم عرب کی گانوں (قبیلوں) کے متعلق دریافت کرتے ہو؟ تو یاد رکھو! جو لوگ عہد جاہلیت میں (اسلام سے پہلے زمانہ میں) اچھے اور بہتر تھے وہ اسلام میں (داخل ہونے کے بعد) بھی اچھے اور بہتر ہیں بشرطیکہ وہ دین کی سمجھ (یعنی شرعی احکام و تعلیمات میں بصیرت) حاصل کر لیں۔

فقہورق کے ضمہ کیساتھ۔ کسرہ کیساتھ بھی ہے۔ یعنی جس نے شریعت کے احکام کی فہم حاصل کر لی۔

اسلام میں شرافت کا معیار پرہیزگاری ہے

تشریح: اس حدیث پاک میں تقویٰ پرہیزگاری کے معنی میں استعمال ہوا ہے اس حدیث کا تقویٰ کے باب سے تعلق بظاہر صرف پہلے جواب کے اعتبار سے ہے یعنی شرف اور کرم کا مدار تو صرف پرہیزگاری پر ہے جو جتنا

زیادہ پرہیزگار ہوگا اتنا ہی زیادہ شریف ہوگا اور آپ کا یہ جواب قرآن کریم کی آیت کریمہ ذیل سے ماخوذ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات ع ۲)

اے لوگو! (انسانو) ہم نے تم کو ایک مرد (آدم) اور ایک عورت (حوا) سے پیدا کیا ہے اور تم کو کنبوں اور قبیلوں میں (صرف) اس لئے تقسیم کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو (قربت کے اعتبار سے) پہچانو (اور رشتہ داری کے حق ادا کرو) بیشک تم میں سب سے زیادہ شریف آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

یعنی کرم اور شرف کا تعلق قبیلوں اور خاندانوں یعنی سلسلہ نسب سے مطلق نہیں ہے کرم اور شرف کا مدار تو صرف اعتقادات حقہ اعمال و اخلاق اور فضائل و کمالات پر ہے جس قدر کوئی شخص اعتقادات حقہ اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کا زیادہ مالک ہوگا اسی قدر وہ زیادہ شریف اور کریم (لائق احترام) ہوگا۔

اسلام میں نسبی شرافت

لیکن صحابہ کرامؓ نے دوسری مرتبہ سوال کر کے اپنے مدعا ”نسبی شرافت“ کی طرف اشارہ کیا تو اس کے جواب میں بھی ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے آباؤ اجداد کا جو سب کے سب انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ذکر فرما کر پھر اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کی نسبی شرافت اسی وقت قابل ذکر اور لائق فخر ہے جبکہ وہ روحانی کمالات و فضائل اور مکارم اخلاق کے ساتھ بھی آراستہ ہو اور ظاہر ہے کہ نبوت اور وہ بھی مسلسل چار پشتوں میں اس سے بڑھ کر دینی روحانی اور اخلاقی کمال و شرف اور کیا ہو سکتا ہے گویا آپ نے دوسرے پیرایہ میں پہلے جواب کو ہی دہرایا۔

صحابہ کرامؓ کا مدعا پھر بھی پورا نہ ہوا وہ عام دنیوی، نسبی اور خاندانی شرافت کے متعلق دریافت کرنا چاہتے تھے تو تیسری مرتبہ آپ نے ان کے مدعا فتن معاون العرب تسکونی کی تعیین فرما کر جو جواب دیا اس میں بھی اس امر کی تصریح فرمائی کہ اسلام اور اس کی اعتقادی، عمل اور اخلاقی تعلیمات کی واقفیت اور بصیرت سے کوری اور معرا نسبی اور خاندانی شرافت اسلام میں کوئی چیز نہیں وہ تو صرف تعلقات قربت کے معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔

شرف اور کرم دین و دنیا دونوں میں انہی لوگوں کا قابل ذکر اور لائق قدر ہے جو خاندانی شرافت کے ساتھ ساتھ اسلام اور اس کی تعلیمات نیز اخلاق فاضلہ کی واقفیت و بصیرت کے بھی علمائے عمالماک ہوں۔

خالص خاندانی شرافت تو انسان کو شیطان بنا دیتی ہے

ورنہ تو نری خاندانی شرافت تو صرف رعونت و تکبر اور نخوت و غرور ہی پیدا کرتی ہے اور بڑھتے بڑھتے شیطان کی طرح مردود و ملعون بنا دیتی ہے شیطان نے بھی مادی شرافت اور برتری کو ہی اپنی برتری اور آدم کی کمتری کی دلیل قرار دیا تھا وہ کہتا ہے

انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین (اعراف: ۲۶)

میں آدم سے بہتر و برتر ہوں اس لئے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو پانی ملی سیاہ مٹی (گارے کچڑ) سے پیدا کیا ہے۔

اور اسی بنیاد پر اس نے خود اپنے خالق کے حکم آدم کو سجدہ کرنے کے حکم کو بھی ٹھکرادیا تھا کہ یہ حکم میری شان کے خلاف ہے میں اسے نہیں مان سکتا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابی و استکبر اس نے (آدم کو سجدہ کرنے سے) صاف انکار کر دیا اور اس کو اپنی شان کے خلاف قرار دیا اس سے معلوم ہوا کہ تنہا نسبی اور خاندانی شرافت نہ صرف یہ کہ کوئی قابل فخر چیز نہیں بلکہ انتہا درجہ خطرناک اور تباہ کن چیز ہے۔

خاندانی شرافت کس صورت میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے

ہاں اگر نسبی شرافت اسلام کی تعلیمات اور تفقہ فی الدین، دین کی فہم اور بصیرت سے بھی آراستہ ہو اور پرہیزگاری کی زینت سے مزین ہو تو یقیناً خاندانی شرافت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور دور رس احسان ہے۔

اس انعام کا شکر یہ کیا ہے

اور اس انعام و احسان کا شکر یہ ادا کرنا انسان کا فرض ہے اور وہ یہ ہے کہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو خواہ وہ شریف النسب ہوں یا غیر شریف النسب یکساں انسان اور آدم و حوا کی اولاد ہونے کے اعتبار سے اپنا بھائی اور برابر سمجھے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک جو لائق عزت و احترام ہوں یعنی مسلمان اور پرہیزگار ہوں ان کی دل سے عزت و احترام کرے اگرچہ وہ خاندانی اعتبار سے کتنے ہی کمتر کیوں نہ ہوں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مردود و ملعون (کافر) فاسق و فاجر، بدکار ہوں ان سے بیزاری کا اظہار کرے اگرچہ وہ کتنے ہی عالی نسب اور شریف خاندان کیوں نہ ہوں۔

کوری نسبی شرافت کس کا ورثہ ہے

حاصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں جو ابوں کا بھی ہے کہ اسلام اور دینی بصیرت یعنی پرہیزگاری جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں سے محروم نسبی اور خاندانی شرافت تو فرعون، نمرود اور ابو جہل و ابولہب بلکہ شیطان کا ورثہ ہے۔ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

دنیا والوں کے نزدیک شرافت کا معیار

اہل دنیا بھی انسان کے شخصی کردار اور اخلاق ہی کو معیار شرف و احترام سمجھتے ہیں اور شریفوں کی بد کردار و بد اطوار اولاد کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے اپنے باپ دادا پر فخر کرنے اور ان کی بدولت اپنی عزت کرانے کے جذبہ کو باپ دادا کی ہڈیوں کی تجارت سے تعبیر کرتے ہیں۔

بزرگوں کی بد کردار اولاد کی کون لوگ عزت کرتے ہیں

وہ لوگ درحقیقت بزدل یا خود غرض خوشامدی اور لالچی ہوتے ہیں جو محض اپنی اغراض کے لئے بزرگوں کی بد کردار اور بد اطوار اولاد کو جانتے بوجھتے سروں پر اٹھائے پھرتے ہیں یا فاسق و فاجر اور بد کردار و بد اطوار افسروں یا حکمرانوں یا مالداروں کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے رہتے ہیں نمائشی عزت و احترام میں سر تسلیم خم کئے رہتے ہیں محض اپنی ناجائز اغراض کے لئے یہ انسانیت کی موت ہے۔

بد کردار لوگوں کی تعریف اور عزت و احترام سے عرش بھی لرز جاتا ہے

یاد رکھئے! رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ فرماتے ہیں۔

اذامدح الفاسق غضب الرب تعالیٰ واهتزله العرش.

جب بدکار و بد کردار شخص کی تعریف کی جاتی ہے تو پروردگار عالم حد درجہ غضب ناک ہو جاتے ہیں اور عرش عظیم بھی ان کے غضب سے لرز اٹھتا ہے۔

خاندانی شرافت کی حقیقت اسلام کی نظر میں

نیز ہادی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالاباء انما هو مومن تقى او فاجر شقى الناس

كلهم بنو آدم وادم من تراب.

بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے (ایمان و اسلام کی بدولت) جاہلیت (اسلام سے پہلے زمانہ) کی نخوت و رعونت اور باپ دادا پر فخر کرنے (کی جاہلانہ عادت) کو دور کر دیا ہے اب تو آدمی یا پرہیزگار مومن ہوتا ہے یا بدکار مردود ہوتا ہے سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم (کا خمیر) مٹی سے بنا ہے۔ یعنی اپنی اصل و نسل کے اعتبار سے تو آدم کی اولاد کو کسی فخر و شرف کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی اس لئے کہ (سب کی اصل و نسل ایک ہے ہاں دینداری اور پرہیزگاری بیشک انسان کو لائق عزت و احترام بنا سکتی ہے۔

خاندانی شرافت پر اس طویل تبصرہ کی وجہ اور معذرت

دینداری اور پرہیزگاری سے محروم خاندانی شرافت اور اس پر فخر اور بدکار و بد چلن لوگوں کی عزت و احترام اور مدح سرائی کی وہاں زمانہ میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اس لئے ہم نے ذرا تفصیل سے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے ہم قارئین سے معذرت خواہ ہیں بارگاہ رب العالمین میں دست بدعا ہیں کہ وہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس وبائی بیماری سے محفوظ رکھیں آمین بحق طہ و یسین

پرہیزگاری کے لئے سب سے بڑا خطرہ

الثانی : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
”إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا
وَاتَّقُوا النَّسْلَ ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النَّسْلِ“ رواه مسلم .

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ منجر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ: بیشک دنیا (کی نعمتیں) بے حد شیریں و دلکش اور نظر فریب ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ (اپنے وعدہ کے بموجب اسلامی فتوحات کے بعد) ان پر تمہیں قابض (و متصرف) فرمائیں گے (اور دنیا بھر کے سامان عیش و قییش کا تمہیں مالک بنا دیں گے) پھر دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو؟ پس تم ان دنیا کی نعمتوں (میں مستغرق ہونے اور کھو جانے) سے بچنا اور دور رہنا اور (خاص طور پر) عورتوں (کی محبت میں اندھے بننے) سے تو بہت ہی ڈرتے اور بچتے رہنا اس لئے کہ (حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم) بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں ہی (کے بارے) میں ہوئی تھی (اور وہ عورتوں کی محبت میں ہی اندھے ہو کر تمام گمراہیوں اور حرام کاروں میں مبتلا اور تباہ ہوئے تھے)

عورت کی اندھی محبت پرہیزگاری کی سب سے بڑی دشمن ہے

تشریح: اس دنیا اور اس کی تقویٰ شکن نفسانی خواہشات اور دنیاوی نعمتوں کی تفصیل آپ تقویٰ کے بیان میں آیت کریمہ زین للناس حب الشهوات من النساء الآیہ کے تحت پڑھ چکے ہیں اور اس اندھی محبت کا حال بھی پڑھ چکے ہیں جو پرہیزگاری اور خدا پرستی کی سب سے بڑی دشمن ہے اور جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاک کر ڈالتی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اس بیان کو پھر پڑھ لیں دیکھیں ان نفسانی خواہشات اور انسان کو اندھا بنا دینے والی نعمتوں میں سرفہرست اول نمبر پر عورتوں کی محبت ہے اسی لئے تقویٰ سے متعلق اس حدیث پاک میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نفسانی خواہشات اور دنیا کی تمام نعمتوں سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ

خاص طور پر عورتوں کی محبت سے بچنے اور دور رہنے کی ہدایت فرمائی اور نبی اسرائیل کی تباہی کی مثال یاد دلا کر عورتوں کے فتنہ سے ڈرتے اور بچتے رہنے کی تاکید فرمائی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ نفس کی وہ خواہش اور لذت جنسی لذت جو بڑے سے بڑے عاقبت اندیش اور ہوشمند انسان کو بھی بالکل اندھا بنا دیتی ہے وہ مردوں کو عورتوں سے اور عورتوں کو مردوں سے ہی حاصل ہوتی ہے پھر اسی لذت کی تکمیل کے لئے شراب بھی پی جاتی ہے سور کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور گانے بجانے برہنہ رقص و سرور اور عربی و فحاشی کی محفلوں کلبوں سے اس آگ کو اور بھڑکایا جاتا ہے اور اس شیطانی خواہش اور لذت کا بھوت سروں پر سوار ہو کر تکمیل عیش اور مزید ہوس رانی کی غرض سے حرام و حلال کی تمیز کئے بغیر اندھا دھند مال و دولت جمع کرنے پر مجبور کرتا ہے اور انسان مال و دولت کی حرص و ہوس میں گرفتار ہو کر سخت سے سخت جرم چوری، رہزنی، جعل سازی وغیرہ کے ارتکاب تک کا عادی بن جاتا ہے خیانت، بددیانتی اور دھوکہ دہی تو معمولی بات ہے اس لحاظ سے یہ نفسانی خواہش و لذت اور مردوں کے لئے عورتوں کی اور عورتوں کے لئے مردوں کی یہ اندھی محبت تمام بد کاریوں، حرام کاریوں اور جرموں کے ارتکاب کی جڑ ہے اور پرہیزگاری یعنی اعلیٰ کردار، بلند اخلاق اور پاکیزہ فطری اقدار کی سب سے بڑی دشمن ہے اس حیوانی خواہش و لذت اور اس کے نتیجہ میں عورت کی محبت کا سب سے زیادہ برا اور خطرناک نتیجہ باہمی رقابت، رشک و حسد اور بغض و کینہ ہے جس کے نتیجہ میں قتل اور خون ریزی کے واقعات آئے دن ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں نوائے فیصلہ قتل کے واقعات کی تہہ میں عورت کا فتنہ کار فرما ہوتا ہے۔

عورت کا فتنہ صرف شخصی زندگی کو ہی تباہ نہیں کرتا

یہ عورت کا فتنہ صرف ایک انسان ہی کی شخصی تباہی کا سبب نہیں بنتا بلکہ بڑھتے بڑھتے ملکوں قوموں اور حکومتوں کی تباہی کا سبب بنتا ہے تاریخ کے صدہا واقعات اس کے شاہد ہیں اس لئے یہ ایک ناقابل انکار و تردید حقیقت ہے کہ سب سے بڑا فتنہ عورت کی اندھی محبت ہے اور اس کا توڑ کہئے یا اس ”زہر“ کو اتارنے والا ”تریاق“ صرف اسلامی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔

پرہیزگاری کا دوسرا دشمن

اس کے بعد دوسرے نمبر پر پرہیزگاری کا دشمن ”حب مال“ کا فتنہ ہے یعنی بے حساب مال و دولت کے انبار جمع کرنے کی حرص و ہوس اسی لئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس خطرناک فتنے سے بھی آگاہ اور خبردار فرمایا ہے ارشاد ہے:

لكل امة فتنه و فتنه امة المال:

ہر (نبی کی) امت کی ایک آزمائش کی چیز ہوئی ہے اور میری امت کی آزمائش کی چیز مال ہے۔

تقویٰ کی تشریح کے ذیل میں بیان شدہ مذکورہ سابق آیت کریمہ زین للناس حب الشهوات الایہ میں اس مال کو القناطیر المقنطرة من الذهب والفضة سونے چاندی کے تہ بتہ لگائے ہوئے انبار سے تعبیر فرمایا ہے دنیا کے تجربات و واقعات شاہد ہیں کہ ہوس مال و زر تقویٰ اور پرہیزگاری تو رہی ایک طرف یہ اندھی محبت اور ہوس تو کوئی بھی ایسا برے سے برا حرام کام اور حرام مال حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں جس کو اختیار کرنے پر انسان کو مجبور نہ کرتی ہو اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار اور رسوا اور وسیا نہ کر دیتی ہو قرآن کریم میں اس زرا ندوزی پر بڑی شدید وعید آئی ہے جس کو سن کر بدن کے روٹگئے کھڑے ہو جاتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذکورہ ذیل حدیث میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اس تباہ کن خطرہ سے خبردار کیا ہے ارشاد ہے:

فوالله لا اخشى عليكم الفقر ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوا فتهلككم كما اهلككم:

پس خدا کی قسم فقر و افلاس کا مجھے تمہارے متعلق کوئی اندیشہ نہیں (تم اس سے تباہ نہ ہو گے) لیکن میں تو تمہارے بارے میں صرف اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا (کی مال و دولت) کے دروازے تم پر کھول دیئے جائیں جیسے پہلی قوموں پر کھول دیئے گئے تھے پھر تم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اسکی حرص و ہوس میں ایسے ہی گرفتار ہو جاؤ جیسے وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور پھر وہ دنیا تم کو اسی طرح ہلاک کر ڈالے جیسے ان کو ہلاک کر چکی ہے۔

اس حرص و ہوس مال و زر کے سم قاتل، مہلک زہر کا تریاق بھی یہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ یاد رکھئے! شریعت کی تعلیمات کے مطابق حلال اور جائز آمدنی کے ذرائع سے مال و دولت حاصل کرنا اور پھر خدا اور رسول کے بتلائے ہوئے مصارف میں اس کو خرچ کرتے رہنا وہ ”نسخہ شفاء ربانی“ ہے کہ اس کو استعمال کرتے رہنے اور پرہیزگاری کے اصول کی پیروی کرتے رہنے کی صورت میں حب مال اور ہوس زرا ندوزی کا مرض پاس بھی نہیں پھٹک سکتا۔

پرہیزگاری کا تیسرا دشمن

پرہیزگاری کا تیسرا دشمن نفس انسانی کی تیسری بھوک جو ع الارض یعنی زمین جائیداد کی ہوس ہے عورت اور دولت کے بعد تیسرا فتنہ جاگیر داری اور ملک گیری کا فتنہ ہے اس مرض میں مبتلا اور اس فتنہ میں گرفتار انسان سب سے زیادہ ظلم و جور کا، خصوصاً غریبوں، کمزوروں، یتیموں، بچوں اور عورتوں پر مرتکب ہوتا ہے اور آخر میں بڑا ہی بے رحم اور سنگدل کہنے قصائی بن جاتا ہے قرآن کریم میں ایسے ظالموں کے لئے بڑی شدید وعیدیں آئی ہیں شہوات نفسانی کے اصول پر مشتمل آیت کریمہ میں حب جائیداد و جاگیر داری کو والا انعام والحراث اور مویسیوں اور زمین کی پیداوار کی محبت سے تعبیر کیا ہے۔ غرض اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ جنسی لذت، مال و زر اور زمین و جائیداد کی ہوس، جس کا کام دنیا ہے تمام تر بدکاریوں کا سرچشمہ ہے اسی سے بچنے اور دور سے دور تر رہنے کی ہدایت حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت میں کی گئی ہے اسی کا نام تقویٰ ہے۔

آزمائش اور اس میں پورا اترنے کی تدبیر

ان دنیا کی نعمتوں میں آزمائش کا پہلو یہ ہے کہ انسان ان کے بغیر بھی زندگی نہیں بسر کر سکتا اور انکا میسر آنا بھی خطرہ کی گھنٹی ہے یعنی تباہی کے خطرہ سے خالی نہیں اس آزمائش میں پورا اترنے کا راز جیسا کہ حدیث پاک یعنی لا اخشى علیکم الفقر میں اشارہ فرمایا ہے یہ ہے کہ مال و دولت اور سامان رفاهیت کی فراوانی کے مقابلہ میں انسان فقر و افلاس بقدر ضرورت روزی کو ترجیح دے اور خوش آمدید کہئے مبر و قناعت اور تقویٰ کا دامن مضبوطی سے تھامے رہے اور اگر بغیر کسی خاص جدوجہد اور تلاش و سرگردانی کے دولت و رفاهیت خوشحالی خود بخود میسر آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام و احسان سمجھے نہ کہ اپنی کارگزاری کا نتیجہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر اور حق نعمت تو لاؤ عملاً ادا کرتا رہے مگر دل کو اس کی محبت سے پاک رکھے اور حرص و ہوس کو اپنے پاس تک نہ پھینکنے دے اسی کا نام پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔

موجودہ زندگی میں ان ہدایات پر عمل کرنے کا فائدہ

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شفقانہ ہدایات پر عمل کر کے اور پرہیزگاری کو اختیار کر کے ہم آج کی زندگی میں بھی بے شمار خطرات اور ہلاکتوں سے بچ سکتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔

اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنی چاہئے۔ حدیث نمبر ۱/۳

الثالث : عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : " اللهم إني أسألك الهدى ، والتقى ، والعفاف ، والغنى " رواه مسلم .

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم (عموماً دعائیں) فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں اور پرہیزگاری کا پارسائی

کا اور غنا (مخلوق سے بے نیازی) کا (تو یہ چاروں نعمتیں مجھے عطا فرما دے)

چار نعمتیں اور ان کی تشریح

تشریح: اس حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عظیم نعمتوں کی خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اور امت کو بھی ان کی دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے وہ عظیم نعمتیں یہ ہیں۔

(۱) ہدای: ہدایت الہیہ جس کی دعا ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتا ہے اهدنا الصراط المستقیم (اے اللہ) تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے پیغمبرانہ طریق کار کو بھی ہدای سے تعبیر فرمایا ہے اور خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے: ارشاد ہے۔

فبہدہم اقتدہ۔ (اے نبی تم ان نبیوں کے طریق کار کی پیروی کیا کرو اس لئے کہ یہ ہی ہدایت الہی در حقیقت "ہدایت" ہے ارشاد ہے قل ان الہدیٰ الہدی اللہ (اے نبی تم کہہ دو: بے شک ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہے اور اس کے ماسوائے سب گمراہی و کجراہی ہے) نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی ازراہ شفقت اسی "ہدایت" کی دعائے نکلنے کی تعلیم دیتے ہیں۔

(۲) الغنی: تقویٰ اور پرہیزگاری جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں تمام محرمات حرام چیزوں اور کاموں اور کبیر گناہوں سے بچنا جس کا پہلا مرحلہ ہے۔

(۳) العفاف: پارسائی یعنی تمام ممنوع اور برے اعمال و اخلاق سے بچنا خصوصاً کسی سے سوال کرنے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت اٹھانے سے بچنا چنانچہ قرآن کریم میں اسی عفاف سے مشتق اور ماخوذ لفظ تعفف احتیاج کے باوجود کسی سے سوال نہ کرنے کے معنی میں ایسے پارسا حاجت مندوں کی تعریف کے طور پر استعمال ہوا ہے ارشاد ہے:

یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف: ناواقف آدمی ان حاجت مندوں کو سوال سے بچنے کی وجہ سے غنی (مالدار) سمجھتا ہے (حالانکہ وہ شدید حاجت مند ہوتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے دنیا کا تمام کاروبار چھوڑ کر خود کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کیا ہوا ہے یہ پارسا حاجت مند اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم تھے۔

بہر حال جو جان بچانے کے لئے سوال کرنا جائز ہے تاہم احادیث میں بڑی کثرت اور شدت کے ساتھ سوال کرنے کی ممانعت آئی ہے یہی پرہیزگاری کا تقاضہ ہے۔

۳۔ الغنی: مخلوق سے بے نیازی یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بقدر کفاف ضروریات پورا کرنے کے بقدر روزی میسر آنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی بھی ہستی کے سامنے اظہار حاجت نہ کرنا اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی پر قناعت اختیار کرنا حدیث نمبر (۲) کے ذیل میں اس صبر و قناعت کی اہمیت اور فوائد کا جال پوری تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ چکے ہیں اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے خیر الغنی غنی النفس بہترین دولت مند دل کا غنی ہوتا ہے اور اسی لئے مسنون دعاؤں میں آیا ہے اللھم اجعل غنای فی صدی: اے اللہ تو مجھے دل کا غنی بنا دے اسی طرح مسنون دعا ہے آپ بھی روزانہ یہ دعائیں ناکہجئے۔

اللھم اغنی بفضلک عن سواک: اے اللہ تو مجھے اپنے فضل و انعام سے اپنے ماسوا سب سے غنی (بے نیاز) بنا دے یعنی دل کو اپنے ماسوا سب کے تصور سے پاک کر دے یہی پرہیزگاری کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔

تقویٰ کے علاوہ باقی تین خصلتیں بھی پرہیزگاری ہی کے لوازمات میں سے ہیں جیسا کہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں ان چاروں نعمتوں اور خصلتوں کا مالک انسان در حقیقت اولیاء اللہ کے مقدس زمرہ میں شامل ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو اور لائق عزت و احترام ہوتا ہے آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیجئے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کا تقاضا

الرابع : عن أبي طريفٍ عديِّ بن حاتم الطائفي رضي الله عنه ، قال : سمعتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يقول : ” مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَنْتَقَى اللهُ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى “ رواه مسلم .
ترجمہ: حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں: میں نے خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے جس شخص نے کسی کار خیر کے نہ کرنے کی قسم کھالی ہو اور وہ محسوس کرے کہ اللہ کے ڈر اور خوف کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں یہ کام نہ کروں (بلکہ مجھے یہ کام کرنا چاہئے) تو اسے (قسم توڑ دینی چاہئے اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہئے اور) اس کار خیر پر عمل کرنا چاہئے (جو اللہ کے خوف اور خشیت کا تقاضا ہو)

مثال: تشویح: مثلاً کسی لچر مسائل سے تنگ آکر کسی نے قسم کھالی کہ میں آج سے کسی ایسے سائل کو ایک پیسہ نہ دوں گا“ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم: ان (اہل ایمان) کے مال میں ہر سوال کرنے والے اور نہ کرنے والے کا حق ہے نیز ارشاد ہے واما السائل فلا تنهر: باقی سوال کرنے والے کو تو ہرگز نہ جھڑکو، اس لئے اس قسم کو فوراً توڑ دینا اور کفارہ ادا کر دینا چاہئے اور ہر سائل کو جو بھی میسر ہو ضرور دینا چاہئے ورنہ نرمی سے اپنی مجبوری اس پر ظاہر کر دینی چاہئے پھر بھی نہ مانے یہ سخت دست کہے تو خاموشی کے ساتھ گذر جانا چاہئے اور اس کی بد تمیزوں سے درگزر کرنا چاہئے یہی خوف و خشیت الہی کا تقاضا ہے اور اس قسم کو توڑ دینا ہی تقویٰ اور پرہیزگاری کا مقتضی ہے یہ صورت ایسے ہی کار خیر کے ترک کرنے میں پائی جاسکتی ہے جو مباح ہو یعنی اس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہوں مگر کرنا نہ کرنے سے بہتر ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔

اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنے کا عملی ثبوت اور اس کا ثمرہ

الخامس : عن أبي أمامةٍ صديِّ بن عجلانَ الباهليِّ رضي الله عنه ، قال : سمعتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حِجَّةِ الْوُدَاعِ ، فَقَالَ : ” اتَّقُوا اللهَ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ ، وَأَطِيعُوا أَمْرَاءَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ “ رواه الترمذي ، في آخر كتاب الصلاة ، وقال : ” حديث حسن صحيح “ .

ترجمہ: حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں: میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے (اے مسلمانو!) اللہ سے ڈرو پانچوں وقت کی نمازیں (باجماعت) پڑھو مال کی زکوٰۃ ادا کرو اپنے امیروں (حکمرانوں) کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔

جائز امور میں حکمرانوں کی مخالفت بھی پرہیزگاری کے منافی ہے

تشریح: آپ تقویٰ سے متعلق تفصیلی بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہی نہ صرف عبادت بلکہ تمام احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا حقیقی اور اصلی محرک ہوتا ہے نیز یہ خوف خدا نہ صرف شخصی اور انفرادی زندگی بلکہ قومی اور اجتماعی زندگی کو بھی تباہی سے بچانے کا واحد ذریعہ ہے جیسا کہ اس حدیث پاک میں سرور کائنات نبی امن و سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار مسلمانوں کے محیر العقول حیرت انگیز مجمع میں اپنے آخری اور وداعی خطبہ میں اعلان فرمایا اس لئے قوم کے دلوں میں خوف خدا اور ان کے کردار میں تقویٰ اور پرہیزگاری حکومتوں اور ملکوں کے لئے بھی بہت بڑی رحمت ہے۔

حکمرانوں کی مخالفت کس وقت جائز بلکہ فرض ہو جاتی ہے

باقی حکمرانوں کی اطاعت اسی وقت تک واجب ہے جب تک کہ وہ خدا کی نافرمانی اور شریعت کی خلاف ورزی پر مجبور نہ کریں اس لئے کہ رہبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق: خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاسکتی مسلمانوں کا فرض ہے کہ حکمران کتنا ہی ظلم و ستم کیوں نہ کریں خدا کی نافرمانی ہرگز نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمرانوں سے بچائیں اور اپنی پناہ میں رکھیں آمین بحق رحمۃ للعالمین

باب فی الیقین والتوکل یقین اور توکل کا بیان

یقین و ایمان

غزوہٴ احزاب، جنگ احزاب یا جنگ خندق اپنی فتنہ سامانی اور حوصلہ شکنی کے اعتبار سے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت صبر آزما جنگ ہے ایسے ہمت شکن حالات میں دشمنوں کے دل بادل لشکر اور چاروں طرف سے محاصرہ کرنے والی فوجوں کو محاذ جنگ پر دیکھ کر سراپا ایمان و تسلیم مومنین موقنین نے جس یقین و ایمان کا اظہار کیا ہے اس کا حال آیت کریمہ ذیل میں بیان فرمایا ہے ارشاد ہے:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب : ۲۲] .

ترجمہ۔ اور جب دیکھیں ایمان والوں نے دشمنوں کی فوجیں تو بولے: (ارے) یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا ہے اور (دیکھ لو بالکل) سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے اور اس (حوصلہ شکن منظر) نے ان کے ایمان اور تسلیم میں اضافہ ہی کر دیا۔

تفسیر۔ غزوہٴ احد کے ایک سال بعد غزوہ بدر صغریٰ سے متعلق جس کی تفصیل کسی قدر حدیث نمبر (۳) میں آرہی ہے دشمنوں کی دھمکیوں اور جھوٹے پروپیگنڈے سے اصلاً متاثر نہ ہونے والے مومنین موقنین یقین کامل کے مالک اہل ایمان اور متوکلین کاملین کا حال اور انکے توکل کی شان اور اس کا نتیجہ ذیل کی آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے: ارشاد ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسْسَهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانِ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران ۱۷۳ ۱۷۴] .

تفسیر۔ (اجر عظیم ان لوگوں کے لئے ہے) جن سے (دشمنوں کے حمایتی) لوگوں نے کہا بیشک مکہ کے لوگوں (قریش اور عرب قبائل) نے تم سے لڑنے کے لئے (بڑی فوجیں اور سامان) جمع کیا ہے پس تم ان سے ڈرو (اور لڑنے کے لئے مت جاؤ) تو اس (جھوٹی دھمکی) نے ان (مومنوں) کے

ایمان کو اور بھی زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمارے لئے تو اللہ بہت کافی ہے اور وہ تو بڑا ہی اچھا کار ساز ہے چنانچہ (اہل ایمان مقررہ محاذ جنگ پر گئے اور وہاں سے) واپس آئے اللہ کی نعمت (فتح و ظفر) اور فضل (مال غنیمت) کے ساتھ کچھ بھی تو گزند ان کو نہ پہنچا اور اللہ کی رضا کی پیروی بھی کر لی اور اللہ تو بڑے ہی فضل و انعام والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن عظیم کی آیات کی تلاوت سے مومنوں کے ایمان میں ترقی اور زیادتی توکل علی اللہ کا نتیجہ ہے ارشاد ہے:

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال : ۲]
والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.

مومن تو بس وہی لوگ ہیں جن کے سامنے جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں اور جب اس (کے کلام قرآن) کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو اور زیادہ (سے زیادہ) کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر (کلی اعتماد اور) بھروسہ کیا کرتے ہیں۔

توکل:

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مذکورہ ذیل آیات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ارشاد ہے:

قل ما استلکم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الی ربہ سبیلاً و توکل علی الہی الذی لا یموت
وسبح بحمده وکفی بہ بذنوب عباده خبیراً (الفرقان: ۵)

تم (اے نبی! منکرین حق سے) کہہ دو! میں تم سے اس دعوت ایمان اور تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ مطلق نہیں مانگتا الایہ کہ جو چاہے وہ اپنے رب کا راستہ (دین اسلام) اختیار کر لے اور تم (اے نبی! ان کی دشمنی کی پرواہ مت کرو اور) اپنے اس (ہمیشہ سے ہمیشہ تک) زندہ رہنے والے رب پر بھروسہ رکھو جس کیلئے مرنا (ممکن ہی) نہیں ہے اور اسی کی تسبیح حمد و ثنا کے ساتھ کیا کرو وہ اپنے بندوں کے گناہوں (کفر و شرک) سے باخبر (تمہارے لئے) کافی ہے۔

فاعف عنہم واستغفرلہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین (ال عمران: ۱۷)

پس ان (نادانی سے اپنے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں) کو معاف کر دو اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کرو اور (پیش آمدہ) کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو پس جب (کسی کام کا) پکارا دہ (اور فیصلہ) کر لو تو اللہ پر بھروسہ کیا کرو بیشک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

تعمیہ: اس آیت کریمہ میں اول اسباب و تدابیر اختیار کرنے کا حکم ہے اس کے بعد (ان اسباب و تدابیر کے بجائے) اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا ہے مذکورہ ذیل آیات میں ال ایمان کو اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا ہے ارشاد ہے:

۶/۱- وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون (ابراہیم: ۲۷)

اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہئے۔

۷/۲- وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون (ایضاً)

اور اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہئے۔

توکل کا نتیجہ

مذکورہ ذیل آیت کریمہ میں توکل کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام مشکلات و مصائب میں کفایت فرمانے اور کار بر آری کا وعدہ فرمایا ہے۔

۸/۱- ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔

اور جو شخص اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے تو وہ اس کے لئے بہت کافی ہے۔

توکل انبیاء کرام علیہم السلام کا خصوصی شعار رہا ہے

توکل علی اللہ تمام انبیاء و مرسلین کا خصوصی شعار رہا ہے سخت سے سخت مشکلات اور صبر آزما حالات میں ہمیشہ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی کار سازی پر اعتماد کیا ہے: ارشاد ہے۔

۹/۱- وماکان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وماننا الا نتوکل

علی اللہ وقدھدنا سبلنا ولنصبرن علی ما اذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون (ابراہیم: ۲۷)

اور ہمارے بس میں نہیں کہ لائیں ہم (از خود) تمہارے سامنے کوئی حجت مگر اللہ کی اجازت سے اور اللہ پر ہی ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہئے۔

اور ہمیں کیا ہوا جو ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ وہ ہمیں تھلا چکا ہماری راہیں (کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے) اور ہم تو یقیناً صبر ہی کریں گے تمہاری ایذا رسانیوں پر اور اللہ پر ہی بس بھروسہ کرنا چاہئے بھروسہ کرنے والوں کو۔

خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل کا خصوصی حکم

مذکورہ ذیل آیت میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد متکلم۔ مجھے۔ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا خصوصی حکم دیا گیا ہے ارشاد ہے:

۱۰/۱- فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وھو رب العرش العظیم (التوبہ: ۱۶)

پس اگر وہ (منکرین اس شفقت و رحمت اور مہر و محبت کے باوجود) انحراف کریں تو (ان سے) کہہ دو مجھے تو اللہ بہت کافی ہے اس کے سوا کوئی بھی لائق پرستش نہیں ہے (اسی (وحده لا شریک له) پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم (تمام کائنات) کا مالک ہے۔

اسی طرح مذکورہ ذیل آیت کریمہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مرجع امور کائنات زمین و آسمان کے اسرار و مخفیات کے جاننے والے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس پر بھروسہ کرنے کا خصوصی حکم دیا گیا ہے۔

۱۱/ (۲) ولله غیب السموت والارض والیہ یرجع الامر کله فاعبده وتوکل علیہ وماربک بغافل

عماتعملون (یوسف: ۱۰۷)

اور اللہ ہی کے لئے ہیں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں (جن سے اس کے سوا کوئی بھی واقف نہیں) اور اسی کی طرف لوٹنا ہے تمام کا تمام اختیار، پس تم (اے نبی) اسی کی عبادت کیا کرو اور اسی پر بھروسہ کیا کرو اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے بے خبر مطلق نہیں ہے۔

مذکورہ بالا آیات پر مزید تبصرہ

انسان بہر حال اپنی زندگی میں کاربر آری اور حاجت روائی کی غرض سے کسی نہ کسی ہستی پر بھروسہ اور اعتماد کرنے پر فطرتاً مجبور ہے اور یقیناً وہ یہ بھروسہ اور اعتماد نہ صرف اپنے سے بڑھ کر بلکہ زیادہ سے زیادہ کاربر آری اور حاجت روائی کی قدرت اور اختیار رکھنے والی اسباب اور ان کے اثرات و نتائج سے گہری واقفیت اور دور رس علم کی مالک ہستی پر ہی کر سکتا ہے یہی اس کی عقل و خرد کا تقاضا ہے قرآن عظیم نے توکل علی اللہ کا حکم دینے اور اس کی فضیلت بیان کرنے کے ذیل میں اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس اور مؤثر صفات خاص طور پر بیان کی ہیں جو ایک خدا اور اس کی صفات پر ایمان رکھنے والے مسلمان کو توکل علی اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ مطمئن کر سکیں اور وہ تمام وسوسوں اور خیالات کو خیر باد کہہ کر اور بالائے طاق رکھ کر پوری دلجمعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کر سکے مثلاً

(۱) الحی الذی لا یموت (۲) لا الہ الا هو (۳) لله غیب السموات والارض (۴) الیہ یرجع

الامر کله (۵) رب العرش العظیم (۶) حسبی یا حسبنا یا حسبہ (۷) ہدایت سبل۔

بلکہ آیت نمبر ۹/۱ کے جملہ و مالنا ان لا یتوکل علی اللہ میں تو انبیاء علیہم السلام کی زبان مبارک سے یہ تک کہلوا دیا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کرے وہ بالکل مت کارا ہوا اور عقل و خرد سے کور انسان ہے۔ اس نقطہ نظر سے آیات اور ان کے ترجموں کو صدق دل سے دوبارہ پڑھیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یقین اور توکل علی اللہ کی توفیق عطا فرمائیں۔

تشریح! یقین کی تعریف

یقین اس محکم اور پختہ علم کا نام ہے جس کے خلاف ذرا برابر شک و شبہ اور تردد و تذبذب نہ ہو بلکہ ذہن اس کے خلاف کے تصور سے بھی خالی ہو یعنی اس علم کے خلاف بات خیال میں بھی نہ آئے۔

یقین کے تین مرتبے

اس پختہ اور محکم علم کے تین مرتبے ہیں (۱) یہ کہ وہ علم اتنا پختہ اور قوی ہو کہ اگرچہ کبھی اس کا مشاہدہ یا تجربہ نہ بھی ہوا ہو تب بھی وہ مشاہدہ یا تجربہ کے درجے کو پہنچا ہوا ہو یعنی مشاہدہ اور تجربہ کے بعد علم میں کوئی اضافہ نہ ہو بلکہ صرف اطمینان اور انشراح حاصل ہو جائے کہ جس کا ہمیں یقین تھا اس کو دیکھ بھی لیا، تجربہ بھی ہو گیا۔

مثالیں

مثلاً ہر مسلمان کو اس امر کا قطعی یقین ہے کہ مکہ مکرمہ عرب کا ایک شہر ہے جہاں خانہ کعبہ واقع ہے جس کی طرف منہ کر کے تمام دنیا کے مسلمان پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں اگرچہ اس شہر اور خانہ کعبہ کو کبھی نہ دیکھا ہو یا سکھیا ایک مہلک زہر ہے اگرچہ کبھی اس کا تجربہ نہ ہوا ہو نہ ہی اس کی صورت دیکھی ہو۔

یقین کا پہلا مرتبہ علم یقین

یہ یقینی علم کا پہلا مرتبہ ہے ایسے پختہ اور پکے علم کو شریعت کی اصطلاح میں علم یقین کہتے ہیں۔

یقین کا دوسرا مرتبہ عین یقین

اور جب اس علم کا مشاہدہ یا تجربہ ہو جائے یعنی جو سنا اور جانا تھا وہ آنکھوں سے بھی دیکھ لیا جائے اور تجربہ بھی ہو جائے تو اس علم کو مشاہدہ یا تجربہ کے بعد شریعت کی اصطلاح میں عین یقین کہتے ہیں۔

یقین کا تیسرا مرتبہ حق یقین

اور اس علم یقین اور اس کے مشاہدہ یا تجربہ کے جمع اور متفق و منطبق ہو جانے کے بعد اس علم کا نام شریعت کی اصطلاح میں حق یقین ہے اس لئے کہ تنہا علم یقین میں اس بات کا امکان ہے کہ قطعی اور یقینی علم ہونے کے باوجود واقعہ اس کے خلاف ہو جیسا کہ جہل مرکب، کسی واقعی جاہل کو اپنے عالم ہونے کا پکا یقین ہونا کی صورت میں ہوتا ہے اسی طرح تنہا مشاہدہ یا تجربہ پر جو علم مبنی ہو اس میں بھی حواس، بینائی وغیرہ یا تجربہ کی غلطی کا امکان ہوتا ہے لیکن جب علم یقینی مشاہدہ یا تجربہ کے ساتھ جمع اور متفق و متحد ہو جائے یعنی جب مشاہدہ یا تجربہ سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ علم یقین واقعہ کے مطابق ہے اور علم یقینی سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ مشاہدہ یا تجربہ میں کوئی غلطی نہیں ہے تو اس کے

بعد نہ علم کے خلاف واقع ہونے کا امکان رہتا ہے نہ مشاہدہ یا تجربہ کی غلطی کا امکان رہتا ہے اور حق متعین اور قطعی و یقینی ہو جاتا ہے اور وہ علم، حق الیقین ایسا یقین جو واقعہ کے مطابق و موافق ہو کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔

یقین کے تینوں مرتبوں کا ثبوت قرآن عظیم سے

اس لحاظ سے یقین کے تین مرتبے ہوئے (۱) علم الیقین (۲) عین الیقین (۳) حق الیقین آیت کریمہ ذیل میں دو مرتبوں کا صراحتاً ذکر فرمایا ہے اور تیسرے کا اشارہ تا مگر نفی کی صورت میں ذکر فرمایا ہے اس لئے کہ مخاطب مکرین عذاب جہنم یعنی کفار و مشرکین ہیں یا فساق و فجار ارشاد ہے۔

کلالو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین:

ہرگز نہیں اگر تم کو (جہنم کا) یقینی علم ہو تا تو تم جہنم کو ضرور دیکھ لیتے پھر تم (قیامت کے دن تو جب وہ سامنے آئے گی) اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ ہی لو گے۔

ثم لتسئلن يومئذ عن النعم: (الحکاثر)

پھر تم سے (اللہ کی) نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا (اور کفران نعمت کی سزا میں ضرور جہنم کی آگ میں جلو گے عذاب جہنم کا حق الیقین اس وقت تمہیں ہوگا)

یعنی اگر تم کو جہنم کا یقینی علم ہو تا تو تم اس کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرتے اور ڈرتے اور کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرتے جو جہنم میں لے جانے والا ہو اس لئے کہ جب جان بوجھ کر کوئی بھی انسان دنیا کی آگ میں نہیں گرتا تو جہنم تو پھر جہنم ہے اس کی طرف تو کوئی آنکھوں دیکھتے رخ کرنے کی بھی جرات نہیں کر سکتا بہر حال یہ تو دنیا ہے جہاں تو جہنم آنکھوں سے نظر نہیں آسکتی مگر مرنے کے بعد قیامت کے دن تو یقیناً جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور تمہیں جہنم کا علم عین الیقین، یعنی مشاہدہ کے درجہ میں ہو ہی جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حساب و کتاب کے بعد کفران نعمت (ناشکری) کی سزا میں جب جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جاؤ گے اور جلنے لگو گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا تھا اس کا حق الیقین ہو جائے گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احیاء موتی، مردوں کو زندہ کرنے کے متعلق سوال

سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے احیاء موتی مردوں کے زندہ کرنے سے متعلق سوال اسی عین الیقین کے مرتبہ کے حصول کی غرض سے کیا ہے ان کو علم الیقین حاصل تھا اسی بات کو ان کی زبان سے کہلوانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے سوال پر سوال کیا ہے تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ حضرت ابراہیم کو علم الیقین حاصل ہے صرف عین الیقین کا مرتبہ یعنی چشم دید مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کرایا جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے ارشاد ہے۔

واذ قال ابراهيم: رب انى كيف تحى الموتى؟ قال اولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليظمن قلبى الآية: اور جب ابراہیم نے کہا: اے میرے رب تو مجھے دکھلا دے تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ (اللہ تعالیٰ) نے فرمایا کیا تو (مردوں کو زندہ کرنے پر) ایمان نہیں لایا؟

ابراہیم نے عرض کیا: کیوں نہیں (میرا تو پختہ ایمان ہے کہ تو ضرور مردوں کو زندہ کرے گا لیکن (میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں) تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے (کہ تو اس طرح زندہ کرے گا)

یقین اور ایمان اور ان کا باہمی فرق

یاد رکھئے اسی علم یقینی کا نام شریعت کی اصطلاح میں ایمان ہے بشرطیکہ دل سے مان بھی لے اور زبان سے اقرار بھی کر لے اس لئے کہ بسا اوقات انسان ایک بات کو یقینی طور پر جانتا ہے مگر ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہ اس کو مانتا ہے نہ زبان سے اقرار کرتا ہے چنانچہ ہم رات دن عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک واقعی مجرم خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے مگر یہ دیکھ کر کہ پولیس کے پاس ثبوت کافی نہیں ہے کبھی مان کے نہیں کہتا کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے الا ماشاء اللہ ایسے ہٹ دھرمی کے انکار کو قرآن کی اصطلاح میں جود کہا گیا ہے یعنی جان بوجھ کر اور پورا یقین ہونے کے باوجود انکار کرنا خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کٹر مشرکین مکہ اور متعصب و معاند یہودیوں کا آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار اسی قسم کا انکار تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاندین و جاہدین کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

(۱) وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم (النمل: ۱۰)

اور ان معاندوں نے ان (قدرت کی نشانیوں) کا انکار کر دیا حالانکہ ان کے دلوں کو پورا یقین حاصل تھا۔

(۲) يعرفونه كما يعرفون ابناءهم (البقرہ: ۱۷۷)

وہ (یہودی) اس (نبی عربی) کو اس طرح جانتے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔

یقین کے تیسرے مرتبہ کا ذکر قرآن کریم میں

یقین کے تیسرے مرتبہ حق یقین کا ذکر صراحتاً آیت کریمہ ذیل میں آیا ہے ارشاد ہے:

وانه لحق اليقين فسيح باسم ربك العظيم (الحاق: ۲۷)

اور بیشک وہ (قرآن) برحق (واقعہ کے مطابق) یقینی (اللہ کا کلام) ہے پس تم تو (اے نبی) اپنے عظیم

پروردگار کی تسبیح کیا کرو۔

یعنی اگر یہ رسول اللہ کا رسول اور امین ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کلام، قرآن میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے کہہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیتا تو ہم اس خیانت کے جرم میں فوراً اس کی شہ رگ کاٹ کر ہلاک کر ڈالتے کہ یہی ہماری غیرت کا تقاضا ہے اور یہ واقعہ ہے کہ ایسا نہیں ہو اور رسول بھی تمہارے سامنے زندہ موجود

ہے اور قرآن بھی موجود ہے اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کے اعلان بھی بدستور قائم ہے لہذا یہ واقعہ اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ قرآن کا کلام اللہ ہونا ایسا یقینی اور برحق ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔

توکل کے لفظی اور شرعی معنی اور اس کی تشریح

توکل کے لفظی معنی ہیں کسی چیز یا شخص یا رائے و تدبیر وغیرہ پر بھروسہ کرنا شریعت کی اصطلاح میں توکل کے معنی ہیں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور اس کے سوا کسی بھی چیز یا شخص یا رائے و تدبیر وغیرہ پر بھروسہ نہ کرنا اس ”شرعی توکل“ کی حقیقت کو سمجھنے کیلئے حسب ذیل تفصیل پر غور فرمائیے اور پھر سمجھئے تاکہ کسی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہوں۔

یہ ہماری دنیا عالم اسباب ہے کہ خالق کائنات نے اس دنیاوی زندگی میں منفعت مضرت اور کامیابی و ناکامی غرض دنیا اور دین کے تمام امور کو ان کے اسباب و ذرائع اور انسانی تدبیر اور جدوجہد کے ساتھ مربوط اور وابستہ فرمایا ہے اور عقل سلیم کی نعمت عظمیٰ عطا فرما کر انسان کو ان وسائل و ذرائع اور تدبیر کار کی معرفت و بصیرت اور ان میں تصرف کی قدرت اور اختیار سے بھی سرفراز فرمایا ہے اور ہر انسان کو ان اسباب و وسائل اور تدابیر و جدوجہد کے اختیار کرنے اور اس کے ذریعے اپنی دینی اور دنیوی شخصی و اجتماعی فرائض کو انجام دینے کا حکم بھی دیا ہے کہ دین اور دنیا میں جو کچھ ہم تمہیں دیں گے تمہاری جدوجہد اور کوشش کے تحت دیں گے ارشاد ہے:

وان لیس للانسان الا ما سعی (النجم: ۳)

اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔

یعنی انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ صرف اس کی کوشش اور جدوجہد کا ثمرہ ہے۔

مگر ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا اور خبردار کر دیا ہے کہ یہ اسباب و تدابیر صرف وسیلہ ہیں ان پر نتائج منفعت یا مضرت کامیابی یا ناکامی وغیرہ کا مرتب ہونا یا نہ ہونا صرف ہماری مشیت اور منشاء پر موقوف ہے ہم چاہیں گے تو منفعت کی تدابیر و اسباب پر منفعت مرتب ہوگی ورنہ نہیں۔

مثال:

مثلاً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلادیا ہے:

لکل داء دواء الا الموت: موت کے سوا ہر مرض کی دوا ہے۔

اب مرض کی تشخیص اور دوا علاج پر ہیضہ تجویز کرنا طیب یا ڈاکٹر کا فرض ہے اور علاج کرنا دوا پر ہیضہ کرنا خود بیمار کا فرض ہے لیکن مرض کو دور کرنا اور شفا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ شفا دینا چاہیں گے تو دوا اور علاج پر ہیضہ وغیرہ کو شفا کا ذریعہ بنا دیں گے اور اگر انکا منشاء ہوگا تو ہم اور ہمارے معالج ڈاکٹر، حکیم ایڑی چوٹی کا ذور لگائیں ہرگز مرض زائل نہ ہوگا اور شفا نصیب نہ ہوگی۔

باقی شفا کے لئے ان اسباب و وسائل علاج معالجہ دو پرہیز کی ضرورت بھی ہمیں ہے اللہ تعالیٰ شافی مطلق کو نہیں وہ شفا دینا چاہیں گے تو بغیر کسی دوا پرہیز کے شفا دے دیں گے نہ صرف یہ بلکہ زہر کو تریاق زہر اُتارنے والی دوا بنا دیں گے۔ اسی حقیقت کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ذیل کے شعر میں خوب ادا کیا ہے۔

از سبب سازیت حیرانیم: (اے پروردگار) میں تیرے سبب بنا دینے پر بھی حیران ہوں
وز سبب سوزیت سرگردانیم: اور تیرے سبب کو ناکارہ بنا دینے پر بھی سرگرداں ہوں۔

واقعہ:-

دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرست قوم نے اپنے بتوں کی توہین کے ”جرم“ پر آگ میں زندہ جلا ڈالنے کا فیصلہ کیا اور ان کو دکھتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا:

یا نار کونی ہو ذَاوِ سَلَامٍ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ (انبیاء: ۵)

اے آگ! تو ابراہیم کے لئے خشکی اور سلامتی (کا سبب) بن جا۔

چنانچہ وہ ”آتش نمرود“ آن کی آن میں ”گلزار ابراہیم“ بن گئی۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اسباب میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے مگر وہ ایسی تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں اسے سلب کر لیں چھین لیں۔

دوسری مثال:-

اسی طرح رزاق روزی دینے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں چنانچہ ان جاہلوں اور سر پھرے لوگوں سے خطاب کر کے جو اپنی جہالت اور خدا شناسی کی بناء پر یہ سمجھتے ہیں کہ روزی اور رزق کا میسر آنا ان اسباب و تدابیر پر موقوف ہے جو ہم کرتے اور بتلاتے ہیں اگر لوگ ان تدابیر کو اختیار نہ کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے ارشاد ہے:

نحن نوردقہم وایاکم (بنی اسرائیل: ۴)

ہم ہی ان (لوگوں) کو بھی روزی دیتے ہیں اور ہم ہی تم کو بھی روزی دیتے ہیں۔

یعنی نہ صرف اور خدا کی مخلوق کو بلکہ تم کو بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں تم اور لوگوں کا پیٹ تو کیا بھرو گے اپنا پیٹ بھی خود نہیں بھر سکتے اس لئے کہ:

ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین (الذاریات: ۳)

پیشک صرف اللہ ہی روزی دینے والا (روزی رسانی کی) پختہ اور محکم قوت والا۔

مگر اسکے باوجود کہ روزی رسانی صرف رزق مطلق خدا ہے، ہما امور ہیں اور ہما فرض ہے کہ حلال روزی کمائیں۔

وان لیس للانسان الا ما سعی: اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے

واقعہ:-

ہادیٰ برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک شتر سوار دیہاتی حاضر ہوا اور اس نے دریافت کیا:
اعقلھا و اتوکل ام اطلقھا و اتوکل:
یا رسول اللہ میں اس اونٹنی کا گھنٹا رسی سے باندھ دوں اور پھر (خدا) پر بھروسہ کروں؟ یا کھلا چھوڑ دوں اور
(خدا پر) بھروسہ کروں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا:

اعقلھا فتوکل: تو اس اونٹنی کا گھنٹا رسی سے باندھ دے اور پھر اللہ پر بھروسہ کر۔
اسی حدیث پاک کا ترجمہ کسی شاعر حکیم نے کیا ہے۔
ہو تو کل زانوئے اشتر ببند۔ توکل (کی بنیاد) پر اونٹنی کا گھنٹا باندھو۔
یعنی حفاظت کی تدبیر ضرور کرو اور رسی ضرور باندھو مگر بھروسہ اس تدبیر اور رسی پر ہرگز نہ کرو بھروسہ
صرف خدا پر کرو اگر وہ چاہے گا تو تمہاری یہ تدبیر کارگر ہوگی ورنہ نہیں۔

پیغمبر بھی اسباب و تدابیر اختیار کرنے کے مامور تھے

خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور میں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم صراحتاً یا اجمالاً نہ ہو صحابہ سے
مشورے اور غور و فکر کر کے کام کرنے کا حکم ذیل کی آیت کریمہ میں دیا گیا ہے: ارشاد ہے۔
و مشاورہم فی الامر فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ (ال عمران ع: ۱۵)
اور ان (صحابہ) سے کاموں میں مشورے کرو پس جب (مشورہ اور غور و فکر کے بعد) کام کا پختہ ارادہ کر لو
(اور کام کرنے لگو) تو بھروسہ اللہ پر کرو۔
اس لحاظ سے نبی بھی تدابیر کار اختیار کرنے کے مامور ہوتے ہیں۔

اس تفصیل کے بعد توکل کی حقیقت

لہذا اسلام جس توکل کی تعلیم اور حکم دیتا ہے اس میں ظاہری اسباب اور تدابیر کا اختیار کرنا داخل ہے بشرطیکہ
ان پر بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی کار سازی پر ہو۔ یہی ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اور ایمان
بالقدر، تقدیر پر ایمان کا تقاضا ہے۔

اسلام اسباب کو ترک کر دینے اور کچھ نہ کرنے کی تعلیم نہیں دیتا

اسلام جس توکل کی تعلیم دیتا ہے اس میں اسباب و وسائل اور (کسب و کار کو بالکل ترک کر دینا اور ہاتھ پاؤں

توڑ کر بیٹھ جانا اور کچھ نہ کرنا ہر گز ہر گز داخل نہیں بلکہ ایسا کرنا گناہ اور کفرانِ نعمت، نعمت کی ناشکری ہے وہ لوگ دراصل ”کام چور“ اور ”مفت خورے“ ہیں جو توکل کے معنی ”ترک اسباب“ اور ”ترک کسب معاش“ بیان کرتے ہیں خدا ایسے لوگوں کے شر سے بچائے۔

توکل کے دو مرتبے

اس تفصیل اور تنبیہ کے بعد اب سمجھئے کہ توکل کے بھی دو مرتبے ہیں (۱) ایک ادنیٰ (۲) دوسرا اعلیٰ

توکل کا ادنیٰ مرتبہ

توکل کا ادنیٰ مرتبہ: جو ہر خدا اور تقدیر پر ایمان رکھنے والے مسلمان کے ایمان کا تقاضہ ہے یہ ہے کہ دین اور دنیا کے ہر معاملہ میں خدا کی قدرت اور کار سازی پر یقین و ایمان رکھنے والا مسلمان صرف خدا کے حکم کی تعمیل کی غرض سے اسباب اور تدابیر جدوجہد اور کوشش تو ضرور اختیار کرے مگر بھروسہ ان پر نہ کرے بھروسہ صرف خدا پر کرے یعنی یہ یقین رکھے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ ہماری تدابیر و اسباب اور جدوجہد کو کوشش ضرور کارگر اور نتیجہ خیز ہوگی اور کامیابی نصیب ہوگی ورنہ نہیں۔

ان شاء اللہ کہنے کا حکم

اسی لئے نہ صرف عام مسلمان بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کام کرنے یا اس کی کوشش کرنے کے وقت ان شاء اللہ کہنے کے مامور ہیں اگر اتفاقاً بھول جائیں تو جب یاد آئے کہہ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا اظہار و اعتراف ہو جائے اور شاد ہے۔

ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكرو ربك اذا نسيت:-

اور (اے نبی) تم کسی بھی چیز کے متعلق یہ ہر گز نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کروں گا بغیر اس کے تم ان شاء اللہ کہو اور اگر بھول جاؤ تو جب یاد آئے اپنے رب کا ذکر کر لو (یعنی ان شاء اللہ کہہ لو)

اللہ پر توکل کی پہچان

اس توکل کی پہچان اور عملی زندگی میں اس کا اثر یہ ہے کہ اگر تمام تر تدبیروں کو ششوں اور ظاہری اسباب و وسائل اختیار کر لینے کے بعد بھی کامیابی یا خاطر خواہ کامیابی میسر نہ آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی یقین کر کے صبر کرے اور راضی برضاء مولیٰ رہے بلکہ اسی کو اپنے حق میں بہتر اور مصلحت باور کر کے دل اور زبان دونوں سے اس حکیم مطلق کا شکر ادا کرے ایسی ناکامیوں کے مواقع پر شکستہ دلی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی یا ناگواری کا زبان سے اظہار یا دل میں احساس اللہ تعالیٰ پر توکل نہ ہونے یا اس میں ضعف کی علامت ہے اس سے فوراً توبہ کرنی چاہئے اور برابر توبہ و استغفار میں مصروف رہنا چاہئے۔

توکل کا دوسرا اور اعلیٰ مرتبہ

توکل کا اعلیٰ مرتبہ جو ان خدار سیدہ اولیاء اللہ اور عارفین کا مقام ہے جو براہ راست یعنی اسباب کی وساطت کے بغیر کائنات میں اس کارساز مطلق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کارسازی و کار بر آری کا یقین کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان کی نظروں سے اسباب و تدابیر بالکل محو ہو جاتے ہیں توکل کے اسی اعلیٰ مرتبہ کا ذکر حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیل کی حدیث میں فرمایا ہے۔

لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لوزقکم کما یوزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا:

اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو ایسے رزق دے جیسے وہ (جنگلی) پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو (اپنے گھونسلوں سے) بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔

پرندے اپنی روزی کے لئے پہلے سے تدبیر نہیں سوچتے اسباب و وسائل معاش کی جستجو نہیں کرتے بلکہ اتنا تک انہیں فکر و خیال نہیں ہوتا کہ ہم صبح کو کہاں سے اور کیونکر اپنا پیٹ بھریں گے صبح ہوتے ہی وہ جنگل چلے جاتے ہیں کارساز مطلق نے ان کے پیٹ بھرنے کا سامان پہلے سے کیا ہوتا ہے وہ اس سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں اور شام کو کل کی فکر سے آزاد اور فارغ البال واپس گھونسلوں میں آجاتے ہیں اسی طرح متوکلین کا طین کوروزی کی فکر اسباب معاش کی جستجو مطلق نہیں ہوتی وہ ہمہ وقت معبود برحق کی عبادت و طاعت ذکر و فکر اور خدا اور اس کے رسول کے فرض کردہ دینی کاموں، اصلاح نفس، خدمت خلق، تبلیغ حق وغیرہ میں مصروف اور اسی کی فکر و تدبیر اور جدوجہد میں منہمک رہتے ہیں بھوک لگتی ہے ضروریات زندگی سامنے آتے ہیں تو وہ رزاق حقیقی اور کارساز مطلق ان کو وہاں سے روزی پہنچا دیتا ہے اور ضروریات پوری کر دیتا ہے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ارشاد ہے۔

ومن یتق اللہ یجعل لہ معروجا ویوزقہ من حیث یرزقہ (الطلاق: ۱۷)

اور جو اللہ سے ڈرتے (اور اس کی نافرمانی سے بچتے) رہتے ہیں اللہ (ہر مشکل میں) ان کی مشکل کشائی کر دیتا ہے اور ان کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔

ذرا دیکھئے رزاق مطلق کتنی زبردست ”کفالت کی ضمانت“ دیتے ہیں ارشاد ہے۔

ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ (ایضاً)

اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لئے بہت کافی ہے

کلمہ توکل:

چنانچہ آپ احادیث کے ذیل میں پڑھیں گے کہ ہمیشہ متوکلین علی اللہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں نے ہر آڑے وقت میں کلمہ توکل:

حسبنا الله ونعم الوكيل: ہمیں تو اللہ بہت کافی ہے اور وہ بڑا ہی اچھا کار ساز ہے پڑھا ہے اسی کی ان کو تعلیم دی گئی ہے خصوصاً حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تو واحد متکلم کے صیغے میرے لئے اور توکل اور توحید کی تصریح کے ساتھ اس کلمہ کے پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے ارشاد ہے:

فان تولوا فقل: حسبی الله لا اله الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظيم (التوبہ: ع ۱۶)

پس اگر (اب بھی وہ منکرین) انحراف کریں (اور دشمنی سے باز نہ آئیں) تو (اے نبی) تم کہہ دو میرے لئے تو اللہ بہت کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہ تو عرش عظیم کا مالک ہے۔ ایسے ہی متوکلین کا ملین کا مقولہ ہے۔

کار ساز یا فکرم کار: ہمارا کام بنانے والا تو خود ہمارے کام کی فکر میں ہے (ہم کیوں سرکھپائیں) متوکلین کا ملین کے سرگروہ۔ انہیں دوسرے اعلیٰ مرتبہ کے متوکلین میں حضرت صدیق اکبرؓ کا نام سر فہرست اول نمبر پر ہے۔

واقعہ:

جس کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں چندہ دینے کی اپیل کی۔ سب صحابہ نے حسب مقدرت چندہ دیا اتفاق سے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت کافی مال موجود تھا انہوں نے دل میں سوچا کہ آج میں صدیق اکبر سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے اندر ضرور بڑھ جاؤں گا اور اس ارادہ سے بہت سامان لے کر فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور وہ مال کثیر پیش کیا آپ نے ان سے دریافت فرمایا: اہل و عیال کے خرچ کے لئے کتنا مال چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: حضور آدھا مال ان کے لئے چھوڑ آیا ہوں۔ آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بھی اپنا مال پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی دریافت فرمایا بیوی بچوں کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ان کے لئے تو حضور! بس اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں (یہ ان کے لئے بہت کافی ہیں) عمر فاروقؓ کہتے ہیں یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں صدیق اکبر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔

ایک شبہ کا ازالہ

اس واقعہ سے کوئی نادان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاء سے متعلق ترک وسائل و اسباب یا اہل و عیال کی حق تلفی کا گمان ہرگز نہ کرے اس لئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عہد نبوت میں کامیاب اور تجربہ کار تاجروں میں سے تھے ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا وہ یقین کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اگر خالی ہاتھ بھی بازار چلا جاؤں گا تو کار ساز مطلق اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سود ایسا ضرور کرادیں گے کہ اس منافع سے گھر کا خرچہ ضرور نکل آئے گا ترک اسباب معاش یا حق تلفی جب ہوتی کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے گھر میں بیٹھے رہتے۔

توکل کا معیار:

اسی توکل کا معیار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے۔

ان تكون ممافی یدیك اوثق بما فی یدی اللہ:

(زہد اور توکل یہ ہے کہ تم جو تمہارے پاس ہے اس کی ہنسبت تمہارا بھروسہ اس پر زیادہ (اور پختہ) ہو جو اللہ کے پاس ہے۔

یقین اور توکل آپس میں لازم و ملزوم ہیں

توکل کے اس تفصیلی بیان سے آپ اتنا ضرور سمجھ گئے ہوں گے اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی کارسازی و کار بر آری پر یقین کامل ہو گا اسی قدر توکل کامل اور اعلیٰ مرتبہ کا ہو گا اور جس قدر یقین میں خامی ہوگی اسی قدر توکل میں خامی ہوگی یقین اور توکل ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں اردو محاورہ میں کہئے ”چولی دامن کا ساتھ ہے“ ایک دوسرے سے الگ ہرگز نہیں ہو سکتے۔

امام نوویؒ نے یقین اور توکل کے لئے ایک ہی باب کیوں رکھا

چونکہ یقین اور توکل ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے اسی لئے امام نووی علیہ الرحمۃ نے یقین اور توکل کو ایک ہی باب میں رکھا ہے اور آیتیں اور حدیثیں بھی مشترک لائے ہیں ہم الگ الگ کرنے کی کوشش کریں گے مگر یہ کوشش محض لفظوں کے اعتبار سے ہوگی معنی کے اعتبار سے تو یہ ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے۔

موجودہ زمانے کی مشکلات کا حل

اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اور سب مسلمانوں کو یقین کامل اور توکل کامل کی دولت سے مالا مال اور رضا و تسلیم کی سعادت سے سرفراز فرمائیں تاکہ اس زمانہ میں جو قسم قسم کی مشکلات میں مسلمان گرفتار ہیں اور تدبیروں و کوششوں کی پے بہ پے ناکامیوں نے ان کی کمر توڑ رکھی ہے شکستہ دلی اور مایوسی نے چاروں طرف سے اس طرح گھیر رکھا ہے کہ ایمان بھی خطرہ میں ہے اس صورت حال سے رہائی میسر آئے یقین و توکل کی برکات ایمان کو مایوسی کا شکار نہ ہونے دیں اور رضائے الہی پر راضی رہنے کی سعادت نصیب ہو آمین بحق طہ و یسین

بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے مومن

وأما الأحادیث : فالأول : عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَّمُ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهِيْطُ ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ ، وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي : هَذَا

مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْأَفُقِ، فَانظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: انظُرْ إِلَى الْأَفُقِ الْآخِرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاصَّ النَّاسَ فِي أَوْلِيئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحَبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "مَا الَّذِي تَحْوِضُونَ فِيهِ؟" فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: "هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْفُقُونَ^۳، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَنْطِيرُونَ؛ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: "أَنْتَ مِنْهُمْ" ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرٌ، فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ "الرُّهَيْطُ" بِضَمِّ الرَّاءِ تَصْغِيرُ رَهْطٍ: وَهِيَ دُونَ عَشْرَةِ أَنْفُسٍ، وَ"الْأَفُقُ" النَّاحِيَةُ وَالْجَانِبُ. وَ"عُكَّاشَةُ" بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ وَتَخْفِيفِهَا، وَالتَّشْدِيدُ أَفْصَحُ.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: شافع محشر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (ایک خاص موقع پر) تمام امتیں اور ان کے نبی (بطور کشف) میرے سامنے لائے گئے تو میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ (اس کی امت کے نجات یافتہ) پانچ سات آدمیوں کا گروہ ہے اور کسی نبی کے ساتھ ایک دو آدمی ہی ہیں اور کسی نبی کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہے (اسی اثناء میں) اچانک ایک بڑا انبوہ کثیر میرے سامنے آیا تو (اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے بموجب) میں نے خیال کیا کہ یہی میری امت ہے تو مجھے بتلایا گیا یہ موسیٰ (علیہ السلام اور ان کی امت ہے لیکن تم ذرا افق (آسمان کے کنارے) کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو تو میں نے دیکھا کہ افق کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیلا ہوا ایک بڑا بھاری انبوہ کثیر (میرے سامنے) ہے پھر مجھ سے کہا گیا کہ دوسرے افق کی جانب دیکھو تو (ادھر بھی ایک فوج در فوج) بڑا بھاری انبوہ کثیر (میرے سامنے) ہے تب بتلایا گیا یہ ہے تمہاری امت اور ان کے ساتھ (ان کے علاوہ یا انہی میں سے) ستر ہزار ایسے مسلمان ہونگے جو بغیر مواخذہ و عذاب اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اس (بشارت کے دینے) کے بعد سر پار رحمت نبی اسی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نبوت کدہ (مکان) میں تشریف لے گئے تو حاضرین نے ان ستر ہزار مومنین کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں شروع کر دیں کسی نے کہا: غالباً یہ وہ لوگ ہونگے جو (سفر و حضر ہر حالت میں) نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی (کیسیا اثر) صحبت میں رہے ہیں کسی نے کہا: یہ وہ (نئی نسل کے) لوگ ہونگے جو اسلام (کے) آغوش مسلمان ماں باپ کی گود اور مسلمان

گھرانے) میں پیدا ہوئے اور انہوں نے (دنیا میں آنکھ کھولنے کے وقت سے مرتے دم تک) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی (عبادت میں) شریک نہیں کیا۔ اسی طرح ہر شخص نے اپنی رائے اور قیاس کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیئے (غرض لوگوں میں اچھا خاصہ ہنگامہ برپا ہو گیا) تو اس ہنگامہ کی آواز سن کر (رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ کیسا ہنگامہ تم لوگوں نے برپا کر رکھا ہے تو لوگوں نے بتلایا (کہ یہ ان ستر ہزار بے حساب و کتاب جنت میں جانے والوں کے متعلق بحث ہو رہی ہے کہ یہ خوش نصیب کون ہونگے) تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ وہ (بچے اور سچے) ایماندار ہونگے جو نہ جھاڑ پھونک کا کام کریں گے اور نہ خود اپنے لئے کسی سے جھاڑ پھونک کرائیں گے نہ ہی وہ (کسی چیز سے) بدشگونی لیں گے اور (ہر دکھ بیماری یا مصیبت و آفت میں) صرف اپنے پروردگار پر توکل کرتے اور بھروسہ رکھتے ہونگے۔

سچے جذبہ کا کرشمہ

تو (یہ سن کر) عکاشہ نامی ایک صحابی فوراً کھڑے ہوئے اور (نہایت خلوص کے ساتھ) عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اللہ تعالیٰ سے (میرے لئے) دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان (متوکلین کا ملین) میں شامل فرمادیں (یعنی توکل کے اس معیار پر ساری زندگی قائم رہنے کی توفیق عطا فرمادیں) تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے (عکاشہ کے اس ساختہ جذبہ کو دیکھ کر دعا فرمادی اور) خوشخبری دی: تم ان (متوکلین کا ملین) میں شامل ہو۔

رہس کا نتیجہ

تو (عکاشہ کی دیکھا دیکھی) ایک اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا میرے لئے بھی (یہی) دعا فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دے تو آپ نے فرمایا: عکاشہ تم سے بڑھ گیا (تم تو خالی اس کی رہس کر رہے ہو ایسے لوگوں کے لئے دعا نہیں کی جاتی)

دوسرے انبیاء کی اُمتوں کی بنسبت

خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت اور اس کی وجہ

تشریح: خاتم الانبیاء والرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کثرت ذیل کی حدیث میں بیان فرمائی ہے: حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک دن ہم تقریباً چالیس نفر ایک سرخ چرمی خیمے کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کھڑے ہو کر خیمہ کی دیوار سے کمر لگا کر خطبہ

دیا۔ آگاہ ہو جاؤ (اور یاد رکھو) جنت میں صرف (سچا اور پکا) مسلمان ہی جائے گا (اور خدا کو گواہ بنانے کی غرض سے فرمایا) اے اللہ! گواہ ہو (کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے) پھر فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ اہل جنت میں تمہاری تعداد ایک چوتھائی ہو؟ ہم نے عرض کیا (سبحان اللہ) جی ہاں (ہم ضرور چاہتے ہیں) پھر آپ نے فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ (جنت میں) ایک تہائی ہو؟ ہم نے عرض کیا اللہ اکبر جی ہاں (ہم ضرور چاہتے ہیں) یا رسول اللہ! تو اس پر آپ نے فرمایا مجھے تو (اللہ تعالیٰ سے) امید ہے کہ اہل جنت میں آدھے تم ہو گئے (اور آدھے دوسرے انبیاء کی امتوں کے ایماندار) اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ جنت میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سچے مسلمانوں کی تعداد نصف اہل جنت ہو گی۔

اس کثرت تعداد کی وجوہ و اسباب

جنتیوں میں امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف صلوة و تحیة کے اسباب و وجوہ حسب ذیل بے مثال خصوصیات ہیں (۱) خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء و مرسلین صرف اپنی اپنی قوموں یا کسی مخصوص قوم کی رشد و ہدایت کے لئے بھیجے گئے ہیں وہی ان کے اتباع و پیروی کے مامور و مکلف ہوئے ہیں اس لئے ان کی (رسالت اور دعوت تبلیغ و ارشاد کا دائرہ انہی چھوٹی بڑی قوموں تک محدود رہا ہے تمام روئے زمین پر بسنے والی اقوام عالم نہ ان کی مخاطب ہوئی ہیں نہ ان پر ایمان لانے کی مکلف اس کے برعکس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر بسنے والی اقوام عالم کے لئے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور دنیا کی تمام سیاہ فام اور زرد فام قومیں آپ پر ایمان لانے اور آپ کا اتباع کرنے کی مامور و مکلف ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔

و ما أرسلناک الا کافة للناس (السباع ۳)

اور (اے نبی) ہم نے تم کو تمام کے تمام لوگوں (انسانوں) کے لئے ہی (نبی بنا کر) بھیجا ہے۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمادی:

بعثت الی الاسود والاحمر۔

میں تمام سیاہ فام اور سفید فام (قوموں) کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

اس لئے آپ کی رسالت اور دعوت تبلیغ و اشاعت کا دائرہ تمام روئے زمین کو محیط ہے ایسی صورت میں آپ کی امت کے جنت میں جانے والوں کی تعداد کا دوسرے تمام انبیاء کے امتوں سے نہ صرف زیادہ بلکہ بہت زیادہ ہونا لازمی امر ہے۔

(۲) خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی مرسل کی بعثت و رسالت وقتی اور ہنگامی ہوتی ہے یعنی

دوسرے صاحب کتاب نبی مرسل کے معبود ہونے کے بعد دو چار یا پانچ سات صدیوں میں اس کی رسالت

و شریعت کا دور بہر حال ختم ہو گیا ہے اس کے برعکس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رہتی دنیا تک یعنی قیامت تک کی تمام آنے والی انسانی نسلوں کے لئے ہے اور تمام کی تمام آنے والی اولاد آدم آپ پر ایمان لانے کی مامور و مکلف ہیں نہ خاتم انبیا کے بعد کوئی اور نبی آئے گا اور نہ قرآن کے بعد کوئی اور آسمانی کتاب نازل ہوگی نہ شریعت محمدیہ کے بعد کوئی اور شریعت آئے گی لہذا آپ کی امت کے تحت آپ کی بعثت کے وقت سے لے کر قیامت تک کی تمام ذریت آدم اور پوری نسل انسانی داخل ہے اس لئے آپ کی امت کے اہل کو ایمان کی تعداد کا تمام امتوں کے اہل ایمان کی تعداد کا نصف ہونا بالکل قرین قیاس ہے۔

(۳) سنت اللہ یہی ہے کہ نبی کے مرسل من اللہ فرستادہ خداوندی ہونے کے ثبوت اور تصدیق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیا علیہم السلام کو مختلف قسم کے انسانی قدرت و اختیار سے باہر مادی خدائی تصرفات، معجزات عطا فرمائے ہیں قرآن عظیم میں ان معجزات کی تفصیل مذکور ہے مگر ان تمام انبیا کرام کے یہ معجزات بھی ان کی نبوت و رسالت کی طرح وقتی اور ہنگامی ہوئے ہیں یعنی ان کی زندگی تک ہی ان کی قوم اور امت نے ان معجزات کا مشاہدہ کیا ہے اور جن کی قسمت میں ہوا ہے ان پر ایمان لائے ہیں انکی وفات کے ساتھ ہی ساتھ ان کے معجزات بھی وفات پا گئے ہیں اس کے برعکس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معنوی اور زندہ معجزہ ہے اور وہ معجزہ ہے الحی الذی لا یموت کا سدا زندہ رہنے والا کلام قرآن عزیز جیسے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی برقرار اور محفوظ ہے نوع انسان اس پر ایمان لانے کی ایسے ہی مامور و مکلف ہے جیسے آپ کے دنیا میں تشریف فرما ہونے کے وقت تھی ایسے ہی آپ کے معجزہ قرآن پر ایمان لانا اور اس کا اتباع کرنا نوع انسانی پر فرض ہے بالکل ایسے ہی جیسے آپ کی حیات میں فرض تھا جیسے اس معجزہ کے مشاہدہ سے یعنی کلام اللہ کی آیات سن کر نوع انسانی کی سعید روحیں آپ کی حیات میں اس پر اور آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لائی تھیں اور اسلام میں داخل ہوئی تھیں بالکل اسی طرح آپ کی وفات کے بعد سے آج چودہ سو برس تک ہر زمانہ ہر ملک اور ہر زمین کے چپہ چپہ پر اس کلام الہی کی آیات سن کر اس کے کلام الہی ہونے پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پر نوع انسانی کے خوش قسمت افراد ایمان لاتے اور اسلام کے شرف سے مشرف ہوتے رہے ہیں اور یقیناً قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اس لئے کہ اس قرآن کا اسلام کا شریعت محمدیہ کا اور امت محمدیہ کا محافظ وہی لایموت مالک الملک اللہ تعالیٰ ہے جس کے لئے کبھی فنا نہیں اس عالم الغیب والشہادت اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت جب متقاضی ہوگی اس وقت وہ روئے زمین سے قرآن آپ کے معجزہ کو بھی اٹھالے گا اسلام کو بھی اور اہل ایمان کو بھی اٹھالے گا اور روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا گویا اس عالم فانی کی روح نکل جائے گی اور دنیا فنا ہو جائے گی یعنی قیامت آجائے گی غرض خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایک زندہ

مجڑہ ہے قیامت تک نسل انسانی اس پر ایمان لاتی رہے گی اسی لئے جنت میں آپ کی امت کے مومنین کی تعداد نصف اہل جنت یعنی تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جیسا کہ مشہور ہے پر ایمان لانے والوں کی برابر ہوگی۔ چنانچہ خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ذیل میں اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گذشتہ انبیاء کرام میں سے ہر نبی کو ایسے (وقتی اور ہنگامی مادی) معجزات دیئے گئے ہیں کہ اس قسم کے معجزات پر (ان سے پہلے بھی) لوگ ایمان لایچکے ہیں اور جو معجزہ مجھے دیا گیا ہے وہ تو صرف وحی اللہ تعالیٰ کا (لافانی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور وحی میرے پاس بھیجا ہے) اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے) اس کا رہتی دنیا قیامت تک باقی رہنا یقینی ہے) اس لئے میں (اللہ تعالیٰ) سے امید کرتا ہوں کہ میری پیروی کرنے والوں کی تعداد سب (نبیوں کی امتوں) سے زیادہ ہوگی۔

قارئین سے معذرت اور دعا

قارئین کرام سے ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے صرف نبی الرحمة شفیع الامتہ خاتم النبیین علیہ صلوات اللہ وسلامہ کے عند اللہ شرف و عظمت اور مقام نبوت و رسالت کو نیز امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف سلام و تحیہ کی سعادت و بشارت کو واضح کرنے کی غرض سے اس موقع پر ذرا طویل کلام سے کام لیا اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اپنے رسول رحمت اور سر تپا شفقت و رافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ نبوت، زندہ شریعت اور زندہ معجزہ قرآن کی کما حقہ قدر کرنے اور دل و جان سے اس پر عمل کرنے اور زیادہ سے زیادہ جنت میں جانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائیں آمین۔ بحرمت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام

ستر ہزار مومنین کے بے حساب و کتاب جنت میں جانے کی وجہ

ان مومنین کا ملین کے بغیر حساب و کتاب اور بغیر عذاب و عتاب میں جنت میں داخل ہونے کا واحد سبب صرف اعلیٰ درجہ کا توکل علی اللہ ہے جو اولیاء اللہ کے آخری مقامات میں سے ہے اور یہ لوگ صرف متوکلین کا ملین ہیں اسکی دلیل اسی حدیث پاک کا آخری جملہ و علی ربہم یتوکلون ہے۔ اسی لئے امام نووی علیہ الرحمۃ اس حدیث کو سب سے پہلے توکل کے باب میں لائے ہیں۔

علامات توکل

باقی ان حضرات کے کمال توکل کی علامات کے طور پر آپ نے چند صفات بیان کی ہیں انکی تفصیل حسب ذیل ہے۔
(۱) جو لوگ کسی بھی سخت سے سخت اور لاعلاج دکھ بیماری کے علاج یا مشکل و دشواری کے ازالہ یا مصیبت و آفت سے نجات پانے کے لئے نہ دوسروں کے لئے جھاڑ پھونک ٹونہ ٹونہ ٹوکا وغیرہ کرتے ہیں نہ ہی خود اپنی کسی بھی

ضرورت کے لئے ان چیزوں سے کام لیتے ہیں (۲) اور نہ کسی بھی چیز سے بدشگونی لیتے ہیں بلکہ ہر نفع نقصان اور خیر و شر کا فاعل مختار اور انسانی زندگی میں کار فرما اور متصرف صرف اور محض اللہ تعالیٰ کو جانتے اور مانتے ہیں اور اسی کے ارادہ اور مشیت پر ایمان کامل رکھتے ہیں اور ہر حالت میں مطمئن رہتے ہیں ایمان میں تزلزل پیدا کرنے والی چیزوں سے قطعاً متاثر نہیں ہوتے وہ یقیناً متوکلیں کا ملین اور بچے ایماندار ہیں تجربہ شاہد ہے کہ بڑے سے بڑے پختہ عقل و خرد کے مالک پڑھے لکھے لوگ بھی جاہلوں اور عوام کا توذکر ہی کیا مذکورہ بالا حوصلہ شکن اور صبر آزما حالات میں یہ جاننے کے باوجود کہ یہ غیر شرعی جھاڑ پھونک ٹونے ٹونکے اور شگون و بدشگونی اور ان کا اثر محض وہم و خیال ہے ان کی حقیقت کچھ نہیں اس قسم کی چیزوں کی طرف ڈھل جاتے ہیں یہ صرف ضعف ایمان اور اللہ پر توکل نہ ہونے کا نتیجہ ہے متوکلیں کا ملین ان چیزوں کو تو کیا خاطر میں لاتے وہ تو واقعی دنیاوی اسباب، دوا پر ہیز اور مشورہ و تدبیر کی طرف بھی التفات نہیں کرتے جیسا کہ آپ یقین اور توکل کے مراتب کے بیان میں پڑھ چکے ہیں۔

ان تینوں چیزوں کا شرعی حکم

دم، درود، جھاڑ پھونک جو صحیح احادیث میں وارد اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے منقول اور ثابت ہیں وہ اور دنیاوی اسباب و تدابیر کی طرح کرنے کرانے جائز ہیں اسی طرح وہ بھی جن کے الفاظ اور نقوش کے معنی معلوم ہوں اور شریعت کی تعلیمات کے خلاف نہ ہوں اور بزرگوں سے منقول ہوں جائز ہیں باقی وہ جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے ٹونے ٹونکے جو شرکیہ اور خلاف شرع امور پر مشتمل ہوں وہ قطعاً ناجائز ہیں اسی طرح بدشگونی قطعاً ناجائز ہے ہاں اچھی چیزوں سے نیک فال لینا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔

ان تینوں چیزوں کی خصوصیت

یہ تینوں چیزیں ضعف ایمان اور ضعف اعتقاد کی خاص نشانی ہیں ضعف توکل کی وجہ سے مذکورہ بالا مایوس کن حالات میں وہم و خیال کے غلبہ اور تسلط کی وجہ سے انسان ان کی طرف اسی طرح لپکتا ہے جیسے پیاسا سراب، چمکتی ہوئی ریت جو دور سے پانی معلوم ہو کی طرف لپکتا ہے اور عموماً مفت میں ایمان کی بے بہاد دولت ان کے بھینٹ چڑھا دیتا ہے اور ہاتھ کچھ نہیں آتا اور عوام اور ضعیف الاعتقاد لوگ تو ان بے اصل وہمی چیزوں کے چکر میں پھنس کر خدا اور اس کی مشیت کو بالکل ہی خیر باد کہہ دیتے ہیں تو جو لوگ ان حالات میں گرفتار ہونے کے باوجود بھی توکل علی اللہ پر قائم اور ثابت قدم رہتے ہیں وہ کامل متوکل ہیں باقی وہ یونانی اور ڈاکٹری دوا علاج جو تجربہ سے مفید ثابت ہوئے ہیں ان کے اختیار کرنے میں ایمان اور توکل کے لئے چنداں خطرہ نہیں ہوتا بلکہ دوا علاج اور اسباب و تدابیر اختیار کرنا شریعت کا حکم ہے۔ جیسا کہ آپ توکل کے بیان میں پڑھ چکے ہیں۔

مومن کا جینا اور مرنا سب اللہ کے لئے ہے

الثانی : عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أيضاً : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : ” اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أُنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ . اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ ؛ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضَلِّيَنِي ، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا تَمُوتُ ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ “ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَاسْتَحْصَرَهُ الْبُخَارِيُّ .

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے تھے: اے میرے اللہ! میں تیرا ہی فرمانبردار ہوں اور تیرے اوپر ہی ایمان لایا ہوں اور تیرے ہی اوپر میں نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف میں نے (ہر معاملہ میں) رجوع کیا ہے اور تیرے ہی سہارے میں نے (منکرین حق سے) مقابلہ کیا ہے۔

اے اللہ! میں تیری زبردست طاقت و قوت کی پناہ لیتا ہوں۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو اور تیرے سوا کوئی راستے سے بھٹکانے والا نہیں۔

اے اللہ! تو وہ (ہمیشہ ہمیشہ) زندہ رہنے والا (اور زندگی دینے والا) ہے جس کے لئے موت (فتا) ہے ہی نہیں اور تیرے سوا (تمام مخلوق) جن وانس ضرور مرے گے۔

امام نووی فرماتے ہیں اس حدیث کے یہ الفاظ تو صحیح مسلم کے ہیں امام بخاری علیہ الرحمۃ نے صحیح بخاری میں اسی حدیث کو ذرا مختصر الفاظ میں ذکر کیا ہے۔

تشریح: دعائیں اور اعتقاد کی پختگی

ظاہر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا کے مانگنے کا اور صحابہ کا اس کو روایت کرنے کا اور محدثین کا ان مسنون دعاؤں کو محفوظ کرنے کا واحد مقصد امت کو ان دعاؤں کے مانگنے کی تعلیم دینا ہے اس لئے آپ بھی یہ مسنون دعا ضرور مانگا کیجئے۔

یاد رکھیے! اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے نصیب ہونے کا سبب تو یہ دعائیں ہیں ہی اسی کے ساتھ ساتھ اعتقاد کی پختگی اور ایمان کی تازگی اور زیادتی میں ان دعاؤں کو بڑا دخل ہے اس لئے کہ انسان اور کسی وقت اپنے رب کی طرف چاہے اتنا دل و جان سے متوجہ نہ بھی ہوتا ہو مگر دعا مانگنے کے وقت تو یقیناً اس طرح متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا تمام خیالات سے اس کا دل و دماغ بالکل خالی اور ارحم الراحمین کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جاتا ہے اسی لئے سر تا پا شفقت و رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: الدعاءُ العبادۃ۔ دعا عبادت کا مغز ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے: الدعاءُ مع العبادۃ۔ دعا (مانگنا) ہی عبادت (کرنا) ہے یعنی عبادت کی روح ہی دعا ہے بلکہ عبادت ہے ہی دعا سبحان اللہ۔

اسی لئے ارحم الراحمین قرآن عظیم میں اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم بھی دیتے ہیں اور ازراہ فضل و انعام قبول کرنے کا وعدہ بھی فرماتے ہیں اور دعاؤں سے گریز کرنے والوں کو تنبیہ کے لئے شدید ترین وعید سزا سے بھی خبردار فرماتے ہیں ارشاد ہے۔

وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان اللین یستکبرون عن عبادتی سید خلون جہنم داخرین (نور ۶۱)
اور تمہارے رب نے فرمایا ہے تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بیشک جو لوگ میرے عبادت (دعا مانگنے) کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں وہ ذلیل و خوار جہنم میں ضرور داخل ہوں گے۔
اطلاع: ہر وقت اور ہر حالت کی مسنون دعاؤں نیز آداب دعا کے لئے اردو ترجمہ حصن حصین مطبوعہ تاج کمپنی پڑھیے اور حسب حال دعائیں یاد کیجئے۔ وفقلم اللہ۔ خدا تمہیں توفیق دے۔

اڑے وقتوں میں انبیاء علیہم السلام کا شعار

الثالث : عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً ، قَالَ : حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا : إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا : حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . رواه البخاري . وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قَالَ : كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ : حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہمارے لئے تو اللہ بہت کافی ہے اور وہ تو بہت ہی اچھا کارساز ہے۔

یہ کلمہ صبر و توکل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تھا اور اسی کی برکت اور اثر سے آتش نمرود گلزار ابراہیم بنی تھی)

اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ عزیمت و توکل اس وقت کہا تھا جب (قریش کے جھوٹا پروپیگنڈہ کرنے والے) لوگوں نے کہا:

ان الناس قد جمعوا لکم فاحشواہم
بیشک (قریش اور ان کے حمایتی) لوگوں نے تمہارے (مقابلہ اور سرکوبی کے) لئے (بڑی تیاریاں کر رکھی ہیں اور) فوجیں جمع کی ہیں پس تم ان سے ڈرو (اور لڑنے کے لئے مت جاؤ)

فزادہم ایماناً وقالوا

تو اس (جھوٹے پروپیگنڈے) نے ان (غازیان اسلام) کے ایمان کو اور بھی زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا۔

حسبنا اللہ ونعم الوکیل: ہمیں تو اللہ ہی بہت کافی ہے اور وہ بڑا اچھا کار ساز ہے۔

واقعہ

جنگ اُحد سے بری طرح پسا ہونے کے بعد مشرکین مکہ، قریش کے سردار اور سپہ سالار ابوسفیان نے اپنی شرم مٹانے کے لئے اگلے سال بدر کے مقام پر لڑائی کا اعلان کر کے اُحد کے میدان سے فرار کی راہ اختیار کی اور سب کے سب مکہ واپس چلے گئے مگر پورا سال گزر جانے اور لڑائی کی تیاریاں کر لینے کے باوجود قریش کی ہمت نہ ہوئی کہ مسلمان سر فرود شوں سے اعلان جنگ کے مطابق بدر میں آکر لڑیں ادھر غازیان اسلام کے قائد اعظم سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور غازیان اسلام کے مدینہ سے بدر کی جانب روانہ ہونے اور پہنچنے کی خبریں گرم تھیں تو ابوسفیان نے وعدہ خلائی کی رسوائی اور جنگ سے گریز کی سیاہ روئی کو مٹانے کی غرض سے یہ سازش کی کہ بڑی بھاری رقم دے کر کچھ کرایہ کے جھوٹا پروپیگنڈہ کرنے والے لوگ جن میں سے ایک کا نام نعیم بن مسعود اشجعی تھا تیار کئے کہ وہ فوراً مدینہ پہنچ کر زور و شور سے یہ پروپیگنڈہ کریں۔ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم تاکہ مسلمان ڈر کر حسب وعدہ بدر نہ پہنچیں اس جنگ کا ارادہ ترک کر دیں اور وعدہ خلائی اور جنگ سے گریز کا الزام قریش کے بجائے مسلمان مجاہدوں کے سر پڑے قریش کی جان بچ جائے مگر کار ساز مطلق اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے کی برکت سے اس جھوٹے پروپیگنڈہ نے الٹا اثر کیا اور اللہ تعالیٰ کی کار سازی پر ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا چنانچہ مسلمان غازیوں نے صاف کہہ دیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور پوری تیاری کے ساتھ بدر پہنچ گئے قریش میں نہ آنے کی ہمت تھی نہ آئے اور اس جھوٹا پروپیگنڈہ کرانے کی بنا پر سارے عرب میں اور بھی زیادہ رسوا ہوئے مسلمان غازیوں کو اس توکل کے نتیجہ میں کیا ملا؟ قرآن کی زبان سے سنئے ارشاد ہے۔

فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم:

پس وہ (غازیان اسلام بدر سے) واپس آئے اللہ کی نعمت (فتح و ظفر) اور فضل (مال و منال) کے ساتھ کچھ بھی تو گزند ان کو نہ پہنچا اور اللہ کی رضا کی پیروی بھی کر لی اور اللہ تو بڑے ہی فضل و انعام والا ہے۔ یہ ہیں یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے ثمرات اور برکات۔

کار بر آری اور حاجت روائی کا پیغمبرانہ وظیفہ

انبیاء کرام اور خاتم النبیین علیہم الصلوٰۃ والسلام سے لے کر صحابہ، تابعین اور اولیاء امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام تک ہر ایک بزرگ نے ہر آڑے وقت اور صبر آزما مشکل و دشواری میں جس وظیفہ کا تجربہ کیا اور کامیاب پایا اور اس کی تصدیق کی وہ وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے قرآن عظیم نے بھی اس کی تائید فرمائی

ہے آپ بھی اس وظیفہ کو یاد کر لیجئے انسان کے کام کب اگلے نہیں رہتے؟ اس لئے معمولاً ہر نماز کے بعد پورے یقین کے ساتھ سو مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا کیجئے اور کسی خاص مشکل اور دشواری کے وقت تو ہر وقت ورد زبان رکھے اور اگر اتنا نہ ہو سکے۔ تو صبح شام ایک ایک تسبیح تو ضرور ہی پڑھا کیجئے۔

مترجم کے شیخ اور ان کا معمول

ہمیں خوب اچھی طرح یاد ہے بلکہ یہی سب سے زیادہ یاد ہے کہ ہمارے شیخ امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ بیٹھے اٹھتے عموماً دل کی گہرائیوں سے حسبنا اللہ ذرا آواز سے فرمایا کرتے تھے ہم نے اس کو ذرا کھینچ کر لکھا ہے اس لئے کہ حضرت استاد رحمۃ اللہ اسی طرح ذرا کھینچ کر زبان مبارک سے ادا فرماتے تھے اللھم اغفر لہ وارحمہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بزرگوں کے طریق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ بحر مت رحمۃ للعالمین۔

اللہ تعالیٰ پر کما حقہ بھروسہ کرنے والوں کے دل

الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَنْوَامٌ أَفِيدَتْهُمْ مِثْلُ أَفِيدَةِ الطَّيْرِ " رواه مسلم .
 قيل : معناه متوكلون ، وقيل : قلوبهم رَقِيقَةٌ .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: محبر صادق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے (بشارت دی اور) فرمایا جنت میں کچھ ایسے گروہ بھی داخل ہو گئے جن کے دل (اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے کی وجہ) پرندوں کے دلوں کی مانند (فکر دنیا سے آزاد اور ہلکے بھلکے) ہوں گے۔ امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ بعض علماء محققین نے فرمایا ہے کہ یہ متوکلین کا طین کے گروہ ہوں گے اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ رفیق القلب لوگ ہیں جن کے دل (عجز و نیاز اور خوف و خشیت الہی کے غلبہ کی وجہ سے) نرم اور لطیف ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس کے معنی ہیں کہ وہ توکل کر نیوالے ہوں گے اور کسی نے کہا کہ وہ نرم دل ہوں گے۔

تشریح: کمال توکل کا عظیم فائدہ

آپ توکل کے دوسرے اور اعلیٰ مرتبہ کی تشریح کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں کہ توکل کے اعلیٰ مدارج پر پہنچنے کے بعد متوکلین کا طین کی نظروں میں ظاہری اسباب انسانی تدابیر اور جدوجہد کی حقیقت پر کاہ تنکے کی برابر بھی باقی نہیں رہتی وہ دنیاوی فکروں پریشانیوں اور لاحاصل تنگ و دوسے بالکل آزاد اور فارغ البال ہوتے ہیں ان کے قلوب قادر مطلق پروردگار کی کار بر آری اور کار سازی پر کامل یقین و ایمان رکھنے کی وجہ سے سخت سے سخت حالات اور بڑے سے بڑے خطرات سے دوچار ہونے کے وقت بھی بالکل مطمئن رہتے ہیں کلمہ توکل حسبنا اللہ ونعم الوکیل ان کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے اور نور یقین و ایمان کی روشنی سے ان کے دل منور اور طمانیت الہی

سے مطمئن رہتے ہیں جیسا کہ آپ توکل سے متعلق آیات خصوصاً آیت کریمہ نمبر ۱/۲۱/۲ کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں اور انتہائی حاضر حواسی اور ہوشمندی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کی روشنی میں جو کچھ کرنا چاہئے وہ کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ہو گا وہ ہی جو خدا کو منظور ہے ہم تو صرف اپنا فرض ادا کرتے ہیں اس کے برعکس جو لوگ اس توکل کی نعمت اور خدا کی کار سازی پر کامل یقین و ایمان کی دولت سے محروم ہوتے ہیں وہ مذکورہ بالا حالات و خطرات کے وقت مضرت یا مصیبت سے دوچار ہونے سے پہلے ہی خوف و دہشت فکر و پریشانی میں اس بری طرح گرفتار ہو جاتے ہیں کہ عقل و خرد بلکہ ہوش و حواس تک کھو بیٹھتے ہیں اور گھبراہٹ کے مارے انکا برا حال ہو جاتا ہے ذہنی آسودگی اور فکری یکسوئی اور قلبی سکون و اطمینان سے قطعاً محروم ہو جاتے ہیں حالانکہ ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور اور مقدر ہوتا ہے۔

متوکلین کے دلوں کا پرندوں کے دلوں کے مانند ہونے کا مطلب

حاصل یہ ہے کہ ذہنی زندگی میں بھی توکل کامل کا عظیم ترین فائدہ ذہنی خصوصاً معاشی امور و مشکلات میں ذہنی آسودگی فکری یکسوئی اور قلبی اطمینان و سکون ہے جو بجائے خود بہت بڑی نعمت ہے یہی مطلب ہے کہ ان متوکلین کے دلوں کا پرندوں کے دلوں کی مانند ہونے کا جیسا کہ آپ توکل کامل کی تشریح و تفصیل کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں اور حدیث نمبر ۶ میں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پرندوں کی مثال کی تفصیل بھی بیان فرمادی ہے لہذا مذکورہ بالا حدیث میں مذکور جنتی گروہ سے متوکلین کا ملین کا گروہ ہی مراد ہے اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو توکل کے باب میں لائے ہیں باقی جو علماء کرام پرندوں کے دلوں سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان جنتی لوگوں کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح رقیق نرم اور لطیف ہوتے ہیں اس صورت میں یہ حدیث خوف و خشیت الہی سے متعلق ہو جائے گی اور امام نووی علیہ الرحمۃ کا اس کو توکل کے باب میں بیان کرنا بھی درست نہ ہو گا امام نووی نے ان علماء کی رائے صرف دیانتداری کے تحت نقل کی ہے۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل علی اللہ کا ایک واقعہ اور اس کا کرشمہ

الخامس : عن جابر رضي الله عنه : أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ نَجْدٍ ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُمْ ، فَأَذْرَكْتَهُمُ الْقَائِلَةَ "۳" فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاءِ ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يُسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سَمْرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : " إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِي صَلْتًا ، قَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قُلْتُ : اللَّهُ تَلَانًا " وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ جَابِرٌ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَاتِ

الرِّفَاعِ ، فَإِذَا أُتِينَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَلَّه رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْلُوقٌ بِالشَّجَرَةِ فَأَخْتَرَطَهُ ، فَقَالَ : تَخَافُنِي ؟ قَالَ : " لَا " فَقَالَ : فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قَالَ : " اللَّهُ " . وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في " صحيحه " ، قَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قَالَ : " اللَّهُ " . قَالَ : فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْفَ ، فَقَالَ : " مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ " . فَقَالَ : كُنْ خَيْرَ أَخِيذٍ . فَقَالَ : " تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ " قَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي أَعَاهِدُكَ أَنْ لَا أَتَايَنَّكَ ، وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، فَأَتَى أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ : جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ . قَوْلُهُ : " قَلَّ " أي رجع ، و" الْعِضَاءُ " الشجر اللذي لَهُ شوك ، و" السَّمْرَةُ " بفتح السين وضم الميم : الشَّجَرَةُ مِنَ الطَّلْحِ ، وَهِيَ الْعِظَامُ مِنْ شَجَرِ الْعِضَاءِ ، و" أَخْتَرَطَ السَّيْفَ " أي سلَّه وَهُوَ فِي يَدِهِ . " صَلَّنَا " أي مسلولاً ، وَهُوَ بفتح المصَادِ وَضَمَّهَا .

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: (۱) وہ (ایک مرتبہ) نجد کی جانب ایک لڑائی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے واپس تشریف لارہے تھے تو جابرؓ بھی آپ کے ہمراہ تھے (انشاء راہ میں اتفاقاً) ایک ایسی وادی میں قیلوہ دوپہر کے آرام کا وقت آگیا جس میں بکثرت خاردار کیکر کے درخت تھے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اتر پڑے اور لوگ (آرام کرنے کے لئے) ادھر ادھر سایہ دار درختوں کے نیچے منتشر ہو گئے (اور آرام کرنے لگے) رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کیکر کے (سایہ دار) درخت کے نیچے اترے اور اپنی تلوار اسی درخت کی ایک ٹہنی پر لٹکادی (اور آرام فرمانے لگے دوپہر کا وقت تھا) ہم سب کی ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ اتنے میں آپ نے ہمیں آواز دے کر بلانا شروع کر دیا (ہم گھبرا کر دوڑے تو دیکھتے کیا ہیں کہ) ایک بدو (عرب دیہاتی) آپ کے پاس (کھڑا) ہے ہمیں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص نے (بے خبری میں درخت سے) میری تلوار اتار کر میرے اوپر سونت لی تھی اور میں سو رہا تھا اچانک میری آنکھ کھل گئی تو (دیکھتا کیا ہوں کہ) برہنہ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور کہہ رہا ہے: اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ تین مرتبہ اس نے یہی سوال کیا اور میں نے یہی جواب دیا (اس کے بعد) آپ نے اس کو (اس جرم کی) کوئی سزا نہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔

امام نووی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں: (یہ تو صحیحین کی روایت کے الفاظ ہیں) اور حضرت جابرؓ ہی کی ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

(۲) ہم (ایک مرتبہ) جنگ ذات الرقاع میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ (سفر کر رہے) تھے اثناءِ راہ میں (دوپہر کو آرام کرنے کے وقت ہمارا معمول یہ تھا کہ) جب کوئی سایہ دار درخت آتا تو ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھوڑ دیتے چنانچہ (ایک دن) اسی طرح ایک سایہ دار درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے تھے (تھکتے خوردہ) مشرکین میں کا ایک شخص (جو شروع سے گھات میں لگا ہوا تھا بے خبری میں) آپہنچا آپ کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی اس نے فوراً تلوار (درخت سے اتار کر) سونت لی اور (سر مبارک پر کھڑے ہو کر) کہا تم مجھ سے نہیں ڈرتے؟ آپ نے (نہایت اطمینان و اعتماد کے ساتھ) فرمایا نہیں تو اس نے کہا اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے (بڑے یقین و اعتماد کے ساتھ) فرمایا: اللہ۔

امام نووی فرماتے ہیں حافظ ابو بکر اسماعیل کی کتاب صحیح اسماعیلی کی اسی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ: اس مشرک کے سوال کے جواب میں جو نبی آپ نے اللہ فرمایا تو ایک دم تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور (نہایت اطمینان سے) رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھالی اور فرمایا: اب بتا دیجئے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ (بے بس ہو کر) بولا تم ہی بہترین تلوار اٹھانے والے بن جاؤ (تو میں بچ سکتا ہوں ورنہ تو میرے سر کو تن سے جدا ہونے سے بچانے والا کوئی نہیں ہو سکتا) نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تو (مسلمان ہونے اور) کلمہ شہادت اشہدان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ: پڑھنے کے لئے تیار ہے؟ اس نے کہا: نہیں، (یہ تو نہیں کر سکتا) لیکن میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ نہ کبھی میں خود آپ سے جنگ کروں گا ورنہ کسی ایسی قوم کا ساتھ دوں گا جو آپ سے برسرِ پیکار ہو" تو آپ نے (اسی عہد پر) اس کو رہا کر دیا چنانچہ وہ (جب زندہ سلامت) اپنے قبیلہ میں پہنچا تو اس نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا (یاد رکھو) میں نوعِ انسانی کے مہربان ترین شخص کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں (اگر اس رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت میری و بھگیری نہ کرتی تو کبھی کا میرا سر تن سے جدا ہو چکا ہوتا)

اللہ تعالیٰ پر کما حقہ توکل وہ طاقت و قوت ہے

جو دشمنوں کو مرعوب اور لرزہ بر اندام کر دیتی ہے

تشریح: اس حدیث پاک میں محبوب رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یقین و توکل علی اللہ اُمت کے لئے ایمان افروز اور سبق آموز ہے شدید ترین جان کے خطرہ کے باوجود کہ ظاہری حالات کے اعتبار

سے برہنہ تلوار ہاتھ میں لئے خون کا پیاسا دشمن سر پر کھڑا ہے اور چشم زدن میں سر تن سے جدا ہونا بظاہر یقینی ہے مگر آپ ہیں کہ ذرہ برابر خوف و ہراس اور گھبراہٹ آپ کے پاس تک نہیں پہنچتی اور نہایت اطمینان و سکون اور دل جمعی کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے سوالوں کا پورے یقین و اعتماد کے ساتھ جواب دیتے ہیں اسی یقین و توکل علی اللہ کے رعب اور صبر و استقلال کی ہیبت اور ایمان باللہ کے سکون و اطمینان کی طاقت سے مرعوب ہو کر وہ خون کا پیاسا دشمن خائف ہو کر لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے کپکپانے لگتا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑتی ہے اور آپ نہایت اطمینان سے اپنی تلوار اٹھالیتے ہیں اور اپنے فرض منصبی کے تحت اس اقدام قتل کے جرم کی سزا دینے کی بجائے اس کو اللہ تعالیٰ اور اسکی قدرت سے آگاہ اور متوجہ کرنے کی غرض سے سوال فرماتے ہیں من یمنعک منی۔ اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا مگر اس کا زیگ کفر و شرک اتنا سخت تھا کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور خدا کی پناہ لینے کے بجائے آپ کی عالم نواز رحمت و شفقت کی پناہ لیتا ہوں اور کہتا ہے کہ کن خیر اخلد آپ ہی بہترین تلوار اٹھانے والے بن جائیں آپ نے اپنی پیغمبرانہ بصیرت سے محسوس فرمایا کہ اگرچہ یہ ابھی اسلام قبول کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہے مگر مزید شفقت و رحمت اور غفور و گذر کا برتاؤ کرنے سے نہ صرف یہ بلکہ اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا اس لئے اس کے جنگ میں ناظر ندر رہنے کے بعد پر ہی اس کی جان بخشی فرمادیتے ہیں تاکہ اپنے قبیلے میں جا کر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل شفقت و رحمت اور بینظیر غفور و گذر سے سب کو آگاہ کرے اور پورا قبیلہ آپ کا گرویدہ ہو کر مسلمان ہو جائے چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین و توکل علی اللہ کے رعب اور ہیبت سے دشمنوں کے مرعوب ہونے کا صرف یہی ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ رعب ایک مستقل طاقت و قوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے عطا فرمائی تھی چنانچہ ارشاد ہے۔

سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب (ال عمران: ۱۶)

(تم اطمینان رکھو) ہم یقیناً ان کافروں کے دلوں میں (تمہارا) رعب ڈال دیں گے

چنانچہ خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب رعب اور ہیبت کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تاریخ شاہد ہے کہ بارہا آپ کا رعب ہی دشمنوں کی پسپائی اور آپ کی کامیابی اور فتح و ظفر کا سبب بنا ہے۔

بہر صورت مذکورہ بالا واقعہ میں سرخیل متوکلمین، توکل کرنے والوں کے سردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل علی اللہ، آیت کریمہ نمبر ۴/۱ پر مبنی تھا جو آپ آیات قرآن عظیم کے تحت پڑھ چکے ہیں اسی صبر و توکل علی اللہ کے آپ مامور تھے اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث واقعہ کو احادیث یقین و توکل کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔

امت کی بد نصیبی

امت محمدیہ اپنے سر تاپا شفقت و رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یقین و توکل اور طرز عمل سے اگر سبق نہ حاصل کرے تو اس کی بڑی زبردست بد نصیبی اور محرومی ہے اعازنا اللہ منہ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّكُمْ تَعَوَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْلُو حِمَا صَا وَتَرَوُّحُ بِطَانًا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ . مَعْنَاهُ تَذَهَبُ أَوَّلَ النَّهَارِ حِمَا صَا . أَيْ ضَامِرَةَ الْبُطُونِ مِنَ الْجُوعِ وَتَرَجُعُ آخِرَ النَّهَارِ بِطَانًا أَيْ مُمْتَلِئَةَ الْبُطُونِ .

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم اللہ پر پورا پورا توکل کرو تو وہ تمہیں اس طرح رزق پہنچائے جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آئے ہیں۔ (ترمذی) ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ معنی یہ ہیں کہ صبح کو پرندے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو بھوک سے ان کے پوٹے چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور شام کو واپس پلٹے ہیں تو ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔

حدیث کی شرح: اگر ایمان کے ساتھ یقین کامل ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ کا تابع فرمان ہے اتنی بڑی اور وسیع دنیا میں کہیں کوئی پتہ بھی اللہ کی مرضی اور اس کے حکم اور اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے وہی پیدا کرنے والا وہی مارنے والا اور وہی رزق دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی چھیننے والا نہیں ہے اگر ساری مخلوق اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو کچھ دینا چاہے تو وہ کچھ نہیں دے سکتی اور اگر ساری مخلوق مجتمع ہو کر کسی سے کچھ چھیننا چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چھین سکتی، اس ایمان و ایقان کے ساتھ انسان سعی و تدبیر کرے اور اپنی کوشش کو بے حقیقت سمجھتے ہوئے صرف اللہ پر توکل کرے تو اللہ اسے اس طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے، وہ صبح کو گھونسلوں سے روانہ ہوتے ہیں تو بھوک سے ان کے پوٹے جسم سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور شام کو پلٹتے ہیں تو وہ سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔

توکل کے معنی تمطل اور تھطل کے نہیں ہیں، سعی و کوشش اور جائز حدود میں تلاش اسباب لازمی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ توکل کے معنی ترک تدبیر اور ترک عمل کرنے کے نہیں ہیں اور اس طرح کے گھر کے کونے میں پڑ جانے کے نہیں ہیں جیسے کپڑا پڑا ہو، توکل کا یہ تصور جاہلوں کا ہے اور شریعت میں حرام ہے توکل سعی و عمل اور جدوجہد کے ساتھ اللہ پر ایمان کامل اور اس پر بھروسہ کرنے کا نام ہے۔

امام قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں محل توکل قلب ہے اور ظاہری سعی و عمل اس عمل کے منافی نہیں ہے جبکہ بندہ یہ یقین واثق رکھتا ہو کہ رزق اللہ دینے والا ہے، اور جو کچھ تنگی یا دشواری اور سہولت و آسانی پیش آئے وہ تقدیر الہی ہے۔ (تخت الاحوذی ۷/۵۶، دلیل القالین ۱۹۷/۱)

صحیحین کی ایک اور روایت میں حضرت براء بن العازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بستر پر آؤ تو نماز والا وضو کرو پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ پھر یہ کلمات کہہ، پھر فرمایا کہ ان کلمات کو بالکل آخر میں کہہ۔

معاشی فکر و پریشانی اور سرگردانی سے نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ توکل علی اللہ ہے

السابع : عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا فُلَانُ ، إِذَا أُوْتِيَ إِلَى فِرَاشِكَ ، فَقُلْ : اللَّهُمَّ اسَلِّمْ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجِّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ؛ وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . فَإِنَّكَ إِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ خَيْرًا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ، وَقُلْ ... وَذَكَرَ نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ : وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ " .

ترجمہ: حضرت ابو عمارة البراء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں جب تم بستر پر آؤ تو کہو اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کو سپرد کر دیا اور اپنے چہرے کو آپ کی طرف کر دیا اور اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا اور اپنی پیٹھ کو تیری طرف جھکا دیا۔ تیری جانب رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے تیرے سوا نہ کوئی ٹھکانا ہے نہ نجات کی راہ۔ میں تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے مبعوث کئے ہوئے رسول پر ایمان لایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس رات مر جائے تو تو فطرت پر مرے گا اور بھلائی کو پہنچ جائے گا۔

اس حدیث کا مطلب

تشویح: اس حدیث پاک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلانا چاہتا ہیں کہ تمہاری تمام تر معاشی سرگردانی اور دنیاوی فکر و پریشانی جس میں تم شب و روز سرگرداں رہتے ہو اور مارے مارے پھرتے ہو نہ دن کو چین نصیب ہے نہ رات کو آرام، تو بنو فکروں اور تازہ تازہ پریشانیوں نے خواب و خور تم پر حرام کر رکھا ہے

اس کا واحد سبب صرف اللہ تعالیٰ پر کامل توکل اور پورا بھروسہ نہ ہونا ہے یا اس میں کمی اور کوتاہی ہے اور اگر تم اللہ اور اس کی رزق رسانی، حاجت روائی اور کار سازی پر بغیر ذرہ برابر تذبذب و تردد اور بدون کسی شک و شبہ کے کامل یقین و ایمان اور بھروسہ رکھو تو تم کو ان تمام لایعنی دنیاوی فکروں اور بے حاصل معاشی سرگردانیوں سے کلی طور پر نجات حاصل ہو جائے اور تم پورے اطمینان و دلجمعی اور ذہنی آسودگی و یکسوئی کے ساتھ خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت دین اور دنیا کے تمام فرائض بخوبی انجام دینے کی سعادت حاصل کر سکو تم ذرا دیکھو اور غور کرو! پرندے کس بے فکری، ذل جمعی اور آسودگی و یکسوئی کے ساتھ رات بھر اپنے گھونسلوں میں بسیرا کرتے ہیں اور پھر صبح ہوتے ہی کس اطمینان کے ساتھ رزاق مطلق کی رزق رسانی پر بھروسہ کر کے جنگل میں چلے جاتے ہیں اور دن بھر دانہ چختے اور چگتے رہتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر اپنے گھونسلوں میں واپس آجاتے ہیں وہ کل کی فکر اور ان ہوئی بات کی پریشانی و سرگردانی سے بالکل آزاد اور بے فکر رہتے ہیں مشیت خداوندی سے جو مصیبت یا آفت سامنے آتی ہے اس سے بچنے کے لئے جو وسائل پروردگار نے ان کو دیئے ہیں ان سے کام لیتے ہیں قسمت میں بچنا ہوتا ہے تو بچ جاتے ہیں ورنہ شکار ہو جاتے ہیں بہر صورت اس قبل از مرگ داویلا سے اور ہائے کل کیا ہو گا اور کہاں سے آئے گا کی فکر و پریشانی سے وہ بالکل آزاد فارغ البال اور مطمئن رہتے ہیں اسکے برعکس توکل علی اللہ کی نعمت و دولت سے محروم انسان کو شب و روز کی زندگی میں چین و آرام، سکون و اطمینان اور بے فکری و آسودگی تو کیا نصیب ہوتی اس کو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرض نماز تک یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ پڑھنی نصیب نہیں ہوتی کسی فارسی کو شاعر نے اسی لا حاصل معاشی پریشانی اور پرآگندہ خیالی کا نقشہ ذیل کے شعر میں خوب کھینچا ہے وہ کہتا ہے کہ شب چو عقد نماز بر بندم چہ خورد بامداد فرزندم

یہ تمام تر مصیبت اور تباہی صرف اللہ تعالیٰ کی لامحدود و قدرت پر اور اس کی روزی رسانی حاجت روائی اور کار بر آری پر کامل یقین و ایمان اور اعتماد و توکل نہ ہونے کا نتیجہ ہے کاش امت اپنے پیارے اور مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر صدق دل سے پورے طور پر عمل کر کے ان لایعنی دنیاوی فکروں معاشی پریشانیوں اور سرگردانیوں سے جن کی وجہ سے دین کے ساتھ دنیا بھی برباد ہو رہی ہے نجات حاصل کرے اور اطمینان و سکون و دلجمعی و فارغ البالی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے دین اور دنیا دونوں کی فلاح اور کامرانی سے سرفراز ہو۔

تنبیہ:

آپ پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ توکل کے بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب ظاہری اسباب و وسائل تلاش و جستجو اور تدبیر و جدوجہد کو ترک کر دینا ہرگز نہیں ہے آخر پرندے بھی تو صبح ہوتے ہی

گھونسلوں سے نکل کر روزی کی تلاش میں جنگل جاتے ہیں دانہ و نکا بھی چنتے اور چگتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں اگر وہ دن نکلنے کے بعد بھی گھونسلوں میں ہی پڑے رہیں اور پر تک نہ ہلائیں تو یقیناً بھوکے مرجائیں اسی طرح حلال روزی کی تلاش و جستجو اور اس کے لئے جدوجہد اور تدابیر و وسائل کو اختیار کرنا ہر انسان خصوصاً مسلمان کا تو فرض بلکہ بہت بڑی عبادت ہے اس لئے کہ ہادی برحق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

کل لحم نبت من الحرام فالنار اولیٰ بہ

جو گوشت حرام (غذا) سے اُگے (پیدا ہو) وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔

اس لئے توکل علی اللہ کے معنی ظاہری اسباب و تدابیر کو ترک کر دینا ہرگز نہیں ہیں جیسا کہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بے مثل و لا ثانی توکل اللہ کا دوسرا واقعہ

الثامن: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر ابن كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم قال: نظرت إلى أفدام المشركين ونحن في الغار وهم علي رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال: "ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما" متفق عليه.

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں (قریش اور مشرکین مکہ کی سازش قتل کو ناکام بنانے کی غرض سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وطن عزیز مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے موقع پر غار ثور کے اندر روپوش ہونے کے زمانہ میں ایک دن) مجھے (غار کے اوپر سے کھوج لگانے والے) مشرکین کے پاؤں نظر آئے اور ہم اسی غار کے اندر چھپے ہوئے تھے اور عین ہمارے سروں پر وہ کھڑے تھے تو میں نے (گھبرا کر) نبی رحمت حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔

یا رسول اللہ! (خدا نہ کرے) ان میں سے کسی نے بھی اپنے قدموں کی طرف ذرا جھک کر دیکھا تو ہم انہیں صاف نظر آجائیں گے (اور پھر ان کے چنگل سے بچنا ناممکن ہے) تو مجسمہ یقین و ایمان پیکر صبر و توکل حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے (انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ) فرمایا: اے ابو بکر! ان دو مظلوم بندوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا (محافظ و نگہبان) اللہ تعالیٰ ہے (کیا وہ انہیں خون کے پیاسے ظالم دشمنوں کے ہاتھوں تباہ ہونے دے گا)

متعلقہ واقعہ کا بیان اور حدیث کی تشریح

تشویح: سرور کائنات حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے ہجرت کا واقعہ آپ کی سیرت مقدسہ کا انسانی تصور اور وہم و گمان سے بالاتر گونا گوں قدرت الہیہ کے کرشموں پر مشتمل ایک عجیب واقعہ ہے پورا کا پورا واقعہ یوں تو بے شمار عجیب و غریب تصرفات الہیہ پر مشتمل تاریخ انسانی کا بے مثل واقعہ بلکہ آپ کا عظیم معجزہ ہے جس کی ایمان افروز تفصیلات سیرت کی کتابوں میں پڑھ کر مومن مسلمان کو اپنا ایمان باللہ تازہ کرتے رہنا چاہئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یگانہ رفیق ہجرت یا رغار صدیق اکبرؓ نے مذکورہ بالا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال توکل علی اللہ اور یقین و ایمان باللہ سے امت کو متعارف کرانے کے لئے اس واقعہ کا صرف وہ حصہ جو انتہائی خطرناک حالت سے دوچار ہونے اور خطرہ میں گھر جانے کے وقت جبکہ امت کے اللہ تعالیٰ کی کار سازی پر سب سے بڑے توکل اور بھروسہ کرنے والے صدیق اکبر بھی گھبرا جاتے ہیں۔ آپ کے انسانی تصور سے بالاتر اللہ تعالیٰ شانہ کی کار سازی پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کا مظہر ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب کے اس اعتماد سے خوش ہو کر قرآن عظیم میں یعنی آپ کے ایمان افروز جواب کو نقل فرماتے ہیں ارشاد ہے۔

الا تنصروه فقد نصره الله اذا خرجہ الذین کفروا ثانی الثین اذہما فی الغارا ذیقول لصاحبہ
لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی
وکلمۃ الله ہی العلیا واللہ عزیز حکیم (التوبہ ع ۳)

(اے مسلمانو) اگر (بالفرض) تم اس (ہمارے پیارے نبی) کی مدد نہ بھی کرو تو کیا بگڑتا ہے اس لئے بیشک اسکی مدد تو اللہ تعالیٰ نے ایسے (آڑے) وقت کی ہے جبکہ کفار نے اس کو اپنے وطن عزیز مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا (اس حالت میں کہ وہ ہمارا پیارا نبی صرف دو میں کا دوسرا تھا (یعنی صرف دو نفر تھے) جبکہ وہ اپنے (گھبرائے ہوئے) رفیق سفر سے (اس کی تسلی اور اطمینان کیلئے کہہ رہا تھا تم غم نہ کرو بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے (اس کے اس اعتماد و توکل سے خوش ہو کر اپنا (خاص عطیہ) سکون (واطمینان) اس پر اتار دیا اور ایسی (فرشتوں کی) فوجوں سے اس کی تائید (و تقویت) فرمائی جو تم (انسانوں) کو نظر بھی نہیں آتیں اور کافروں کی بات بھی نہ سنی کر دی اور اللہ کی بات ہی اونچی رہتی ہے اور اللہ تو بڑا زبردست (اور) حکمت والا ہے۔

اس واقعہ ہجرت کا مختصر سا بیان

نہ جانے قارئین کتاب کو ”سیرت“ کے اس ایمان افروز واقعہ کے پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے اس لئے ہم اپنے دوسرے استاد حدیث حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی قدس سرہ کے تحریر کردہ فوائد قرآن عظیم میں سے

مذکورہ بالا آیت کریمہ سے متعلق فائدہ اس موقع پر نقل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں سورۃ برآۃ رکوع (۶) کی مذکورہ بالا آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں مشرکین کا آخری مشورہ یہ قرار پایا تھا کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک نوجوان منتخب ہو اور وہ سب مل کر بیک وقت آپ پر ضرب لگائیں (دار کریں) تاکہ ”خون بہا“ دینا پڑے تو سب قبیلوں پر تقسیم ہو جائے اور نبی ہاشم کی یہ ہمت نہ ہو کہ وہ (آپ کے قصاص کیلئے) سارے عرب (قبائل) سے لڑائی مول لیں جس شب میں اس ناپاک کارروائی (سازش) کو عملی جامہ پہنانے کی تجویز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علیؓ کو لٹایا تاکہ وہ لوگوں کی امانتیں احتیاط سے آپ کے (تشریف لے) جانے کے بعد ان کے مالکوں کے حوالے کر دیں اور حضرت علیؓ کی تسلی فرمائی کہ تمہارا بال (تک) بیکانہ ہوگا (تم مطمئن رہو) پھر خود بنفس نفیس خالموں کے ہجوم میں سے (جنہوں نے مکان کا مکمل محاصرہ کیا ہوا تھا) شاہت الوجوہ یہ چہرے مسخ ہوں اندھے ہوں۔ فرماتے ہوئے اور ان کی آنکھوں میں خاک جھونکتے ہوئے (سب کے سامنے سے) صاف (محاصرہ سے باہر) نکل آئے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو (جو پہلے سے تیار بیٹھے تھے) ساتھ لیا اور مکہ سے چند میل ہٹ کر غار ثور میں قیام فرمایا یہ غار پہاڑ کی بلندی پر ایک بھاری مجوف (اندر سے خالی) چٹان ہے جس میں داخل ہونے کا صرف ایک راستہ تھا وہ بھی ایسا تنگ کہ انسان کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس میں گھس نہیں سکتا صرف لیٹ کر داخل ہونا ممکن تھا (چنانچہ) اول حضرت ابو بکر نے اندر جا کر اسے صاف کیا سب سوراخ کپڑے سے بند کئے کہ کوئی زہریلا کیڑا کوڑا گزند نہ پہنچا سکے ایک سوراخ باقی (رہ گیا) تھا (سو) اس میں (بیٹھنے کے بعد) اپنا پاؤں اڑا دیا سب انتظام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کو کہا آپ اندر آکر (صدیق اکبرؓ کے زانو پر سر مبارک رکھ کر استراحت فرما رہے تھے کہ سانپ نے ابو بکر صدیقؓ کا پاؤں (جو اس کے سوراخ میں اڑا ہوا تھا) ڈس لیا مگر ابو بکر صدیقؓ (اس کے باوجود) پاؤں کو مطلق حرکت نہ دیتے تھے (اور سانپ کانٹے جا رہا تھا) کہ مبادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استراحت میں خلل پڑے جب آپ کی آنکھ کھلی اور سانپ کے ڈسنے کا قصہ معلوم ہوا تو آپ نے لعاب مبارک صدیق اکبرؓ کے پاؤں کو لگا دیا جس سے فوراً (زہر اتر گیا اور) شفا ہو گئی ادھر کفار ”قائف“ یعنی نشان قدم سے کھوج لگانے والے کو ہمراہ لے کر جو نشان ہائے قدم کی شناخت میں ماہر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اس نے عین غار ثور تک نشان قدم کی شناخت کی مگر خدا کی قدرت کہ (اتنی دیر میں) غار کے دروازے (منہ) پر ایک مکڑی نے جالاتن لیا اور ایک جنگلی کبوتر نے وہاں انڈے دے دیئے یہ دیکھ کر سب نے قائف کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ مکڑی کا جالا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے اگر اندر کوئی داخل ہوتا تو یہ جالا اور انڈے کیسے صحیح سالم رہ سکتے تھے (اس وقت) ابو بکر صدیقؓ کو اندر سے کفار کے پاؤں نظر آ رہے تھے انہیں فکر تھی کہ کہیں جان سے زیادہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لئے وہ سب کچھ

فدا کر چکے ہیں دشمنوں کی نظر نہ پڑ جائیں گھبرا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! اگر ان لوگوں نے ذرا جھک کر اپنے قدموں کی طرف نظر ڈالی تو ہم کو دیکھ پائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر! ان دو شخصوں کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ (ہمارا نگہبان) ہمارے ساتھ ہے تو پھر کس کا ڈر ہے (مطلق غم نہ کرو) اس وقت حق تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی کیفیت سکون و اطمینان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اور آپ کی (رفاقت) کی برکت سے ابو بکر صدیقؓ کے قلب پر نازل فرمائی (اور وہ بھی مطمئن ہو گئے) اور فرشتوں کی فوج سے (آپ کی) حفاظت و تائید کی یہ اسی تائیدِ نبی کا کرشمہ تھا کہ کڑی کا جالا جسے (قرآن عظیم) نے اوہن المیوت۔ سب سے زیادہ کمزور گھرتلایا ہے بڑے بڑے مضبوط و مستحکم قلعوں سے بڑھ کر ذریعہ تحفظ بن گیا اس طرح خدا نے کفار کی بات نیچی کر دی اور ان کی تدبیریں خاک میں ملادیں۔

صورت حال کے اس نہایت مختصر بیان سے بھی آپ اندازہ اور یقین کر سکتے ہیں کہ خطرہ انتہائی شدید تھا ظاہری اسباب کے اعتبار سے آپ کی گرفتاری اور قتل یقینی تھا قائف نے دشمنوں کو عین آپ کے سر پر لے جا کر کھڑا کر دیا تھا تلاش کرنے والوں کا غار میں جھک کر دیکھنا یقینی تھا اور آپ اس وقت نہتے اور بالکل خالی ہاتھ تھے دفاع اور مزاحمت بالکل نہیں کر سکتے تھے بڑے سے بڑے زور آور قوی دل اور نڈر انسان کے بھی ایسے وقت میں اوسان خطا ہو جانے یقینی ہیں مگر آپ ہیں کہ سکون و اطمینان کے ایک پہاڑ کی طرح قطعی مطمئن اور بالکل بے پرواہ محض اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر بیٹھے ہیں خوف و ہراس یا گھبراہٹ کا نام تک نہیں بلکہ اپنے رفیق سفر کو بھی پورے طور پر مطمئن فرما دیتے ہیں یہ سکون و اطمینان اور اعتماد بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کے وعدے پر: واللہ یعصمک من الناس اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا غیر متزلزل یقین و ایمان کا نتیجہ تھا آپ کو آفتاب نصف النہار کی طرح اللہ تعالیٰ کی حفاظت نگہبانی اور کار سازی پر یقین تھا اسی لئے ناموافق ظاہری اسباب پر جہنی ہلاکت کے یقینی خطرہ میں گھرا ہونے کے باوجود آپ بالکل مطمئن اور بے فکر تھے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت پر یقین و ایمان اور اس کی "کار سازی" پر بھروسہ اور توکل جس کی مثال نہیں مل سکتی۔

سبحان اللہ وصلی اللہ علی نبیہ وحیبہ وسلم توکل علی اللہ کے حصول کی دعائیں

التاسع : عن أم المؤمنين أم سلمة وأسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته ، قال : ” بسم الله توكلت على الله ، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل ، أو أظلم أو أظلم ، أو أجهل أو يجهل عليّ “ حديث صحيح ، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة . قال الترمذي : ” حديث حسن صحيح “ وهذا لفظ أبي داود .

ترجمہ: أم المؤمنین حضرت أم سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوة کدہ گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے۔

بسم الله توكلت على الله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي .

یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہا نے اسے اسانید صحیحہ سے روایت کیا ہے اور ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔

تشریح: اللہ کے (مبارک) نام کے ساتھ (میں گھر سے باہر قدم رکھتا ہوں) میں نے (کار سازی حقیقی) اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں خود گمراہ ہوں یا مجھے گمراہ کیا جائے یا میں خود کوئی لغزش کروں یا مجھ سے لغزش کرائی جائے یا میں خود ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے یا میں خود (کسی کے ساتھ) جہالت (اور بد تمیزی) کروں یا میرے ساتھ جہالت (اور بد تمیزی) کی جائے۔

امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں یہ حدیث ”صحیح“ ہے (اگرچہ بخاری و مسلم میں نہیں آئی ہے) امام ابو داؤد اور امام ترمذی وغیرہ محدثین نے اس کو (اپنی اپنی کتابوں میں) ذکر کیا ہے یہ مذکورہ بالا الفاظ ابو داؤد کی روایت کے ہیں۔

العاشر : عن أنس رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” مَنْ قَالَ : ” إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ : بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، يُقَالَ لَهُ : هُدًى وَكُفَيْتَ وَوُقِيَتْ ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ “ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم . وقال الترمذي : ” حديث حسن “ ، زاد أبو داود : ” فيقول يعني : الشيطان لشيطان آخر : كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ ؟ “

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بھی گھر سے نکلنے وقت یہ پڑھ لیا:

بسم اللہ تو کلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ

اللہ کے (مقدس) نام کے ساتھ (گھر سے باہر نکلتا ہوں) میں نے (کار ساز مطلق) اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا، اور نہ (کسی بھی کام کی) قدرت (میسر آسکتی) ہے نہ قوت مگر اللہ کی مدد سے۔ تو (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) اس سے کہہ دیا جاتا ہے تجھے ہدایت دے دی گئی اور کفایت (وکفالت) کر دی گئی اور تجھے (ہر شر سے) بچا دیا گیا اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے (اور اس کا پچھپھا چھوڑ دیتا ہے)

امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد ترمذی امام نسائی وغیرہ محدثین نے (اپنی اپنی کتابوں میں) روایت کیا ہے کہ امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے امام ابو داؤد نے (اپنی کتاب میں اس حدیث کے الفاظ میں) یہ اضافہ کیا ہے تو (اس دعا مانگ لینے کے بعد) ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے تو کیا باڑ سکتا ہے اس شخص کا جس کو (منجانب اللہ خیر کی) ہدایت کر دی گئی اور کفایت کر دی گئی اور (ہر شر سے) بچا دیا گیا۔

ان ہر دو دعاؤں کی اہمیت اور وقت کی تعیین کی وجہ

تشریح: یہ تو ظاہر ہی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان ہر دو دعاؤں کی تعلیم سے دراصل نعمت توکل کی اہمیت سے آگاہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس کے طلب کرنے کی ہدایت فرمانا ہے اس لئے آپ بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ گذشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں کہ تمام دینی اور دنیوی امور و معاملات میں جن کا انسان مکلف ہے کامیابی یا ناکامی کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے دنیاوی اسباب و وسائل اور انسانی تدبیروں اور کوششیں تو محض ”واسطہ“ ہیں جن کو بندہ محض حکم خداوندی کو بجالانے کے لئے اختیار کرتا ہے اس لئے ایک مسلمان کے لئے کلی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی کار سازی پر بھروسہ کرنے کے سوا چارہ نہیں یہی ایمان باللہ اور ایمان بالقدر تقدیر پر ایمان کا تقاضہ ہے لہذا ہر کام کرنے اور ہر معاملہ کو انجام دینے کے وقت اللہ تعالیٰ پر نہ صرف مکمل طور پر بھروسہ کرنا بلکہ دعا کی صورت میں اس کا اظہار و اعتراف کرنا بھی ہر مسلمان کا فرض ہے اسی لئے ہر کام کرنے کا ارادہ یا وعدہ کرنے کے وقت ان شاء اللہ کلمہ توکل و تفویض کہنے کا حکم قرآن کریم میں نہ صرف امت کو بلکہ حبیب رب العالمین کو خطاب کر کے دیا گیا ہے جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں اور یہ بھی آپ پوری وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ اس مصروف زندگی میں ہر کام کے وقت توکل علی اللہ کا تصور ذہن میں

اور اس کا اظہار زبان سے عموماً دشوار اور مشکل ہے اس لئے جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر (۷) میں دن بھر کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر سونے کے ارادہ سے بستر پر لیٹنے کے وقت توکل اور تفویض و تسلیم کے مضامین پر مشتمل دعا کی تعلیم دی ہے اسی طرح حدیث نمبر (۹) اور (۱۰) میں گھر سے نکلنے اور عملی زندگی شروع کرنے کے وقت یہ دعا توکل پڑھنے کی تعلیم دی ہے اس لئے کہ وہ بیشتر اہم دینی اور دنیوی امور جن میں انسان دنیوی اسباب و وسائل اور انسانی تدابیر سے کام لیتا ہے گھر سے باہر ہی انجام دیتا ہے۔ خود اپنی روزانہ کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ اس حدیث میں گھر سے نکلنے کے بعد سے مراد ہی سوکراٹھنے کے بعد ہو چنانچہ امام محمد بن محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب حصن حصین میں ان دونوں دعاؤں کو فجر کی نماز کے لئے گھر سے نکلنے کے وقت کی دعاؤں کے ذیل میں درج کیا ہے۔

ان حدیثوں میں دعا توکل کے علاوہ باقی اجزاء کے اضافہ کی وجہ

چونکہ یہ وقت گھر سے نکل کر زندگی کے کاروبار شروع کرنے کا وقت ہے اس لئے ان دونوں دعاؤں کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے اس لئے مشہور و معروف حدیث تسمیہ بسم اللہ کی حدیث میں آیا ہے۔

کل امر ذی بال لم یبدء باسم اللہ فہو ابتر

جو بھی اہم کام اللہ تعالیٰ کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ برکت سے محروم رہتا ہے۔

اور اسی لئے حدیث نمبر (۱۰) میں کلمہ تفویض و تسلیم یعنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔

ان چار برائیوں سے پناہ مانگنے کی وجہ جو حدیث نمبر (۹) میں مذکور ہیں

باقی حدیث نمبر (۹) کی دعا میں سر تا پارافت و شفقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ہلاکت خیز چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا بھی ذکر فرمایا ہے (۱) گمراہی (۲) لغزش (۳) ظلم (۴) جہالت یعنی بد تمیزی کا برتاؤ اس لئے کہ عموماً انسان کو اپنی تدبیروں اور کوششوں میں ناکامی کا منہ انہی چیزوں کی وجہ سے دیکھنا پڑتا ہے پھر ان چاروں مضرت رساں برائیوں کا محرک کبھی خود انسان کا نفس امارہ یعنی مکار نفس ہوتا ہے اور کبھی شیطان یا شیطان فطرت شریر انسان اس لئے ان میں سے ہر ایک بُرائی کے واقع ہونے کی دو صورتیں ہیں مثلاً انسان یا از خود گمراہ ہو یا دوسرے اسے گمراہ کریں علیٰ ہذا القیاس اس لئے معجز بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی دونوں صورتوں کا ذکر فرمایا کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی ہدایت فرمائی ہے سبحان اللہ کس قدر مہربان ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

تنبیہ

گھر سے روانہ ہوتے وقت اگر زیادہ فرصت نہ ہو تو صرف اصل دعا توکل بسم اللہ تو کلت علی اللہ ضرور پڑھ لینی چاہئے بلکہ کوشش تو یہ ہونی چاہئے کہ ہر اہم کام کرنے کے وقت اس دعا کو ضرور پڑھا جائے کچھ بھی تو

مشکل کام نہیں ایک لمحہ میں انسان پڑھ سکتا ہے صرف خیال رکھنے کی بات ہے خدا آپ کو توفیق دے آپ تو ہر اہم کام کرنے کے وقت اس دعا کے پڑھنے کا تہیہ کر لیں۔ یہی اس کتاب کے پڑھنے کا فائدہ ہے۔

دوسروں کے لئے باعث برکت متوکلمین

وعن أنس رضي الله عنه ، قَالَ : كَانَ أَخْوَانٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ ، فَشَكَاَ الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: "لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ" . رواه الترمذي بإسناد صحيح عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ . "يَحْتَرِفُ" يَكْتَسِبُ وَيَتَسَبَّبُ .

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دو (حقیقی) بھائی تھے ان میں سے ایک تو (روزانہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (تعلیم دین کیلئے) حاضر ہوا کرتا تھا اور دوسرا دن بھر روزی کماتا (اور گھر کا خرچ چلاتا تھا) تو ایک دن اس کمانے والے نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی (کہ یہ کھٹو مفت کی روٹیاں کھاتا ہے ایک پیسہ نہیں کماتا گھر کا سارا بوجھ میرے اوپر ڈال رکھا ہے) تو آپ نے ارشاد فرمایا: (ارے یہ توقف تجھے کیا خبر) کہیں اسی کی برکت سے تجھے روزی نہ ملتی ہو۔

محترف۔ کمائی کرتا ہے۔

اس حدیث کا مطلب و واہم نکتے اور توکل کے مضمون سے اس کی مناسبت

تشریح: اس کسب معاش میں مصروف رہنے والے شخص نے ناواقفیت اور نادانی کی بنا پر اپنے بھائی کے متعلق یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ میرا بھائی اور اصل کھٹو اور کام چور ہے محنت مزدوری سے بچنے کی غرض سے آپ کے پاس آ بیٹھتا ہے اسی لئے آپ سے شکایت کی تو ہلادی امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدگمانی کو دور فرمایا اور اسی کے ذیل میں اس کو اور اس کے واسطے سے تمام امت کو ود نہایت اہم باتوں پر متنبہ فرمایا ایک یہ کہ یہ تیرا بھائی اور اسی قسم کے دین کی خدمت کے لئے اپنی زندگی کو وقف کرنے والے لوگ نکلے اور کام چور نہیں ہیں بلکہ یہ تو اتنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں کہ اگر تم سب کے سب اس کام کو چھوڑ دو اور کمائی کے پیچھے لگ جاؤ تو سب گنہگار ہو اور قیامت کے دن پکڑے جاؤ اور وہ کام ہے اول خود علم دین حاصل کرنا اور اس کے بعد خدا کے دین کو اس کی تمام مخلوق تک پہنچانا سکھانا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا چنانچہ آیت کریمہ ذیل کے تحت علم دین حاصل کرنا اور پھر اسکی تبلیغ کرنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے ارشاد ہے:

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون:

اور کیوں نہ نکلا (علم دین حاصل کرنے کیلئے) مسلمانوں کے ہر فرقہ میں سے ان میں کا ایک گروہ تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرتا اور واپس آکر ان کو (خدا کے دین سے) خبردار کرتا تاکہ وہ سب کے سب (خدا کی نافرمانیوں سے) بچتے اور پرہیز کرتے۔

یعنی ہر ملک ہر بستی ہر قوم ہر قبیلہ اور ہر گھرانے کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ حسب ضرورت اپنے میں سے ایک یا چند آدمیوں کو علم دین حاصل کرنے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لئے وقف کر دیں اور ان کے اخراجات کی خود کفالت کر کے انہیں فکر معاش سے آزاد کر دیں تاکہ وہ یکسوئی اور فارغ البالی کے ساتھ اپنا تمام وقت اور قوت کار اول خود علم دین حاصل کرنے میں صرف کریں اور پھر خود عالم دین بن کر اپنے ملک کو بستی کو قوم کو قبیلہ کو اور عام مسلمانوں کو دین سے آگاہ کرنے اور سکھانے میں ہمہ تن اور ہمہ وقت مصروف رہیں اور اگر مسلمانوں نے اس دین سیکھنے سکھانے کے سلسلہ کو دنیا کمانے کی حرص میں پڑ کر بالکل چھوڑ دیا اور سب کے سب دنیا کے دھندوں میں لگ گئے تو دین ان میں سے اٹھ جائے گا اور سب کے سب بے دین اور قہر خداوندی میں گرفتار ہو کر دنیا میں بھی گونا گوں مصیبتوں اور تباہیوں سے دوچار ہوں گے اور آخرت میں تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے ہی ایسی صورت میں یہ تیرا بھائی اور اس قسم کے تمام لوگ کھٹو، ناکارہ اور کام چور نہیں ہیں بلکہ تم سب کی طرف سے ایک دینی فرض ادا کر رہے ہیں ان کی معاشی کفالت تم سب پر فرض ہے۔

دوسری بات یہ کہ ہر انسان کو جو رازق مطلق روزی دیتا ہے وہ صرف اسی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے نہیں دیتا بلکہ ان تمام خدا کے بندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے بھی دیتا ہے جو یا روزی کمانے سے عاجز ولاچار ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حکم کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لئے وقف کیا ہوا ہے اور ہمہ وقت ہمہ تن اسی میں لگے ہوئے ہیں خواہ توپ و تفنگ کے ذریعہ کافروں، مشرکوں اور خدا شناس دشمن دین و ایمان قوموں سے جنگ کرنے میں مصروف ہوں جن کو غازی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے یا زبان و قلم کے ذریعہ سے طردوں، زندیقیوں اور نام نہاد منافق مسلمانوں کے دین اسلام اور اسکی تعلیمات پر حملوں اعتراضات، شکوک و شبہات کا جواب دینے اور دین اور اس کے احکام و تعلیمات کی حقانیت ثابت کرنے میں ہمہ وقت اور ہمہ تن مصروف ہوں اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم:

فلیبلغ الشاهد الغائب

ہر موجود شخص کو چاہئے کہ وہ غیر موجود کو (دین) پہنچائے۔

کے تحت دین کی تبلیغ میں ہمہ تن منہمک ہوں۔

یہ دین کی حفاظت کے لئے اپنی زندگی کو وقف کر دینے والوں کا گروہ، خواہ مجاہدین ہوں خواہ علماء دین و مبلغین

ہوں جو اپنی معاش اور ضروریات زندگی کے بارے میں صرف رزاق حقیقی اللہ تعالیٰ کی روزی رسانی اور حاجت روائی پر اعتماد کرتا ہے درحقیقت ان متوکلین علی اللہ کا گروہ ہے جن کی برکت سے ان کی معاشی کفالت کرنے والوں کو فراخ روزی ملتی ہے خصوصاً ایسے حالات میں کہ عالم اسباب میں ان کی معاشی کفالت کا کوئی یقینی اور قابل اعتماد وسیلہ نہ ہو جیسا کہ عہد نبوت میں اصحاب صفہ دین اور علم دین کے لئے زندگی وقف کر دینے والے صحابہ کا گروہ تھا اور اس شکایت کرنے والے کا بھائی اسی گروہ میں شامل یعنی نبوی مدرسہ کا ایک طالب علم تھا ایسی صورت میں ہر دو وجوہ کی بنا پر اس کی معاشی کفالت اس شکایت کرنے والے بھائی پر فرض اور لازم تھی لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز بیان نہایت نرم اور ناصحانہ اختیار کیا اور فرمایا لعلک ترزق بہ۔ شاید اسی کی وجہ سے تجھے روزی ملتی ہو تاکہ اس جفاکش محنتی روزی کمانے والے کی دل شکنی نہ ہو ورنہ تو دوسری احادیث میں آپ نے صاف اور صریح لفظوں میں فرمایا ہے۔ ترزقون بضعفاء کم۔ تم کو رزق دیا جاتا ہے تم میں کے کمزور لوگوں کو کسب معاش سے مجبور و معذور لوگوں کی وجہ سے اسی لحاظ سے یہ حدیث توکل کے ذیل میں آتی ہے اور اسی لئے امام نووی علیہ الرحمۃ نے اس کو توکل کے باب میں درج کیا ہے۔ واللہ اعلم

باب فی الاستقامة

استقامت کا بیان

استقامت کے لغوی اور شرعی معنی

استقامت کا لفظ قیام سے ماخوذ ہے از روئے لغت اس کے معنی ہیں کسی قول، فعل، رائے، فیصلہ یا نظریے پر انتہائی پختگی اور سختی کے ساتھ قائم رہنا کسی بھی صورت، حالت یا زمانہ میں اس سے نہ ہٹنا اسی کو ثابت قدمی اور پائیداری بھی کہہ دیتے ہیں۔

قرآن و حدیث اور شریعت کی اصطلاح میں استقامت کے معنی ہیں خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین پر جس کا نام اسلام ہے قولاً، فعلاً عقیدہ، انتہائی پختگی اور ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنا یعنی سچے دل سے اس کی تعلیمات، عقائد و عبادات اور احکام کے برحق ہونے کا ایسا پختہ اور پکا عقیدہ رکھنا کہ ذرہ برابر شک و شبہ یا تذبذب و تردد اس میں راہ نہ پاسکے اور سب کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی زبان سے اس کے برحق ہونے کا اقرار و اظہار کرنا اور مقدور بھر اس کی عملی تعلیمات، عبادات و احکام پر محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے عمل کرنا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنا۔

یہ دین ہی قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے اس لئے شریعت کی اصطلاح میں استقامت کے معنی ”صراط مستقیم پر پختگی اور ثابت قدمی کے ساتھ مرتے دم تک قائم رہنے کے بھی آتے ہیں۔ اس دین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین ہر پہلو اور ہر حیثیت سے انتہائی اعتدال پر جنی ہے اور افراط حد سے بڑھنے اور تفریط حد سے گھٹنے سے بالکل محفوظ ہے یعنی دوسرے مذاہب کی بنسبت اس دین کی تمام تعلیمات، عبادات و احکام و معاملات سب میں ہر پہلو سے اعلیٰ درجہ کا اعتدال موجود ہے۔ مثلاً اسلام کی عبادات و احکام نہ اتنے مشکل، دشوار اور ناقابل عمل ہیں کہ انسان ان پر پابندی کے ساتھ عمل ہی نہ کر سکیں ہر ملک ہر زمانہ اور ہر حالت میں ان پر کاربند اور ثابت قدم نہ رہ سکیں۔

جیسے یہودی مذہب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی اولاد اسرائیل اس پر قائم نہ رہ سکی اور ان کی وفات کے بعد تو وہ علماء یہود کی قطع برید اور کتر بیونت کی وجہ سے ایسا محرف اور مسخ ہو گیا کہ اصل دین تورات اور اصل آسمانی کتاب تورات کا میسر آنا بھی ناممکن ہو گیا یہاں تک کہ ان سختیوں و دشواریوں کو دور کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔

اور نہ اسلام کی تعلیمات، عبادات و احکام اتنی نرم بے اثر، محدود اور زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی کے لئے ناکافی ہیں کہ نفس انسانی کی فکری، اخلاقی اور عملی اصلاح اور تطہیر و تزکیہ بھی نہ کر سکیں اور ہر ملک ہر قوم اور ہر زمانہ میں انسان کی رہنمائی سے قاصر ہوں۔

جیسے عیسائی مذہب ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں اور ہر زمانہ اور ہر حالت میں انسانوں کی رہنمائی سے قاصر ہے اسی لئے وہ صرف گرجاؤں کی چار دیواری اور ہفتہ وار انجیل خوانی اور اعتراف گناہ کی چند رسوم کے اندر محدود و محصور ہو کر رہ گیا۔

اس کے برعکس اسلام ایک نہایت معتدل اور انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی اور ہر زمانہ اور ہر ملک و قوم کے لئے نہ صرف قابل عمل بلکہ تمام ترقی اور روحانی کامیابیوں کا مرائیوں اور ترقیات کی ضمانت (گارنٹی) دینے والا عالمگیر زندہ مذہب ہے اس کی آسمانی کتاب (قرآن) ہو بہو امت کے سینوں میں موجود محفوظ ہے اس کے رسول خاتم النبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی بھی حدیثوں کے سفینوں (کتابوں) میں موجود محفوظ ہے نہ صرف یہ بلکہ امت مسلمہ کے متواتر مسلسل عمل بالکتاب والسنت کی صورت میں دشمنان دین کی دستبرد سے بالاتر ہے دین بھی زندہ ہے کتاب بھی زندہ ہے رسول بھی زندہ ہے رسول کا معجزہ (قرآن) بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے اسلام کی یہ لازوال زندگی اس کے اعتدال کا نتیجہ ہے اسی لئے اس کا دوسرا نام دین فطرت ہے اس لئے کہ یہ دین انسانی فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہے خالق کائنات ہر انسان کو اسی دین فطرت پر پیدا کرتا ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

آپ گزشتہ باب میں آیت کریمہ فطرت اللہ العی فطرت الناس علیہا لا تبدل لخلق اللہ اور اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں انجان یا جان بوجھ کر انجان بننے والے لوگ اس آیت کریمہ پر شبہ یا اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اگر یہی دین اسلام انسانی فطرت ہے تو انسان اس سے منحرف اور کافر و منکر کیوں ہو جاتے ہیں؟ قرآن کے اصلی اور حقیقی ”مفسر“ جن پر قرآن نازل ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کے معنی اور حقائق بتلائے ہیں یعنی خاتم النبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ذیل کی حدیث میں اس اعتراض کا جواب دیتے اور شبہ کا ازالہ فرماتے ہیں۔

کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یهودانه وینصرانه اویمجسانه

ہر بچہ (دین) فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ (یعنی ماحول اور معاشرہ) اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ لا تبدل لخلق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کو اسی دین فطرت پر پیدا کرتا ہے اس کو بگاڑنے اور منحرف بنانے والے اس کے ماں باپ یعنی ماحول اور معاشرہ ہے اگر یہ دراندازی نہ

کریں اور وہ اپنی فطرت سلیمہ پر نشوونما پائے اور سن شعور کو پہنچے تو کبھی اپنے پیداوار پرورش کرنے والے رب کا منکر اور اس کے دین سے منحرف اور باغی نہ ہو اس کی ایک بدیہی مثال یہ ہے کہ خالق کائنات نے مرد اور عورت میں ایک دور سے نظر آنے والا فرق اور نمایاں امتیاز یہ رکھا ہے کہ مرد کے چہرہ پر بال (داڑھی) لکھی ہے اور عورت کا چہرہ صاف اور سادہ رکھا ہے تاکہ دور سے نظر آجائے کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت مگر دشمنان فطرت الہی مغربی معاشرہ اور ماحول سے متاثر ہو کر خدا دشمن قوموں کی نقالی میں داڑھی منڈا دیتے ہیں اور ہر مصنوعی تدبیر کے ذریعہ اپنے رخسار عورتوں کی طرح صاف سادہ نرم اور ملائم بنا لیتے ہیں اسی طرح ہر معاملہ میں اسلام کی مخالفت دراصل فطرت کی مخالفت ہے جو شیطان صفت انسان محض اپنی نفسانی خواہشات اور اغراض کی بنا پر فطرت سے بغاوت کرتے ہیں خواہ وہ کافر و مشرک غیر مسلم ہوں خواہ فاسق و فاجر مسلمان یہ اسلام اور اس کی تعلیمات کے اعتدال کے صرف ایک پہلو کا بیان ہے اسی پر اسلام کی ہر عبادت اور حکم کو قیاس کیجئے۔ کتاب کے حد سے بڑھ جانے کا خطرہ ہے ورنہ جی چاہتا ہے کہ اسلام کی جملہ عبادت و احکام کا اسی طرح جائزہ لیا جائے اور موازنہ کیا جائے تاکہ اسلام کی حقانیت کا یقین علم الیقین سے بڑھ کر عین الیقین کے درجہ میں آجائے حق الیقین تو میدان حشر میں ہی ہوگا۔

اسی لئے صراط مستقیم کے معنی درمیانی راہ کے بھی آتے ہیں اور استقامت کے معنی اعتدال پر چنگلی اور پائیداری کے ساتھ قائم رہنے کے بھی آتے ہیں۔ اس لحاظ سے شریعت کی اصطلاح میں استقامت کے معنی تین ہونگے۔

خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام پر قولاً و فعلاً اور عقیدہ تا مرتے دم تک سختی کے ساتھ قائم رہنا۔

صراط مستقیم سیدھے راستہ پر چنگلی اور ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنا۔

چنگلی اور ثابت قدمی کے ساتھ ہمیشہ اعتدال پر قائم رہنا کسی بھی دینی معاملہ میں نہ حد سے بڑھنا نہ حد سے گھٹنا ظاہر ہے کہ استقامت کے اصل شرعی معنی تو پہلے نمبر (۱) ہی ہیں باقی دونوں نمبر (۲) اور (۳) اسی سے ماخوذ ہیں تینوں معنی قارئین کے سامنے صرف اس لئے بیان کر دیئے کہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کا مطلب اور ان سے استقامت کی حقیقت سمجھنے میں آسانی ہو۔

استقامت کے فوائد و منافع اور اس کی اہمیت

اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ استقامت پر سادہ لفظوں میں کہئے ثابت قدمی پر تو خواہ دنیوی امور میں ہو خواہ دینی اور اخروی امور میں نہ صرف تمام تر کامیابیوں اور کامرانیوں کا مدار ہے بلکہ تمام انسانی خوبیاں اور کمالات اسی وقت خوبی اور کمال بنتے ہیں جبکہ انسان ان پر چنگلی و استقامت اور ثابت قدمی و مستقل مزاجی سے مرتے دم تک یکساں قائم رہے اس لحاظ سے استقامت اور ثابت قدمی و مستقل مزاجی انسانی کردار کا جوہر اصلی ہے

جو شخص اس جوہر سے محروم ہے وہ تن و توش کے اعتبار سے تو انسان ہے مگر اصل انسانیت سے محروم ہے اس اجمال کی تفصیل اور اس دعوے کا ثبوت حسب ذیل ہے۔

دنیوی امور میں استقامت کی اہمیت

اول انسان کے معاشی امور اور کاروباری زندگی ہی کو لیجئے شب و روز کے تجربات و مشاہدات شاہد ہیں کہ جو شخص کسب معاش اور روزی کمانے کے لئے آج ایک ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے اور کل اسے چھوڑ کر دوسرا ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے اور پرسوں تیسرا اسی طرح آئے دن نئے نئے ذرائع معاش اختیار کرتا اور چھوڑتا رہتا ہے کسی ایک بھی ذریعہ معاش سے ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ کچھ عرصے بھی روزی کمانے پر قائم نہیں رہتا ایسا شخص کسی بھی ذریعہ معاش سے فراخ روزی کمانے میں خاطر خواہ مالی منفعت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور نہ اس کو کبھی معاشی سکون و اطمینان نصیب ہو سکتا ہے ساری عمر مفت کے پاڑے پلنے میں گذر جاتی ہے اور ناشاد و نامراد دنیا سے جاتا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کسی بھی ذریعہ معاش سے خاطر خواہ روزی حاصل کرنے کے لئے اس کام میں زیادہ سے زیادہ مہارت اور تجربہ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ تجربہ اور مہارت کافی عرصہ تک مستقل مزاجی کے ساتھ جم کر اس کام کو لگاتا کرتے رہنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی اس ذریعہ معاش کہتے ہنر یا پیشہ سے خاطر خواہ مالی منفعت اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے اس پر جم کر اور لگاتار کام کرتے رہنے کا نام ہی استقامت ہے مثال کے طور پر ایک شخص روزی کمانے کے لئے کچھ دن نجدی کو اپنا ذریعہ معاش بناتا ہے۔ پوری طرح بڑھتی کے کام میں تجربہ اور مہارت نہ ہونے کی وجہ سے خاطر خواہ مالی منفعت اور معاشی سکون حاصل نہیں کر پاتا کہ گھبرا کر اسے چھوڑ دیتا ہے اور آہنگری کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے کچھ ہی دن لوہاری کا کام کرتا ہے خاطر خواہ آمدنی نہ ہونے کے باعث اس کام سے بھی دل برداشتہ ہو کر اسے بھی چھوڑ بیٹھتا ہے اور خیاطی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیتا ہے اور درزی کا کام کرنے لگتا ہے ابھی پورے طور پر درزی کے کام میں مہارت نہیں ہو پاتی کہ ضروریات زندگی حسب منشا پورے نہ ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ کر ظروف سازی کو ذریعہ معاش بنا لیتا ہے اور کبھاری کے کام میں لگ جاتا ہے غرض ساری کسب معاش کی توانائی اور عمر اسی آئے دن نئے نئے ذریعہ معاش اختیار کرنے اور چھوڑنے میں برباد کر دیتا ہے اور ساری عمر معاشی اعتبار سے خوشحال پر سکون اور باعزت زندگی سے محروم رہتا ہے اس کے برعکس اگر یہ شخص ابتدا میں ہی ان تمام پیشوں کو سامنے رکھ کر اور اپنے ذوق و حجان اور صلاحیت و اہلیت کا جائزہ لے کر ان میں سے جس کام کو اپنے لئے زیادہ مناسب اور موزوں پاتا اس کو انتخاب کر لیتا اور پوری حمت و مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ اس میں تجربہ، مہارت اور ترقی کی دھن میں لگا رہتا تو تھوڑے دنوں کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد خاطر خواہ مالی منفعت، خوشحالی اور باعزت معاشی زندگی حاصل کر لینے کے علاوہ اس کام اور ہنر کا ماہر اور آزمودہ کار بن کر قدر و منزلت بھی حاصل کرتا اور دولت و ثروت بھی۔

اسی پر تمام معاشی اور کاروباری امور کو قیاس کر لیجئے کسی بھی چیز کی اور کسی بھی قسم کی تجارت ہو یا زراعت یا ملازمت سب میں کامیابی کا راز جم کر اور لگاتار اسی ایک کام کو ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہنے میں مضمر ہے اسی کا نام استقامت ہے۔

بالکل یہی کیفیت علوم و فنون کی ہے کوئی بھی علم و فن ہو جب تک اس کے حاصل کرنے میں پوری تہہ ہی مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ طالب علم و فن لگا نہیں رہے گا اور عمر کا قدر ضروری حصہ اور محنت اس میں صرف نہیں کرے گا اس وقت تک نہ اس علم و فن کا مالک و ماہر بن سکتا ہے نہ ہی اس سے مالی منافع اور دنیوی فوائد حاصل کر سکتا ہے اس مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ تحصیل علم و فن میں لگے رہنے کا نام ہی استقامت ہے۔

یہی صورت حال اخلاقی فضائل و کمالات میں ہے انسان کسی بھی اخلاقی فضیلت اور کمال کا مالک اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ ساری زندگی ہر حالت ہر موقعہ اور ہر زمانہ میں اس پر مستقل مزاجی اور پائیداری کے ساتھ ہمیشہ قائم نہ رہے مثال کے طور پر آپ سخاوت ہی کو لے لیجئے اگر کوئی شخص کسی خاص زمانہ میں خاص موقعہ پر اور مخصوص حالات میں تو اعلیٰ درجہ کی داد و دہش کا مظاہرہ کرتا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ضرورت مندوں اور غریبوں محتاجوں کی خوب مالی امداد کرتا ہے لیکن جونہی وہ مخصوص صورت حال بدل جاتی ہے تو اس کی وہ تمام داد و دہش یکسر ختم ہو جاتی ہے تھیلی کا منہ بند ہو جاتا ہے بینک بیلنس لاک (مقفول) ہو جاتا ہے ایسا شخص ہر گز سخی نہیں کہلا سکتا نہ ہی وہ کسی احترام و ستائش کا مستحق سمجھا جاتا ہے بلکہ ایسا شخص مکار اور غرض پرست کہلاتا ہے جیسا کہ آپ اپنے ملک میں "الیکشن" کے زمانے میں مشاہدہ کیا کرتے ہیں اس کے برعکس جس شخص کی حسب استطاعت اور بے لوث و بے غرض داد و دہش کا سلسلہ ہر زمانہ میں ہر موقع پر ہر حالت میں یکساں طور پر جاری اور مرتے دم تک قائم رہتا ہے وہ درحقیقت سخی ہے اس کی داد و دہش اس کی فطری سخاوت کا تقاضا ہوتی ہے اور دنیا اس کی زندگی میں بھی اس کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتی ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو اور اس کی سخاوت کو یاد کرتی ہے اور ہمیشہ کلمہ خیر اس کے حق میں کہتی ہے اسی پر شجاعت، مروت، عفت وغیرہ تمام اخلاقی فضائل کو قیاس کیجئے یہ کامیابی و کامرانی اور عزت و احترام صرف اس کی بے لوث و بے غرض اور مسلسل داد و دہش کا نتیجہ ہے اسی ثابت قدمی کا دوسرا نام استقامت ہے۔

ان مشاہد اور آزمودہ حقائق پر غور و فکر کرنے کے بعد یقیناً آپ ہمارے اس دعوے پر متفق ہوں گے کہ تمام دنیوی امور و معاملات میں کامیابی و کامرانی کا انحصار اور تمام تر خوبیوں اور کمالات کا مدار 'ثابت قدمی' مستقل مزاجی پائیداری اور استقامت پر ہے اور انسانی کردار کا جو ہر اصلی استقامت ہے۔

دینی اور اخروی امور و معاملات میں استقامت کی منفعت و اہمیت اور اس سے محرومی کی دور رس معضرت

دنیا و دنیا کی زندگی، اس کے تمام امور و معاملات سب چند روزہ اور فانی ہیں جب ان میں کامیابی و کامرانی اور فوز و فلاح، استقامت، پختگی اور ثابت قدمی کے بغیر میسر نہیں آسکتی تو دین اور دینی امور و معاملات یعنی عقائد

حقہ عبادات صالحہ احکام شرعیہ اور خدا پرستی سے متعلق جملہ امور تو دونوں جہان میں باقی رہنے والے اور نفع پہنچانے والے امور ہیں ان میں کامیابی و کامرانی میسر آنا عند اللہ انکا قابل قبول ہونا اور پھر وعدہ خداوندی کے بموجب ان پر دنیوی و اخروی ثمرات و برکات اور اجر و ثواب کا مرتب ہونا تو بدرجہ اولیٰ استقامت پر موقوف و منحصر ہونا چاہئے چونکہ وہ استقامت جس کو امام نووی علیہ الرحمۃ اس باب کے ذیل میں بیان کرنا اور آیات قرآنیہ احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں یہی ”دینی امور میں استقامت“ ہے اس لئے دینی امور اور اخروی معاملات کی مزید تشریح اور کسی قدر تفصیل بیان کرنی مناسب معلوم ہوتی ہے تاکہ صحیح معنی میں پوری بصیرت کے ساتھ دینی امور و معاملات میں استقامت کی عظیم منفعت و اہمیت قارئین کے ذہن نشین ہو جائے اور آیات و احادیث کا مطلب کا حقہ سمجھ سکیں۔

دینی امور

دین تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے (۱) ایک عقائد (۲) دوسرے عبادات (۳) احکام و معاملات۔ ان تینوں امور میں استقامت کی منفعت و اہمیت اور اس سے محرومی کی دور رس اور تباہ کن مضرتوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنا زیادہ مناسب ہے۔

عقائد میں استقامت کے معنی اور اس کی اہمیت

عقائد میں استقامت اور پختگی و ثابت قدمی کے معنی یہ ہیں کہ اسلام اور اسلامی عقائد یعنی قرآن عظیم اور احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں بیان شدہ تمام عقیدوں کے برحق ہونے پر ہوش سنبھالنے اور بالغ ہونے کی عمر سے لے کر مرتے دم تک ایسے پکے پختہ اور بدیہی یقین و ایمان پر قائم اور جے رہنا جیسے مطلع صاف ہونے کے وقت دو پہر کو آفتاب کا یقین ہوتا ہے اگرچہ دشمنان اسلام مخالفین و معاندین لاکھ لاکھ شکوک و شبہات اس یقین و ایمان کے خلاف پیدا کریں اور ہزار ہا لیلیں اس کے خلاف پیش کریں اور ہم مخالفوں کی دلیلوں اور شکوک و شبہات کا جواب نہ بھی دے سکیں تب بھی ذرہ برابر تزلزل اور تردد و تذبذب ہمارے اس یقین و ایمان میں راہ نہ پاسکے تو قطعی طور پر کہہ دیں کہ ہم تو بغیر کسی دلیل کے اسلام اور اس کے مسلمہ عقائد کو برحق مانتے ہیں عقائد پر اسی پختگی اور ثابت قدمی کا نام استقامت ہے۔

اس لئے کہ یہ بالکل مسلم ہے کہ جو یقین و ایمان ”نظری“ اور استدلالی ہوتا ہے یعنی عقلی دلیلوں کی بنیادوں پر اس کی عمارت قائم ہوتی ہے نہ وہ محکوم اور پختہ ہوتا ہے نہ شکوک و شبہات سے مامون و محفوظ ہوتا ہے کیونکہ آج تک بڑے سے بڑے منطقی، فلسفی اور حکیم و دانشور کی قائم کردہ کوئی عقلی دلیل اور کوئی فکری نظریہ ٹوٹنے سے نہیں بچ سکا پھر عقلی دلیلوں پر مبنی یقین و ایمان کیونکر محفوظ رہ سکتا ہے دراصل یہ خالص عملی بحث ہے ہم اسے یہیں ختم

کرتے ہیں اور بطور جملہ معترضہ تجربات و مشاہدات کی روشنی میں صرف اتنی بات کہہ دینی ضروری سمجھتے ہیں کہ مذہب اور اس کے مسلمہ عقائد کے برحق ہونے کا یقین و ایمان صرف قلب سے تعلق رکھتا ہے عقل و خرد اور نظر و فکر سے اس کا تعلق نہیں جب تک مذہب اور اس کے برحق ہونے کا یقین و ایمان دل کی گہرائیوں میں نہ اتر جائے اس وقت تک وہ پختہ محکم اور قابل اعتماد ہرگز نہیں ہو سکتا نہ ہی اس یقین و ایمان پر اس تمام آلودگیوں، یعنی گناہوں بد کاریوں، حرام کاریوں اور تمام اخلاقی جرائم سے پاک و پاکیزہ زندگی کی عمارت قائم ہو سکتی ہے جو درحقیقت اسلام کی حقانیت کا آنکھوں سے نظر آنے والا ثبوت ہے یاد رکھئے کسی بھی مذہب کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس مذہب اور اس کی تعلیمات نے اپنے دل و جان سے ماننے والوں اور مکمل پیروی کرنے والوں کی زندگی پر کیا اثر کیا اور ان کی زندگیوں کو کس سانچے میں ڈھالا؟ اسی لئے ہمارا کہنا یہ ہے کہ مذہب اور اس کی تعلیمات کی حقانیت پر یقین و ایمان آفتاب نے نصف النہار کی طرح بدیہی ہونا چاہئے تب ہی اس مذہب کے مسلمہ عقائد پر استقامت نصیب ہو سکتی ہے۔

موافق پہلو:

قرآن و حدیث کی تصریحات کی روشنی میں گذشتہ ابواب، خصوصاً تقویٰ، محاسبہ اور توکل کے ابواب، کے تحت جو کچھ لکھا جا چکا ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں، نظر عائر اس پر غور و فکر کرنے سے باسانی یہ واضح نتیجہ اور روشن حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ جس قدر انسان کے عقائد میں صحت، قوت، پختگی اور استحکام زیادہ ہوتا ہے اور وہ زندگی کے ہر دور اور عمر کے ہر حصہ میں ثابت قدمی مستقل مزاجی اور پائیداری کے ساتھ یکساں ان پر قائم رہتا ہے۔ اس کی زندگی اسی قدر گناہوں، معصیتوں، اخلاقی برائیوں اور بد کرداریوں سے پاک و صاف اور پاکیزہ اعمال و اخلاق سے آراستہ ہوتی ہے دنیوی زندگی میں اس مسلمان کا وجود اپنے ماحول کے لئے، بہترین مثالی نمونہ ہوتا ہے بلکہ پورا معاشرہ ایسے لوگوں کی بدولت تمام اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور ایسے لوگ "انسانیت" کے لئے باعث صدر رحمت و سعادت ہوتے ہیں اور ان کے دنیا سے اٹھنے کے وقت زمین و آسمان بھی ان کی موت پر روتے ہیں اور آخرت میں وہ رضاء قرب الہی جو آخرت (جنت) کی سب سے بڑی نعمت ہے ان کو نصیب ہوتی ہے اور دونوں جہان دنیا و آخرت کی یہ شاندار کامیابی و کامرانی صرف عقائد میں استقامت کا نتیجہ و ثمرہ ہوتی ہے۔

مخالف پہلو

اور جس قدر عقائد کے برحق ہونے پر یقین و ایمان میں ضعف، لاپتہی، بے اطمینانی، بے اعتمادی اور ناپائیداری کی کیفیت زیادہ پائی جاتی ہے اور انسان ساری عمر اسی طرح ڈھلے یقین رہتا ہے زبان سے سب کچھ

کہتا ہے مگر دل ان مسلمہ عقائد پر یقین و ایمان سے بالکل کورا ہوتا ہے یعنی عقائد میں استقامت سے محروم ہوتا ہے اسی قدر اس کی عملی زندگی اخلاقی برائیوں سے سخت سے سخت گناہوں اور مصیبتوں سے آلودہ، فسق و فجور کی دلدل میں پھنسی ہوئی شرمناک اور گھناؤنے جرائم سے داغدار ہوتی ہے ایسے لوگ دنیا میں متعدد بیماری کے مریض کی طرح پورے ماحول اور معاشرہ کے لئے باعث تباہی انسانیت کے لئے موجب ننگ و عار ہوتے ہیں شریف اور دیندار لوگ ان کے سایہ سے بھی بھاگتے ہیں حکومتیں ان کے نام سیاہ فہرست (بلیک لسٹ) میں لکھتی ہیں زمین و آسمان بھی ایسے لوگوں کے وجود سے پناہ مانگتے ہیں اور مرنے کے بعد تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہوتی ہی ہے اس دنیا اور آخرت دونوں جہان میں تباہی کا اصلی اور حقیقی سبب دینی عقائد میں استقامت سے محرومی ہے۔

اگرچہ اس مسلم اور واضح حقیقت کو سمجھنے کے لئے کسی مثال کی ضرورت نہیں تاہم اپنے گروہ پیش اور ماحول کا جائزہ لیجئے دیکھئے جس قدر کسی شخص کے دل میں جزاء و سزا اعمال کا کامل یقین اور پختہ ایمان ہوگا اور مرنے کے بعد یعنی قیامت کے دن اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کے سامنے پیش ہونے پر اور اس عادل و منصف اللہ تعالیٰ کے محاسبہ پر اور ابدی اجر و ثواب یعنی جنت پر اور ابدی عقاب و عذاب یعنی دوزخ پر یقین و ایمان قوی پختہ اور تزلزل و تذبذب شک و شبہ سے پاک ہوگا اسی قدر وہ شخص بد اعمالیوں، فحش کاریوں اور اخلاقی و معاشرتی جرائم خصوصاً خیانت، بددیانتی، دروغ گوئی، دھوکہ دہی، جعل سازی وغیرہ سے دور اور بہت دور رہے گا یہاں تک کہ ان تمام گناہوں اور بد اعمالیوں کے بے خوف و خطر مواقع میسر آنے اور دعوت گناہ دیئے جانے کے باوجود محض خدا کے خوف اور آخرت کے ڈر کی وجہ سے اس طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا چنانچہ بد قسمتی سے ہمارے ملک میں تمام تجارتی کاروبار پر بینکاری اور بیمہ وغیرہ کے سودی نظاموں کے تسلط کے باوجود ایسے دیندار تاجر موجود ہیں جو کاروبار چلنے نہ چلنے کی پرواہ کئے بغیر محض خدا کے خوف اور آخرت کے ڈر کی وجہ سے سودی کاروبار سے دور رہتے ہیں اور اس کے باوجود وہ کامیاب تاجر ہیں یہ صرف دینی عقائد میں پختگی اور استقامت کا نتیجہ ہے۔

اس کے برعکس جن لوگوں نے دل اس خوف خدا اور آخرت کے ڈر کے یقین و ایمان سے عاری اور کورے ہیں وہ بڑے سے بڑے اخلاقی اور معاشرتی جرائم اور حیا سوز ننگ انسانیت بد کاریوں میں نہایت بے باکی کے ساتھ بے خوف و خطر مصروف و منہمک ہیں بلکہ ملک میں ان بدترین جرائم اور حیا سوز بد کاریوں نے ایک مستقل پیشہ کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور ملک کی آبادی میں ان جرائم پیشہ لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ پیدا ہو گیا ہے جن کا ذریعہ معاش ہی یہ جرائم اور بد کاریاں بن گئی ہیں۔ یہ لوگ قانون کی زد حکومت کی گرفت کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے سوا اس سے بچانے کے لئے ان کے ”پتی دار“ و ”کیل اور“ بڑے لوگ“ موجود ہیں نتیجہ یہ ہے کہ حکومت اور اسکی پوری مشینری ان تباہ کن جرائم اور بد کاریوں کے انسداد سے عاجز ہے اور چونکہ یہ جرائم اور حرام کاریاں قومی زندگی میں متعدی مرض کی حیثیت اختیار

کر چکے ہیں اس لئے ایسے جرائم پیشہ اور بدکار حرام خور لوگوں کی تعداد میں حکومت کی کوششوں کے علی الرغم، برعکس روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت اور اس کی زبردست مشینری اس کے مداوی سے عاجز ہے۔

معاشرہ اور قوم کی اس تباہی و بربادی کا اصلی اور حقیقی سبب جس کی طرف بد قسمتی سے کوئی بھی طبقہ متوجہ نہیں ہوتا۔ صرف دلوں سے خدا کے خوف اور آخرت کے ڈر کا کلی طور پر نکل جانا ہے جو آخرت پر یقین اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ضعف بلکہ فقدان کا نتیجہ ہے اور یہ صورت حال صرف دینی عقائد پر استقامت سے محرومی کی بنا پر وجود میں آئی ہے اگر آج پاکستان کے مسلمانوں حکمرانوں اور رعایا دونوں کو اسلامی عقائد کے یقین و ایمان پر کما حقہ چنگلی استحکام اور استقامت نصیب ہو جائے تو آج ہی نہ صرف ان اخلاقی، تمدنی اور معاشرتی بد کاریوں اور جرائم سے بلکہ تمام ترقوی و اجتماعی تباہیوں سے ملک اور قوم کو نجات مل جائے اور ملک کا تحفظ و استحکام اور سالمیت و بقا بھی قوی سے قوی تر ہو جائے لیکن ملک و قوم کے مختلف طبقات کے سربراہوں کے رجحانات، عزائم اور مساعی کو دیکھتے ہوئے اس قسم کے دینی انقلاب کی توقع نہیں کی جاسکتی بجز اس کے کہ کوئی لطیفہ نبی ظہور میں آئے یعنی

۔ مردے از غیب بروں آید و کارے بکند

کے مصداق اس پندرہویں صدی کا کوئی مجدد پیدا ہو اور حقیقی معنی میں دین کی تجدید و اصلاح کرے۔ ہماری گذارشات پر غور کرنے کے بعد یقین ہے کہ آپ پوری بصیرت کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے کہ دین کے عقائد پر استقامت، دینی اور دنیوی فوز و فلاح کے لئے کس قدر اہم ضروری امر ہے اور اس سے محرومی کے نقصانات کتنے دور رس اور تباہ کن ہیں۔

عبادات اور ان میں استقامت کے معنی اور ان کی اہمیت

عبادتیں دو قسم کی ہیں (۱) ایک فرض (۲) دوسرے نفل، ہر ایک قسم کی عبادت میں استقامت کا مفہوم اور مصداق دوسری قسم کی عبادت سے مختلف ہے اس لئے ہم دونوں قسموں میں استقامت کا مفہوم علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں۔

فرض عبادات میں استقامت کی اہمیت اور اس سے محرومی کی شدید ترین مضرت
فرض عبادت یعنی فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض روزے فرض حج کے ادا کرنے میں ثابت قدمی اور استقامت کے معنی یہ ہیں کہ ایک مسلمان ہوش سنبھالنے اور بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک فرض عبادتوں کے ادا کرنے کو تمام دنیوی و دینی کاموں سے مقدم رکھے اور جن عبادتوں کا جو وقت مقرر ہے پوری پابندی کے ساتھ ان کے مقررہ وقت کے ہوتے ہی مسنون طریق پر ہمیشہ ادا کیا کرے نماز کا مسنون وقت ہوتے ہی بلا تاخیر باجماعت نماز ادا کرے بقدر نصاب مال پر پورا سال گزرتے ہی بلا تاخیر مال کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ ادا کرے رمضان کا مہینہ آتے ہی پوری تہذیب کے ساتھ پورے رمضان کے روزے رکھے اور ضروریات سے فارغ انتہا مال جمع ہوتے ہی جس سے حج اور سفر کے مصارف اٹھائے

جاسکیں بلاتا خیر حج ادا کرے بجز شرعی اعذار کے اور کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں کسی بھی وجہ سے ان کے ادا کرنے میں تساہل یا تاخیر ہر گز نہ کرے جان بوجھ کر کسی بھی فرض عبادت کو ہر گز ہر گز نہ چھوڑے اور اگر کبھی بھول چوک یا غفلت کی نیند سو جانے کی وجہ سے یا کسی شرعی عذر کی بنا پر کوئی فرض نماز چھوٹ جائے تو اس کو یاد آتے ہی ادا کر لے اور دوسرے وقت پر ہر گز نہ ڈالے اس لئے کہ جیسے ادا کرنے میں تاخیر یا تساہل استقامت کے منافی ہے ایسے ہی رہی ہوئی نماز یا روزے یا زکوٰۃ کی قضا میں بھی تساہل یا تاخیر استقامت کے منافی اور سخت معزہ ہے فرائض کے قضا کرنے میں ڈھیل، تساہل اور تاخیر کا بڑا دور رس دینی نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اسی آج کل میں بڑھتے بڑھتے قضا نمازوں، قضا روزوں اور نہ دی ہوئی زکوٰتوں کی تعداد اور مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کا پورا کرنا کام چور اور راحت طلب نفس پر بے حد شاق اور دشوار ہو جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے وقتی فرائض کے ساتھ ساتھ ان کا قضا کرنا تو بالکل ہی ناممکن ہو جاتا ہے اور پھر مکار نفس کے اس فریب میں آکر کہ جہاں اللہ تعالیٰ اتنے فرضوں کو معاف کرے گا ان کو بھی معاف کر دے گا وہ بڑا غفور و رحیم ہے وقتی فرائض ادا کرنے کی پابندی میں بھی اول اول سستی آتی ہے پھر گنڈے دار ادا ہونے لگتے ہیں رفتہ رفتہ ان فرض عبادتوں کے ادا کرنے سے بالکل ہی محروم اور ترک فرائض و واجبات کا جو کبیرہ گناہوں میں اول درجہ کا گناہ ہے مرتکب بن جاتا ہے نہ صرف یہ بلکہ دوسرے کبیرہ گناہ اور مصیبتیں ان کی جگہ لے لیتی ہیں اس لئے انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بے کار اور بے شغل خالی نہیں بیٹھ سکتا جوں جوں نفس کے اس فریب میں آکر فرائض و واجبات سے دستبردار ہوتا جائے گا محرمات، منکرات ان کی جگہ لیتے جائیں گے اور فرض عبادت پر پابندی کے انور و برکات سے محروم ہو کر معاصی اور کبیرہ گناہوں کی ظلمتوں اور نحوستوں میں گرفتار چلا جائے گا اول کبھی کبھی اس ترقی معکوس یعنی روحانی رفعت کی بلندیوں سے گر کر مادی فقر و ظلمت و مذلت میں جا پڑنے کا احساس ہوتا ہے مگر خود کو بے بس اور مجبور پاتا ہے رفتہ رفتہ یہ احساس بھی مٹ جاتا ہے اور سر تاپا فسق و فجور میں گرفتار اور کفار و مشرکین کی طرح مردود و مقہور سیہ کار انسان بن جاتا ہے اعاذنا اللہ منہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔

اس لحاظ سے فرض عبادتوں کی پابندی پر استقامت انسان کے لئے فسق و فجور سے بچنے کے لئے ایک محفوظ پناہ گاہ اور مضبوط حصار و قلعہ ہے جب تک اس استقامت اور پابندی فرائض کے حصار میں پناہ گزین رہتا ہے گناہوں اور مصیبتوں کی یورشوں اور حملوں سے محفوظ رہتا ہے جہاں اس حصار سے باہر نکلا اور فواحش و منکرات اور فسق و فجور کی دلدل میں پھنسا پھر اس دلدل سے نکلنے کی اگر کوشش بھی کرتے ہیں تو اور پھنستا چلا جاتا ہے اور نجات کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی بجز اس کے کہ رحمت خداوندی اور توفیق الہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس دلدل سے نکال کر پھر فرض عبادتوں کی پابندی کے حصار میں پہنچا دے مگر یہ صورت نجات صرف اسی وقت میسر آتا ہے جبکہ دینی عقائد پر استقامت نصیب ہو اور خدا کی کریمی اور کار سازی پر پکایقین و ایمان دہنگیری کرے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگے اور گڑگڑا کر اس کی رحمت کی پناہ لے اس لحاظ سے دینی عقائد پر استقامت بڑے بڑے گنہگاروں، سیاہ کاروں اور جرائم پیشہ لوگوں کے کام بھی آ جاتی ہے۔

یہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں محض فرضی باتیں اور خیالی افسانے نہیں ہیں بلکہ دنیا میں بکثرت ایسی مثالیں موجود ہیں بڑے بڑے صوم و صلوة کے پابند دینداروں کو محض ترک فرائض کی نحوست اور شومی کی بدولت فسق و فجور اور بدکاریوں حرام کاریوں کی دلدل میں گرتے اور پھنستے بھی دیکھا ہے اور بہت سے گناہوں مصیبتوں اور سیاہ کاریوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے فساق و فجار کو محض پختہ اور محکم دینی عقیدوں اور خدا کی رحمت اور کار سازی پر ناقابل تزلزل ایمان و یقین کی بدولت فواحش و منکرات اور معاصی و آثام کے قعر نذات سے ابھرتے، نکلتے اور نہایت خلوص کے ساتھ صوم و صلوة حج و زکوٰۃ کی پابندی پر ثابت قدم بننے بھی دیکھا ہے۔

اس مختصر مگر واقعات و مشاہدات پر مبنی بیان کو پڑھ کر آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ عبادتوں کی پابندی پر استقامت اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم الشان عطیہ ہے اور اس سے محرومی ایک مسلمان کے لئے کتنا بڑا خسران مبین ہے اس لئے چاروں فرض عبادتوں، نماز روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ادا کرنے پر استقامت کی ضرورت ایک مسلمان کے لئے غذا، لباس، مسکن وغیرہ طبعی حوائج سے بھی زیادہ لابدی اور مقدم ہے اس لئے کہ ان ضروریات زندگی سے محروم ہونے سے صرف مادی اور دنیوی زندگی ہی جو یقیناً فانی ہے خطرہ میں پڑتی ہے مگر ان چاروں فرض عبادتوں سے جو ایک مومن مسلمان کے لئے عظیم روحانی غذا ہیں محروم ہونے سے انسان کی روحانی اور ابدی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب مسلمانوں کو خصوصاً قارئین کتاب کو اس پابندی یعنی ”فرض عبادات پر استقامت“ کی توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔

نفل عبادتوں پر استقامت کے معنی اور اس کی شرط

نفل عبادتوں پر استقامت کے معنی بیان کرنے سے پہلے چاروں قسم کی عبادتوں میں نفل اور فرض عبادتوں کی تشخیص اور ان میں فرق بیان کرنا ضروری ہے چنانچہ

(۱) پنج وقتہ فرضوں کے علاوہ جن کی کل سترہ رکعتیں ہیں چار ظہر کی چار عصر کی چار عشاء کی تین مغرب کی دو فجر کی۔ باقی سب نمازیں خواہ وہ پنج وقتہ فرضوں سے پہلے یا بعد کی سنتیں اور نقلیں ہوں خواہ تہجد کی آٹھ یا بارہ رکعتیں یا چاشت کی آٹھ یا چار رکعتیں یا زوال کے فوراً بعد کی چار سنن زوال، یا مغرب کے بعد کی چار یا چھ اس سے زیادہ رکعتیں او ایمن کی ہوں یہ سب نمازیں یا سنت ماکدہ ہیں یا سنن زوال یا نفل ہیں۔ بہر صورت فرض ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے عشاء کی نماز کے بعد میں ۳ رکعت وتر پیشک واجب ہیں مگر وہ عشاء کے فرضوں کے تابع اور پابندی کے لحاظ سے انہی کے حکم میں ہیں۔

(۲) اسی طرح فرض زکوٰۃ۔ فرض زکوٰۃ میں صدقات واجبہ بھی شامل ہیں۔

کل مال کا چالیسواں حصہ سالانہ کے علاوہ باقی تمام صدقات و خیرات سب صدقات نافلہ اور نفل مالی عبادتیں ہیں۔

(۳) اسی طرح ماہ رمضان کے تیس یا اسی روزوں کے علاوہ باقی سال کے تمام روزے سنت یا نفل روزے ہیں فرض ان میں کوئی بھی روزہ نہیں ہے۔

(۴) اسی طرح عمر میں ایک مرتبہ حج کے علاوہ جتنے بھی حج یا عمرے کئے جائیں سب سنت یا نفل ہیں فرض صرف ایک پہلا حج ہے۔

(۵) یہ تو وہ نفل عبادتیں ہیں جو فرض عبادتوں کی جنس (قسم) سے ہیں اور انہی کی تکمیل و تتمیم کے لئے ادا کی جاتی ہیں باقی ان کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام تو بہ و استغفار، مسنون دعائیں موقت یا غیر موقت ذکر اللہ خواہ تسبیح و تہلیل کی صورت میں ہو خواہ اور دوسری مسنون و ماثور صورتوں میں ہو یہ سب نفل عبادتیں ہیں اور بے حد و بے اعتدالی اور دنیاوی و اخروی برکات و ثمرات کا موجب ہیں مگر فرض ان میں سے کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔

ان تمام نفل عبادتوں پر استقامت کے معنی یہ ہیں کہ انسان مذکورہ بالا فرض عبادتوں اور حقوق العباد بندوں کے حقوق کے پابندی اور ثابت قدمی سے ادا کرتے رہنے کے بعد ان میں سے جتنی عبادتوں کے ادا کرنے کی جسمانی قدرت یا مالی استطاعت ہو اور جائز و مباح مشاغل کسب معاش وغیرہ سے جتنی بھی فرصت ہو اور وقت ملے اسی قدر ہر ایک قسم کی مذکورہ بالا نفل عبادتیں پوری پابندی اور پائیداری و ثابت قدمی کے ساتھ حتی الامکان روزانہ ادا کرنے پر مستقل مزاجی کے ساتھ قائم اور کاربند رہے مگر اس استقامت کی شرط یہ ہے کہ ان نفل عبادتوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے فرض عبادتوں کی پابندی پر مطلق اثر نہ پڑے یعنی ان میں ذرہ برابر کوتاہی ہرگز نہ ہو نفل عبادتوں کے اتنا پیچھے پڑنا کہ اس کی وجہ سے فرض عبادتوں یا حقوق العباد کے پابندی کے ساتھ ادا کرنے میں کوتاہی اور خلل واقع ہونے لگے یہ نفل عبادتوں پر استقامت نہیں بلکہ شرعاً ناپسندیدہ ہے اعتدالی اور غلو حد سے تجاوز کرنا ہے جس میں اجر و ثواب ملنے کے بجائے مواخذہ کا اندیشہ ہے بلکہ خطرناک نتائج کا موجب ہے جیسا کہ آپ مثالوں میں پڑھیں گے مثلاً

(۱) ایک شخص کثرت عبادت کے شوق میں روزانہ آدھی رات کے بعد بیدار ہو جاتا ہے اور تہجد کی نماز اور اوراد و وظائف، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے مگر روزانہ نیند کے غلبہ سے مجبور ہو کر آخر میں سو جاتا ہے اور فجر کی نماز یا بالکل ہی قضا ہو جاتی ہے یا جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا روزانہ کا یہی معمول ہے یہ قابل مواخذہ ہے اعتدالی اور غلو ہے اس شخص کو یہ شب بیداری ذکر و اذکار اور تہجد کی اتنی لمبی نماز فوراً چھوڑ دینی چاہئے اور بقدر ضرورت نیند بھر کر سونا چاہئے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی پوری پابندی کرنی چاہئے اگر بقدر ضرورت سو لینے کے بعد اس یقین کے ساتھ کہ فجر کی نماز باجماعت ضرور ادا کر سکے گا صبح صادق سے کچھ پہلے بیدار ہو کر تہجد کی جتنی رکعتیں پڑھ سکتا ہو پڑھ لے اور اس پر روزانہ پابندی کرے تو کچھ حرج نہیں اس لئے کہ یہ تہجد کی نماز اور

اور دو وظائف نہ پڑھنا گناہ اور معصیت نہیں ہے اور جانتے بوجھتے فجر کی نماز قضا کر دینا یا جماعت کے ساتھ ادا نہ کرنا گناہ اور معصیت ہے چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کا واقعہ ہے کہ سلیمان نامی ایک صحابی روزانہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے ایک دن وہ نماز میں نہیں آئے اتفاق سے صبح سویرے عمر فاروقؓ کا ان کے مکان سے گذر ہوا تو انہوں نے ان کی والدہ سے ان کے نماز میں نہ آنے کی وجہ دریافت کی تو ان کی والدہ نے بتلایا کہ وہ ساری رات نماز پڑھتے رہے تھے آخر شب آنکھ لگ گئی اور سو گئے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا میں تو صبح کی نماز باجماعت پڑھنے کو ساری رات نماز پڑھتے رہنے سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔

اسی طرح مسافر اگر یہ دیکھے کہ میں صرف فرض نماز وہ بھی قصر یعنی چار کی دو پڑھ سکتا ہوں لیکن پہلی یا بعد کی سنتیں نہیں پڑھ سکتا اس پر فرض ہے کہ وہ صرف فرض پڑھ لے اور سنتیں چھوڑ دے عام طور پر لوگ ناواقفیت کی بنا پر سنتوں کو نہ پڑھ سکتے کی وجہ سے فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ قطعاً ناجائز اور گناہ ہے۔

(۲) اسی طرح ایک شخص کثرت عبادت کے شوق میں رمضان کے علاوہ بھی روزانہ روزہ رکھنے کی پابندی کرتا ہے اور صائم الدھر روزانہ روزہ سے رہتا ہے یہ بھی شرعاً ناپسندیدہ ہے اعتمادی اور غلو ہے اس روزانہ روزہ رکھنے کی پابندی میں جسمانی صحت اور قوت کو ایسا نقصان پہنچ جانے کا شدید خطرہ ہے کہ اس کے بعد اور فرض عبادت اور فرائض زندگی کسب معاش، حقوق العباد وغیرہ ادا کرنے کے قابل بھی نہ رہے اور ترک فرائض و حقوق کے گناہ میں ماخوذ ہو۔

(۳) اسی طرح ایک شخص انفاق فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے شوق میں ایسے صدقات و خیرات میں جو فرض نہیں اس قدر روپیہ خرچ کر دیتا ہے کہ اس کے بعد اہل و عیال اور ان قرابتداروں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا۔ جن کی کفالت اس پر فرض ہے یا خود پیسہ پیسہ کو محتاج ہو جاتا ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہے بے اعتمادی اور غلو ہے اس کو فوراً ترک کر دینا چاہئے اور تمام اہل حقوق کے حقوق پورے طور پر ادا کرتے رہنے کے بعد جو روپیہ بچے اس میں سے ہمیشہ اتنا صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہئے کہ خود محتاج اور مفلس نہ بن جائے رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لا صدقة الا عن ظهر غنی..... صدقہ وہ ہی ہے جس کے بعد خود بھی غنی رہے۔

(۴) یہی حال بار بار حج کیلئے جانے اور سفر میں بے دریغ روپیہ صرف کرنے کا ہے کہ اس میں بھی ارباب حقوق کی حق تلفی یا خود مختاری و مفلس ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے لہذا جب تک اس امر کا اطمینان نہ ہو کہ نفلی حج کے لئے سفر کرنے اور اخراجات برداشت کرنے سے نہ کسی کی حق تلفی ہوگی نہ دوسرے فرائض و مشاغل میں کوئی ناقابل تلافی کوتاہی ہوگی اس وقت تک نفلی حج کے لئے سفر نہ کرنا چاہئے اس لئے کہ وہ نفلی حج جس میں لوگوں کی حق تلفیاں ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا بلکہ حق تلفی کے گناہ میں پکڑے جانے کا قوی اندیشہ ہے۔

حاصل یہ ہے کہ نفل عبادتوں کے ادا کرنے پر چاہے کم سے کم ہوں یا زیادہ سے زیادہ مداومت و استقامت میں یہ شرط ضروری ہے کہ اس سے فرض عبادتوں اور حقوق العباد وغیرہ دیگر فرائض کے پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنے میں کوئی کوتاہی یا خلل واقع نہ ہو اس لئے کہ عبادت کے ادا کرنے پر استقامت کے اندر اول درجہ پر فرض عبادتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا اور اس پر سختی کے ساتھ قائم رہنا ہے اور دوسرے درجہ پر نفل عبادتوں کے ادا کرنے میں مداومت اور پابندی ہے مگر جتنی بھی اور جو بھی نفل عبادتیں اختیار کرے خواہ کتنی ہی تھوڑی ہوں ہمیشہ اور روزانہ پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے ایسا نہ ہو کہ مثلاً کسی زمانہ میں یا کسی حصہ عمر میں تو اتنا جوش و خروش اور نفل نمازوں کی اتنی حرص ہو کہ روزانہ صرف پنجوقتہ فرض نمازوں کے پہلے یا بعد کی سنتیں اور نفلیں بلکہ آدھی رات کے بعد اٹھ کر تہجد کی بارہ رکعتیں بھی پڑھے اور او دو ظائف بھی اشراق کی دو رکعتیں بھی زوال کے بعد کی چار سنتیں بھی اور صلوٰۃ ادا میں بھی پڑھے اور کچھ دن بعد نمازوں سے اتنا فرار اور گریز ہو جائے کہ پنجوقتہ فرض نمازیں بھی ایسی ہو جائیں کہ کوئی پڑھی کوئی اڑادی۔

در اصل یہ اس چند روزہ ناپسندیدہ غلو اور بے اعتدال کارڈ عمل ہوتا ہے جو استقامت کے قطعاً منافی ہو اور فرض نمازوں میں رخنہ اندازی کا باعث ہونے کی وجہ سے گناہ اور معصیت ہے نفل روزوں اور نفل صدقہ و خیرات اور نفل حج و عمرہ کو بھی اسی پر قیاس کر لیجئے اسی لئے رحمت حریص نجات اُمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

خیر العمل ما دیم علیہ.....

بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام عبادتیں خصوصاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نفس انسانی کی راحت و آسائش اور خواہشات کے نہ صرف منافی ہیں بلکہ جسمانی اور بدنی اعتبار سے بھی تعب و مشقت کا موجب ہیں اسی لئے نفس اور بدن کے لئے وہ شاق اور ناگوار ہیں ایک قرب الہی کا شیدائی بندہ نفس انسانی کے علی الرغم یعنی خواہش نفس کے خلاف اپنے آپ کو اعضا و جوارح ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضا کو اور بدنی قوتوں کو اس محنت شاقہ کے برداشت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ نفس اور جسم و جسمانی قوتوں پر حکمران عقل و خرد ہے اس کے مجبور کرنے پر نفس اور بدن اور اس کی قوتیں خواہی نخواہی اپنی راحت و آسائش اور دوسری خواہشات کو ترک کرنے پر اور عقل و خرد کی تعمیل حکم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے چنانچہ نماز کے متعلق جو دین کی سب سے اہم عبادت بلکہ دین کا ستون ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وانہا الکبیرۃ الاعلیٰ النعاشعین اللدین یظنون انہم ملاقوا ربہم وانہم الیہ راجعون: (البقرہ)

پیشک وہ نماز بہت ہی شاق اور گراں ہوتی ہے بجز ان لوگوں کے جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں (مرنے کے بعد) اپنے پروردگار سے ملنا (اور اسکے سامنے پیش ہونا) ہے اور یہ کہ وہ اسی کے پاس لوٹ کر جائیں گے۔ (اور اولین پر سش نماز بود۔ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا)

ایسی صورت میں نفس اور بدن، فرض عبادتوں مثلاً فرض نمازوں کو جو حکیم و عظیم پروردگار نے ہر انسان کی جسمانی قوتوں کے لئے قابل برداشت ہونے کی حد تک ہی فرض کی ہیں تو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور سرتابی نہیں کرتے لیکن نفل عبادتوں کے بارے میں بھی اگر انسان اپنے نفس، بدن اور اعضاء و جوارح کو ان حد سے تجاوز مشقتوں کے برداشت کرنے پر مجبور کرتا ہے تو کچھ عرصہ میں ہی نفس و جسم کی قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں جواب دے جاتے ہیں اور پھر ان میں فرض عبادتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی سکت بھی باقی نہیں رہتی اور اس طرح نتیجہ کے اعتبار سے نفل عبادتوں میں یہ غلو اور بے اعتدالی فرض عبادتوں پر مداومت اور ان پر استقامت سے بھی محروم کر دیتی ہے بالکل اسی طرح جیسے سفر کو جلد از جلد طے کر لینے کا حریص اور جلد باز مسافر اپنے سواری کے گھوڑے کو دم لینے کی مہلت دینے بغیر بے تحاشا مسلسل دوڑائے چلا جاتا ہے راستہ میں کہیں نہیں ٹھہرتا وہ اپنی اس بے اعتدالی کی بدولت تھوڑی سی مسافت طے کرنے کے بعد ہی سواری سے محروم ہو جاتا ہے گھوڑا حد سے زیادہ تھک جانے کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر گر پڑتا ہے اسکی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے نہ سفر طے ہوتا ہے نہ سواری کا گھوڑا ہی کار آمد رہتا ہے یہ مثال ہماری اختراع کردہ نہیں ہے بلکہ امت کی فطرت اور نفسیات سے آگاہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عبادات پر استقامت کے اندر غلو اور مضرت رساں بے اعتدالی سے منع فرمانے کے سلسلہ میں بیان فرمائی ہے ارشاد ہے:

فان السائر المنبت لا ارضاً قطع ولا ظهراً ابقی

(عبادتوں میں غلومت اختیار کرو) اس لئے کہ ایک بے تحاشا سواری کو دوڑانے والا مسافر نہ مسافت ہی طے کر پاتا ہے اور نہ سواری ہی کار آمد رہنے دیتا ہے۔

اس کے بعد انسانی فطرت کی کمزوری کو صاف اور صریح لفظوں میں بے نقاب فرمایا ہے ارشاد ہے:

فان اللہ لا یعمل حتی تملوا

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ (تمہاری زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اجر و ثواب دینے سے) نہیں آکتا تم ہی (آخر کار ان بے تحاشا عبادتوں سے) آکتا جاتے ہو (اور بالکل ہی چھوڑ بیٹھتے ہو)

اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی یکسانیت اور پھر اس پر مداومت سے جلد یا بدیر آکتا جاتا ہے خصوصاً جب کہ وہ کام نفس کی طبعی خواہشات کے خلاف بھی ہو اور اس میں جسمانی مشقت اور تعب بھی ہوتا ہو اور نہ اس میں کوئی مالی منفعت یا مادی لذت ہو اگرچہ کتنے ہی قوی جذبہ داعیہ اور پابندی کے عزم کے ساتھ شروع کرے مگر تھوڑے ہی دنوں کے بعد یا زیادہ عرصہ کے بعد اول بے دلی کی کیفیت کا پیدا ہوتی ہے اس کے بعد پابندی ختم ہوتی ہے کسی دن کیا کسی دن نہیں آخر کار بالکل ہی چھوٹ جاتا ہے پابندی اور استقامت اسی کام میں

میسر آتی ہے جو اتنا ہو کہ کبھی بھی اس سے دل نہ اکتائے اسی انسانی فطرت کی کمزوری کی طرف امت کے نبض شناس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا حدیث میں ارشاد فرمایا ہے:

اسی لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شوق الہی میں سر مست اور عواقب اور نتائج سے بے پرواہ بعض صحابہ کرام کو جنہوں نے ساری عمر روزانہ دن کو روزہ رکھنے کا اور رات کو ساری رات نماز میں قرآن عزیز پڑھنے کی مداومت کرنے کا عزم اور فیصلہ کر لیا تھا بڑی سختی کے ساتھ اس اقدام سے روکا ہے اور اس کے معصرت رساں نتائج سے بڑی وضاحت کیساتھ آگاہ فرمایا ہے اور ان کی تسلی کے لئے خود اپنے اسوۂ حسنہ اور مقدس اور قابل عمل طرز عمل کو بطور مثال پیش کی ہے کہ دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور شب بیداری بھی کرتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں (یعنی رات کے کچھ حصہ میں سوتا ہوں کچھ میں تہجد پڑھتا ہوں اور کچھ دن روزے رکھتا ہوں پھر کچھ دن چھوڑ دیتا ہوں)

ایک صحابی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بڑے اصرار پر صرف اتنی اجازت دی کہ اچھا ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو عمرو بن العاصؓ نے ساری عمر اس کی پابندی کی تو سہی مگر آخر عمر میں اپنے اس ناعاقبت اندیشانہ اصرار پر اور اس ناقابل برداشت عمل کو اختیار کرنے اور اس کی مداومت کو اپنے ذمے لینے پر پشیمان ہوئے اور ساری عمر بچھتائے کہ کیا اچھا ہوتا کہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون و معتدل طرز عمل یعنی ہر مہینہ میں تین دن کے روزے پابندی کے ساتھ رکھنے پر مداومت کو قبول کر لیتا اور اس حد سے متجاوز اکتا دینے والے طرز عمل یعنی ایک دن روزہ رکھنے ایک دن افطار کرنے کو اختیار نہ کرتا۔

اسی پر بقیہ نقلی عبادتوں کو قیاس کر لیجئے اسی لئے نفل عبادت پر استقامت کو نبھانے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے سے سوچ سمجھ لے جن عبادت کو پابندی کے ساتھ آخر عمر تک ادا کر سکے انہی کو اختیار کرے وہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہوں مثلاً قرآن کریم کا اتنا حصہ تلاوت کیلئے اختیار کرے جو آخر عمر تک بلا ناغہ روزانہ پڑھ سکے چاہے وہ ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ ہدایات و تعلیمات کی روشنی میں انسان کی اس فطری کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ بیشک صحیح ہے کہ نقلی عبادتوں پر استقامت اور ثابت قدمی کو نبھانے کے لئے کم سے کم عبادت ہی کو اختیار کرنا چاہئے تاکہ عمر بھر ان پر قائم رہ سکیں۔

زیادہ سے زیادہ نفل عبادتوں پر استقامت حاصل کرنے کی تدبیر

مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن اور حدیث میں ہی ان نقلی عبادتوں پر آخرت میں اتنے زیادہ اجر و ثواب، مغفرت و رحمت اور رضا و قرب الہی کے وعدے مذکور ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ تمام وعدے بالکل سچے ہیں اور ضرور پورے ہوں گے اور دنیا کی زندگی میں بھی ان نقلی عبادتوں کی مداومت و استقامت پر ایسے سکون آفرین روح پرور گناہوں سے بچانے والے اثرات اور انوار و برکات کے مرتب ہونے کی خبر دی گئی ہے کہ ان ترغیبات کو دیکھ کر ایک ایسا مسلمان

جس کے دل میں واقعی خدا کا خوف، آخرت کا ڈر موجود ہے اور نجات کی فکر اس کو شدت کے ساتھ دامکیر ہے وہ نفس اور بدن کی ان تمام مزاحمتوں کے اور جسمانی طاقتوں کے جواب دے جانے کے خطرات کے باوجود زیادہ سے زیادہ نفل عبادتوں پر استقامت کو اختیار کرنے کے لئے بیقرار ہوتا ہے مگر صرف اس ڈر سے کہ کہیں مذکورہ مثال کے گھوڑے کی طرح بدنی طاقت اور صحت اس طرح ساقط نہ ہو جائے کہ فرض عبادتوں کی مداومت سے بھی محروم ہو جائے بازرہتا ہے اس لئے یہ خدا پرستی کا شدید اور اخروی نجات کا طلب گار مسلمان شدید کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے ایک طرف فرض عبادتوں پر استقامت سے محروم ہو جائے گا اور دوسری طرف ان نفل عبادتوں کی کشش نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن نہ اختیار کئے بنتی ہے نہ چھوڑے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت ورافت ذیل کی حدیث میں بغیر کسی مضرت کے زیادہ سے زیادہ نفل عبادتوں پر استقامت حاصل کرنے کی تدبیر بھی بتلائی ہے ارشاد ہے:

ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق

پیشک یہ دین بہت مضبوط (اور منضبط) ہے پس اس (کی حدود) میں نہایت آہستگی کے ساتھ (نہایت دھیمی رفتار سے) قدم رکھو۔

یعنی ہر نوع کی زیادہ سے زیادہ نفل عبادتوں پر مداومت و استقامت کو آسان اور جسمانی قوتوں کے لئے قابل برداشت بنانے کی تدبیر یہ ہے کہ ان کو جسم اور جسمانی قوتوں کے لئے قابل برداشت حد میں رہ کر آہستہ آہستہ بڑھانا چاہئے یعنی اول کسی بھی قسم کی نفل عبادت کو کم سے کم اختیار کرو جب اس کی عادت پڑ جائے تو اور تھوڑا سا اضافہ کرو جب اس کی بھی عادت پڑ جائے تو کچھ اور اضافہ کرو اسی طرح تدریجاً نفس ان سے مانوس ہو تا جائے گا اور جسمانی قوتیں عادی ہوتی جائیں گی یہاں تک کہ ایک دن وہ نفل عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکو گے اور نہ کوئی تعب ہو گا اور نہ جسمانی قوت و صحت کو کوئی نقصان پہنچے گا اور بغیر کسی مضرت کے اس پر مداومت اور استقامت بھی آسان ہوگی۔

مثلاً ایک رضالہی کا متوالی خدا کا بندہ چاہتا ہے کہ ان محسنین کی طرح جن کا ذکر ذیل کی آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔
كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون: اور وہ رات کو بہت ہی کم سویا کرتے تھے۔
میں بھی رات کو بہت تھوڑے حصے سوؤں اور رات کا بیشتر حصہ ان عباد الرحمن کی طرح جن کا ذکر ذیل کی آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔

والذين يبیتون لربهم سجداً وقياماً (فرقان: ۶۴)

اور وہ لوگ جو ساری رات اپنے رب کے سامنے رکوع و سجود اور قیام یعنی نماز میں گزار دیتے ہیں۔
بستر کے بجائے مصلے پر اپنے رب سے مناجات یعنی نماز میں گزاروں اور اللہ کے ان بندوں کی طرح جن کی شان میں ارشاد ہے۔

تصالحی جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً (السجدہ: ۲۷)

ان کے پہلو بستروں سے دور بھاگتے ہیں وہ اپنے رب کو (اس کے) خوف اور (رحمت کی) طمع کی وجہ سے پکارتے (اور دعائیں مانگتے) رہتے ہیں۔

میرا بستر بھی مجھے تھک کر سلانے کی بجائے ایسا کانٹوں کا فرش بن جائے کہ کسی کروٹ اس پر چھین نہ آئے اور پہلو بستر سے دور بھاگے اور میں بھی اپنے رحمن و رحیم پر دردگار کی رحمت حاصل کرنے کی غرض سے اور اس قہار و جبار اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچنے کی غرض سے ساری رات اس کو پکارتا یعنی رحمت کی دعائیں مانگتا اور توبہ و استغفار کرتا رہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس شخص کا روزانہ معمول چھ گھنٹے سونے اور آرام کرنے کا ہے تو پہلے دن سونے کے وقت میں صرف آدھ گھنٹہ کی کمی کرے اور ساڑھے پانچ گھنٹے کا الارم لگا کر ٹائم نہیں سرہانے رکھ لے اور الارم بجتے ہی فوراً اٹھ جائے اور حواج ضروریہ سے فارغ ہو کر وضو کر کے صبح صادق ہونے سے پہلے دو چار یا جتنی رکعتیں بھی پڑھ سکے پڑھ لے اور اس وقت تک اسی معمول پر پابندی سے قائم رہے یہاں تک کہ ساڑھے پانچ گھنٹے سونے کی عادت پڑ جائے اس کے بعد آدھ گھنٹہ اور کم کر دے اور صلوٰۃ اللیل، نماز تہجد کی تعداد اور بڑھادے اور اللہ سے قیام لیل کی توفیق کی دعائیں برابر کرتا رہے اور بلا ناغہ اس وقت تک اسی معمول پر سختی کے ساتھ پابندی کرتا رہے یہاں تک کہ پانچ گھنٹے کی نیند کافی ہونے لگے اور جسم اسی کا عادی ہو جائے اسی طرح تدریجی طور پر بلا ناغہ سونے اور آرام کرنے کا وقت گھنٹا اور صلوٰۃ اللیل اور ذکر اللہ کا وقت بڑھاتا چلا جائے یہ رفتار اگرچہ چیونٹی کی سی دھیمی رفتار ہوگی لیکن اگر مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ بلا ناغہ اس مشق کو جاری رکھا تو یقیناً ایک دن وہ آجائے گا کہ رات میں صرف دو تین گھنٹے کا آرام اور نیند کافی ہونے لگے گی ادھر ان نقلی عبادتوں، صلوٰۃ اللیل اور ادعیہ و اذکار کے انوار و برکات اور اس کے نتیجہ میں وہ روحانی کیف و سرور اور وہ روحانی لذت محسوس ہونے لگے گی کہ فی الواقع بستر پھولوں کی بیج کے بجائے کانٹوں کا پھوٹا معلوم ہونے لگے گا اس لئے کہ نصف شب کے بعد خصوصاً رات کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ پر صدق دل سے ایمان رکھنے والوں اور قرآن وحدیث کی تعلیمات پر سچے دل سے یقین رکھنے والوں کے لئے ایسا عظیم الشان نزول رحمت الہی کا وقت ہے جس کے متعلق حبیب رب العالمین کا ارشاد ہے:

ينزل الله تبارك وتعالى الى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الاول فيقول: انا الملك: انا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسألني فاعطيه من ذا الذي يستغفرنى فاعفوله فلا يزال كذلك حتى يضيى الفجر۔

اللہ تبارک وتعالیٰ ہر رات کو پہلا ایک تہائی حصہ گزرنے کے بعد پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں میں ہوں (تمام کائنات کا) بادشاہ میں ہوں (تمام مخلوق کا) حکمران ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے

تو میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی؟ جو مجھ سے (کچھ) مانگے تو میں (جو وہ مانگے) اس کو دوں، ہے کوئی؟ جو مجھ سے (اپنے گناہ) بخشوائے تو میں اس کے گناہ بخش دوں یہ اعلان صبح روشن ہونے تک ہوتا رہتا ہے۔

اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ایک سچے دل سے خدا اور اس کی لامحدود شیون، اور جمالی و جلالی صفات پر یقین رکھنے والا رضاء الہی کا دل و جان سے طلب گار اور قہر الہی سے بچنے کے لئے بیقرار اور فکر مند بندہ، خیر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ترجمان زبان جس کے متعلق قرآن کریم کی شہادت یہ ہے کہ وحی کے سوا اسکی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا ارشاد ہے:

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى (النجم: ۱۰)

اور وہ (ہمارا رسول) اپنی خواہش سے نہیں بولتا وہ تو جو کچھ بولتا (اور کہتا) ہے وہ (اللہ کی) وحی ہوتی ہے جو اس کے پاس بھیجی جاتی ہے۔

زبان اقدس سے نکلی ہوئی اس بشارت کی سچائی پر حق الیقین کے درجہ میں یقین و ایمان کے ساتھ آدمی رات کے بعد جبکہ اس کے آس پاس خدا کی رحمت سے غافل مخلوق خواب شیریں میٹھی نیند کے مزے لے رہی ہو اور بے خبر سو رہی ہو (چاروں طرف سناٹا چھایا ہو) مکمل تنہائی ہو اور اس کے اور اس کے مولیٰ ارحم الراحمین پروردگار کے درمیان جس کا اعلان یہ ہے۔

سبقتم رحمتی علی غضبی..... میری رحمت میری خشکی پر غالب ہے۔

کوئی تیسرا حائل نہ ہو ایسے مبارک وقت میں جب وہ اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بات سن رہا ہے انتہائی عجز و نیاز کے ساتھ عرض کر رہا ہو۔

ربنا اننا ظالمنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سنیاتنا و توفنا مع الابرار (ال عمران: ۲۰)

اے ہمارے رب! ہم (تجھ پر اور تیرے دین پر سچے دل سے) ایمان لائے ہیں اب تو ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اور ہماری تمام برائیوں کا کفارہ کر دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ وفات دیجو (دنیا سے اٹھائیو) اور سجدہ کی حالت میں دل کے کانوں سے پہلے آسمان سے کی جانے والی مذکور منادی سن رہا ہو اور زبان حال و مقال سے ہر سوال کے جواب میں کہہ رہا ہو۔

(۱) اے ذوالجلال والاکرام

پروردگار! میں ہوں وہ تجھ سے دعائیں مانگنے والا محتاج بندہ تو میری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔

(۲) اے خیر المسولین پروردگار! میں ہوں وہ تجھ سے مانگنے والا سائل! تو میری ساری مرادیں پوری کر دے۔

(۳) اے غفار الذنوب پروردگار! میں ہوں تیرا وہ گناہ بخشوانے والا گنہگار بندہ! تو میرے سارے گناہ بخش

دے۔ اور آسمان اول سے یہ روح پرورد اور سکون آفرین جواب دل کے کانوں سے سن رہا ہو۔

یابئھا النفس المطمئنة: ارجعی الی ربك راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی (الفجر)
اے (اپنے رب کے وعدوں پر) اطمینان رکھنے والے نفس (کے مالک بندے) تو اپنے رب کی طرف خوشی
خوشی واپس آئیو پھر میرے (مقرب ترین) بندوں میں شامل ہو جائیو اور میری جنت میں داخل ہو جائیو۔

تو اس مناجات اور اپنے محبوب پروردگار سے راز و نیاز کی باتوں سے وہ اپنے اندر ایسی زبردست روحانی طاقت
و قوت کیف و سرور سکون و اطمینان موجود پائے گا کہ اس کی وجہ سے شب بیداری کا جسمانی تعب و مشقت یا ضعف
و نقاہت یکسر دور ہو جائے گا اور انتہائی نشاط اور چستی کے ساتھ آنے والی رات میں پھر اپنے محبوب پروردگار سے
تہائی میں ملاقات و مناجات کے لئے صبح سے ہی کمر کس لے گا اور بے چینی سے دن بھر انتظار کی گھڑیاں گنتا رہے گا
کہ کب آدمی رات ہو اور کب لقاء حبیب کی یہ سعادت حاصل کروں

یہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت جس پر استقامت سے ہرگز ہرگز کسی بھی قسم کی کوئی بھی مفرت نہیں
پہنچ سکتی یہی حال اور نفلی عبادتوں کا بھی ہے۔

(۱) چنانچہ کثرت سے یا بغیر افطار اور سحری کے روزے رکھنے تمام لوگوں کے لئے ممنوع ہیں صرف اس لئے
کہ ان پر مداومت ان کے بس کی بات نہیں ہے لیکن فوق الحداۃ روحانی قوت کے مالک مقربین بارگاہ الہی نے ہمیشہ
بکثرت یا مسلسل روزے رکھے ہیں چنانچہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صوم وصال (بغیر افطار اور
سحری کے روزہ رکھنے سے عام صحابہ کو ممانعت فرمانے کے موقع پر ایک صحابی کے سوال:

فانك تو اصل یارسول اللہ:

تویارسول اللہ آپ خود بلا سحری اور بغیر افطاری کے روزہ رکھتے ہیں (پھر ہمیں کیوں منع فرماتے ہیں)

کے جواب میں اس نفلی عبادت صوم وصال کے متعلق اپنے طرز عمل کی وجہ آپ یہ بیان فرماتے ہیں۔

قال لست كما حدكم فان ربی يطعمنی ویسقینی

آپ نے فرمایا: میں تم میں سے کسی بھی شخص کی مانند نہیں ہوں اس لئے کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔

روزے کی حالت میں اس کھلانے پلانے کا مطلب یہی ہے کہ روحانی طاقت و قوت جسمانی قوت کی جگہ لے
لیتی ہے اور مسلسل بلا افطار اور بلا سحری کے روزہ رکھنے سے مطلق کمزوری اور نقاہت نہیں ہوتی لہذا ایسی روحانی
قوت کے مالک حضرات کے لئے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے تقرب الی اللہ کے مدارج میں ترقی اور بلندی
کا موجب ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا معاملہ اپنے ساتھ ذیل کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔

والذی هو یطعمنی ویسقینی واذ امرضت فھو یشفینی (شعرا: ۵)

اور وہ رب العالمین جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔

یعنی روحانی طاقت و قوت غذا اور دوا کا کام کرتی ہے۔

اور یہی مطلب ہے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے اپنے مقررین خاص اولیاء اللہ کے ساتھ اپنے ”معاملہ“ کو ذیل کے الفاظ میں بیان فرمانے کا:

وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتی احبته فاذا احبته فکنت سمعه الذی یسمع به وبصره

الذی یبصر به ویدہ الی یبطش بہا ورجلہ الی یمشی بہا الحدیث

میرا بندہ برابر نفلوں کے ذریعہ مجھ سے قریب (سے قریب تر) ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ہی اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں ہی اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں ہی اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

یعنی تمام جسمانی قوتوں کی جگہ الہی قوتیں لے لیتی ہیں وہ آنکھوں سے وہی دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کانوں سے وہی سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سنانا چاہتا ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی انہی چیزوں کی طرف بڑھتے اور اٹھتے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے سبحان اللہ کثرت عبادت پر استقامت کی معراج! کیا شان ہے!

(۲) یہی حال ہے نقلی مالی عبادت یعنی انفاق مال کا کہ ظاہری اور عمومی حالات کے اعتبار سے تو اتنا مال صدقہ و خیرات کرے کہ اس پر بغیر کسی کی حق تلفی کے مداومت بھی ممکن ہو اور خود محتاج بھی نہ رہ جائے لیکن اعلیٰ درجہ کے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنیوالے حضرات عواقب و نتائج سے بے پروا ہو کر اہم اور مناسب مواقع پر اپنی ساری پونجی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے سکتے ہیں چنانچہ اس سلسلہ میں آپ توکل کے باب میں نبی رحمت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے سوال:

مَا اَبْقِیت لاهلک؟ تم نے اپنے اہل و عیال کے لئے کیا باقی چھوڑا ہے؟

کے جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حسب ذیل گزارش پڑھ چکے ہیں۔

فقال ابقیت لہم اللہ ورسولہ

تو عرض کیا: ان کے لئے تو بس اللہ تعالیٰ اور رسول ہی کو چھوڑا ہے۔ حالانکہ عام مسلمانوں کے لئے نبی

رحمت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی ہدایت ہے۔

خیر الصدقہ ماکان عن ظہر غنی۔ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد انسان غنی رہے

نقلی عبادتوں کی کثرت اور اس پر استقامت سے متعلق ثمرات و برکات کا یہ بیان جو گلے از گزارے کے طور پر ایک جملہ معترضہ کی حیثیت رکھتا ہو یہ بھی محض فرضی باتیں یا خیالی افسانے نہیں ہیں بلکہ ایک طرف صرف شب بیداری کی کیفیت سے متعلق قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیات ہی اسی قسم کے شب بیداری کرنے

والے بندگان خدا کے وجود کا ثبوت ہیں دوسری طرف مسلمانوں کی چودہ سو سالہ تاریخ میں بکثرت اس قسم کے شب بیدار اور کثرت عبادت کے شیدائی اولیاء کرام کی ہستیاں ملتی ہیں خود ہمارے امام، امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت طیبہ اور پاکیزہ زندگی شاید ہے کہ برسوں امام صاحب موصوف نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے یعنی ساری رات با وضو عبادت میں مصروف رہے ہیں لیکن ایسے عبادت گزار وہی عارفین ہوئے ہیں اور ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی گونا گوں شیون الہیہ اور جمالی و جلالی صفات پر آفتاب نصف النہار کی طرح یقین و ایمان رکھتے ہیں عام لوگوں کے بس کا یہ کام نہیں ہے۔

اس طویل بحث کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ عام حالات میں اور عام لوگوں کے لئے تو نقلی عبادتوں پر استقامت کے معنی یہی ہیں کہ اتنی نقلی عبادتیں جو کسی لحاظ سے بھی ناقابل برداشت اور کسی کی بھی حق تلفی کا موجب نہ ہوں اور کسی پہلو سے بھی حد سے تجاوز نہ ہوں ان پر انتہائی مستقل مزاجی اور پابندی کے ساتھ ساری عمر قائم رہنا اور کبھی اور کسی بھی حالت میں ان کو نہ چھوڑنا استقامت ہے اور اگر کسی دن کوئی سی بھی نقلی عبادت چھوٹ جائے تو فرض عبادتوں کی طرح اس کی قضا کرنا ضروری ہے تاکہ چھوڑنے کی عادت نہ پڑے یہ بھی استقامت میں داخل ہے۔ لیکن مخصوص لوگ خاص حالات میں مذکورہ بالا تدبیر و اہتمام یعنی تدریجی طور پر اضافہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نقلی عبادتوں پر مداومت کر سکتے ہیں اور یہ نہ غلو ہو گا نہ حد سے تجاوز بلکہ تقرب الی اللہ کا واحد اور بے بدل ذریعہ ہے اور قرآن و حدیث میں بکثرت اس کی ترغیب آئی ہے حتیٰ کہ محدثین کرام نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور ان میں بکثرت احادیث جمع کی ہیں۔

ہاں عام لوگوں کے لئے عام حالات کے اعتبار سے سابقہ مشق و ریاضت کے بغیر نقلی عبادتوں کی کثرت حد اعتدال سے خارج گونا گوں مضرتوں کا موجب اور ممنوع ہے اسی لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے روکا ہے مگر ساتھ ہی مذکورہ سابق حدیث کے الفاظ فاو غلو افیہ برفق سے خاص لوگوں کو اس کثرت عبادت کو آسان اور بے ضرر بنانے کی تدبیر بھی بتلا دی ہے۔

خود فرض عبادتوں پر استقامت کیلئے نقلی عبادتوں پر استقامت ضروری ہے

علاوہ ازیں علماء دین کے نزدیک یہ مسلم اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ہر قسم کی فرض عبادتوں کے ساتھ اسی جیسی تمام نقلی عبادتیں فرض عبادتوں کے لئے مکمل و متمم ہوتی ہیں مثلاً تمام نقلی نمازیں خواہ وہ فرضوں سے پہلے یا بعد کی سنتیں ہوں یا ان کے علاوہ نقلی سب فرض نمازوں کے لئے مکمل ہیں اسی طرح نقلی روزے، فرض روزوں کے لئے نقلی صدقات و خیرات زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے لئے اور نقلی حج اور عمرے حج فرض کے لئے مکمل اور متمم ہیں اس تکمیل و تتمیم کا مطلب یہ ہے کہ فرض عبادتیں مثلاً فرض نمازین اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے بھی اور باطنی روح اخلاص و احسان اور خشوع و خضوع وغیرہ کے اعتبار سے بھی کتنی ہی احتیاط کے

ساتھ ادا کی جائیں پھر بھی ان کا اس معیار پر پورا اترتا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے بہت ہی دشوار ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اور اسکی مراد بیان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض عبادت کے ساتھ اسی جیسی نقلی عبادتوں کا اضافہ فرما دیا ہے تاکہ فرض عبادت کے ادا کرنے میں جو ظاہری یا باطنی کوتاہی یا خامی رہ گئی ہو (جس کا یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے کہ اس کے منشا کے مطابق ادا ہوئی یا نہیں ان نقلی عبادتوں سے اسکی مکافات ہو جائے اس لئے بھی نقلی عبادتوں سے صرف نظر اور استغنا نہیں ہو سکتا بلکہ صرف فرض عبادتوں کے ادا کرنے پر استقامت صحیح معنی میں اس وقت پائی جائیں گی جبکہ ان کی متم نقلی عبادتوں پر بھی استقامت ہو۔

باقی مذکورہ بالا قسم کی اقتصادنی العبادت، عبادتوں میں اعتدال سے متعلق جتنی احادیث آئی ہیں ان کا منشا نقلی عبادتوں سے یا ان کی کثرت سے روکنا ہر گز نہیں ہے بلکہ اس بے اعتدالی سے روکنا مطلوب ہے جو سوء تدبیر یعنی برے طریق کار کا نتیجہ ہوتی ہے اور بہت سی دینی مضرتوں کا سبب بنتی ہے جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔

مگر چونکہ انسان کا نفس انتہا درجہ کام چور ہے خصوصاً عبادات اور ان کی پابندی سے تو اس کی جان نکلتی ہے بڑے ہی دینداری کے دباؤ سے اگر آمادہ بھی ہوتا ہے تو صرف فرض عبادتوں کے ادا کرنے پر اور نقلی عبادتوں سے جان بچانے کے لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا سہارا لیتا ہے جن میں آپ نے عام مسلمانوں کو عام حالات میں غلو یعنی حد سے تجاوز کرنے سے منع فرمایا ہے جن میں سے کچھ حدیثیں آپ پڑھ چکے ہیں حالانکہ یہ محض نفس کا زبردست دھوکا اور فریب ہے یہ مکار انسان کو دینی اور دنیوی سعادتوں سے محروم کرنے کی غرض سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا غلط اور بے جا استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس نفس کے شر سے محفوظ رکھیں آپ بھی اعدوڈ باللہ من شر نفسی پڑھا سکتے تو ان شاء اللہ اس جھمے ہوئے دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے۔

یہ ہے وہ وجہ جسکی بنا پر ہم نقلی عبادتوں کی کثرت اور اس پر استقامت کی اہمیت ضرورت اور شرعاً پسندیدگی کو واضح کرنے پر مجبور ہوئے۔ ومانو فیقی الا باللہ

(۳) معاملات اور احکام پر استقامت

شریعت کی اصطلاح میں ”معاملات“ کا لفظ عبادات کے علاوہ بقیہ امور زندگی کے لئے اور ان سے متعلق احکام خدا اور رسول کے لئے ”احکام“ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے خواہ یہ امور نکاح و طلاق وغیرہ عائلی امور ہوں خواہ بیع و شراء خرید و فروخت قرض و ذمہ وغیرہ تجارتی اور کاروباری امور ہوں خواہ حدود و قصاص، جرم و سزا وغیرہ اجتماعی امور ہوں خواہ رحم و کریم شجاعت و سخاوت وغیرہ اخلاقی امور ہوں شریعت کی اصطلاح میں یہ تمام امور ”معاملات“ کہلاتے ہیں۔ یہ تمام شرعی احکام قرآن و حدیث یا ان سے نکلے ہوئے علم فقہ کے اعتبار سے دو قسم کے ہیں۔

(۱) ایک مامورات وہ امور جن کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔

(۲) منہیات وہ امور جن کے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔

ان مامورات و منہیات پر استقامت کے معنی یہ ہیں

(۱) کہ جن امور کا شریعت نے حکم دیا ہے عمر کے ہر حصہ میں اتنی ہی پابندی اور مستقل مزاجی کے ساتھ مرتے دم تک ان پر کار بند رہے بجز ان صورتوں یا حالات کے جن میں خود شریعت نے ترک کرنے کی اجازت دی ہے کبھی نہ چھوڑے اگر کبھی کوئی مامور بہ امر چھوٹ جائے تو فوراً اس پر توبہ و استغفار کرے اور آئندہ ترک نہ کرنے کا عہد بھی اس لئے کہ ترک مامور بہ جس امر کا شریعت نے حکم دیا ہے اس کو نہ کرنا معصیت ہے اور گناہ کبیرہ۔

(۲) اور منہیات پر استقامت کے معنی یہ ہیں کہ جن امور سے منع فرمایا ہے عمر کے کسی حصہ میں کبھی بھی اور کسی بھی حالت میں ان کے پاس نہ جائے بجز ان صورتوں یا حالتوں کے جن میں خود شریعت نے ان کی اجازت دی ہے ہمیشہ ان سے دور اور مجتنب رہے بلکہ ورع اور تقویٰ کا تقاضہ تو یہ ہے کہ ان حالات اور صورتوں میں بھی ان سے احتراز کرے اور اگر کبھی نادانستہ یا دانستہ طور پر اس کام کو کر بیٹھے تو فوراً اس پر توبہ و استغفار کرے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد بھی اس لئے کہ حرام کام کرنا بردست گناہ اور معصیت ہے۔

احکام شرعیہ کے لحاظ سے مامورات و منہیات کی قسمیں

اور استقامت کے لحاظ سے ان میں فرق

احکام شرعیہ کے لحاظ سے اصولاً مامورات کی دو قسمیں ہیں (۱) ایک فرض یا واجب ان کو اصطلاح میں فرائض کہا جاتا ہے۔ (۲) دوسرے سنت یا مندوب (مستحب) اسی طرح منہیات کی دو قسمیں ہیں (۱) ایک حرام یا مکروہ تحریمی، انہی کو اصطلاح میں محرمات کہا جاتا ہے (۲) دوسرے مکروہ تنزیہی یا خلاف اولیٰ

ان احکام پر عمل کرنے یا نہ کرنے پر یعنی استقامت کے اعتبار سے بھی فرق مراتب ہے

(۱) فرض یا واجب کا ترک کرنا معصیت اور گناہ کبیرہ ہے اگر توبہ نہ کرے تو آخرت میں عذاب کا مستحق ہے۔
(۲) سنت کا ترک کرنا نہ معصیت ہے نہ گناہ ہاں سنت کے ترک پر اگر مداومت کرے یعنی ہمیشہ سنت کو ترک کیا اور توبہ نہ کی تو آخرت میں ترک سنت کا عذاب ہو گا علاوہ ازیں ترک سنت پر شافع محشر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی نارا نگی اور شفاعت سے محرومی کا خطرہ ہے جس سے بڑھ کر ایک ایماندار امتی کے لئے اور کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا اسی طرح (۱) امر حرام یا مکروہ تحریمی سے بچنا فرض ہے اگر اس کا ارتکاب کر لیا اور توبہ نہ کی تو آخرت میں عذاب کا مستحق ہے۔

(۲) مکروہ یا خلاف اولیٰ امر کا ارتکاب کرنا نہ گناہ ہے نہ معصیت مگر اس کے نہ کرنے کے ثواب سے ضرور

محروم رہے گا ہاں اگر وہ محرمات کے محرمات اور دواعی میں سے ہو تو ضرور معصیت اور گناہ ہو گا۔

ان امور و احکام پر مداومت یعنی استقامت کے اعتبار سے بھی فرق مراتب پیش نظر رکھنا ضروری ہے مثلاً فرائض اور واجبات کی پابندی سب سے مقدم ہے سنت اور مستحب کا درجہ اس کے بعد ہے یعنی ایسا ہر گز نہ کرے کہ سنت یا مستحب پر عمل کرنے سے فرض یا واجب کو چھوڑ دے کہ یہ معصیت اور گناہ کبیرہ ہے ہاں فرض یا واجب پر عمل کرنے سے اگر سنت یا مستحب چھوٹ جائے تو اس پر چنداں حرج نہیں مگر استقامت کے خلاف ضرور ہے اس لئے حتی الامکان ایسا موقع ہی نہ آنے دے کہ فرض یا واجب پر عمل کرنے کے لئے سنت یا مستحب کو چھوڑنا پڑے۔ اسی طرح حرام یا مکروہ تحریمی سے بچنا سب سے مقدم ہے مکروہ یا خلاف اولیٰ کا درجہ اس کے بعد ہے ایسا ہر گز نہ کرے کہ مکروہ یا خلاف اولیٰ امر سے بچنے کے لئے کسی امر حرام یا مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر بیٹھے کہ یہ معصیت اور گناہ کبیرہ ہے ہاں حرام یا مکروہ تحریمی امر سے بچنے کی غرض سے اگر کسی مکروہ تنزیہی یا خلاف اولیٰ امر کا ارتکاب کرے تو اس میں چنداں حرج نہیں مگر استقامت کے ضرور خلاف ہے اس لئے ایسی صورت ہی نہ پیدا ہونے دے کہ امر حرام یا مکروہ تحریمی سے بچنے کے لئے کسی مکروہ یا خلاف اولیٰ امر کا ارتکاب کرنا پڑے بلکہ دونوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ مختصر یہ ہے کہ ان امور پر استقامت میں فرق مراتب کا خیال رکھنا ضروری ہے بقیہ تفصیلات کتب فقہ میں دیکھئے۔

جی تو چاہتا تھا کہ قارئین کی آسانی کے لئے ہر ایک کی مثال بھی دی جاتی مگر یہ استقامت کا مضمون اتنا طویل ہو گیا کہ ہم اختصار پر مجبور ہیں۔

استقامت سے متعلق مذکورہ بالا آیات اور انکی تفسیر

اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ان کو اور ان کی پیروی کرنے والوں کو استقامت کا حکم دیتے ہیں ارشاد ہے:

(۱) فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ۱ انه بما تعملون بصير (ہود: ۱۲)

ترجمہ (۱) پس جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے (مخفی کے ساتھ) سیدھی راہ پر قائم رہو اور وہ (مسلمان) بھی جنہوں نے (کفر و عصیان سے) توبہ کر لی ہے تمہارے ساتھ (ہیں) اور (اس سے) ادھر ادھر نہ ہٹو بیشک وہ (اللہ) جو تم کرتے ہو اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے (اس پر تمہاری بے راہ روی مخفی نہ رہے گی)

استقامت کا یہ حکم ذیل کی آیت کریمہ اور اس کے علاوہ متعدد آیات میں دیا گیا ہے ارشاد ہے:

ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهل الذم لا يعلمون (الباقیہ: ۲۷)

ترجمہ۔ پھر ہم نے تمہیں دین کی ایک (خاص) شریعت پر قائم کیا ہے پس تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کے کہے میں مت آؤ جو نہیں جانتے (کہ خدا پرستی کیا ہے)

اس شریعت اور سیدھی راہ کا نام ہی صراط مستقیم ہے جس پر آپ کے قائم رہنے کی شہادت ذیل کی آیات کریمہ میں دی ہے ارشاد ہے:

انك لمن المرسلين على صراط مستقيم (البین: ۱۷)

ترجمہ۔ بیشک تم بھیجے ہوئے نبیوں میں سے ہو سیدھی راہ پر قائم ہو اسی صراط مستقیم کو ذیل کی آیت کریمہ میں اپنا راستہ قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو اس کی پیروی کرنے اور اس پر چلنے کا حکم دیا ہے ارشاد ہے:

وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه (الانعام: ۱۹)

ترجمہ۔ اور بیشک یہی میرا سیدھا راستہ ہے پس تم اس کی پیروی کرو۔

اسی صراط مستقیم پر چلانے کی دعا ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں ارحم الراحمین رب العالمین سے مانگتا ہے اس لئے کہ اس کی توفیق کے بغیر اس پر چلنا ممکن نہیں سورۃ فاتحہ میں تعلیم ہے:

اهدنا الصراط المستقيم: (اے رحمن ورحیم رب العالمین) تو ہمیں سیدھی راہ چلا۔

ذیل کی آیت کریمہ میں خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الہی اسلام کی پوری دنیا کو دعوت دینے اور امر الہی کے مطابق پختگی کے ساتھ اس پر قائم رہنے اور مخالفین کی پرواہ نہ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے ارشاد ہے:

(۲) فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهل آثهم (شوری: ۲۱)

ترجمہ۔ پس تم اسی (دین الہی کی پیروی) کی طرف (لوگوں کو) بلاؤ اور جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے (پختگی کے ساتھ) سیدھی راہ چلتے رہو اور ان (کفار و مشرکین) کی خواہشات کی پرواہ مت کرو۔

ذیل کی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو غیر اللہ سے منہ موڑ کر اللہ کی وحدانیت کے عقیدہ پر ساری زندگی پختگی کے ساتھ قائم رہنے اور اس سے اپنی خطاؤں گناہوں اور نافرمانیوں کی مغفرت چاہتے رہنے کا حکم دیا ہے ارشاد ہے:

(۳) فاستقيموا اليه واستغفروه

ترجمہ۔ پس تم (اے مسلمانو) اس (اللہ) کی طرف ہی سیدھی راہ چلتے رہو اور (اپنی کوتاہیوں کی) اس سے مغفرت چاہتے رہو۔

ذیل کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے عقیدہ پر ساری زندگی قائم رہنے کے عظیم اخروی ثمرات یعنی نعیم جنت کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے ارشاد ہے:

(۴) ان الذين قالوا: ربنا الله، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان لا يخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور الرحيم (حم السجدة: ۲۴)

ترجمہ۔ بیشک جن لوگوں نے (دل سے مان لیا اور زبان سے) کہا ہمارا پروردگار (خالق و مالک) اللہ ہے پھر (ساری زندگی) سختی کے ساتھ (اسی پر) قائم رہے (اور اسی پر مرے) تو ان پر (اللہ کی جانب سے) مرتے

وقت) فرشتے اترتے (اور خوشخبری دیتے) ہیں کہ نہ تم (کسی بات سے) ڈرو اور نہ (کسی چیز کا) غم کرو اور تمہیں اس جنت کی خوشخبری ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا (اور یاد رکھو) ہم ہی تمہارے ولی (کفیل) ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس (جنت) میں تمہارے ہی لئے ہے جس چیز کو بھی تمہارا دل چاہے اور تمہارے ہی لئے ہے جو تم (خدا م جنت سے) منگواؤ (یہ تمہاری) مہمانی ہے بہت بخشنے والے بڑے ہی مہربان (رب) کی جانب سے۔
ذیل کی آیت کریمہ میں یہ ظاہر فرمایا ہے کہ ربوبیت کے عقیدے پر استقامت کا لازمی نتیجہ ہے دین کے احکام پر پابندی کے ساتھ قائم رہنا تب ہی انسان نعیم جنت کا مستحق ہوتا ارشاد ہے۔

(۵) ان الدین قالوا: ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اولئك اصحاب الجنة خلدین فیہا، جزاء بما كانوا یعملون (الاحقاف: ۲۴)

ترجمہ۔ بیشک جن لوگوں نے (دل سے مان لیا اور زبان سے) کہا: ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر (ساری زندگی اس پر) سختی کے ساتھ قائم رہے تو نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غم کریں گے (اس لئے کہ) وہی لوگ ہیں جنت والے وہی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جو وہ (زندگی میں) نیک کام کرتے رہے ان کی جزا ہے۔

آیات کی تفسیر

(۱) پہلی اور دوسری آیت میں لفظ استقامت پورے دین پر، جس کا نام صراط مستقیم ہے سختی کے ساتھ اس طرح قائم رہنے میں استعمال ہوا ہے کہ نہ کبھی از خود اس سے ہٹے اور نہ کسی کے کہے میں آکر اس سے ہٹے یہی ثابت قدمی اور پختگی استقامت کے اصلی معنی ہیں۔

(۲) تیسری آیت میں استقیموا کے ساتھ الیہ کا اضافہ ظاہر کرتا ہے کہ اس استقامت سے عقائد حقہ توحید، رسالت، آخرت اور تقدیر وغیرہ کے یقین و ایمان پر استقامت مراد ہے جس کا لازمی نتیجہ اور اثر اعمال، عبادات و احکام دینیہ پر استقامت ہے اور اس میں جو کوتاہی ہو جس کا ہونا ناگزیر ہے اس کی خدا سے مغفرت طلب کرتے رہنے کا حکم ہے کہ یہ بھی استقامت میں داخل ہے۔

(۳) چوتھی اور پانچویں آیت میں استقامت سے اللہ تعالیٰ کی عظیم جمالی صفت ربوبیت پر کامل یقین اور پختہ ایمان پر استقامت مراد ہے جس کا لازمی نتیجہ بلکہ ثبوت عبادات و احکام شرعیہ پر استقامت ہے اگر عبادات و طاعات پر استقامت نہ ہو تو یہ ربوبیت پر ضعف ایمان و یقین کی دلیل ہے اور اگر عبادات و طاعات پر عمل بالکل ہی نہ ہو تو یہ تو ربوبیت پر ایمان و یقین العیاذ باللہ بالکل ہی نہ ہونے کی علامت ہے اسی لئے دوسری آیت میں تصریح فرمادی کہ یہ عظیم کامرانی یعنی جنت کی ابدی نعمتیں اعمال صالحہ کی جزاء ہے جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر استقامت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت

ربوبیت کا لفظ رب سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں رب ہونا۔ رب کے لفظی معنی تو اگرچہ پالنے والے یا مالک کے ہیں مگر بغیر صفت کے یعنی تہاراب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے اور اسی کے ساتھ مخصوص ہے اسی طرح ربوبیت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی صفات خاصہ میں سے ہے کسی بھی دوسرے پرورش کرنے والے کو نہ رب کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی پرورش کو ربوبیت بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا پرورش کرنے والے کو ”مربی“ کہتے ہیں اور اس کی پرورش کو ”تربیت“ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات جمالیہ میں ربوبیت ایک ایسی بدیہی اور محسوس کی جانے والی صفت اور ناقابل انکار حقیقت ہے کہ انسان چاہے زبان سے اقرار نہ کرے مگر اپنی پوری زندگی میں اس کی کار فرمائی کو محسوس و مشاہد ضرور پاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرتے دم تک ہر حالت میں اور ہر حصہ عمر میں اس کی تمام ضروریات زندگی اس کی خدا فراموشی بلکہ خدا ناشناسی کے باوجود اس طرح پوری ہوتی ہیں اور زندگی کو تباہ کر دینے والی آفات و مصائب سے اس کی حفاظت اس طرح ہوتی ہے کہ بہت سے مواقع پر تو بڑے سے بڑے خدا کے منکر اور خدا دشمن انسان کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلتا ہے کہ بس قدرت نے ہی بچا لیا اور نہ تو بچنا بالکل محال تھا۔

نظام اسباب اور اس کی حفاظت

اس اجمال کی تفصیل اور دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ اگرچہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خالق کائنات نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے وہ جس بندہ کو جو کچھ بھی دیتا ہے اسباب و وسائل اور انسانی تدبیر و تصرف کے ذریعہ دیتا ہے مثلاً بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے پیدا ہوتے ہی وہ سب سے پہلے ماں کا دودھ پیتا ہے جو اس کے لئے غذا اور پانی دونوں کا کام دیتا ہے نیز ماں باپ کے دلوں میں ایک ایسا زبردست طبعی اور فطری جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اولاد کے خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی عمر کو پہنچنے تک بغیر کسی کے کہے سنے اور ہتلائے اولاد کی غذا، لباس و علاج وغیرہ ضروریات کی اس طرح کفالت کرتے ہیں کہ اپنی ذات اور اس کی ضروریات تک بھول جاتے ہیں اس کے بعد کسب ہنر یا تحصیل علم و فن کے لئے بھی اسباب و وسائل معلمین اور درسگاہیں مقرر فرمادیئے ہیں کہ ان کو سیکھ کر یا حاصل کر کے وہ نہ صرف اپنی ضروریات بلکہ آئندہ پیدا ہونے والی اولاد کی بھی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو جاتا ہے یہ نظام اسباب و وسائل اتنا پختہ اور محکم ہے کہ عام طور پر کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خالق کائنات اللہ تعالیٰ خدا ناشناس انسانوں کو اس حقیقت کا مشاہدہ کرانے کی غرض سے (کہ یہ تمام اسباب و وسائل بذات خود تاثیر منفعت یا مضرت رسانی سے بالکل عاری ہیں ان پر تمام تر نتائج، منفعت و مضرت ہم مرتب کرتے ہیں) وقتاً فوقتاً اس نظام اسباب

دوساں کو بالکل معطل اور ناکارہ بناتے اور نتائج و اثرات سے بالکل محروم کرتے رہتے ہیں اور اپنی غیر مرئی قدرت اور ہمہ گیر تصرف کے کرشمے دکھلاتے رہتے ہیں۔

چنانچہ ہر انسان کی زندگی میں بکثرت ایسے مرحلے پیش آتے ہیں کہ قطعی اور یقینی اسباب و وساں موجود اور انسانی تدبیر کار فرما مصروف کار ہونے کے باوجود متوقع نتائج ان پر مرتب نہیں ہوتے اور کام نہیں ہوتے اور ایسے مواقع بھی بکثرت پیش آتے ہیں کہ اسباب و وساں یکسر منقود ہوتے ہیں اور مطلوبہ فوائد و منافع میسر آجاتے ہیں کام ہونے کی امید بالکل نہیں ہوتی اس کے باوجود کام بن جاتے ہیں بڑے سے بڑا مدبر و مفکر انسان بھی سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور حیران ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ خدا ہی جانے کیسے اور کیونکر یہ کام ہو گیا یا ہو رہا ہے مثلاً ڈاکٹر کسی مہلک مرض کے علاج کی غرض سے ماں یا باپ کا ایسا آپریشن کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا اولاد پیدا کرنے کے قابل رہنا ناممکن ہوتا ہے اور وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ساری عمر ان سے اولاد نہ ہوگی مگر ان کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اولاد پیدا ہونے لگتی ہے اسی طرح ڈاکٹر اولاد کے خواہشمند جوڑے کا طبی معائنہ کرنے کے بعد ان کے اولاد پیدا کرنے کے قابل ہونے کا قطعی فیصلہ کر دیتے ہیں اور سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں میاں بیوی بھی تمام تر تدبیریں اور علاج معالجہ کرتے کرتے عاجز آجاتے ہیں مگر ساری عمر نہ حمل ٹھہرتا ہے نہ اولاد ہوتی ہے یا مثلاً آج کل ضبط تولید کی غیر فطری دبا پھیلی ہوئی ہے بیشتر ملکوں کی حکومتیں سر توڑ تدبیریں اور کوششیں کر رہی ہیں سائنسدان ایک سے ایک بڑھ کر قاطع نسل آپریشن، انجکشن اور مانع حمل دوائیں ایجاد کر رہے ہیں اور خدا شناس قومیں بھی افزائش کو جو اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہے روکنے کے لئے انہیں استعمال کر رہی ہیں مگر اس کے باوجود بکثرت ایسی مثالیں سننے اور دیکھنے میں آتی ہیں کہ سارے انجکشن لگوا لینے اور دوائیں استعمال کر لینے کے باوجود اولاد ہوئی ہے اور ہوتی رہی ہے یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان سر پھرے انسانوں اور ان کی تدبیروں کو ذلیل و خوار کرنے کی غرض سے ایک ایک عورت سے بیک وقت چھ چھ بچے پیدا فرما رہے ہیں۔

اسی طرح انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں دیکھا جائے تو اس نظام اسباب اور انسانی تدبیر کے ناکام اور ناکارہ ثابت کرنے والے صدہا واقعات و مشاہدات آپ کو ملیں گے یعنی کامیابی، منفعت، رسانی یا مضرت، رسانی کے اسباب و وساں اور انسانی تدبیریں اور کوششیں قطعاً موجود نہ ہونے کے باوجود خاطر خواہ نتائج، منفعتیں میسر آنے کے اور تمام تر اسباب و وساں موجود اور انسانی تدبیریں اور کوششیں مصروف کار ہونے کے باوجود نتائج میں قطعاً کامیابی میسر نہ آنے کے واقعات و مشاہدات انسانی زندگی میں ہر قدم پر اتنی کثرت سے پیش آتے رہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر انسان اسباب و وساں کے پس پردہ کسی غیر مرئی (نظر نہ آنے والی) طاقت یعنی نظام اسباب سے بالاتر اور اس پر کنٹرول کرنے والی طاقت کے وجود کا کسی نہ کسی عنوان سے اقرار کرنے پر مجبور ہوتا ہے اب جس کی قسمت میں سعادت لکھی ہوتی ہے وہ تو انہی گونا گوں واقعات کی روشنی میں اسباب و وساں کی حقیقت کو سمجھ کر اس عالم اسباب

سے بالاتر اور تمام عالم اسباب میں متصرف طاقت یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے اور اس تمام نظام اسباب و وسائل کے پس پردہ خالق کائنات کی ربوبیت کو کار فرما اور جلوہ گر محسوس کرنے لگتا ہے اور جو شقی ازلی ہوتے ہیں وہ اس قسم کے بے شمار واقعات کو ”اتفاقات“ کہہ کر ٹال دیتے ہیں اور خدا کے انکار پر اڑے رہتے ہیں مگر اس قسم کے منکرین کی تعداد انسانوں کی دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہے نوع انسانی کے اکثر و بیشتر بلکہ تمام تر افراد و اقوام اس نظام اسباب کو کنٹرول کرنے والی اور متصرف طاقت کو کسی نہ کسی عنوان سے تسلیم ضرور کرتے ہیں مگر بد قسمتی سے یہ نظام اسباب کا دبیز پردہ اس خدائی طاقت اور اس کے نظام ربوبیت کو آباد دنیا کی اکثر بیشتر اقوام و افراد کی عقل و بصیرت کو ایمان کی روشنی سے محروم رکھتا ہے اور وہ رب العالمین پر ایمان لانے کی سعادت سے محروم ہیں۔

ہم اس نظام اسباب کے بذات خود تاثیر اور نتیجہ سے عاری ہونے کے سلسلہ میں اس ایک ہی مثال پر اکتفا کرتے ہیں اور سورۃ الواقعہ کی مذکورہ ذیل آیات اور انکا ترجمہ نقل کرتے ہیں جو انسانی زندگی اور اس کی حوائج کے بنیادی اسباب و وسائل پیدا کس پرورش روزی اور موت کے بیان پر حاوی ہے ارشاد ہے:

(۱) افرأیتم ماتمنون ء انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسوقین علی ان نبذل امثالکم و ننشکم فیما لا تعلمون.

(۱) ذرا تم یہ تو بتلاؤ: یہ جو تم چند قطرے (رحم میں) ٹپکا دیتے ہو تو کیا تم اس کو (انسان بنا کر) پیدا کرتے ہو؟ یا ہم ہیں اس کو (انسان بنانے اور) پیدا کرنے والے؟ (پھر بھی تم ہمارے قبضہ سے باہر نہیں ہو جاتے بلکہ) ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کا وقت بھی مقرر کر دیا ہے (اس سے ہرگز نہیں بچ سکتے) اور ہم اس سے بھی عاجز نہیں ہیں کہ (تمہارے جائے) تم ہی جیسے اور لوگ بدل دیں اور تم کو ایسی مخلوق بنا دیں جس کو تم جانتے بھی نہیں (جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو)

(۲) افرأیتم ما تحرثون ء انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلنہ حطاماً فظلمت تفکھون انال مغرمون بل نحن محرومون.

(۲) اور ہاں ذرا یہ تو بتلاؤ! تم جو (زمین میں) بیج ڈال دیا کرتے ہو تو کیا اس کو اگانے والے تم ہو یا ہم ہیں اس کو بونے اور اگانے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اس (ساری اگی اگائی کھیتی) کو روند ڈالیں پھر تم باتیں بناتے پھر وہ (ہائے) ہم تو گھائے میں آگے بلکہ ہم تو بالکل ہی لٹ گئے۔

(۳) افرأ یتم الماء الذی تشربون ء انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلنہ اجاجاً فلولاً لشکرون.

(۳) چھڈا رہیہ تو بتلاؤ: یہ جو (میٹھا) پانی تم پیتے ہو کیا تم اسکو بادلوں سے اُتارتے ہو یا ہم ہیں اسکے اتارنے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اسکو (سندر کے پانی کی طرح) کھرا بنا دیں (اور تم پیاسے مر جاؤ) پھر تم (ہمارا) شکر کیوں نہیں ادا کرتے۔

(۴) افرأ یتم النار الی تورون ء انتم انشائم شجرتها ام نحن المنشون؟ نحن جعلناھا ذکرة
ومتاعاً للمقویین فسبح باسم ربك العظیم (الواقعة: ۲۷)

(۴) اور یہ تو بتلاؤ کہ یہ جو آگ تم (لکڑیوں سے) سلگاتے ہو کیا تم نے ان کے درختوں کو (سوختی) بنایا ہے یا ہم ہیں
ان کو (سوختی) بنانے والے؟ ہم نے اس (لکڑیوں کی) آگ کو اپنی قدرت کی یاد دلانے والی (خاص طور پر بیابانوں میں)
سفر کرنے والوں کے فائدہ کی چیز بنایا ہے پس (اور کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے) تم تو اپنے عظیم پروردگار کی تسبیح کیا کرو۔
انسانی زندگی کے ان چاروں بنیادی اسباب و وسائل میں سے ہر ایک کی پوری تفصیلات و جزئیات قرآن کریم
میں متعدد آیات کے اندر بیان فرمائی ہیں جن کے بیان کرنے کے لئے مستقل دفتر و کار ہے حاصل ان سب کا یہ
ہے کہ یہ ظاہری اسباب و وسائل اور انسانی تدبیریں اور کوششیں جن کو تم نے اپنی نادانی اور حقیقت ناشناسی کی بنا
پر اپنی ضروریات زندگی اور حاجتوں کا پورا کرنے والا سمجھ رکھا ہے یہ بذات خود کچھ نہیں کر سکتے تمہیں جو کچھ یہ
کرتے نظر آتے ہیں دراصل وہ سب کچھ ہم کرتے ہیں چونکہ تمہیں ہماری کار فرمائی نظر نہیں آتی اس لئے تم اس کو
ان کی کارگزاری سمجھ بیٹھے بالکل اسی طرح جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اب کوئی عقل کا دشمن کاغذ پر
قلم کی نوک سے حروف بنتے ہوئے دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ تحریر قلم نے لکھی ہے تو یہ اس کی نادانی ہے یا حماقت
اسی طرح ان اسباب و وسائل اور انسانی تدابیر و مساعی کے ذریعہ ظہور میں آنے والی منفعتوں یا مضرتوں کو یہ سمجھ
بیٹھو کہ یہی ہیں انسان کو مضرت یا منفعت پہنچانے والے اور ہماری ضروریات زندگی بہم پہنچانے والے تو یہ تمہاری
جہالت اور نادانی ہے یا غفلت و بے حسی اسی کا پردہ چاک کرنے اور اپنی کار فرمائی کو منظر عام پر لانے کے لئے ہم وقتاً
فوقتاً ان اسباب و وسائل کو معطل اور انسانی تدابیر و مساعی کو بے نتیجہ بناتے رہتے ہیں۔

بہر حال اس حقیقت کو سچے دل سے مان لینے کے بعد کہ یہ دنیوی اسباب و وسائل اور انسانی تدبیریں تاثیر سے یکسر
عاری ہیں ان پر جو نتائج و ثمرات مرتب ہوتے نظر آتے ہیں درحقیقت ان کا مرتب کرنے والا قادر مطلق مالک الملک
اللہ تعالیٰ ہے انسان کے لئے اس حقیقت کا اعتراف کرنا اور اس پر ایمان لانا بلاشبہ ضروری اور ناگزیر ہو جاتا ہے پیدا ہونے
سے لے کر مرتے دم تک انسان کی تمام ضروریات زندگی پیدا کس پرورش روزی، صحت، شفا اور عمر طبعی کو پہنچنے کے بعد
موت کے اسباب و وسائل کو حقیقی معنی میں مہیا کرنے والا اور حاجتوں کو پورا کرنے والا یعنی انسان کی پرورش کرنے والا
صرف اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ یہ اسباب و وسائل انسانی تدابیر اور دنیوی پرورش کرنے والے ماں باپ وغیرہ جن کے ذریعہ
بظاہر اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور وہ پرورش پاتا ہے یہی مطلب ہے آیت کریمہ ذیل کا ارشاد ہے:

واتاکم من کل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها: ان الانسان لظلوم کفار (ابراہیم: ۵)

اور جو تم نے مانگا اللہ نے وہ تم کو دیا اور اگر تم اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو تم ان کو شمار تک نہیں کر سکتے
پیشک انسان بڑا ہی ناانصاف (اور) بڑا ہی ناشکرا (واقع ہوا) ہے۔

یعنی تمہاری حاجت کو جو تمہاری زندگی کا مطالبہ اور مصلحت کا تقاضا تھی اور ہے اللہ تعالیٰ ان کو پورا ضرور کرتا ہے اور وہ تمہاری ضرورتیں اور حاجتیں جن کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے اتنی ہیں کہ تم ان کو گن بھی نہیں سکتے مگر تم اتنے ناانصاف اور ناشکرے واقع ہوئے ہو کہ کبھی مان کر نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بجائے ان ظاہری ضرورتوں کے کفالت کرنے والے انسانوں کا نام لیتے ہو حالانکہ نہ یہ کچھ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں

ربوبیت کی حقیقت اور اسکی اہلیت

جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں ربوبیت کا لفظ رب سے نکلا ہے رب کے لفظی معنی ہیں پالنے والا پرورش کرنے والا پرورش کے معنی ہیں کسی بھی مخلوق (پیدا شدہ چیز) کو تدریجی طور پر اس کے خلقی اور پیدائشی نقص اور پستی سے نکال کر اس فطری کمال اور بلندی تک پہنچانا جس کی صلاحیت و اہلیت اس کی ذات میں رکھی ہوتی ہے اس بڑھوتری اور ترقی کو ہی ”نشوونما“ کہتے ہیں جو مخلوق چیزیں محض مادی غیر ذی عقل ہوتی ہیں جیسے نباتات و حیوانات ان کے نشوونما کے لئے تو صالح یعنی جزو بدن بننے کے قابل مادی غذاؤں کا مہیا کرنا کافی ہوتا ہے اور جو مخلوق چیزیں مادی بھی ہیں اور روحانی بھی جیسے انسان جس کی پرورش اس وقت ہمارا موضوع بحث ہے ان کی پرورش کے لئے جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی صالح غذاؤں کا ہم پہنچانا اور مہیا کرنا نیز فاسد نشوونما کو نقصان پہنچانے والی غذاؤں سے بچانا اور محفوظ رکھنا پرورش کرنے والے کا اولین فرض ہوتا ہے نیز اس نشوونما کو ضرر پہنچانے اور فطری کمال سے محروم کرنے والی بہت سی خارجی اور داخلی اندرونی اور بیرونی مادی اور روحانی چیزیں ہوتی ہیں جن سے زیر پرورش مخلوق کو دور اور محفوظ رکھنا اور اگر غفلت یا بے احتیاطی کی وجہ سے کوئی جسمانی یا روحانی نقصان پہنچ جائے تو اس کے ازالہ کی تدبیر یعنی جسمانی یا روحانی علاج معالجہ کرنا بھی پرورش کرنے والے کے ذمہ ہوتا ہے اور اگر وہ زیر پرورش مخلوق ذی شعور اور اپنے ارادہ اور اختیار سے نقل و حرکت کی اہلیت بھی رکھتی ہو تو اسکی تمام حرکات و سکنات، نشست و برخاست، اخلاق و اعمال اور اقوال و افعال کی کڑی نگرانی کرنا بھی پرورش کرنے والے کا کام ہوتا ہے نیز اس کی مصالح زندگی اور ظاہری و باطنی مفاہات سے متعلق ضروری ہدایات دینا مفید چیزوں سے آگاہ کرنا اور مضر چیزوں سے منع کرنا اور ان پر عمل کرنے یا نہ کرنے کی نگرانی کرنا بھی پرورش کرنے والے کا اہم کام ہوتا ہے۔

اس لحاظ سے پرورش کرنے والے کے لئے سب سے پہلے تو اس زیر پرورش مخلوق کی پوشیدہ فطری صلاحیتوں سے اور پیدائشی نقص اور پستی سے اور اس نقص اور پستی سے نکال کر فطری کمال اور بلندی تک پہنچانے کی تدبیروں اور طریقوں سے اس کے بعد صالح اور فاسد مادی اور روحانی غذاؤں کے خواص سے ان کے مفید یا مضر اثرات سے اسی طرح دوسری مضرت رساں چیزوں سے اور انکے ضرر و نقصان اور اس کے ازالہ کی تدبیروں و دوا علاج سے گہری اور دور رس واقفیت گونا گوں معلومات و وسیع علم، عظیم قدرت اعلیٰ درجہ کے تدبر اور حکمت کا مالک ہونا کا محققہ پرورش کرنے والے کے لئے از بس ضروری اور لازمی ہے ورنہ وہ کا محققہ پرورش نہ کر سکے گا اور پرورش کرنے والا رب تو کجا مہربانی بھی نہ کہلا سکے گا۔

اللہ رب العالمین کے سوا اور کوئی انسان کی پرورش کر ہی نہیں سکتا

اور ظاہر ہے کہ انسان کا علم و اقیقت اور تجربہ کتنا ہی وسیع اور عمیق کیوں نہ ہو اسی طرح قوت و طاقت کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو بہر حال محدود ہے اور وہ مخلوق یعنی انسان جس کی پرورش زیر بحث ہے ایک وقت میں بھی بی شمار گونا گوں اور پورے بسط ارض روئے زمین پر پھیلی ہوئی اور منتشر ہے اس لئے عقلاً محال بلکہ ناقابل تصور ہے کہ کوئی ایک انسان پوری نسل انسانی کی پرورش کر سکے۔

لاحالہ ایک انسان کے متعلق پرورش کرنے کا تصور تقسیم کار کے طور پر زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کے متعلق ہی کیا جاسکتا ہے لیکن فرائض پرورش کے تنوع اور ایک دوسرے سے مختلف بلکہ متضاد ہونے کے لحاظ سے جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں ایک باپ کے متعلق صرف اپنی اولاد کی پرورش کا تصور بھی چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو عادتاً محال ہے اس لئے کہ انسان کی قوت کار بھی محدود ہے ایک انسان ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے اگر وہ مادی ضروریات زندگی غذا لباس مسکن وغیرہ مہیا کرنے کے لئے کسب معاش میں منہمک ہو گا تو روحانی ضروریات اخلاقی تربیت، تعلیم، اخلاق و اعمال کی نگرانی نہیں کر سکتا اسی پر اور ضروریات پرورش کو قیاس کر لیجئے اس لئے ایک باپ کو بھی تقسیم کار کے اصول پر اپنی اولاد کی تربیت کے مختلف شعبے مختلف انسانوں کے سپرد کرنے از بس ضروری اور ناگزیر ہیں مثلاً صالح مادی غذا لباس وغیرہ ضروریات زندگی وغیرہ مہیا کرنے کا کام وہ اپنے ذمے لے داخلی و خارجی جسمانی مضرت رساں چیزوں دکھ بیماری سے حفاظت اور نقصان پہنچ جانے کی صورت میں اس کے ازالہ کی تدبیر علاج معالجہ وغیرہ کا کام وہ طبیب یا ڈاکٹر کے سپرد کرے روحانی مضرت رساں چیزوں برے اخلاق و اطوار و اعمال سے حفاظت اور نقصان پہنچ جانے کی صورت میں اس کے ازالہ کی تدبیر اخلاق و اعمال کی اصلاح کا کام وہ مربی اخلاق اتالیق کے سپرد کرے اور علوم و فنون کی تعلیم یا صنعت و حرفت سکھانے کا کام وہ معلم اور استاد سے لے اس لحاظ سے ایک باپ کو اپنی اولاد کی پرورش کے لئے کم از کم چار پرورش کرنے والے تو ناگزیر ہیں (۱) ایک خود باپ (۲) دوسرا طبیب یا ڈاکٹر (۳) تیسرا مربی اخلاق یعنی اتالیق (۴) چوتھا معلم یا استاد اس کے باوجود بھی پرورش کے دو نہایت اہم شعبے (۱) ایک اس کی فطری اہمیت و صلاحیت کا پتہ چلانا (۲) دوسرے ناگہانی آفتوں اور حادثوں سے بچانا رہ جاتے ہیں ان کی اہمیت کسی بھی انسان کے اندر نہیں پائی جاسکتی اس لئے کہ نہ ناگہانی آفتوں اور اچانک حادثوں سے کوئی شخص واقف ہو سکتا ہے نہ بچا سکتا ہے اسی طرح پوشیدہ فطری صلاحیتوں کو بھی پیدا کرنے والے کے سوا کوئی اور شخص نہیں جان سکتا اس لئے کہ غیب کا علم تو کسی بھی انسان کو نہیں ہے پھر یہ ناقص ناکام اور مشترک نظام پرورش بھی ناقابل عمل ہے اس لئے کہ ہر ذمہ داری کا کفیل اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے زیر پرورش اولاد کو یقیناً خاص قسم کی ہدایات و احکام دے گا کچھ کاموں اور باتوں سے منع کرے گا کچھ کے کرنے کا حکم دے گا زیر پرورش بچہ کے لئے ان مختلف متنوع

احکام و ہدایات پر عمل کرنا عادتاً ناممکن ہے اس لئے کہ ایک انسان خصوصاً بچہ جس کی فطرت ویسے ہی پابندیوں سے بھاگتی ہے زیادہ سے زیادہ کسی ایک مربی کی ہدایات و احکام پر عمل کر سکے گا۔

دیکھا آپ نے ایک باپ بھی اپنی اولاد کی پرورش کی اہلیت سے عاری اور عاجز ہے بلکہ مذکورہ بالا چاروں کفیلوں کے لئے مل بانٹ کر بھی ایک بچہ کی کماحقہ پرورش محال ہے چہ جائیکہ پوری اولاد آدم اور نسل انسانی کی پرورش دریاں حالیکہ نوع انسانی کا ہر فرد پیدا ہونے کے بعد سے ہی اپنی زندگی بسر کرنے کے لئے جس چیز کا سب سے زیادہ محتاج ہے وہ پرورش ہے اور یہ ماں باپ، معلم وغیرہ دنیوی پرورش کرنے والے تو آپ ابھی پڑھ چکے ہیں کہ حقیقی معنی میں یہ کسی بھی شخص کی پرورش نہیں کر سکتے یہ تو محض ظاہری اسباب و وسائل ہیں اور بس جو بذات خود تاخیر سے بالکل خالی اور عاری ہیں۔

حقیقی معنی میں پرورش کی تمام ترقیہ داریوں کو کماحقہ پورا کرنے کا اہل صرف وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جو اس تمام مخلوق خصوصاً نوع انسانی کا بلا شرکت غیرے پیدا کرنے والا ہے اور جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہی اپنی تمام مخلوق کی پوشیدہ سے پوشیدہ فطری صلاحیتوں اور اہلیتوں سے نیز اپنی اور تمام پیدا کردہ چیزوں کی ذرہ ذرہ منفعتوں اور مضرتوں سے ان کے اچھے برے اثرات سے کماحقہ واقف ہوتا ہے اور چونکہ وہی تمام کائنات و مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اس لئے وہی ان کا مالک و مختار ہے اور سب پر اتنی زبردست قدرت تصرف رکھتا ہے کہ اس کے حکم کے بغیر اس کی دنیا میں پتہ تک ہوا کے جھونکے سے نہیں بل سکتا فعال لعاوید ہے جو چاہے جس چیز سے چاہے کام لے لے اس لئے انسانی فہم سے بالاتر اپنی حکمت و مصلحت کے تحت انسانی زندگی اور اس کی تمام تر ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لئے جو نظام اسباب و وسائل پیدا اور قائم کیا ہے اس کو درحقیقت وہی چلا رہا ہے اور وہی اپنی اس مخلوق کی تمام ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کر رہا ہے یہی مطلب ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے حسب ذیل اعلان کرانے کا:

رب العالمین الذی خلقنی فہو یهدین والذی ہو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین: والذی یمیتنی ثم یحییہن والذی اطعم ان یغفر لی خطیبتی یوم الدین (الشعرا: ۵۷)

تمام جہانوں کا پالنے والا جس نے مجھے پیدا کیا ہے پس تو وہی مجھے (سیدھے راستہ پر) چلاتا ہے اور وہ (پروردگار) ہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور وہ (پروردگار) جو مجھے (جب میرے حق میں مصلحت سمجھے گا تو) موت دے دے گا پھر (حشر کے دن) زندہ کر دے گا اور وہ (میرا پروردگار) جس سے مجھے امید ہے کہ جزا و سزا کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دے گا (کہ یہی غفور و رحیم رب کی رحمت کا تقاضا ہے)

لہذا بے شک و شبہ ہر انسان کا خواہ وہ مومن ہو یا کافر حقیقی پرورش کرنے والا رب وہی وحدہ لا شریک لہ رب العالمین ہے جو اس تمام کائنات کا عرش سے لے کر فرش تک اور فرشتوں سے لے کر جن و انس تک اور حیوانات

سے لے کر نباتات و جمادات تک سب کا بلا شرکت غیرے تنہا خالق و مالک ہے اور اس نظام اسباب و وسائل کے پس پردہ اس کے علم و حکمت اور قدرت کے تحت جو نظام کار فرما ہے وہی نظام ربوبیت ہے اس محسوس و مشاہد نظام اسباب و وسائل میں جہاں آپ دیکھیں کہ ظاہری اسباب کے خلاف واقعات ظہور میں آرہے ہیں اسباب و وسائل قطعاً موجود نہیں ہیں اور کام ہو رہے ہیں یا تمام تر اسباب و وسائل موجود ہیں اور کام بالکل نہیں ہوتے کسی طرح نہیں ہوتے سمجھ لیجئے اور یقین کر لیجئے کہ یہ رب العالمین کے ہماری آنکھوں سے او جھل نظام ربوبیت کی کار فرمائی اور کرشمہ سازی ہے اور پہلی صورت میں فوراً اس رب العالمین کا شکر ادا کیجئے تاکہ اسی طرح بلا اسباب و وسائل سارے کام بنتے رہیں اور دوسری صورت میں فوراً توبہ و استغفار کیجئے تاکہ رب غفور و رحیم کی ناراضگی اور خفگی دور ہو اور اسباب سازگار ہو جائیں ہم خود ہماری یہ دنیا اور اس دنیا میں کار فرمایہ نظام اسباب سب مشاہد مخلوق ہیں اور یہ عالم عالم شہادت ہے اس لئے ہم اس نظام اسباب کی ایک ایک جزئیات اور تفصیلات سے واقف ہیں اسی لئے ان اسباب و وسائل اور تدابیر و مساعی کو اختیار کرنے کے مامور بھی ہیں اور مکلف بھی اس کے برعکس نظام ربوبیت ہماری آنکھوں سے او جھل اور دست رس سے بالاتر ہے اور عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے اس لئے اس کے متعلق ہم اتنا ہی جان سکتے اور بتلا سکتے ہیں جتنا ہمارے رب رحمن و رحیم یا اس کے رسول رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے یا خدا شناس عقل ہماری رہنمائی کرتی ہے۔

ربوبیت کے اہم تقاضے رب سے متعلق

اب ہم رب العالمین کی ربوبیت کے چند اہم تقاضوں پر متنب کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ایک مسلمان اپنی زبان سے ربنا کہنے کی ذمہ داری کو محسوس کرے (۱) ایک یہی خواہ اور مہربان پرورش کرنے والے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ زیر پرورش شخص یا اشخاص کی ضروریات اپنے علم و حکمت کے مطابق پوری کرے نہ کہ اس کی طلب اور خواہش کے مطابق اس لئے کہ اس کو خود اپنی منفعت و مضرت اور مصالح زندگی کا علم نہیں ہوتا اس لئے وہ بعض اوقات ان چیزوں کو طلب کرتا ہے جو اس کے لئے مضرت رساں اور مصلحت کے خلاف ہوتی ہیں اور ان چیزوں سے بھگتا بلکہ انکار کرتا ہے جو اس کے لئے منفعت رساں اور اس کی مصالح کا تقاضا ہوتی ہیں اس لئے مہربان پرورش کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ اس کو وہی چیزیں دے اور وہی خواہش پوری کرے جو اس کے لئے مفید اور مصلحت کے مطابق ہوں خواہ وہ ان سے کتنا ہی ہی بھاگے اور انکار کرے اور وہ چیزیں ہرگز نہ کرے جو اس کے لئے مضرت اور خلاف مصلحت ہوں چاہے وہ ان کے لئے کتنا ہی اصرار اور منت و خوشامد کرے یہی مطلب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا:

عسی ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم

تم سے کچھ بعید نہیں کہ تم ایک چیز کو برا اور ناگوار سمجھو، حالانکہ وہ تمہارے لئے بہتر اور مفید ہو۔

وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم

اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ تم ایک چیز کو دوست رکھو اور پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لئے بہت بری اور مضر ہو۔

والله يعلم وانتم لا تعلمون

اللہ ہی (چیزوں کے بہتر و بدتر اور مفید و مضر ہونے کو) جانتا ہے اور تم (کچھ) نہیں جانتے (اس لئے اسی کا کہا مانو اسی میں تمہاری خیر ہے)

اور یہی ہوتی ہیں ہماری وہ دعائیں جو اللہ رب العالمین کے اس وعدہ کے باوجود۔

ادعونی استجب لکم..... تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔

قبول نہیں ہوتیں اس لئے جب آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو یقین کیجئے کہ یہ ہمارے حق میں مضر ہے یا ہماری

مصلحت کے خلاف ہے یہ دوسری بات ہے کہ مہربان پرورش کرنے والا ازراہ لطف و کرم اس کی دل وہی کے لئے کوئی اور ایسی خوش آئند چیز جو اس کے لئے مضر یا خلاف مصلحت نہیں ہوتی دے کر بہلا دیتا ہے یہی معاملہ ہے رؤف و رحیم رب العالمین کا اپنے بندوں کے ساتھ جیسا کہ دعا کی قبولیت کی تفصیل سے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے۔

(۲) نیز خیر خواہ پروردگار کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ زیر پرورش فرد اگر اپنے پروردگار کی ان ہدایات

واحکامات کی یہی ہدایات واحکام ہیں وہ احکام شرعیہ یعنی مامورات و منہیات جن کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے جو اسی کے فائدے کے لئے وہ دیتا ہے نافرمانی کرے تو اس کی خیر خواہی و پروردگاری کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس سے اپنی ناراضگی کا عملاً اظہار کرے یعنی اس سرتابی کے زائل ہونے تک نظر شفقت و رحمت اس سے پھیر لے یا عبادات کے ثمرات و برکات سے محروم کر دے یا ضروریات پورا کرنے میں بطور سزا کچھ کمی کر دے یا اور کوئی جسمانی سزا دے۔ دکھ مصیبت میں گرفتار کر دے اور جب وہ حسب مصلحت تولاً اور فعلاً فرمانبرداری کا اظہار کرے تو کچھ انعام وغیرہ دے کر حوصلہ افزائی کرے یہی راز ہے انسان کے رزق کی تنگی یا دکھ بیماری یا آفات و مصائب وغیرہ میں گرفتار ہونے کا اور اس کے توبہ و استغفار کرنے کے بعد رزق کی وسعت، خوشحالی، دولت مندی، عزت و جاہ کے میسر آنے کا جن سے انسان اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً دوچار ہوتا ہے چنانچہ ارشاد ہے:

وما اصابکم من مصيبة فبما کسبت ايديکم ويعفوا عن کثير و ما انتم بمعجزين فى الارض

و مالکم من دون الله من ولى ولا نصير.

اور جس مصیبت میں بھی تم گرفتار ہوتے ہو وہ تمہاری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے اور وہ (ارحم الراحمین)

بہت سی تمہاری کرتوتوں سے تودر گزر کرتا رہتا ہے اور تم روئے زمین میں (کہیں بھی) اس کے قابو سے باہر نہیں

ہو اور (یاد رکھو) اللہ کے سوانہ تمہارا کوئی ولی (سرپرست) ہے نہ مددگار۔

اسی طرح ایک رحمن و رحیم پروردگار کی ربوبیت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کی زیر پرورش مخلوق یعنی بندوں میں سے جو لوگ برملا اس کی ربوبیت کا انکار کریں یا اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے کو اپنا رب کہیں اور زندگی بھر اسی انکار و عناد، کفر و شرک، پڑاے رہیں انہیں اس دائمی انکار و عناد کی ابدی سزا بھی دے یعنی ہمیشہ ہمیشہ انہیں اپنے قہر و غضب کی آگ نار جہنم میں اس طرح جلائے کہ لایموت و لایحییٰ نہ مرے نہ جنے یہی معنی ہیں مذکورہ ذیل آیات کے:

(۱) ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء

پیشک اللہ اس کو تو معاف نہیں کرے گا کہ اس ساتھ کسی اور کو شریک مانا جائے (یعنی شرک اور کفر کو توبہ کئے بغیر ہرگز معاف نہیں کریگا اس سے کم درجہ کے گناہوں کو جس کیلئے چاہے گا) اور مناسب جانے گا) معاف کر دیگا۔

(۲) وان ربک لذو مغفرة و ذو عقاب الیم

اور پیشک تمہارا پروردگار (بڑا ہی) مغفرت کرنے والا اور (بڑا ہی) دردناک عذاب دینے والا ہے۔

(۳) ان بطش ربک لشدید

پیشک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔

دیکھئے آخری دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم صفت رب ہی واقع ہوا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بطش شدید اور عقاب الیم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہی کے تقاضے ہیں ان دونوں کی رب العالمین نے قرآن عظیم میں بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے تاکہ ان تفصیلات کو پڑھ کر یا سنکر ان فریب خوردہ اپنی جان کے دشمن انسانوں کی آنکھیں کھل جائیں اور کم از کم مرنے سے پہلے تو اس پر اور اس کی ربوبیت پر ایمان لے آئیں جو مکار نفس اور شیاطین جن وانس کے دام فریب اور خواہشات و لذات نفس کے سبز باغ سے دھوکا کھا کر اندھے بہرے اور گونگے بنے ہوئے ہیں اور رب العالمین کا اسکی ربوبیت کا جس کی بدولت وہ دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی ہدایات و تعلیمات کا جو انہی کے فائدے اور مصلحت کی غرض سے اس نے دی ہیں انکار کر رہے ہیں اور کند چھری سے اپنی انسانیت کا گلا کاٹ رہے ہیں اور محرمات و منہیات کے مہلک زہر کے پیالے پر پیالے چڑھائے جا رہے ہیں

ربوبیت کے اہم ترین تقاضے زیر پرورش مخلوق سے متعلق

اب تک آپ نے ربوبیت یعنی پرورش کے ان تقاضوں کا بیان پڑھا ہے جو رب پرورش کرنے والے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے علاوہ ربوبیت کے کچھ تقاضے ایسے بھی ہیں زیر پرورش شخص یا اشخاص سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً پرورش کی مذکورہ بالا تفصیل و تشریح پڑھ کر اس بات میں تو کسی صحیح العقل انسان کو ذرہ برابر شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا کہ اللہ رب العالمین کی یہ عالمگیر اور ہمہ گیر پرورش جو بندوں کے کفر و شرک، انکار و عناد، سرکشی و سرتابی، فسق و فجور کے باوجود جاری رہتی ہے اتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ بندہ اس کے سوا اور کسی طرح اس انعام و احسان کا شکر ادا کر ہی

نہیں سکتا کہ اپنی تمام تر ہمت اور عملی قوت اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں یعنی اس کی مقرر کردہ عبادات اخلاص کے ساتھ ادا کرنے میں صرف کرے اور ثابت قدمی کے ساتھ مرتبہ دم تک ان عبادتوں کے ادا کرنے پر قائم رہے جو اس نے فرض کی ہیں کہ کیونکہ یہ عبادت پر استقامت ایک طرف اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے اور انعام و احسان کا شکر ادا کرنے کی واحد صورت ہے دوسری طرف اس کے وعدے۔

لئن شکرتم لازیدنکم..... اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔

کے بموجب زیادہ سے زیادہ اس کے انعام و احسان حاصل کرنے کا وسیلہ ہے بندہ جتنا زیادہ یہ شکر نعمت یعنی عبادت ادا کرے گا اتنا ہی اس کے انعام و احسان میں اضافہ ہو گا اتنی ہی پرورش اور روحانی و جسمانی ظاہری و باطنی نشوونما زیادہ تر اور بہتر ہو گی اس لحاظ سے اس عبادت گزاری کی عظیم تر منفعت بھی اسی عبادت گزار بندے کو نصیب ہو گی اور وہ کامل سے کامل تر انسان بن سکے گا۔

اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ادا کرنے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کی یا بالکل ہی ترک کر بیٹھا تو ایک طرف تو اس ناشکری اور نمک حرامی کی کینگی کی بنا پر اشرف المخلوقات کے مقام عظمت و رفعت سے گر کر جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جائے گا یہی مطلب ہے آیت کریمہ:

اولئك كالانعام بل هم اضل

وہ (کافر و منکر) تو جانوروں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اس لئے کہ جانور بھی اپنے چارہ ڈالنے والے مالک کو پہچانتا اور اس کے سامنے سر جھکا تا ہے دوسری طرف کفران نعمت یعنی ناشکری اور نمک حرامی کے شدید ترین جرم کا مرتکب ہو گا اور آیت کریمہ ذیل کے بموجب اس کی دردناک سزا بھگتنی ہو گی ارشاد ہے:

ولئن كفرتم ان عذابی لشديد

اور اگر تم نے ناشکری (اور نمک حرامی) کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے

اور انسانیت کا چہرہ مسخ ہو جانے کی وجہ سے روحانی نشوونما کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا وہ الگ رہا۔ اس لحاظ سے پرورش کی تکمیل اور رب العالمین کی ربوبیت سے کما حقہ بہرہ یاب ہونے کے لئے زیر پرورش بندوں کا اپنے ولی نعمت آقا اللہ رب العالمین کی فرض کردہ عبادتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے پر قائم رہنا انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے اور عقل و خرد کا تقاضا بھی ہے اور ربوبیت الہیہ سے پورا پورا فائدہ حاصل کرنے کا تقاضا تو ہے ہی۔

(۲) اسی طرح پرورش کی تشریح کے ذیل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ پرورش کے لازمی تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ پرورش کرنے والا محض زیر پرورش مخلوق کی منفعتوں اور مضرتوں کی اور مصالح و مفادات کی حفاظت اور نگرانی کی غرض سے ضروری ہدایات و احکامات دے یعنی جسمانی یا روحانی مضرت رساں چیزوں

یا کاموں کے اختیار کرنے سے منع کرے اور منفعت رساں چیزوں یا کاموں کے اختیار کرنے کا حکم دے انہی ہدایات و احکامات کا نام منہیات و مامورات شرعیہ یا احکام الہیہ ہے ظاہر ہے کہ ان احکام شرعیہ کی خلاف ورزی یا نافرمانی اپنی پرورش کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے بلکہ تباہ کرنے کے مرادف ہے پرورش کرنے والے رب العالمین کی ناراضگی عقاب و عذاب دنیوی الگ رہا اس لئے زیر پرورش بندوں کا انتہائی ضروری فرض اور ذمہ داری ہے کہ وہ پوری پابندی کے ساتھ زندگی بھر احکام دینیہ کی پابندی پر قائم رہیں اور اگر ازراہ غفلت یا نادانستہ طور پر کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو اسی رب غفور کے بتلائے ہوئے طریق پر یعنی توبہ و استغفار کے ذریعہ جلد از جلد اس کی تلافی کریں تاکہ جسمانی یا روحانی نشوونما میں خلل نہ پڑے۔

ربنا اللہ کہنے کے اور اس پر استقامت کے معنی

ربوبیت کی اس تمام تر تفصیل کو ذہن نشین کر لینے کے بعد سمجھئے کہ ربنا اللہ کہنے کے جس کا ذکر قرآن عظیم کی آخری دو آیتوں میں آیا ہے کیا معنی ہیں اور اتنی سی بات کہنے اور ساری عمر اس بات پر قائم رہنے سے کس طرح ایک انسانی تصور سے بالاتر جنت اور نعیم جنت کا جن کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر:

نہ کسی آنکھ نے (وہ جنت) دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گذرا۔
مستحق اور مالک کیونکر بن جاتا ہے۔

مثالیں:

دیکھئے جس طرح کسی ملک میں رہنے والا جب اپنی زبان سے کہتا ہے میں اس ملک کا شہری ہوں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس ملک کی حکومت کے تمام قوانین و احکام کی پابندی اپنے ذمہ لیتا ہے اور ان میں سے کسی ایک قانون یا حکم کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں اپنے مجرم اور مستحق سزا ہونے کا اقرار کرتا ہے اور خدا نہ کرے ایسی صورت پیش آجائے تو خود کو خواہی نخواہی سزا کے لئے پیش کر دینے کی ذمہ داری بھی لیتا ہے۔

اسی طرح کسی شخص یا محکمہ کا ملازم جب اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص یا محکمہ کا ملازم ہوں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس شخص یا دفتر کی مفوضہ خدمات، جن کاموں کے لئے وہ ملازم رکھا گیا ہے کسی کوتاہی یا خیانت کے بغیر پابندی کے ساتھ انجام دینے اور اس شخص یا دفتر کے ان خدمات سے متعلق احکامات کی تعمیل کرنے کو اپنے ذمہ لیتا ہے اور اگر دانستہ یا نادانستہ کوئی کوتاہی، خلاف ورزی یا خیانت سرزد ہو جائے تو اس کی پاداش میں سزا کو قبول کرنے کے لئے آمادگی کا بھی اقرار کرتا ہے۔

اسی طرح جب کوئی عورت کسی مرد کے متعلق اپنی زبان سے کہتی ہے کہ یہ مرد میرا شوہر ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ عورت اس مرد کے تمام حقوق زوجیت ادا کرنے اپنے اوپر اس کو قدرت دینے اور ان حقوق سے متعلق اس کے احکامات کی اطاعت کرنے کی ذمہ دار بنتی ہے اگر دانستہ یا نادانستہ طور پر کبھی کوئی حق تلفی یا خلاف ورزی سرزد ہو جائے تو اس کی مقررہ پاداش بھگتنے کے لئے آمادگی کا بھی اقرار کرتی ہے۔

اسی طرح جب کوئی مرد کسی عورت کے متعلق کہتا ہے کہ یہ عورت میری بیوی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ مرد اس عورت کے مقررہ نفقات ضروریات زندگی اور اخراجات کی کفالت کا اور اس کے علاوہ دوسرے ازدواجی حقوق کے ادا کرنے کا ذمہ دار بنتا ہے اگر ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کوتاہی ہو یا بالکل ہی پورا نہ کرے تو وہ اس کی پاداش میں عورت کے عدالتی چارہ جوئی کرنے اور فیصلہ کی صورت میں خواہی نخواہی اس کو فارغ خطی لکھ دینے اور ازدواجی رشتہ سے آزاد کر دینے کے لئے آمادگی کا بھی اقرار کرتا ہے۔

یہ مثالیں صرف سہولت فہم اور آسانی سے سمجھنے کی غرض سے ذکر کی گئی ہیں کہ ذرا سی زبان سے کہی ہوئی بات کے معنی اور مصداق میں کتنی وسعت اور اہمیت رکھی ہوتی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مقدس صفات کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں لیس کھٹلہ شہیاء اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں یہ اس کا اپنی اور اپنی صفات کے متعلق اعلان ہے اس لئے آپ رب اور ربوبیت سے متعلق مذکورہ بالا تفصیلات کو سامنے رکھ کر یوں سمجھئے کہ جب ایک عاقل و بالغ انسان بقائمی ہوش و حواس دل سے ماننا اور زبان سے کہتا ہے وہی اللہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے تو وہ پورے اخلاص کے ساتھ محض اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کی غرض سے اس کے بیان فرمودہ تمام عقائد پر یقین و ایمان رکھنے کا اس کی فرض کردہ تمام عبادتوں کے مقدور بھرا کرنے کا اور اس کے تمام احکامات مامورات و منہیات کی تابعدار اطاعت کرنے کا ذمہ دار بنتا ہے اور استقامت سے متعلق تمام مذکورہ بالا تفصیلات کو سامنے رکھ کر تم استقامت کے معنی یہ سمجھئے کہ عقائد حقہ کے یقین و ایمان پر ساری زندگی اس طرح قائم رہے کہ کبھی بھی اور کسی بھی حالت میں ذرہ برابر شک و شبہ یا تذبذب و تردد اس یقین و ایمان میں راہ نہ پاسکے اور مقدور بھر عبادت ادا کرنے پر ساری عمر اس پختگی کے ساتھ قائم رہے کہ عذر شرعی کے علاوہ کبھی بھی عداور دانستہ کوئی فرض عبادت نہ چھوڑے اور حد اعتدال میں رہ کر نقلی عبادتیں بھی پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے اگر تقاضا بشریت نادانستہ یا غفلت سے کبھی کوئی عبادت چھوٹ جائے فوراً اس کی قضا کر لے اور توبہ و استغفار کر کے سہو یا غفلت کی تلافی کر دے اور احکام شرعیہ کی تابعدار اطاعت اس طرح کرے کہ کسی بھی امر مامور بہ کو دانستہ کبھی نہ چھوڑے اور کسی بھی امر منہی عنہ کے دانستہ پاس تک نہ جائے اگر کبھی کوئی امر مامور بہ غفلت سے چھوٹ جائے یا غفلت سے امر منہی عنہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو فوراً توبہ و استغفار کے ذریعہ اس کی تلافی کر دے ساری زندگی پختگی اور پائیداری کے ساتھ اسی معمول پر قائم رہے اسی پر جسے اسی پر مرے۔

ایسے فرشتہ صفت بلکہ فرشتوں سے بھی افضل ارباب عزیمت اور اصحاب استقامت انسان یقیناً اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اور مقرب ترین بندے ہیں اور یہی جنت نعیم کے مالک ہیں بلکہ دراصل جنت انہی کے لئے ہے اور باقی ان سے کم درجہ کے مسلمان تو ان کے طفیل میں جنت میں جائیں گے اس لئے کہ وہ بھی کسی نہ کسی حد تک انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے اور رات دن دعا مانگتے رہے ہیں۔

اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم:

(اے رحمن و رحیم رب العالمین) تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔
 ارحم الراحمین سے دعا ہے کہ وہ محض اپنے فضل و کرم سے انہی اصحاب استقامت ربنا اللہ کہنے والے مومنین کے
 زمرہ میں قارئین کتاب کو بھی اور ہمیں بھی شامل فرمائیں آمین بحرمتہ سید المرسلین رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔

استقامت سے متعلق احادیث اسلام کیا ہے؟

وعن أبي عمرو ، وقيل : أبي عمرة سفیان بن عبد الله رضي الله عنه ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ . قَالَ : ” قُلْ : آمَنْتُ بِاللَّهِ ، ثُمَّ اسْتَقَمَ “ رواه مسلم .

ترجمہ: حضرت ابو عمرہ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں: (ایک دن) میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ مجھے اسلام کے متعلق ایسی (تسلی بخش) بات بتلا دیجئے کہ پھر مجھے کسی سے اسلام کے متعلق سوال نہ کرنا پڑے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم (دل سے) آمینت باللہ کہہ لو اور پھر پختگی کے ساتھ (زندگی بھر) اس پر قائم رہو (بس یہی اسلام ہے)

آمینت باللہ کے معنی

تشریح: آمینت باللہ دراصل ایک معاہدہ ہے اس امر کا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو اور اس کے ہر حکم کو مان لیا اور اس پر عمل کرنا اپنے ذمہ لے لیا اس لئے آمینت باللہ میں اللہ پر ایمان لے آیا کے معنی یہ ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین اسلام پر یعنی اسلامی عقائد پر عبادات پر اور احکام پر ایمان لے آیا دل و جان سے ان کو برحق مان لیا اور ان پر عمل کرنے کا ذمہ دار بن گیا لہذا آمینت باللہ کہنے کے بعد جو شخص اسلام کے کسی بھی عقیدہ کو یا کسی بھی عبادت کو یا کسی بھی حکم کو نہ مانے اور اس کا سرے سے انکار کر دے یا اس کے کوئی ایسے معنی اور مراد بتلائے جو نہ اللہ تعالیٰ نے بتلائے نہ رسول نے نہ ہی اس چودہ صدیوں کے عرصہ میں کسی صحابی نے امام نے مجتہد نے یا کسی بھی مسلم و مستند عالم نے بیان کئے تو اس نے خود اپنی زبان سے اپنے قول آمینت باللہ کی تردید و تکذیب کر دی معاہدہ کو توڑ دیا اور اسلام سے خارج اور کافر و مرتد ہو گیا اس لئے کہ اسلام نام ہے مجموعہ عقائد و عبادات و احکام کا ان تینوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار یعنی کسی بھی عقیدہ کا انکار کسی بھی عبادت کا انکار یا کسی بھی حکم کا انکار اسلام کا انکار ہے چنانچہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم یعنی لڑائی میں اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی مذہب یہودیوں کو قتل کرنے کا خلاف کیا تھا تو اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

الْفُتُونُونَ بَعْضُ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْإِخْزَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ (بقرہ: ۱۰۷)

تو کیا تم (آسمانی) کتاب (تورات) کا ایک حکم مانتے ہو ایک کو نہیں مانتے؟ تو تم میں سے جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کی سزا تو دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کا کسی حکومت کو تسلیم کرنا ایک معاہدہ ہوتا ہے اس امر کا کہ میں نے اس حکومت کے تمام قوانین و احکام کو مان لیا اور ان پر عمل کرنے کا ذمہ دار بن گیا اور اس کے بعد اگر وہ حکومت کے کسی ایک قانون کو بھی نہ مانے خواہ وہ فوجداری کا قانون ہو یا دیوانی کا تو وہ اس حکومت کا باغی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں۔

يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين
اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو (کہ کوئی بات تو مانو اور کوئی نہ مانو) بیشک وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

لہذا جو شخص خاتم النبیین کو آخری نبی نہ مانے یا اس میں کوئی تاویل کرے اور آپ کے بعد کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کا نبی مانے یا قرآن عظیم کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہ مانے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت جذب و استغراق یعنی توسیع ذات میں کہا ہوا کلام کہے یا نماز کو عبادت نہ مانے اور کہے یہ تو اس زمانے کے فوجی تنظیم (ڈسپلن) سے ناواقف مسلمانوں کو فوجی تربیت دینے کی ایک مشق (پریڈ) تھی ہمارے زمانہ میں فوجی تعلیم و تربیت کی باضابطہ درس گاہیں کھل گئی ہیں اب نماز کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی یا زکوٰۃ کو مالی عبادت ماننے کے بجائے اسلامی حکومت کا ٹیکس قرار دے اور کہے کہ جس شخص نے سرکاری ٹیکس دے دیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اسی طرح حج کو عبادت نہ مانے بلکہ اس زمانے کے مسلمانوں کی ایک سیاسی کانفرنس بتلائے جو آپ نے مکہ میں بلائی تھی کاروباری سود کو تجارتی منافع کہہ کر حلال اور جائز بتلائے یا ہی رضامندی کے ساتھ زنا کو جائز قرار دے شراب اتنی جس سے نشہ نہ ہو یا بیروغیرہ شرابوں کو حلال کہے غرض اسی طرح تمام شرعی احکام کا یہ کہہ کر انکار کر دے کہ یہ احکام اب سے چودہ سو برس پہلے عرب معاشرہ کے تقاضا کے مطابق دیئے گئے تھے اب نہ وہ زمانہ ہے نہ وہ معاشرہ اب ان کے بجائے قانون ساز اسمبلیوں کے بنائے ہوئے قوانین اور برسر اقتدار حکومت کے احکام کی پابندی فرض ہے یہ اور اسی قسم کے نام نہاد مسلمان اپنی زبان سے خود اپنے ایمان و اسلام سے خارج ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین پر ایمان لانے کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کے کھلے ہوئے دشمن یہودی اور نصرانی مستشرقین اور ان کی تحقیقات پر ایمان لائے ہیں انہی شیاطین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ان کو اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔

باقی جو لوگ مانتے سب کچھ ہیں مگر عمل کسی ایک چیز پر بھی نہیں کرتے نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں نہ کبھی روزہ رکھتے ہیں مالدار ہونے کے باوجود نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ حج کرتے ہیں اس کے برعکس مذکورہ بالا اور ان کے علاوہ تمام حرام

کاریوں میں اور کافروں مشرکوں جیسے کاموں میں شب و روز زندگی بسر کرتے ہیں تہذیب میں تمدن میں غرض ہر چیز میں انہی جیسا بننے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں ایسے لوگ بھی اپنے عمل سے اپنی زبان کی یعنی آمنت باللہ کی تردید و تکذیب کرتے ہیں اگر ایسے لوگ مرنے سے پہلے صحیح معنوں میں سچے دل سے توبہ نہ کریں گے اور کلی طور پر اسلام کے عقائد عبادات و احکام کی پابندی نہ اختیار کریں گے تو ان تمام سزاؤں اور جہنم کے عذاب کے مستحق ہوں گے جو قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں اور ان کفار مشرکین کے ساتھ ہی ان کا حشر ہو گا جن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مریں گے اور اگر کچھ عبادتیں تو ادا کرتے ہیں کچھ نہیں یا کبھی ادا کرتے ہیں کبھی نہیں اسی طرح شریعت کے بقیہ احکام میں سے کچھ پر عمل کرتے ہیں کچھ پر نہیں یا کبھی عمل کرتے ہیں کبھی نہیں تو یہ استقامت کے خلاف اور منافی ہے اس لئے ان لوگوں کا ایمان و اسلام پکا اور پختہ نہیں ہے جو عبادتیں ترک کی ہیں ان کی قضاہ کی یا جو گناہ اور نافرمانیاں کی ہیں مرنے سے پہلے ان سے توبہ نہ کی تو اپنی نافرمانیوں اور گناہوں کی سزا عذاب جہنم کے مستحق ہوں گے آخری دونوں قسم کے لوگ مسلمان تو کہلائیں گے مگر فساق و فجار کے زمرہ میں داخل ہوں گے اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہ کیا تو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کے بقدر جہنم کی آگ میں ضرور جلیں گے اس پورے بیان کے ایک ایک فقرہ کے ثبوت اور دلیل میں قرآن کریم کی صریح آیات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں طوالت سے بچنے کی غرض سے ہم نے ذکر نہیں کیا ہے۔

اس زمانہ میں چونکہ ملحدوں اور بے دینوں کا ایک مخصوص فرقہ اپنے مخصوص مشن کے تحت اسلام کے نام پر اسلام کے عقائد عبادات اور احکام کی بیخ کنی پر تلا ہوا ہے اور ”ماڈرن اسلام“ تیار کرنے کے درپے ہے اس لئے آمنت باللہ کی تشریح میں ہم نے مذکورہ بالا تفصیلات کا بیان کرنا ضروری سمجھا تاکہ کتاب کے قارئین ان دشمنان اسلام یہودیوں اور نصرانیوں کے مہروں کی شاطرانہ چالوں میں نہ آئیں اور اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمنت باللہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائیں آمین بحرمۃ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔

ایک اہم نکتہ آمنت باللہ اور ربنا اللہ کا باہمی ربط

اللہ تعالیٰ کی ذات اس تمام کائنات سے ماوراء انسانی نظر و فکر اور عقل و فہم کی دسترس سے بالکل ہی وراہ الوراء دور سے بہت دور ہے ہمارے لئے اس کے علم و معرفت کا جو اس پر ایمان لانے کے لئے از بس ضروری ہے ذریعہ اس کے سوانہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ یا جو خود اس نے اپنے کلام قرآن عظیم میں اپنا تعارف کرایا ہے اس کے ذریعہ اس کا علم حاصل کریں یا پھر اس کی جن صفات و شیون شانوں کو ہم اپنی ذات و صفات اور اپنی زندگی میں کار فرما پاتے ہیں ان کے ذریعہ اس کا علم حاصل کریں۔

علم و معرفت الہی کے انہی دونوں ذریعوں میں کامل غور و فکر اور تلاش و جستجو کے بعد اہل ایمان اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اللہ تو اس کا اسم جلالت یعنی علم شخصی اور ذاتی نام ہے چنانچہ علماء اسلام نے اللہ کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ اللہ اس ذات کا ذاتی نام ہے جس میں وہ تمام تر کمالات جو تصور میں آسکتے ہیں اعلیٰ درجہ پر بیک وقت موجود اور برقرار ہیں اور وہ ان تمام عیوب، نقائص اور کمزوریوں سے بالکل پاک اور مبرا ہے جو اس کی شان کے منافی ہیں اور اس کے علاوہ بقیہ تمام نام جو اس نے قرآن عظیم میں ذکر فرمائے ہیں اور صاحب وحی والہام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد ننانوے بتلائی ہے وہ سب اسماء حسنیٰ اچھے نام، یعنی صفاتی نام ہیں ان اسماء حسنیٰ میں سب سے زیادہ محسوس و مشاہد اور اہم نام جس کو ہم اپنی شب و روز کی زندگی میں ہر قدم پر محسوس اور کار فرما پاتے ہیں جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں وہ رب ہے اس لئے کہ ہر عاقل و بالغ انسان جب اس فطری سوال کو حل کرنے کے لئے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے اور کون پیدا ہونے سے لیکر مرتے دم تک ہماری تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اپنے ماحول اور اس پورے عالم اسباب کا منظر غائر جائزہ لیتا ہے تو اس کو نہ صرف اپنی زندگی بلکہ پورے عالم اسباب میں کار فرما (کنٹرول کرنے والی) عظیم غیر مرئی طاقت کا اور اس کی حاجت روائی کار بر آری اور کار سازی کا احساس ہوتا ہے اور فطری طور پر اس کی معرفت اور اس تک رسائی حاصل کرنے کا ایک زبردست داعیہ جذبہ اور جستجو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اسی اثناء میں ایک داعی حق یعنی قرآن عظیم کی آواز اس کے دل کے کانوں میں آتی ہے اور وہ قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے مطالعہ سے اس کو علم ہوتا ہے کہ وہ غیر مرئی طاقت ہمارا رب پرورش کرنے والا ہے اور اس کا نام اللہ ہے وہ سچے دل سے فوراً اس پر ایمان لے آتا ہے لہذا انسان سب سے پہلے اور سب سے زیادہ یقینی طور پر جس صفت سے متعارف ہوتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے وہ رب اور اس کی صفت ربوبیت ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہئے کہ سب سے پہلے بے ساختہ جو کلمہ ایک حق کے متلاشی انسان کی زبان سے اس تمام کائنات کا جائزہ لینے کے بعد نکلتا ہے وہ ربنا اللہ ہے اور اس کے بعد فوراً جو کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ آمنت باللہ ہے لہذا خدا کی معرفت کا پہلا قدم یا پہلا زینہ ربنا اللہ ہے اور دوسرا قدم یا زینہ آمنت باللہ ہے چنانچہ قرآن عظیم بندوں کی زبان سے ہی بیان فرماتا ہے۔

ربنا اننا سمعنا دیاینادی للایمان ان امنوا برکم فامنار بنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیاتنا

و توفنا مع الابرار (آل عمران: ۲۰۷)

اے ہمارے پروردگار! بیشک ہم نے ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے پس (اب تو) اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے (اس لئے کہ تو رب غفور ہے) اور ہماری تمام برائیوں کا کفارہ کر دے اور نیکو کاروں کے ساتھ ہمیں (دنیا سے) اٹھائیو۔

اس آیت کریمہ اور اس کے ترجمہ پر غور کیجئے دیکھئے: رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يِّنَادِي لِلْاِيْمَانِ اِنْ اٰمَنُوْا بِرَبِّكُمْ فَامْنٰرٌ مِّنَا فَاغْفِرْ لَنَا مِيْنَ اللّٰهِ كُوْبٰرًا رَّبَّنَا ۙ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ پکارنا اور رب پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہمارے اس بیان کی صاف تائید کر رہا ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلا تعارف اس کے وصف ربوبیت کے ذریعہ ہوتا ہے اور یہی تعارف انسان کے دل میں ایمان لانے کا داعیہ اور جذبہ پیدا کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور آمینت باللہ کہتا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے وجود کی فطری دلیل ہے ہم نے طوالت کے خوف سے اس آیت کریمہ سے پہلے ان فی خلق السموات والارض سے لے کر انک لا تخلف الميعاد تک کی تمام آیات کو نقل نہیں کیا ہے آپ ان تمام آیات کو اور ان کے ترجمے کو پڑھئے آپ ان شاء اللہ بڑا طمینان و سکون محسوس کریں گے۔

امنت باللہ کی تفصیل

اس امنت باللہ کی تفصیل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیل کی حدیث میں فرمائی ہے۔
رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولاً ونبیاً
میں نے اللہ کو رب مان لیا اور اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور نبی (مان لیا)
یہ تفصیل ہمارے اس بیان کی تائید کرتی ہے جو ہم نے امنت باللہ کے معنی کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔

امنت باللہ کی مسلمانوں میں اہمیت

امنت باللہ کی مسلمانوں کے نزدیک اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ اسلامی مکتبوں میں اسکولوں میں نہیں کے ان کے سربراہوں کا مقصد تو مسلمان بچہ کے کانوں کو ان چیزوں سے ناآشکار کھنا ہی ہے ہر مسلمان بچہ کو اسلام کے پانچ کلموں کے ساتھ ایمان مجمل کے عنوان سے یاد کرایا جاتا ہے۔

امنت باللہ كما هو باسماؤه وصفاته وقبلت جميع احكامه

میں اللہ پر جیسا وہ ہے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ایمان لے آیا اور اس کے تمام احکام قبول کر لئے اور ایمان مفصل کے عنوان سے یاد کرایا جاتا ہے:

امنت باللہ وملائکته وکتابہ ورسوله والیوم والآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت.
میں ایمان لے آیا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر جو اچھی ہو یا بری اللہ کی جانب سے ہے اور مرنے کے بعد زندہ اٹھنے پر۔
اسی کا نتیجہ ہے کہ ان مکتبوں میں پڑے ہوئے بچوں کے دل پر یہ امور جو اسلامی معتقدات کا نچوڑ ہیں پتھر کی لکیر کی طرح نقش ہو جاتے ہیں اور ساری عمر نہیں مٹتے۔

اعتدال اور استقامت کا حکم اور نجات کا ذریعہ

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَارِبُوا وَسَدُّوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ " قَالُوا : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَنْمَدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ " رواه مسلم . و"المقاربة" : القصد الذي لا غلوة فيه ولا تقصير ، و"السَّ" : الاستقامة والإصابة . و" يتعمدني " : يلبسني ويسترنني . قَالَ الْعَلَمَةُ : مَعْنَى الْإِسْتِقَامَةِ لُزُومُ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، قَالُوا : وَهِيَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ ، وَهِيَ نِظَامُ الْأُمُورِ ؛ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم (دینی اور دنیوی) تمام کاموں میں درمیانی راہ، اعتدال کو اختیار کرو اور (ساری عمر اس پر) سختی کے ساتھ قائم رہو اور یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص بھی (محض) اپنے عمل کی وجہ سے ہرگز نجات نہیں پائے گا صحابہؓ نے عرض کیا اور نہ آپ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا: اور نہ میں بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت (کی پناہ میں) اور فضل (وانعام کے دامن) میں چھپالے۔

مقاربتہ کے معنی ہیں ایسی میانہ روی جو غلو اور تقصیر سے خالی ہو، سدا کے معنی استقامت اور درستی کے ہیں، یعمدنی مجھے پہنائے اور مجھے ڈھانپ لے، علماء فرماتے ہیں کہ استقامت کے معنی لزوم طاعت کے ہیں اور فرمایا کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے کہ امور دینی کا نظم اسی پر استوار ہے۔ وباللہ التوفیق

تشریح: اس حدیث کے پہلے حصہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اور دنیوی امور میں کامیابی و کامرانی کے دو عظیم اصولوں کو بیان فرمایا ہے ایک اعتدال دوسرے استقامت ان دونوں اصولوں کی سیر حاصل تشریح آپ پڑھ چکے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان دونوں اصولوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیں یقیناً وہ قرآن اور حدیث کی تصریحات کے مطابق دنیا میں بھی سرخروئی کی زندگی بسر کرے گا اور آخرت میں تو جنت اور نعیم جنت کا اس کے لئے وعدہ ہے ہی چونکہ مکار نفس ہر وقت اس کو دینی فوز و فلاح سے محروم کرنے کی گھٹات میں لگا رہتا ہے اس لئے اس اعلیٰ درجہ کی دینداری اور خدا پرستی کو بھی وہ اپنے ہتھکنڈوں سے انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ان ہتھکنڈوں میں سے ایک ہتھکنڈہ ہے عجب نفس جس کو اردو محاورہ میں خود پرستی کہتے ہیں اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی خدا کے بندے کو اس کی رحمت سے اعتدال اور استقامت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے تو وہ نفس کے بہکائے میں آکر خود کو بہت بڑا خدا پرست اور مقرب بارگاہ الہی سمجھنے لگتا ہے رفتہ رفتہ یہ عجب نفس تکبر کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنے لگتا ہے اور پھر پورا

شیطان بن جاتا ہے اور بقول شیخ سعدی تکبر عزازیل را خوار کرد۔ بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر ہی نے شیطان کو ذلیل و خوار کیا لعنت اور پھٹکار کے زندان میں گرفتار کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مردود و ملعون بن جاتا ہے۔

سر تاپا شفقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسانی فطرت کے خصوصاً اپنی اُمت کے سب سے بڑے نبض شناس ہیں اس لئے آپ نے اعتدال اور استقامت کی تعلیم دینے کے فوراً بعد اس گمراہی کے خطرہ کا سدباب فرمادیا کہ دیکھنا کہیں اپنے اس حسن عمل پر گھمنڈ مت کر بیٹھنا نجات ان اعمال سے نہیں ملے گی نجات کا مدار تو صرف اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں پناہ ملنے پر ہے اور اس کا پتہ قیامت کے دن ہی چلے گا کہ اس کی رحمت کی پناہ ملی یا نہیں ملی؟ اس لئے نیکو کاری کے کتنے ہی اعلیٰ درجہ پر کیوں نہ پہنچ جاؤ کبھی اپنے اعمال صالحہ پر بھروسہ مت کرنا بلکہ خدا سے ڈرتے اور گڑگڑا کر رحمت و مغفرت کی دعائیں اس سے مانگتے رہنا پھر ازراہ شفقت و رحمت صحابہؓ کے سوال کے جواب میں اپنی ذات معصوم عن الخطا قصد اخطا سے محفوظ ذات کو بھی رحمت و فضل خداوندی کے محتاج لوگوں کے زمرہ میں شامل فرمادیا یہی راز ہے اس کا کہ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے باوجود کہ اللہ نے تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرمادیئے دن میں کم از کم سو مرتبہ یعنی بکثرت توبہ و استغفار کرتے تھے جس کی تفصیل آپ توبہ و استغفار کے باب میں پڑھ چکے ہیں۔

ہمیں یقین ہے کہ اس بیان کو پڑھ کر حدیث شریف کے دونوں حصوں میں ربط و تعلق بخوبی واضح ہو گیا ہو گا ان شاء اللہ العزیز۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

باقی اس حدیث شریف میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تو آیت کریمہ نمبر (۵) میں جزاء بما کانوا یعملون کی تصریح فرما رہے ہیں علاوہ ازیں قرآن عظیم میں بکثرت ایسی آیات موجود ہیں جن میں عذاب جہنم سے نجات پانے اور جنت میں داخل ہونے کی اعمال صالحہ کی جزا قرار دیا ہے پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال صالحہ کو نجات کا ذریعہ سمجھنے سے کس طرح منع فرما رہے ہیں اور نجات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و انعام پر کیونکر موقوف فرماتے ہیں؟

اس شبہ کے ازالہ کے لئے اگرچہ جو کچھ حدیث شریف کی تصریح اور اس کے دونوں حصوں میں باہمی ربط اور تعلق کے سلسلہ میں عرض کیا گیا ہے وہ ہی بہت کافی ہے کہ آپ کا نشانہ اعمال پر بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھول جانے یا اس سے بے نیاز ہو جانے سے روکنا اور منع فرمانا ہے جو عبدیت اور شکر نعمت کے قطعاً منافی ہے اور خسران عظیم کا موجب ہے تاہم جزاء اعمال اور ذریعہ نجات کے مسئلہ میں چند اہم امور پیش نظر رکھنے ضروری ہیں (۱) اول یہ کہ قرآن و حدیث کی تصریحات سے ثابت ہے کہ اعمال صالحہ اور ان پر استقامت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و احسان پر ہی موقوف ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

ان هو الا ذكرو للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين:
یہ (قرآن) تو تمام جہانوں کے لئے صرف نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہیں اور
(یاد رکھو) تم (سیدھی راہ پر چلنا) اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر نہیں چاہ سکتے:
چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم اگر (العیاذ باللہ) بندے کی دستگیری نہ کرے اور اس کے شامل
حال نہ ہو تو اعمال صالحہ اور ان پر استقامت اور اس کے نتیجہ میں نجات بندے کو نصیب ہو ہی نہیں سکتی اس لئے
اصل مدار نجات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل پر ہوانہ کہ اعمال صالحہ پر۔

(۲) دوم یہ کہ بندہ اپنے کسی بھی عمل صالح کے متعلق کبھی یقین کے ساتھ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے اس
عمل میں کوئی بھی ظاہری یا باطنی محسوس یا غیر محسوس نقص یا کوتاہی مطلق نہیں ہے اور یہ قطعی طور پر جزا کے لائق
ہے دیکھئے کسی بھی عبادت یا طاعت میں اگر ذرا بھی توجہ الی اللہ سے غفلت ہو جائے تو وہ جزا کے لائق نہیں رہتی۔ یہ
دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و احسان سے اسے قبول فرمائیں اور اس پر جزا دیں علاوہ ازیں
بہت سی کوتاہیاں تو ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کا عبادت کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا پھر کس طرح نجات کے
معاملہ میں ان عبادت و طاعات پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ عبادت گزار بندے بھی جو
ساری ساری رات مصلے پر گزار دیتے ہیں وہ بھی اس عبادت گزاری کے ساتھ ساتھ عذاب جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ
برابر مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مقرب ترین بندوں عباد الرحمن کی صفات کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں۔

والذین یبیتون لربہم سجداً و قیاماً: والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا
کان غراماً انہا ساءت مستقراً و مقاماً (الفرقان: ۶۷)

اور وہ لوگ جو رکوع و سجد اور قیام کی حالت میں (یعنی نماز میں) ساری رات گزار دیتے ہیں اور وہ لوگ
جو (اس کے باوجود) کہتے رہتے ہیں اے ہمارے رب تو جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھو بیشک جہنم کا عذاب
تو بہت ہی سخت ہے (اور) بیشک جہنم تو بہت ہی بری جگہ اور برا مقام ہے۔

اور ان عبادت گزار بندوں کے متعلق جن کے پہلو راتوں کو بستر پر نہیں ٹکتے ارشاد ہے:

تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفاً و طعماً

ان کے پہلو ان کی خواب گاہوں (بستروں) سے دور بھاگتے ہیں وہ (رات بھر) اپنے رب کو (اس کے عذاب
کے) خوف کی وجہ سے اور (اس کی رحمت کی) طمع کی وجہ سے پکارتے (اور دعائیں مانگتے) رہتے ہیں۔

دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ کے شب بیدار عبادت گزار عباد الرحمن بھی رات بھر عبادت کرنے کے باوجود کس
قدر جہنم کے عذاب سے نجات کے لئے فکر مند اور مضطرب ہیں اور اپنے رب کے خوف و دہشت اور اس کی

رحمت کی طمع اور لالچ میں کس قدر گریہ و زاری اور عاجزی و نیاز مندی کے ساتھ دعائیں مانگنے میں مصروف رہتے ہیں لہذا ثابت ہوا کہ جب تک اس رحمن و رحیم پروردگار کی رحمت بندوں کی دستگیری نہ کرے اور وہ رحم الراحمین اپنے بندوں کی عبادتوں اور طاقتوں کی کوتاہیوں سے چشم پوشی اور صرف نظر نہ فرمائے بندوں کے اعمال جزا کے لائق اور اس کے نتیجے میں نجات کا ذریعہ بن ہی نہیں سکتے اس لئے شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

کس نتواند کہ سزاوار خداوندیش شکر بجا آورد

بندہ ہماں بہ کہ نہ تقصیر خویش عذر بدرگاہ خدا آورد

اس کی خداوندی کے شایان شان اس کا شکر کوئی نہیں ادا کر سکتا

بندہ کے لئے تو یہی بہتر ہے کہ بارگاہ خداوندی میں اپنی عاجزی کا اقرار کرے

(۳) سوم یہ کہ نجات کے لئے صرف عبادتوں کو ادا کرنا اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ہی کافی نہیں بلکہ گناہوں، خطاؤں اور برے کاموں سے بچنا اور روحانی و جسمانی گندگی سے پاک و صاف ہونا بھی از بس ضروری ہے اور ان گناہوں، خطاؤں اور برے کاموں میں بیشمار ایسے گناہ خطائیں اور برے کام ہیں کہ انسان کو ان کا پتہ ہوتا ہی نہیں اسی لئے اذعیہ مسنونہ میں جن گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے ان میں گناہوں کی ایک مستقل قسم وہ بیان فرمائی ہے جس کا علم صرف خدا کو ہوتا ہے بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ مجھ سے یہ گناہ بھی سرزد ہوئے ہیں چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ ذیل دعاء مغفرت نمازوں کے سجدوں میں پڑھنے کی تعلیم دی ہے آپ بھی یاد کر لیجئے اور پابندی سے پڑھا کیجئے۔

اللھم اغفر لی ذنوبی جمیعاً ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم بہ منی

انک انت الغفور الرحیم:

اے اللہ تو میرے سب گناہ معاف کر دے وہ بھی جو میں نے پہلے کئے اور وہ بھی جو بعد میں کئے وہ بھی جو میں نے علانیہ کئے اور وہ بھی جو میں نے چھپ کر کئے اور وہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے بیشک تو ہی تو بہت بڑا مغفرت کرنیوالا مہربان (خدا) ہے۔

گناہوں، خطاؤں اور برے کاموں سے بالکل تو انسان بچ ہی نہیں سکتا اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام کے سوا اور کوئی انسان معصوم ہو ہی نہیں سکتا رحم الراحمین پیدا کرنے والے خدا نے ان کے تدارک اور خلائی کے لئے توبہ واستغفار کا نہایت وسیع اور طویل و عریض دروازہ جس کی تفصیل آپ توبہ کے باب میں پڑھ چکے ہیں کھول دیا ہے مگر توبہ اور استغفار کے گناہوں کی مغفرت کے لئے مفید اور کارآمد ہونے کی اتنی کڑی اور کٹھن شرطیں ہیں جن کی کچھ تفصیل آپ توبہ کے بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کا پورا کرنا بڑا ہی دشوار کام ہے اسی لئے ایک فارسی شاعر کہتا ہے۔

ہست استغفار ما محتاج استغفار ما..... ہماری تو دعائے مغفرت خود مغفرت کی محتاج ہے یعنی ہماری تو توبہ واستغفار بجائے خود ایک گناہ ہے جس سے توبہ کرنے اور مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہے صرف اس لئے کہ ہم نے توبہ واستغفار کو بھی ایک کھیل بنا رکھا ہے جن گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے ان سے توبہ بھی کر رہے ہیں اور وہ گناہ بھی کر رہے ہیں جن گناہوں سے مغفرت چاہ رہے ہیں وہ گناہ بھی کئے جا رہے ہیں اور مغفرت بھی چاہ رہے ہیں یا زبان سے توبہ واستغفار کر رہے ہیں اور دل کو اس کی خبر تک نہیں کہ زبان کیا کہہ رہی ہے وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں کھویا ہوا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یہی ہماری عام حالت ہے اسی لئے وہ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں تو اپنی توبہ واستغفار سے توبہ کرنی چاہئے کہ ہم یہ تو نہیں کر رہے بلکہ جھوٹ بول رہے ہیں۔

اللهم انى استغفرك من كل ذنب واتوب اليك:

اے اللہ! میں تجھ سے ہر گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں آپ بھی پڑھئے۔

ایسی صورت میں گناہوں، خطاؤں اور بُرے کاموں کے عذاب سے نجات پانے کا تو اس کے سوا کوئی امکان ہی نہیں کہ ہمارا حُسن و رحیم پروردگار اپنی رحمت اور کریمی سے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی توبوں اور ادھورے سدھورے استغفاروں پر ہی ہمیں معاف کر دے اور جہنم کے عذاب سے نجات دے دے دیکھئے کس قدر سچ فرمایا ہے اصدق القائلین سب سے بڑے سچے انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال سے نجات ہرگز نہیں پاسکتا۔ بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے سایہ میں چھپالے۔

(۴) چہارم یہ کہ اعمال کی جزا دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں لہذا بندوں کے اعمال صالحہ اسی وقت لائق جزا ہو سکتے ہیں جب وہ ان کو قبول فرمائیں اور یہ قبول فرمایا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ورافت اور فضل و انعام ہے اس لئے کہ اول توبندے ہیں انسانی عقل و ادراک اور وہم و خیال سے بالاتر معبود کی شایان شان عبادت و طاعت سے قاصر ہی ہیں اس لئے کہ کما حقہ عبادت و طاقت کی کما حقہ علم و معرفت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔

علاوہ ازیں بندے اپنی بساط کے مطابق اس وحدہ لا شریک لہ کی جو کچھ بھی عبادت اور اطاعت کر کے عبدیت کا فرض اور اس کی ربوبیت کا شکر نعمت ادا کرتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کریں تو معبود حقیقی کی نافرمانی اور ناشکری کے مجرم ہوں یہ اس غفور و رحیم پروردگار کی کریمی ہے کہ وہ اس اداء فرض پر جنت اور نعیم جنت کے سرفراز کر دیتا ہے۔

(۵) پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ عبدیت کا تقاضا بذات خود یہ ہے کہ بندہ اپنے معبود کی رضا اور خوشنودی اور رحم و کرم سے کبھی بھی صرف نظر نہ کرے اور اپنے اعمال وغیرہ دوسرے وسائل حتیٰ کہ اس کے وعدوں کو بھی خاطر میں نہ لائے بلکہ صرف اس کی رحمت اور فضل کو ہی اپنا آخری سہارا سمجھے اور ہمہ وقت اس کی عبادت گزاری اور شکر گزاری میں ہمہ تن مصروف رہے اور ہر وقت خود کو تہا کار اور قصور وار اور اپنے اعمال، عبادات و طاعات کو حقیر و بیچ سمجھتا رہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کثرت استغفار کے جواب میں۔

الفاظ کون عہد اشکور آ..... کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

فرما کر اسی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے کہ عبدیت اور شکر نعمت کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ خود کو اپنے اعمال کو حتیٰ کہ مغفرت کے وعدے کو بھی خاطر میں نہ لائے اور زیادہ سے زیادہ رحمت کی دعائیں اور توبہ و استغفار کرتا رہے اس کی تفصیل بھی توبہ کے باب میں گزر چکی ہے کسی اردو کے شاعر نے بھی اسی حقیقت کو ذیل کے شعر میں ادا کیا ہے:

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی..... حق توبہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

مختصر یہ ہے کہ عبادات و طاعات وغیرہ اعمال صالحہ اختیار کرنے اور گناہوں معصیتوں وغیرہ سے بچنے کی خواہش طلب اور جذبہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت و رحمت پر موقوف ہے ان پر عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر موقوف ہے اور ان کو قبول فرمانا بھی اسی رحم الراحمین کی رحمت پر موقوف ہے لہذا عذاب جہنم سے نجات پانا بھی اسی رحمن و رحیم کی رحمت و شفقت اور فضل و انعام پر موقوف ہے ابتداء میں بھی رحمت درمیان میں بھی رحمت اور آخر میں بھی رحمت غرض بندے کی دنیا اور آخرت کی پوری زندگی میں رحمن و رحیم پروردگار کی رحمت ہی رحمت اور فضل ہی فضل کا فرما ہے۔ یہی مطلب ہے آیت کریمہ نمبر (۴) کے روح پرور انسانیت نواز فقرہ کا:

نحن اولیاءکم فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة

ہم ہی تمہارے ولی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔

بندے کے اعمال صالحہ اور توبہ و استغفار تو محض رحم الراحمین کی رحمت کا ایک وسیلہ بلکہ بہانہ ہیں فارسی

شاعر نے خوب کہا ہے۔

رحمت حق بہانہ می جوید..... رحمت حق بہانہ می جوید

خدا کی رحمت قیمت (عوض) کا مطالبہ نہیں کرتی خدا کی رحمت توبہ نہ ڈھونڈتی ہے۔

بندوں کی حوصلہ افزائی بلکہ عزت افزائی کے لئے قرآن عظیم میں جنت اور نعیم جنت کو ”جزاء اعمال“

سے تعبیر فرما دیا ہے۔

اعمال صالحہ کی اہمیت اور شدید ضرورت

لیکن اس کا مطلب یہ ہر گز ہر گز نہیں ہے کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و انعام پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور اعمال صالحہ عبادات و طاعات کو بے کار و بے فائدہ سمجھ کر چھوڑ بیٹھے یا ان میں کوتاہی کرے کہ یہ تو کھلی ہوئی سرکشی، نافرمانی اور ناشکری و ناسپاسی ہے اور شدید ترین جرم ہے اس کی لازمی سزا جہنم اور عذاب جہنم ہے اس لئے کہ اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ رحم الراحمین اور ذوالفضل العظیم ہیں تو دوسری طرف تہا و منتقم اور ذوالعقاب شدید بھی ہیں یہ محض شیطان کا ایک فریب ہوتا ہے کہ وہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور فضل و انعام کے

سبز باغ دکھا کر اپنی طرح مقہور و مغضوب اور ملعون و مردود بنا دیتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شیطان کے اس دام فریب سے ہوشیار رہنے کی غرض سے شدید تنبیہ فرماتے ہیں۔

فلا تغرنکم الحیوة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور (لقمان: ۴ع)

دنیا کی زندگی تم کو (اللہ تعالیٰ کے متعلق) دھوکہ میں ہرگز نہ ڈالے اور نہ فریبی شیطان ہی تم کو اللہ تعالیٰ کے متعلق دھوکہ میں ڈالے۔

یعنی دو شیطانی فریب اور دھوکے ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت یعنی اعمال صالحہ سے روکتے اور محروم کر دیتے ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ جیسے دنیا میں بے نیاز پروردگار بندوں کی نافرمانیوں، بد اعمالیوں اور سرکشوں کے باوجود ان کو سب کچھ دے رہا ہے ایسے ہی وہ آخرت میں بھی جنت اور اس کی نعمتیں ضرور دے گا۔

(۲) دوسرے یہ کہ خدا تو بڑا غفور و رحیم ہے اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا رہتا ہے ایسے ہی آخرت میں بھی ضرور معاف کرے گا۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مختلف عنوانات سے ان دونوں شیطانی فریبوں کا پردہ چاک کیا ہے ذیل کی آیت کریمہ میں نہایت مشفقانہ اور ناصحانہ انداز میں ارشاد فرمایا ہے:

یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم

ارے او انسان! تجھے کس چیز نے اپنے کرم کرنے والے رب کے متعلق دھوکے میں ڈالا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو انسان کے لفظ سے بطور ندا خطاب فرما کر متنبہ کیا ہے کہ تو تو انسان ہے پیدا کرنے والے اور پرورش کرنے والے سب سے بڑے محسن و مربی پروردگار کے سامنے سر جھکانا۔ اس کی اطاعت و عبادت کرنا تو تیری انسانیت کا تقاضا اور فریضہ ہے تجھے تو طبعی اور فطری طور پر اپنے رب کی اطاعت و عبادت کرنی تھی چہ جائیکہ تو اس رب کریم کے بارے میں جو محض اپنے لطف و کرم سے تجھے اس دنیا کی زندگی میں تیری بد اعمالیوں اور نافرمانیوں کے تدارک اور تلافی کے موقع دے رہا ہے اور محض اپنی رحمت کے تقاضا کی بنا پر تیری نافرمانیوں اور بد کاریوں کی ہاتھ کے ہاتھ سزا نہیں دیتا اور درگزر فرماتا ہے صرف اس لئے کہ شاید یہ ظلم و جہول انسان اب بھی ہوش میں آجائے اور اس کی خفتہ انسانیت زندگی کے آخری لمحات میں ہی بیدار ہو جائے تو ایسے مہلک فریب اور ایسے تباہ کن دھوکے میں گرفتار رہے اس کے معنی تو یہ ہیں کہ تو، سم شیطان بن گیا ہے ذرا ہوش میں آ اور دیکھ یہ رب کریم کون ہے اور کیسے کیسے عظیم احسان اس کے تجھ پر ہیں اور کتنے اہم حقوق اس کے تیری گردن پر ہیں یہ وہ رب کریم ہے الخ باقی آیات اور ان کا ترجمہ قرآن کریم سے پڑھئے، ہم طوالت کے خوف سے آگے بڑھتے ہیں۔

بہر حال یہ دنیا عالم اسباب ہے رب العالمین نے انسانی زندگی کے ہر قدم پر 'خواہ وہ دنیوی ہو یا دینی کامیابی و کامرانی کے اسباب و وسائل تجویز فرما کر انسان کو طبعاً فطرتاً عقلاً شرعاً غرض ہر حیثیت سے ان کا مکلف بنا یا اور مامور فرمایا ہے لہذا انسان کے خدا تک پہنچنے یعنی اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا جو اس کا فطری تقاضا ہے واحد وسیلہ اعمال صالحہ ہیں جس طرح دسترخوان پر رکھے ہوئے کھانے کا لقمہ انسان کے ہاتھ ہلائے بغیر منہ میں نہیں پہنچ سکتا اور منہ چلائے بغیر پیٹ میں پہنچ کر بھوک کو دور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خود انسان اعمال صالحہ عبادات و طاعات الہیہ کو اختیار کئے بغیر خدا کا قرب اور اس کی رضا و خوشنودی کو جس کا حاصل کرنا بندہ کی عبدیت کا تقاضا ہے ہر گز ہرگز حاصل نہیں کر سکتا لہذا اعمال صالحہ کا اختیار کرنا اور ادا کرنا انسان کی روحانی بھوک کی تسکین کیلئے ایسا ہی لابدی اور ناگزیر ہے جیسے دسترخوان پر رکھے ہوئے کھانے کے لقمے بنا کر منہ میں رکھنا اور منہ چلانا پیٹ بھرنے کیلئے اس لئے انسان بشر طیکہ وہ انسان ہو انسان کے روپ میں شیطان نہ ہو مقدور بھر اعمال صالحہ سے صرف نظر ہر گز نہیں کر سکتا یا وجود اس کے کہ نجات کا مدار صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل پر ہے۔

آپ اسباب و وسائل کی تفصیلی بحث میں پڑھ چکے ہیں کہ بندے اپنے مقاصد میں مطلوب نتائج حاصل کرنے کے لئے اسباب و وسائل اختیار کرنے کے محتاج بھی ہیں اور مامور و مکلف بھی لیکن مسبب الاسباب یعنی رب العالمین اسباب و وسائل سے بالکل مستغنی اور بے نیاز ہیں وہ بغیر اسباب و وسائل کے جو چاہیں کر سکتے ہیں اسی اصول کے تحت اعمال صالحہ کی اہمیت کو سمجھئے کہ بندے نجات حاصل کرنے کے لئے اعمال صالحہ کے محتاج بھی ہیں مامور بھی ہیں مکلف بھی ہیں لیکن ارحم الراحمین کو اپنے کسی مومن بندے کو نجات دینے کے لئے اعمال صالحہ کی قطعاً ضرورت نہیں صرف ان کے رحم و کرم اور فضل و انعام کا اس کو اپنے سایہ رحمت میں لے لینا کافی ہے۔

طول بیان کی معذرت اور وجہ

استقامت کی تشریح و توضیح کے سلسلہ میں قارئین کو ہمارا یہ بیان بہت دراز محسوس ہو رہا ہو گا اور اس کے لئے ہم ان سے معذرت خواہ بھی ہیں لیکن اگر وہ بنظر عائر اسے پڑھیں گے اور غور فرمائیں تو محسوس کریں گے کہ کتاب ”ریاض الصالحین“ کے گذشتہ ساتوں اہم ترین ابواب اور ان میں بیان شدہ دین کے بنیادی مسائل کی دینی اور دنیوی افادیت اور منفعت کا تمام تر دار و مدار استقامت پر ہے اگر ان امور میں سے کسی ایک امر پر بھی استقامت نہ ہو تو نہ اس کا کوئی دینی فائدہ ہے نہ دنیوی دیکھئے نہ چند روزہ توبہ و استغفار و اخلاص کا آمد ہے نہ چند روزہ صبر و صدق نہ چند روزہ تقویٰ اور پرہیزگاری نتیجہ خیز ہے نہ ہی چند روزہ مراقبہ اور محاسبہ اعمال نہ ہی چند روزہ یقین و توکل کا کوئی فائدہ ہے ان تمام اہم ترین دینی امور کی دنیوی اور اخروی برکات و ثمرات اور انسانی زندگی میں ملکوٹی صفات پیدا کر دینے والے

اثرات اسی صورت میں مرتب ہو سکتے ہیں کہ جب ان پر کما حقہ استقامت پائی جائے پھر استقامت بھی نہ صرف عبادات میں ہی ضروری ہے بلکہ ایک طرف عقائد حقہ پر استقامت ناگزیر ہے تو دوسری طرف معاملات وغیرہ احکام شرعیہ پر استقامت بھی ناگزیر ہے بالفاظ دیگر جب تک پوری انسانی زندگی کے دینی اور دنیوی امور پر استقامت نہ ہو اس وقت تک استقامت بھی کار آمد اور نتیجہ خیز نہ دینی اعتبار سے ہو سکتی ہے نہ دنیوی اعتبار سے۔

اس لئے استقامت کی مکمل تشریح اور تفصیل بیان کرنا ہمارے لئے ناگزیر تھا اور اسی لئے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق پر بھروسہ کر کے اگر یہ کہیں کہ اس طول طویل بیان کا ایک فقرہ (پیرا گراف) بھی دینی اور دنیوی فائدہ اور دینی معلومات میں اہم اضافہ سے خالی نہیں ہے تو بے جا نہ ہو گا واللہ التوفیق ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ولہ الحمد فی الاولیٰ والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق کا یہ نتیجہ ہے اور کسی بھی کام کی طاقت و قوت اللہ تعالیٰ کے دیئے بغیر میسر نہیں اسی کی حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہے اول میں بھی آخر میں بھی۔

نواں باب

اللہ کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر، فنائے دنیا، اہوالِ آخرت اور دیگر امور میں
تفکرِ نفس کی کوتاہی اور اس کی تہذیب اور اسے آمادہ استقامت کرنے کا بیان

(۱) اللہ تعالیٰ کی گونا گوں عظیم مخلوقات کے بارے میں اور پھر تمام دنیا کے فنا ہونے کے بارے میں غور و فکر
کرنایں آخرت کے ہولناک واقعات اور تمام امورِ آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا۔

(۲) پھر اپنے نفس کی کوتاہیوں اور اس کی اصلاح و تہذیب کے بارے میں اور استقامت پر اس کو آمادہ کرنے
کی ترغیب کے بارے میں غور و فکر کرنا۔

نوٹ: امام نووی رحمہ اللہ عنوانِ باب کو ثابت کرنے کے لئے پوری آیت نہیں لاتے بلکہ صرف وہ ٹکڑا نقل
کر دیتے ہیں جس سے باب ثابت ہو ان کے زمانے میں یہ کافی تھا لیکن ہمارے زمانہ میں تو نہ صرف پوری آیت نقل
کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اردو ترجمہ اور تشریح کی بھی اسی لئے ہم نے پوری پوری آیتیں اور ان کے ترجمے بھی
نقل کئے ہیں اور تشریح بھی کی ہے تاکہ عام اردو پڑھے لکھے مسلمان بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔

قرآن کریم کی آیات اور ان کے ترجمے اور تشریح

۱۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا اللہ منی وفرادی ثم تفکروا ما بصاحبکم من جنة ان هو

الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید: (سورۃ سبأ آیت ۳۵)

(اے نبی) تم (ان سے) کہو، میں تم کو ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لئے دودو (ملکر) اور
تہا تہا اٹھ کھڑے ہو پھر (ٹھنڈے دل سے) غور کرو تمہارے اس رفیق (نبی) کو سودا نہیں ہے یہ تو صرف تم کو
ایک شدید عذاب کے آنے سے پہلے خبردار کرنے والا ہے

(۲) نیز ارشاد ہے:

ان فی خلق السموات والارض، واختلاف الیل والنهار لایت لاولی الالباب الذین

یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم ویفکرون فی خلق السموات والارض ربنا ما

خلقت هذا باطلاع سبحنک فقنا عذاب النار (ال عمران آیت ۱۸۹-۱۹۱)

بلاشبہ آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات (کے بعد دن) اور دن (کے بعد رات) کے آنے

جانے میں البتہ (خدا کی یکتائی اور قدرت و حکمت کی بہت سی نشانیاں (موجود) ہیں ان عقلمندوں کے لئے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر (لیٹے ہوئے) (غرض ہر حالت میں) اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی آفرینش میں غور و فکر کرتے رہتے (اور بے ساختہ کہہ اٹھتے) ہیں اے ہمارے پروردگار! تو نے اس (تمام دنیا) کو بے کار (اور بے مقصد) نہیں پیدا کیا (بلکہ ہمارے غور و فکر اور عبرت کے لئے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھ کر تیری وحدانیت و قدرت پر ایمان لائیں اور تیری ہی عبادت کریں) تو تو پاک ہے (اس سے کہ بے کار اور بے مقصد کوئی کام کرے) پس تو ہماری کوتاہیوں کو بخش دے اور) ہم کو جہنم کی آگ سے بچالے۔

(۳) نیز ارشاد ہے:

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیابہ الارض بعد موتھا وبث فیھا من کل دابة وتصریف الريح والسحاب المسخر بین السماء والارض لایت لقوم یعقلون (سورۃ بقرہ آیت ۱۶۳)

ترجمہ۔ بلاشبہ آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات (کے بعد) دن (اور دن کے بعد رات) کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں (اور جہازوں) میں جو لوگوں کے لئے کار آمد چیزوں کو (اور خود لوگوں کو) لے کر سمندر میں چلتی (اور سفر کرتی) ہیں اور (بارش کے) اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے برسایا اور پھر اس پانی سے زمین کو اس کے خشک (اور بنجر) ہو جانے کے بعد سرسبز و شاداب کر دیا اور اس زمین میں ہر قسم کے جانوروں (کی نسل) پھیلا دی اور (گرم و سرد و خشک و تر) ہواؤں کو (شرقا و غربا جنوباً و شمالاً) ا دلنے بدلنے میں اور آسمان و زمین کے درمیان معلق بادلوں میں البتہ (اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کی) بے شمار دلیلیں (موجود) ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل (سلیم) رکھتے ہیں۔

(۴) نیز ارشاد ہے:

افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت: والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت: فلذکر انما انت مدکر: لست علیہم

بمصیطر: (پارہ نمبر ۳۰ سورۃ الفاشیہ آیت نمبر ۲۲۱)

ترجمہ۔ تو کیا وہ (پہاڑوں سے گھرے ہوئے ریگستانوں کے درمیان سفر کرتے وقت اپنی سواری کے) اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسا (عجیب و غریب اور بے مثل جانور) پیدا کیا گیا ہے اور (سراٹھا کر) آسمان کی طرف (نہیں دیکھتے) کہ وہ کیسے (زمین کی چھت کی طرح) بلند کیا گیا ہے اور (بلند و بالا) پہاڑوں کی طرف (نہیں دیکھتے) کہ وہ میخوں کی طرح زمین پر) کیسے نصب کئے گئے ہیں اور (اپنے پیروں کے نیچے چھٹی ہوئی) زمین کی طرف (نہیں

دیکھتے کہ وہ باوجود گیند کی طرح گول ہونے کے) کیسے (فرش کی طرح) ہموار بچھی ہوتی ہے (پس اے نبی) تم ان کو (غدا کی بے مثل نعمتیں) یاد دلایا کرو (اس لئے کہ) تم تو بس یاد دلانے والے ہی ہو (ایمان لانا اور احسان ماننا ان کا فرض ہے) تم ان پر مسلط نہیں ہو (کہ زبردستی ان سے منواؤ)
(۵) نیز ارشاد ہے:

افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم و اشد قوۃ

والثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یشکون O (بارہ ۲۳: س: المؤمن آیت ۱۸۲)

ترجمہ۔ کیا ان منکروں نے (کبھی روئے زمین کے سفر نہیں کئے کہ دیکھیں) (اور غور کریں)؟ کہ کیا انجام ہوا ان قوموں کا جو ان سے پہلے (گذر چکی) ہیں وہ تو (تعداد میں بھی) ان سے زیادہ تھے اور طاقت میں بھی اور روئے زمین پر یادگاریں قائم کرنے میں بھی (ان سے بڑھ کر تھے) پس (دیکھو اور عبرت پکڑو) نکاسب کچھ کیا کر لیان کے کچھ بھی کام نہ آیا۔

آیات کی تفسیر

اسی طرح قرآن کریم کی اور بہت سی آیات کریمہ اس غافل اور دنیا کی الجھنوں میں گرفتار انسان کو خاص طور پر اس غور و فکر اور تفکر و تدبیر کی دعوت دیتی ہیں اور یگانہ و یکتا پروردگار کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اسی کی عبادت و اطاعت میں مصروف رہنے کی طرف متوجہ کرتی ہیں

احادیث کے ذخیرہ میں سے سابق ابواب میں ذکر شدہ (باب المراقبہ کی ساتویں) حدیث ذیل خاص طور پر توجہ کے لائق ہے۔

حضرت ابو یعلیٰ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: زیرک وہ شخص ہے جس نے خود اپنے نفس کا محاسبہ کیا (اور اپنے اعمال کا جائزہ لیا) اور مرنے کے بعد (کی زندگی) کے لئے عمل کیا اور عاجز و ناکارہ وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس کے حوالے کر دیا

اور اللہ تعالیٰ پر (بے سرو پا) آرزوئیں باندھتا رہا (کہ اللہ کریم ہے سب گناہ معاف کر دے گا)

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور حسن صحیح کہا ہے (اس حدیث پر تفصیل بحث مراقبہ کے بیان میں گذر چکی ہے ضرور دیکھئے)

الفاظ کے معنی امام ترمذی وغیرہ علماء حدیث نے دانِ نفسہ کے معنی 'حاسبہ بیان کئے ہیں یعنی اپنے نفس (اور اس کے اعمال و افعال) کا جائزہ لیا۔

امام نووی رحمۃ اللہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی پانچ مختلف آیات نقل کی ہیں جن میں سب سے زیادہ جامع اور اہم دوسری آیت کریمہ ہے اس لئے ہم اسی کی تشریح مناسب سمجھتے ہیں۔

ذکر اللہ

وہ ارباب عقول جن کے لئے آسمانوں اور زمین کی آفرینش میں اور رات دن کے یکے بعد دیگرے آمد و رفت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی عظیم نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ اوصاف بیان کئے ہیں انہی اوصاف سے انکی تشخیص و تعیین فرمائی ہے ان اوصاف میں پہلا وصف یہ ہے ارشاد ہے:

الذین یذکرون اللہ قیماً و قعوداً و علی جنوبہم (پارہ ۴ س. ال عمران آیت ۱۹۱) وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اور پہلو پر لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔

یعنی ہر حالت میں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس لئے کہ انسان کی عام اوقات میں یہی تین حالتیں ہوتی ہیں یا وہ کھڑا یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے لہذا ان اصحاب عقول کی ایک شان تو یہ ہوتی کہ وہ ہر حالت میں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی صحیح حدیث میں آیا ہے۔

کان یذکر اللہ فی کل احوالہ

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔

اگرچہ عام طور پر قرآن کریم اور صحیح احادیث میں ذکر لسانی (زبان سے اللہ اللہ کرنا) ہی آتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: الا یذکر اللہ تطمئن القلوب (پ ۱۳ سورہ رعد آیت ۲۸) سن لو! اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔

عام مفسرین رحمہم اللہ نے اس ذکر کا مصداق تلاوت قرآن عزیز اور وہ تمام مسنون اذکار قرار دیئے ہیں جو صحیح احادیث میں آتے ہیں لیکن تلاوت کلام اللہ کے بعد دوسرا مصداق اس ذکر کا زبان سے اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنا ہے چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔

عربی زبان میں بھی ذکر کے معنی زبان سے ذکر کرنے کے آتے ہیں

لیکن اس آیت کریمہ میں ہر حالت اور ہر وقت کا مفہوم بظاہر اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ انسان کی بہت سی ایسی حالتیں ہیں جن میں زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر مکروہ یا خلاف اولیٰ اور ناپسندیدہ ہے حوائج ضروریہ میں مصروف ہونے کے وقت مکروہ ہے اور قرآن و حدیث کا درس دیتے وقت یا وعظ کہتے وقت یا فقہی مسائل بیان کرتے وقت ضروری ہے کہ زبان قرآن و حدیث کے معانی و مطالب کے یا دینی مسائل کے یا پند و موعظت کے مضامین بیان کرنے میں مصروف ہونی چاہئے نہ کہ اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضروری دینی امور بیان کرنے یا غزوات وغیرہ کے بارے میں مشورہ کرنے کے وقت صحابہ

کرام سے ہی گفتگو کرنے میں مصروف رہتے تھے بہر حال ظاہر یہ ہے کہ ہر حالت اور ہر وقت زبان سے ذکر اللہ نہیں کیا جاسکتا ہاں ذکر قلبی (دل سے) اللہ اللہ کہنا مراد ہو تو ہر وقت اور ہر حالت میں کیا جاسکتا ہے اور کیا جاتا ہے اسی بنا پر علماء محققین اور صوفیائے کرام اس ذکر کا مصداق جو ہر وقت اور ہر حالت میں کیا جاسکے ذکر قلبی ہی قرار دیتے ہیں اور یہی مذکورہ بالا آیت کریمہ اور حدیث میں مراد لیتے ہیں۔

بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت کریمہ اور حدیث کو اپنے عموم پر باقی رکھا جائے کہ خالی اوقات اور تنہائی میں زبان سے اللہ اللہ کیا کرتے ہیں اور مشغول و مصروف اوقات میں دل سے اللہ اللہ کیا کرتے ہیں صوفیاء کرام بھی سالک کو ابتداء میں ذکر لسانی ہی کی تعلیم دیتے ہیں۔

بہر حال ان اصحاب عقول کا ایک وصف تو یہ ہو اور دوسرا وصف یہ ہے:-

ویتفكرون في خلق السموات والارض (پارہ ۴، س: ۱۹۱) اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی آفرینش میں۔

تفکر

از روئے لغت تفکر کے معنی ہیں غور و فکر کرنا، غور گذشتہ امور پر کیا جاتا ہے اور فکر آئندہ امور کی کی جاتی ہے یہ دونوں امور ہر صورت میں مشاہد و محسوس نہیں ہوتے بلکہ نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں ان دونوں لفظوں کے ساتھ ہی ایک اور لفظ تدبر بھی آتا ہے۔ جس کے معنی ہیں انجام پر غور کرنا خواہ گذشتہ امور کا انجام ہو خواہ آئندہ کے امور کا، گویا یہ حاصل اور فائدہ ہوتا ہے غور و فکر کا اسی لئے یہ تینوں چیزیں تفکر کے تحت آتی ہیں یہ تو ہوئے تفکر کے لغوی معنی اور مدلول۔ اس تفکر کے موضوعات یعنی جن امور پر انسان غور و فکر کرتا ہے امور دنیوی بھی ہوتے ہیں اور غیر دنیوی بھی۔

اسی لئے یہ تفکر کسی خاص قوم یا خاص طبقہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر انسان کی خلقی عقلیت کا فطری تقاضا ہے یہ ہوئے تفکر کے موضوعات باقی زیر بحث آیت کریمہ میں ان ارباب عقول کے اوصاف میں سے دوسرا وصف جیسا کہ ہم بیان کر چکے یہ ہے ارشاد ہے:

ویتفكرون في خلق السموات والارض۔ (پ ۴ آیت نمبر ۱۹۱)

اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی آفرینش میں۔

گویا اللہ کا سلسل ذکر ان کو آسمانوں اور زمین کی آفرینش میں غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اس آیت کریمہ میں موضوع تفکر کا ذکر اجمالاً فرمایا ہے تیسری آیت میں تفصیلی طور پر بیان فرمایا ہے بہر حال اس تفکر کے مختلف مدارج و مراتب ہیں اعلیٰ مرتبہ اور یہی مطلوب ہے یہ ہے۔

گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر دل کو ماسوی اللہ کے خیال اور تصور سے پاک و صاف اور فارغ (خالی) کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات، اسماء اور شیوں میں اور کائنات میں جو ان کے مظاہر ہیں ان کے تصور میں اس طرح مستغرق اور محو ہو جائے کہ اپنی ہستی کا احساس و شعور ہی نہ رہے جیسے آفتاب نکل آنے کے بعد ستارے محو ہو جاتے ہیں اس طرح محو ہو جائے یقیناً یہ محویت مسلسل ذکر اللہ کی ریاضت کے بعد ہی پیدا ہو سکتی ہے اسی تصور اور محویت کا نام تفکر ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء و شیوں مختلف ہیں ابتدائی طور پر صفات اور اسماء و شیوں کو دو قسموں پر تقسیم کیا جاتا ہے (۱) ایک اسماء و صفات رحمت و جمال (۲) دوسرے اسماء و صفات قہر و جلال۔ پہلی قسم کے مظاہر کائنات میں تمام خیر و صلاح کے اسباب کی آفرینش ہے مثلاً آدم علیہ السلام کو اور انکی ذریت کو پیدا کرنا انبیاء و رسل کو بھیجنا آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو نازل فرمانا ایمان والوں اور فرمانبرداروں کو جنت اور نعیم جنت عطا فرمانے کا وعدہ اور اس کا تفصیلی بیان دوسری قسم کے مظاہر کافر و مشرک اور نافرمان قوموں اور افراد کو دنیا میں مختلف قسم کے عذابوں سے ہلاک کرنا یا آخرت میں ان کے لئے گونا گوں ہولناک عذابوں کا تیار فرمانا وغیرہ۔

ظاہر ہے کہ انسان کے لئے یہ اعلیٰ درجہ کا تفکر ہے مگر اس کی ریاضت بے حد دشوار اور مشکل کام ہے اس کے لئے کافی عرصہ مسلسل ذکر اللہ کرنے کے باوجود مکمل تنہائی اور یکسوئی حاصل کرنے کی غرض سے بستیوں اور آبادیوں سے دور خانقاہوں یا قدرتی خانقاہوں یعنی پہاڑوں کے غاروں یا سنان جنگلوں میں چلہ کشی یعنی خلوت نشینی کرنی پڑتی ہے مگر بے حد مفید اور یہ کام ابتداء میں تو ترک مالوفات (مانوس چیزوں کو چھوڑنے) کی وجہ سے کٹھن معلوم ہوتا ہے مگر کچھ دن بعد ہی روحانی لذت اور کیف و سرور حاصل ہونے کی وجہ سے اس گوشہ نشینی سے بے حد محبت ہو جاتی ہے۔

تفکر و تدبر عظیم عبادت ہے

یہ تفکر و تدبر ایک عظیم الشان عبادت ہے ہمہ وقت توجہ الی اللہ میسر آتی ہے اور تزکیہ نفس اور تصفیہ روح کے لئے تریاق اعظم کا درجہ رکھتا ہے ان مراحل سے گزرنے کے بعد انسان تمام خلقی رذائل و ذمائم سے خواہ عملی ہوں خواہ اخلاقی یا اعتقادی بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے اور انوار و تجلیات سے آراستہ و پیراستہ ہو کر سر تاپا نور بن جاتا ہے۔

تفکر کے عبادت ہونے کا ثبوت قرآن و حدیث سے

قرآن کریم تو جگہ جگہ لعلہم یتفکرون اور لعلکم تتفکرون اور افلا یتدبرون کے ذریعہ اس تفکر و تدبر کی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کی دعوت دیں وہ عبادت نہ ہو، محال ہے خصوصاً تفکر کا وہ اعلیٰ مرتبہ جس کا حال آپ پڑھ چکے ہیں وہ تو عبادت عظمیٰ ہے۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعثت سے پہلے غار حرا میں خلوت نشینی اور چلہ کشی فرمایا کرتے تھے ہفتہ عشرہ کا سامان خورد و نوش یعنی ایک تھیلا کھجوروں کا اور ایک چھاگل پانی کالے جاتے اور رات دن اسی تفکر و تدبر میں مصروف رہتے کہتے ہیں کہ غار حرا میں ایک سوراخ (موکھ) تھا وہاں سے بیت اللہ صاف نظر آتا تھا وہیں آپ بیٹھتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بداء الوحی (ابتداء وحی) کی طویل حدیث میں بیان کرتی ہیں۔

”پھر (رویائے صادقہ کے بعد) آپ کو خلوت نشینی سے محبت ہو گئی چنانچہ آپ غار حرا کے اندر کئی کئی رات (دن) تنہائی میں عبادت کے اندر مصروف رہتے“

اس عبادت کا مصداق اس زمانے میں کہ ابھی وحی کا سلسلہ بھی نہیں شروع ہوا جس سے شرائع و عبادات کا علم ہو یہی اسماء اور صفات الہیہ اور کائنات میں ان کے مظاہر پر غور و فکر میں استغرق اور ان کے اندر محو ہو جانا تھا جس کے علم کے لئے آپ کی فطرت سلیمہ اور دنیا کی آلائشوں سے پاک و صاف دل کافی تھا۔

حدیث کے الفاظ میں بتحنث وهو التبعبد (آپ ہر خدا سے غافل کر دینے والی چیز سے دور رہتے اور یہی تبعبد ہے) آتا ہے یہ ثبوت ہے تفکر کے عظیم ترین عبادت ہونے کا بہر کیف آپ کی اس خلوت نشینی اور اس کے اندر اس تفکر نے ہی آپ کی روحانی قوت یعنی ملکی قوت کو اتنا قوی کر دیا کہ آپ حامل وحی فرشتے یعنی حضرت جبرائیل سے اس کلام اللہ کو اخذ کر سکے اور حامل بن گئے جس کا حال یہ ہے:

لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأینہ خاشعاً متصدعاً من خشية الله (پ ۲۸ س: البقرہ آیت ۲۱)

اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے لڑنے لگتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ روحانی قوت میں عظیم اضافہ اس تفکر کا بے مثال فائدہ ہے اسی لئے صوفیاء کرام بھی لسانی ذکر اللہ کی ریاضت کے بعد ذکر قلبی اور اسی تفکر و تدبر کی تعلیم دیتے ہیں جس کو ان حضرات کی اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں جس کا کچھ بیان آپ مراقبہ کے باب میں پڑھ چکے ہیں مزید تفصیل تصوف کی کتابوں میں دیکھئے۔

اس تفکر و تدبر کا حاصل اور نتیجہ

انہی ارباب عقول کے متعلق ذکر اللہ اور تفکر کے بعد ارشاد ہے:

ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحنك فقنا عذاب النار۔ پ ۴ آیت ۱۹۱

اے ہمارے پروردگار (ہم اقرار کرتے ہیں) کہ تو نے اس (آسمان و زمین) اور اس کے درمیان بسنے والی مخلوقات) کو بے مقصد نہیں پیدا کیا تو پاک ہے (اس سے کہ بے مقصد کام کرے) پس تو ہم کو جہنم کی آگ سے بچالے۔

یعنی اسماء و صفات الہیہ اور ان کے مظاہر میں غور و فکر کرنے کے بعد بیساختہ اور بلا اختیار کہہ اٹھتے ہیں:

اے ہماری پرورش کرنے والے ہمیں یقین ہے کہ تو نے اس تمام کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ ان کی آفرینش کا ایک عظیم مقصد ہے جو تو ہی ہمیں اپنی رحمت و ربوبیت کے تقاضے سے بتلاتا ہے وہ یہ ہے۔

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (پارہ ۲، سورہ زاریات آیت ۵۶)

میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔

اس پر بھی ہم ایمان لائے ہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس عبادت میں ہم سے ضرور کوتاہیاں اور نافرمانیاں ہوں گی پس تو ہماری کوتاہیوں اور نافرمانیوں کو معاف فرمادے اس لئے کہ تو ہمارا رب ہے تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا اور تو ہم کو جہنم کے ہولناک عذاب سے بچالے۔

خلاصہ:

حاصل غور و فکر چار چیزیں ہیں۔ (۱) ایک اعتراف ربوبیت (۲) دوسرے مقصد تخلیق پر ایمان (۳) تیسرے اپنی کوتاہیوں اور نافرمانیوں کا اقرار (۴) چوتھے کوتاہیوں اور نافرمانیوں کو بخش دینے اور جہنم کے عذاب سے بچانے کی دعا۔ تقریباً یہی چار چیزیں تفکر کے باب کا عنوان ہیں اس لئے اس باب تفکر کے اثبات کے لئے یہ آیت کریمہ جامع ترین آیت ہے باقی آیتوں میں مظاہر رحمت یا مظاہر نعمت (و عذاب) میں تفکر کی دعوت دی گئی ہے۔

اس پُر فتن زمانے میں ہماری حالت

ہم تو اس پُر آشوب زمانے میں ایسے دنیا کے دھندوں میں پھنسے ہوئے اور الجھنوں میں گرفتار ہیں کہ ہر وقت اور ہر حالت میں ہوس زراندوزی اور فراوانی مال و دولت کی طمع ہمارے دل و دماغ پر مسلط ہے اسی میں ہم محو ہیں خالی اوقات اور تنہائیوں میں بھی زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنے کی تدبیروں میں ہی غور و فکر کرتے ہیں سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔

بل تؤثرون الحیوة الدنیا (پ ۳۰، س: الاصلیٰ آیت ۱۶)

بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے اور پسند کرتے ہو۔ حالانکہ ہمارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت و رؤف خبردار فرمادیا ہے۔

فوالله لا الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم الدنيا اذا هي حيزت لكم فتنافسوا فيها

کما تنافس من كان قبلکم فتهلك کم کما اهلكت من كان قبلکم:

پس خدا کی قسم جھگڑتی اور افلاس سے مجھے تمہارے متعلق کوئی ڈر نہیں بلکہ مجھے ڈر لگتا ہے دنیا (کی دولت) سے جبکہ وہ تمہارے لئے سمیٹ دی جائیگی پھر تم اس مال و دولت کے سمیٹنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے جیسے تم سے پہلی قوموں نے کیا اور پھر وہ دنیا (کی طمع) تم کو ایسے ہی ہلاک کر ڈالے گی جیسے ان قوموں کو ہلاک کیا۔

مگر افسوس، صد افسوس! ہم میں سے بیشتر لوگوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشفقانہ تنبیہ کو بھی پس پشت ڈال دیا اور مال و دولت سمیٹنے میں ایسے لگے ہیں کہ نہ صرف خدا اور رسول اور آخرت کو بھول گئے بلکہ اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھے اور علانیہ غیر قانونی کاروبار کر رہے ہیں سزائیں کاٹتے ہیں لیکن جیل سے باہر آکر پھر وہی خلاف قانون کاروبار کرتے ہیں حرام و حلال اور جائز و ناجائز کا ذکر ہی کیا۔

اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں اپنے محبوب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صدقے ہماری حالت پر رحم فرمائیں اس زر پرستی کے جہنم سے نکال کر خدا پرستی کی توفیق عطا فرمائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی یہ دعا معنی سمجھ کر مانگا کیجئے۔

اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا.

اے اللہ! تو دنیا کو ہمارا سب سے بڑا فکر نہ بنائیو اور نہ (دنیا کو) ہمارا معنائے علم (مقصد علم) بنائیو اور نہ دنیا کو ہماری مرغوب چیز بنائیو۔

ہمت کیجئے اور کسی نہ کسی وقت تہائی میں کسی نہ کسی درجہ میں فکر، اسماء و صفات الہیہ پر غور و فکر ضرور کیجئے۔

فی المبادرة الی الخیرات وحث من توجه لخیر علی

الاقبال علیہ بالجد من غیر تردد

نیک کام میں جلدی کرنا اور طالب خیر کو شوق سے اور بلا تردد نیکی پر آمادہ کرنا

۱۔ نیک کاموں کے انجام دینے میں عجلت اختیار کرنے کا۔

۲۔ اور جو شخص کسی خاص کار خیر کا ارادہ کرے اس کو بلا تاخیر اور تردد کے بغیر پورے اہتمام کے ساتھ انجام دے لینے پر براہیختہ کرنے اور ترغیب دینے کا بیان۔

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ۱۶۸] ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى

مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ۱۳۳]

نوٹ: امام نووی رحمۃ اللہ نے کتاب کی طوالت کے خوف سے قرآن کریم کی بڑی بڑی آیات میں سے صرف وہ حصہ لیا ہے جس سے ترجمہ الباب (عنوان باب) ثابت ہوتا ہے ہم نے پوری پوری آیات مع ترجمہ و تشریح کے نقل کر دی ہیں تاکہ کتاب پڑھنے والے کامل نفع حاصل کر سکیں۔

قال اللہ تعالیٰ..... اللہ پارک ارشاد فرماتے ہیں۔

ولکل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، اين ماتكونوايات بكم الله جميعاً ان الله على

کل شیء قدير (سورۃ بقرہ آیت ۱۳۸)

(اے مسلمانو تم قبلہ کے بارے میں یہود و نصاریٰ سے جھگڑے میں اپنا وقت ضائع مت کرو بلکہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو (کیونکہ) جہاں بھی تم ہو گے اللہ تم سب کو (وہیں سے میدان حشر میں) لے آئے گا (اور پھر نیک کاموں کی جزا اور برے کاموں کی سزا دے گا لہذا اس دن کی فکر کرو اور زیادہ سے زیادہ کارہائے خیر کرو وقت بالکل ضائع نہ کرو) بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

تشریح! اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو اعمال صالحہ اور کارہائے خیر میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے اور آگے نکل جانے کی ترغیب دی گئی ہے یہی ترجمہ الباب (عنوان باب) کا پہلا جزو ہے۔

(۲) قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم

یصروا علیٰ ما فعلوا وہم یعلمون، اولئک جزاؤہم مغفرة من ربہم وجنت تجوی من تحتہا الانہر یخلدین فیہا، ونعم اجر العملین (سورۃ آل عمران آیت ۱۳۳ تا ۱۳۶)

ترجمہ۔ اور تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو (اور عجلت کرو) اور اس جنت کی جانب (دوڑو) جس کا عرض ہے آسمانوں اور زمین (کے برابر اور طول کا حال تو خدا ہی جانتا ہے کتنا ہوگا) تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لئے جو خوشحالی اور تنگدستی (دونوں حالتوں میں اللہ کے حکم کے مطابق) خرچ کرتے ہیں اور جو غصہ کو دبا لیا کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں اور اللہ ایسے ہی نیکو کاروں سے محبت کرتا ہے اور وہ لوگ جو جب بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں یا اپنے حق میں کوئی برکام (گناہ) کر بیٹھتے ہیں تو (فوراً) اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں اور ہے کون اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف کرے؟ اور وہ اپنے کئے ہوئے (برے کاموں) پر اڑے نہیں رہتے (بلکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں گناہ کئے اور ان سے توبہ کی ہے ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کر بیٹھیں) ان ہی لوگوں کی جزا ان کے رب کی جانب سے (تمام گناہوں کی) مغفرت ہے اور ایسے (سر سبز و شاداب) باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور (یہ) کتنا اچھا صلہ ہے ان عمل کرنے والوں کا۔

تفسیر

اس آیت کریمہ میں اعمال صالحہ اور کارہائے خیر کے انجام دینے میں عجلت اور جلدی کرنے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ ان کے اجر عظیم کا، نیز اہم ترین اعمال فاضلہ کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

اسی باب سے متعلق ایک اہم ترین آیت اور اس کے ترجمہ و تشریح کا اضافہ مناسب معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے

۳۔ قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون

(پ ۲۸ سورۃ الاحقر آیت ۱۸)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور ہر شخص کو چاہئے کہ وہ غور کیا کرے کہ اس نے کل (قیامت کے دن) کے لئے پہلے سے کیا کچھ تیار کیا ہے؟ اور (ہر وقت) اللہ سے ڈرتے رہا کرو بیشک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب اچھی طرح باخبر ہے۔

تشریح

اس آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ ایک لمحہ کے لئے بھی ایک مسلمان کو خدا کے خوف اور آخرت کی فکر سے غافل نہ ہونا چاہئے اور اپنے اعمال و افعال پر کڑی نظر رکھنی چاہئے اگر کوئی نافرمانی اور گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس سے توبہ کر لینی چاہئے ایسا نہ ہو کہ غفلت میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور توبہ کا خیال بھی نہ رہے تو

قیامت کے دن مجرم کی حیثیت سے خدا کے سامنے پیش ہونا پڑے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام مسلمانوں کو ان نینوں آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین۔

انتہائی خطرناک اور تاریک ترین فتنوں کا زمانہ آنے سے پہلے نیک کام کر لینے میں عجلت کیا کرو

وأما الأحادیث : فالأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فَتَنَّا كَتَطْعَمِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا ، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا ، يَبِيعُ دِينَهُ بَعْرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا “ رواه مسلم .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک کام کرنے میں عجلت کیا کرو (آج کل پرمت رکھا کرو) اس لئے کہ عنقریب اندھیری رات کے کٹڑوں (حصوں) کی طرح (ایسے) فتنے رونما ہوں گے کہ آدمی صبح کو مومن ہو گا اور شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن ہو گا صبح (ہوتے ہوئے) کافر ہو جائے گا اپنے دین کو متاع دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ (صحیح مسلم)

تشریح: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان تاریک فتنوں کے زمانے میں ایمان و کفر حق و باطل اور حلال و حرام میں اتنا شدید اشتباہ و التباس ہو جائے گا کہ دونوں میں فرق کرنا اور کفر سے باطل سے اور حرام سے پتہ نہ چلے گا اور حرام سے پتہ نہ چلے گا چنانچہ ایک مسلمان مومن دنیاوی معاملات اور کاروبار کو ایمان و اسلام کے مطابق اور برحق و حلال سمجھ کر کرے گا حالانکہ وہ سراسر حرام باطل اور اسلام کے منافی ہو گا اور نفس کے دھوکے اور فریب میں آکر اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور کافر ہو جائے گا اس لئے کہ حرام کو حلال جاننا اور باطل کو حق سمجھ لینا یقیناً کفر ہے اسی طرح مال یا جاہ و منصب کی خاطر یا کسی اور منفعت کی طمع میں شعوری یا غیر شعوری طور پر گرفتار ہو کر اس کو حق سمجھ کر اختیار کر لے گا اور کسی بھی باطل عقیدہ کو حق سمجھ لینا کفر ہے اور اسلام سے خارج ہونے کا موجب ہے اور ظاہر ہے کہ حالت کفر میں کیا ہو ا کوئی بھی اچھے سے اچھا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا اور آخرت میں کام نہیں آسکتا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

قل هل ننبئكم بالآخسرین اعمالاً الذین ضل سعيهم فی الحیوة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا (سورۃ کہف آیت ۱۰۳-۱۰۴)

(اے نبی) تم کہہ دو! اُو تمہیں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ میں رہنے والوں سے آگاہ کریں یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی میں کی ہوئی تمام تر کوششیں (اور اعمال) رائیگاں اور بیکار گئیں اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔

لہذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ فرماتے ہیں کہ ایسا وقت اور ایسا پُر فتن زمانہ آنے سے پہلے جس قدر بھی اعمال صالحہ اور کارہائے خیر کر سکتے ہو کر لوٹال مٹول اور تاخیر ہر گزمت کرو یہی ترجمہ الباب (عنوان باب) کا دوسرا جزو ہے۔

اس پُر فتن زمانہ میں کفر سے بچنے کی تدبیر

اس پُر فتن زمانے میں اس غیر شعوری یا شعوری کفر سے بچنے کی صورت صرف یہ ہے کہ اول تو انتہائی کوشش کرے کہ ایسے مشتبہ امور و معاملات اور دنیوی کاروبار سے حتی الامکان بچے اور دور رہے اسی طرح کسی بھی دنیوی منفعت یا مالی و جاہی فائدہ کے عوض مجمع علیہ عقائد حقہ سے کسی بھی قیمت پر دستبردار نہ ہو بلکہ دینی عقائد کی حفاظت میں بڑے سے بڑا دنیوی نقصان اٹھانے کے لئے بخندہ پیشانی تیار اور آمادہ رہے اور ہر دنیوی منفعت حاصل کرنے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کر لے کہ یہ منفعت مجھے میرے دین کے بدلے میں تو حاصل نہیں ہو رہی؟ اسی طرح اگر پاک و صاف اور حلال روزی خواہ کتنی ہی قلیل کیوں نہ ہو میسر آسکتی ہے تو اسی پر اکتفا کرے اور جیسے تیسے اس چند روزہ زندگی کو گزار دینے پر قناعت کرے اور اگر اضطرار کی حالت پیش آجائے اور فائدہ کشی کی نوبت پہنچ جائے تو اکل مہینہ (مردار جانور کھانے) کے درجہ میں اس کو حرام جانتے ہوئے پیٹ کی آگ بجھائے اور زندہ رہنے کے بقدر اس روزی پر اکتفا کرے اور اللہ تعالیٰ سے برابر توبہ و استغفار کرتا رہے اور حلال روزی عطا کرنے کی دعائیں مانگتا رہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس پر حلال روزی کے راستے ضرور کھول دیں گے۔

ومن یتق اللہ يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب (سورۃ طلاق آیت ۳)

اور جو شخص اللہ تعالیٰ (کی نافرمانی سے) ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ضرور کوئی راستہ نکال دیں گے اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیں گے جہاں سے ملنے کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔

بہر حال ایک مومن مسلمان کو دین پر دنیا کو ترجیح اور فوقیت ہر گز نہ دینی چاہئے کہ یہ تو کفار کا شیوہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

بل تؤثرون الحیوة الدنیاء والاخرۃ خیر وابقیٰ (سورۃ اعلیٰ آیت ۱۷۱)

بلکہ تم تو دنیا کو (آخرت پر) ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت (کی زندگی دنیا کی زندگی سے) بہت بہتر اور پائیدار ہے۔

اسی بنا پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حسب ذیل دعائیں مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

اللهم لاتجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبرھمنا ولا مبلغ علمنا۔

اے اللہ! تو ہمارے دین کو ہمارے لئے مصیبت نہ بناؤ اور دنیا کو ہمارا سب سے بڑا فکر اور غم نہ بناؤ۔

اور نہ منہمائے علم (مقصد علم) بناؤ۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مذکورہ ذیل حدیث میں ان مشتبہ امور سے بھی بچنے اور دور رہنے کی

ہدایت فرمائی ہے جو قطعاً طور پر حرام ہوں اور نہ قطعاً طور پر حلال حدیث میں آتا ہے۔

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے حلال بھی بالکل ظاہر ہے اور حرام بھی بالکل ظاہر ہے ان دونوں (حلال و حرام) کے درمیان کچھ مشتبہ امور بھی ہیں جن کو بیشتر لوگ نہیں جانتے (کہ وہ حرام ہیں یا حلال) پس جو شخص ان مشتبہ امور سے بچا (اور دور رہا) اس نے تو اپنے دین اور آبرو کو محفوظ کر لیا (نہ خدا کی ناراضگی کا اندیشہ رہا اور نہ لوگوں میں بدنام ہوا) اور جو ان مشتبہ امور میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو محفوظ و ممنوع چراگاہ کے آس پاس اپنے مویشی چراتا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی ممنوع چراگاہ میں ضرور جاگھے گا۔ یاد رکھو ہر بادشاہ کی ایک محفوظ (سرکاری) چراگاہ ہوتی ہے اچھی طرح سن لو اللہ تعالیٰ کی محفوظ چراگاہ (روئے زمین پر) وہ امور ہیں جن کو اس نے حرام کیا ہے (جو کوئی بھی ان میں سے کسی بھی حرام کام کا ارتکاب کرے گا ضرور سزا کا مستحق ہوگا) اور مشتبہ امور کا ارتکاب کرنے والا کسی نہ کسی دن حرام کام کر بیٹھے گا (رواہ البخاری جلد نمبر ۱۳ صفحہ ۱۳)۔

چہ جائیکہ قطعی طور پر حرام امور کہ ان کا ارتکاب تو اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی بلکہ بغاوت ہے۔

اعاذنا اللہ تعالیٰ (خدا تعالیٰ ہمیں بچائے آمین)

موجودہ زمانہ اور چارہ کار

لیکن ہمارے اس تاریک ترین پر فتن زمانہ میں کہ تمام ضروریات زندگی کا کاروبار خواہ ملکی پیداوار ہو خواہ غیر ملکی درآمد شدہ اشیاء ہوں، خواہ خام پیداوار ہو خواہ مصنوعات ہوں سب سود اور بیمہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے جو از روئے شرع قطعاً حرام ہے اس لئے نہ پیٹ بھرنے کو روٹی میسر آسکتی ہے نہ تن ڈھانکنے کو کپڑا اجازت اور حلال میسر آسکتا ہے ایسی صورت میں حدیث میں مذکورہ کفر سے بچنے کی صورت میں صرف یہی ہے کہ انسان کم سے کم ضروریات زندگی پر اکتفا کرے اور اس کو بھی حلال اور جائز ہرگز نہ سمجھے بلکہ بدرجہ مجبوری اکل میتہ (مردار کھانے) کے درجہ میں سمجھے اور توبہ واستغفار کے ساتھ ساتھ حلال ضروریات زندگی میسر آنے کی دعائیں بھی کرتا رہے اور کوشش بھی جاری رکھے تو ان شاء اللہ حرام کو حلال سمجھنے اور باطل کو حق سمجھنے کے کفر سے بچ جائے گا واللہ ہوا الموفق (اللہ توفیق بخشنے والا ہے)

ایک منٹ کی تاخیر کے بغیر مستحقوں کا مال ان کو پہنچا دینے کی ہدایت

الثَّانِي : عَنْ أَبِي سِرْوَةَ بِكسر السین المهملة وفتحها عَقْبَةَ بن الحارث رضي الله عنه ، قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلَةِ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا ، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حَجَرٍ نِسَائِهِ ، فَفَزَعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ ، فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ ، قَالَ : " ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرِ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ " ۳۳ رواه البخاري . وفي رواية لَهُ : " كُنْتُ خَلَفْتُ فِي النَّيْتِ تَبْرًا مِنْ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ " . " التَّبْرُ " : قِطْعُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ .

ترجمہ: حضرت ابوسرودہ عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی تو آپ سلام پھیرنے کے بعد (خلاف معمول فوراً) کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے بڑی تیزی سے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے تو جب (زنان خانہ سے) باہر (صحابہ کے پاس) تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی اس عجلت پر تعجب کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا: کچھ سونے کے ٹکڑے مجھے (گھر میں رکھے ہوئے اچانک) یاد آ گئے تو مجھے ان کی (اپنے گھر میں) موجودگی اچھی نہیں معلوم ہوئی اس لئے میں (فوراً گھر گیا اور) اس کو (حاجتمندوں میں) تقسیم کر دینے کے لئے کہہ دیا یہ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ میں گھر میں صدقہ کے کچھ سونے کے ٹکڑے چھوڑ آیا تھا تو رات بھر ان کو اپنے گھر میں رکھنا مجھے برا معلوم ہوا اور میں نے یاد آتے ہی فوراً (گھر جا کر) ان کو (مستحقین میں) تقسیم کر دینے کا حکم دے دیا۔ بخاری شریف تمبر سونے یا چاندنی کے (بغیر سکے لگے) ٹکڑوں کو کہتے ہیں۔

تشریح: اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عملی طور پر جس کار خیر کا ارادہ کیا ہو اس کو بلا تاخیر اور بلا تردد جلد از جلد کر لینے کی تعلیم و ترغیب فرمائی ہے۔ انسانی زندگی کے واقعات و تجربات شاہد ہیں کہ انسان بسا اوقات آج کل اور ٹال مٹول کی بنا پر بعض کارہائے خیر سے محروم رہ جاتا ہے جو اگر سازگار حالات میں جبکہ اس نے ارادہ کیا تھا بلا تاخیر انجام دے لیتا تو ہو جاتے اور دنیا و آخرت دونوں میں کام آتے لیکن بلا وجہ تاخیر کی بنا پر نہیں کرتا اور پھر ساری عمر اپنی اس کوتاہ کاری پر کف افسوس و ملتا رہتا ہے کہ کاش جب میں نے ارادہ کیا تھا اسی وقت یہ کام کر لیتا اور ٹال مٹول نہ کرتا تو آج کام آتا اسکی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں سازگار حالات ہمیشہ برقرار نہیں رہتے جو شخص بھی اپنی زندگی کے نشیب و فراز پر غور کرے گا اسے ضرور اسے کارہائے خیر یاد آئیں گے جن کو بروقت نہ انجام دینے پر افسوس اور محرومی کا احساس ہوگا۔

ظاہر ہے کہ حدیث تحتہ الباب (عنوان باب) کے دوسرے جزو سے متعلق ہے۔

جنت یقینی طور پر ملتی ہو تو ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر حاصل کر لو

الثالث: عن جابر رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيُّنَ أَنَا؟ قَالَ : " فِي الْجَنَّةِ " فَأَلْفَى تَمْرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ایک آدمی نے جنگ "أحد" کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے جواب دیا جنت

میں 'تویہ سنتے ہی اس کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں وہ اسی وقت زمین پر ڈال دیں اور پھر جنگ کے میدان میں کود پڑا یہاں تک کہ لڑتے لڑتے مارا گیا اور شہید ہو گیا (اور سیدہ جنت میں پہنچ گیا) (بخاری و مسلم)

قتشویح: ان صحابی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ سبق آموز واقعہ 'حیات بعد الموت اور آخرت پر ایمان کامل اور یقین محکم کا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فی الجنتہ کا جواب سن کر شوق شہادت میں سرشار صحابی نے اتنی تاخیر بھی گوارا نہ کی کہ ہاتھ میں لی ہوئی کھجوریں ہی کھا لیتے اور پیٹ کی آگ بجھا لیتے بلکہ اس زندگی اور اس کے تقاضوں سے بے نیاز و بالاتر ہو کر ہاتھ کے ہاتھ جنت میں پہنچ گئے۔

ایک ایسے ہی کفار و مشرکین کے ہاتھوں شہید ہونے والے جانباز و سرفروش بندہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

انی امننت بربکم فاسمعون قبل ادخل الجنة قال یلیت قومی یعلمون بما غفرلی ربی
وجعلنی من المکرمین (سورۃ یٰسین آیت ۲۷-۲۸)

بلاشبہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا کان کھول کر سن لو (تو فوراً کافروں نے اس کو رب جلیل پر ایمان لانے کے جرم میں قتل کر دیا) تو رب جلیل کی جانب سے (اسی وقت اس سے) کہہ دیا گیا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ (اس پر اس سرفروش غازی) نے کہا کاش کہ میری قوم کو علم ہو جاتا کہ میرے رب نے میری (عمر بھری) خطاؤں کو معاف کر دیا اور مجھے اپنے مقرب و معزز بندوں (شہداء) میں شامل کر لیا۔

حدیث کا حاصل یہی ہے کہ کسی بھی کار خیر میں تردد و تذبذب اور تاخیر نہ کرنی چاہئے بلکہ جب موقع ہاتھ آئے فوراً کے فوراً اس کام کو انجام دے لینا چاہئے خواہ وہ جان دینا اور شہادت کا جام پینا ہو اور خواہ اللہ تعالیٰ کی رلہ میں مل خراج کرنا ہو۔ مگر یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو آخرت پر یقین کامل ہو اور اس کی فکر میں بے چین ہو۔

ہماری حالت

افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہم تو سرے سے اس فکر آخرت سے ہی محروم ہیں آخرت کے لئے کچھ کرنا تو بڑی بات ہے ہم تو اسی بیچ و پوچ دنیا اور فانی زندگی اور اس کے لوازمات مہیا کرنے میں اس طرح سرگرداں ہیں کہ اور کسی بات کا ہوش ہی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں متنبہ کیا ہے۔

بل توفرون الحیوة الدنیا (سورۃ اعلیٰ آیت ۱۶)

بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو۔

مگر وائے محرومی کہ ہم شب و روز قرآن کریم میں اس قسم کی آیات تلاوت کرتے اور پڑھتے ہیں مگر ہم دیوانگان دنیا پر مطلق اثر نہیں ہوتا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دیوانگی کے انجام سے بھی آگاہ فرما دیا ہے۔

فاما من طفی و اثر الحیوة الدنیا فان الجحیم ہی الماوی (پ ۳۰ سورۃ لزمت آیت ۷-۸)

باقی جس نے سرتابی و سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بلاشبہ جہنم ہی اس کا ابدی ٹھکانا ہے۔ اسی سلسلہ کی مسنون دعائیں اس سے پہلی حدیث کی تشریح کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں آپ بھی دعائیں مانگا کیجئے اللہ پاک کا وعدہ ہے وہ ضرور قبول فرمائیں گے۔

آفتوں کے آنے سے پہلے صدقہ کرنا اصل صدقہ ہے

الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : جلة رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، أي الصدقة أعظم أجراً ؟ قال : " أن تصدق وأنت صحيحٌ شحيحٌ ، تخشى الفقر وتأمل الغنى ، ولا تمهل " ۳ " حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ، وقد كان لفلان " متفق عليه . " الحلقوم " : مجرى النفس . و " المريء " : مجرى الطعام والشراب .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ایک دن ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کس صدقہ کا اجر سب سے بڑا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: وہ صدقہ جو تم اس حالت میں کرو کہ تم تندرست بھی ہو (جس کی بنا پر زندہ رہنے کی بجائے امید رکھتے ہو پس انداز کرنے کی غرض سے پیسہ) خرچ کرنے میں بخیل بھی ہو تنگدستی سے ڈرتے بھی ہو مالدار بننے کی امید بھی رکھتے ہو (اور ان سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے صدقہ کرو) نہ کہ وہ صدقہ جس کو تم ٹالتے رہو ٹالتے رہو یہاں تک کہ جب دم نکلنے لگے تو کہو کہ فلاں کو اتنا دے دو (فلاں کو اتنا حالانکہ اب تو وہ مال آپ سے آپ فلاں اور فلاں کا ہو گیا) (دم نکلنے ہی وہ مال خود بخود اوروں کا ہو جائے گا) متفق علیہ حلقوم۔ سانس لینے کی نالی۔ والمرئی کھانے پینے والی۔

تشریح: ایک تندرست اور اچھی صحت والا شخص زندہ رہنے اور عمر طبعی کو پہنچنے کی بجائے امید کرتا ہے اور زندگی بسر کرنے کے لئے مال کی ضرورت ظاہر ہے اور ناگہانی مصائب کے وقت فقر و فاقہ سے بچنے کے لئے کچھ مال پس انداز کرنا بھی ضروری ہے جس کے لئے کفایت شعاری اور جرسی لازمی ہے اور خوشحال زندگی بسر کرنے کے لئے جائز طریقہ پر دولت مند بننے کی کوشش کرنا بھی کچھ بری بات نہیں ہے یہ سب انسان کے فطری تقاضے ہیں لہذا ان حالات میں صدقہ خیرات کرنا بڑی جوان ہمتی کا کام ہے اور نفس انسانی پر انتہائی شاق ہے اسی لئے اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے برعکس اس کے ایک بیمار اور زندگی سے مایوس انسان یا تنگداری جس کو تنگدستی کا اندیشہ نہ ہو کہ ان دونوں شخصوں کا صدقہ خیرات کرنا کوئی خاص کارنامہ نہیں ہے نہ ہی ان کے نفس پر شاق ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

اشق الاعمال اکثرھا لو اباً

جو اعمال انسان پر جتنے زیادہ شاق ہوتے ہیں ان کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔
مگر اس صدقہ و خیرات کی جرأت ان فطری موانعات کے باوجود وہی شخص کرتا ہے جسے آخرت کی فکر اور خدا کا خوف ہو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وامامن خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فان الجنة ہی الماوی (پ۔ ۳۰ سورۃ التزعت آیت ۴۰)

باقی جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرے اور نفس کو خواہشات سے باز رکھا تو اس کا (ابدی) ٹھکانا جنت ہی ہے۔

موجودہ زمانہ میں ہماری حالت

مگر ہماری حالت تو اس فتنہ پر در زمانہ میں اتنی ناگفتہ بہ ہے کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا فرق کئے بغیر نفسانی خواہشات یا کہنے نفس پروری میں اس قدر منہمک اور سرگرداں ہیں کہ خدا کے سامنے پیش ہونے کا خوف تو کیا خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اس نفس امارہ کو اس کی ناجائز خواہشات سے باز رکھ کر آخرت کے لئے کوئی کام کریں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الایظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العلمین (سورۃ المطفین آیت ۶۳)

کیا یہ لوگ کبھی نہیں سوچتے کہ ان کو ایک عظیم دن (قیامت کے دن) کے لئے ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا جس دن تمام مخلوق رب العالمین کے سامنے پیش ہوگی۔

لیکن وائے بر ماوہر حال ما (افسوس ہم پر اور ہمارے حال پر)
بہر حال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ کارہائے خیر کے انجام دینے میں تاخیر اور ٹال مٹول نہ کرنی چاہئے جو بھی بن پڑے حالات کی پرواہ کئے بغیر آخرت کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہنا چاہئے اللہ پاک ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔

تلوار کا حق ادا کرنے کے مطالبہ پر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو دجانہ کا تلوار قبول کرنا

الخامس : عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقَالَ : " مَنْ يَأْخُذْ مِنِّي هَذَا ؟ " فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ : أَنَا أَنَا . قَالَ : " فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ ؟ " فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ رضي الله عنه : أَنَا أَخْذُهُ بِحَقِّهِ ، فَأَخَذَهُ فَلَقَّ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ . رواه مسلم . اسم أبي دجانة : سماك بن خرشة . قوله : " أَحْجَمَ الْقَوْمُ " : أي توقفوا . و" فَلَقَّ بِهِ " : أي شق . " هَامَ الْمُشْرِكِينَ " : أي رؤوسهم .

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ اُحد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار دست مبارک میں لی اور فرمایا اس تلوار کو کون لیتا ہے تو سب نے ہاتھ پھیلا دیئے اور ہر شخص نے کہا میں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا: تو جو اس تلوار کو لے گا اس کو اس کا حق بھی ادا کرنا ہوگا تو سب پیچھے ہٹ گئے (اور پھیلے ہوئے ہاتھ سکتا گئے) تو ابودجانہ رضی اللہ عنہ (آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا میں اس تلوار کو لیتا ہوں اور اس کے حق ادا کرنے کا ذمہ بھی لیتا ہوں چنانچہ ابودجانہ نے وہ تلوار لے لی اور خوب مشرکین کی کھوپڑیاں اس سے پھاڑیں اور گردنیں کاٹیں۔ صحیح مسلم ابودجانہ کا نام سماک بن خرشہ ہے، اجتم القوم کے معنی ہیں رک گئے۔ فلق بہ سر پھاڑ دیا، حام المشرکین، مشرکین کی کھوپڑیاں۔

تشریح: یہ بات نہیں کہ دوسرے ہاتھ پھیلانے والے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مشرکین سے جنگ کرنے اور جام شہادت پینے کی خواہش نہ تھی یا ان میں سرفروشی کا جذبہ نہ تھا بلکہ وہ مناسب وقت اور موقعہ کے منتظر تھے بلا تاخیر جاننازی و سرفروشی کے لئے تیار نہ تھے اس کے برعکس ابودجانہ کا جذبہ سرفروشی و جاننازی اور شہادت کی تڑپ کسی بھی تاخیر کی متحمل نہ تھی انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور پورے عزم کے ساتھ فوراً ہی تیار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر کے تلوار لے لی اور اس کا حق ادا کر دیا سبحان اللہ! اسی مقصد کی بنا پر امام نوویؒ نے اس حدیث کو اس باب کے ذیل میں ذکر کیا ہے کہ کسی بھی کلمہ خیر کے انجام دینے کا جو موقع بھی میسر آجائے اسے غنیمت سمجھنا چاہئے اور بلا تردد تاخیر اس سے فائدہ اٹھانا چاہئے کیا خبر ہے پھر موقع ہاتھ آئے

بد سے بدتر زمانے آتے رہیں گے یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے

السادس : عن الزبير بن عدي ، قَالَ : أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَكُونَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ . فَقَالَ : " اصْبِرُوا ؛ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ " سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه البخاري .

ترجمہ: زبیر بن عدی بیان کرتے ہیں کہ: (ایک مرتبہ) ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے (انہیں گفتگو میں) حجج بن یوسف (مہاجر امت) کے ان مظالم کی شکایت کی جو ہم (مسلمانوں) پر شب و روز توڑے جا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا (بھائی) صبر کرو صبر اس لئے کہ جو زمانہ بھی آتا ہے اس کے بعد کا زمانہ اس سے بھی زیادہ بُرا (اور بدتر) ہوتا ہے (اسی طرح بد سے بدتر زمانے آتے رہیں گے) یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے (یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا) تمہارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے میں نے اسی طرح سنا ہے۔ (صحیح بخاری)

تشریح: یاد رکھئے! خیر القرون کا ساخیر و صلاح اور امن و امان کا زمانہ تو اب آنے سے رہا وہ تو نبوت کے انوار و برکات تھے جو آفتاب رسالت کے غروب ہونے کے بعد اسی طرح کچھ عرصہ قائم رہے جیسے سورج غروب ہونے کے بعد کچھ دیر تک اس کی روشنی شفق کی صورت میں باقی رہتی ہے اس کے بعد تو بس اندھیرا ہی اندھیرا رہ جاتا ہے اور دنیا تاریک سے تاریک تر ہوتی جاتی ہے روشنی کی توقع حماقت ہے اسی طرح امت عہد رسالت سے جس قدر دور ہوتی جاتی ہے اسی قدر شر و فساد کی تاریکیوں میں ڈوبتی جاتی ہے اس میر امت حجاج بن یوسف کے نامبارک عہد میں اگرچہ مسلمانوں کے جان و مال پر ظلم و جور کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے بے گناہوں کے معصوم خون کی ندیاں ہر طرف بہ رہی تھیں مگر دین و ایمان کا سرمایہ قطعاً محفوظ رہا اس کے بعد آنے والے زمانوں میں دین و ایمان پر بھی ڈاکے ڈالے گئے چنانچہ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ عہد رسالت سے جس قدر مسلمان دور ہوتے چلے گئے دین و ایمان میں اضمحلال آتا چلا گیا۔ نت نئے فرتے پیدا ہوتے اور پھولتے پھلتے رہے اور اسلامی عقائد میں لمحوں اور بے دینوں کی رخنہ اندازیاں برابر بڑھتی چلی گئیں اور مذہب کی گرفت ڈھیل ہوتی چلی گئی اسی لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کر دیا تھا۔

خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم

بہترین عہد میرا (یعنی صحابہ کا) عہد ہے پھر ان لوگوں کا عہد بہتر ہے جو ان (صحابہ) کے قریب ہیں (کبار تابعین) پھر ان لوگوں کا عہد جو ان (کبار تابعین) سے قریب ہیں (تتابعین)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اب تو زاد آخرت جو کچھ جمع کرنا ہے یعنی کارہائے خیر جو بھی کرنے ہیں اسی ظلم و جور اور فتنہ و فساد کے ہنگاموں میں کرنے پڑیں گے زندگی کی رفتار ایک لمحہ کے توقف کے بغیر منزل فنا کی طرف بڑھ رہی ہے اور موت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے ایسی صورت میں اگر تم خیر و صلاح کا زمانہ آنے کے انتظار میں بیٹھے رہے تو یہ چند روزہ زندگی ختم ہو جائے گی اور تمہیں زاد آخرت یعنی اعمال صالحہ سے تہی و امن سفر آخرت کرنا پڑے گا اور رب العلمین کے سامنے جب کہ لتسنلن یومئذ عن النعیم (پ ۳۰ سورۃ النکاثر، آیت ۸) اس دن ضرور سوال کیا جائے گا تم سے نعمتوں کے بارے میں کے تحت سوال ہو گا کہ اتنی طویل زندگی کی نعمت اور کارہائے خیر انجام دینے کی صلاحیت و قدرت ہم نے عطا کی تھی بتلاؤ تم نے اس کو کہاں صرف کیا اور ہمارے سامنے پیش کرنے کے لئے کیا لائے ہو؟ تو تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہو گا اور جنت النعیم سے محرومی اور جہنم (جہنم) کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہ ہو گا۔

لہذا خیر و صلاح کے زمانے اور امن و امان کے وقت کا انتظار کئے بغیر بلا توقف اور بلا تذبذب و تردد جو بھی نیک کام کر سکتے ہو کرتے رہو یاد رکھو تمہاری زندگی کا ایک ایک دن بیش بہا سرمایہ ہے اسے سازگار حالات کے

انتظار میں ہرگز ضائع نہ کرو دراصل یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن مکار نفس کا ایک حربہ ہے جو تمہیں زادِ آخرت سے محروم رکھنے کی غرض سے تمہارے خلاف استعمال کرتا ہے تمہارا فرض ہے کہ تم اس دشمن اور اس کے حربوں کو پہچانو اور اس کو ناکام اور اس کے حربوں کو ناکارہ بنا دو۔

حاصلِ حدیث یہ ہے کہ خیر و صلاح اور امن و امان کے زمانے کا انتظار شیطانی فریب ہے اس دھوکہ میں ہرگز نہ آؤ اور جو بھی کارہائے خیر کر سکتے ہو بلا توقف و تردد کر لو یاد رکھو۔
گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔

اسی غرض سے امام نوویؒ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اس باب میں لائے ہیں۔

قیامت اور خروجِ دجال سے پہلے کارہائے خیر کر لینے کی تاکید

السابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " بادرُوا بالأعمالِ سبْعاً ، هلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا ، أَوْ غِنًى مُطْغِيًا ، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا ، أَوْ مَرَمًا مُفْنِدًا ، أَوْ مَوْتًا مُجْهَرًا ، أَوْ الدَّجَالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ ، أَوْ السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمْرٌ " رواه الترمذی ، وَقَالَ : " حدیث حسن "

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سات چیزوں کے پیش آنے سے پہلے جو بھی کارہائے خیر کر سکتے ہو کر لو آخر تم کس چیز کا انتظار کرتے ہو کیا اس بھگدستی (اور فقر و فاقہ) کا جو سب کچھ بھلا دیتی ہے یا اس دولت مندی کا؟ جو (دولت کے نشہ میں مست اور) سرکش بنا دیتی ہے یا اس بیماری کا جو ہوش و حواس بھی جلا کر دیتی ہے یا اس عقل و خرد کو خراب کر دینے والے) بڑھاپے کا؟ جس میں اچھی بری بات کی خبر ہی نہیں رہتی یا دنیا سے رخصت کر دینے والی موت کا؟ یا خروجِ دجال کا کہ وہ (آنکھوں سے) پوشیدہ ایک ایسا شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے (کہ اب آیا اور جب آیا) یا قیامت کا انتظار کر رہے ہو حالانکہ قیامت تو سب سے بڑی مصیبت اور سب سے زیادہ تلخ حقیقت ہے (جس کی ہوش رہا تفصیل قرآن کریم میں شرح و سبب کے ساتھ بیان کی گئی ہے) (ترمذی)

تشریح: یہ ظاہر ہے کہ آخرت کی فکر اور اس کے لئے کارہائے خیر انجام دینے کی ضرورت کا احساس اور وقت ان ساتوں چیزوں کے پیش آجانے کے بعد نہیں رہ سکتا اور ان کا پیش آنا یقینی ہے جلد ہو یا دیر سے موت اور قیامت کے بعد تو عمل کا وقت ہی نہیں رہتا دجال کا فتنہ جس کا کھٹکا ہر وقت لگا رہتا ہے انسان کی عملی قوت کو مفلوج کر دینے میں قیامت سے کچھ کم نہیں ہے باقی چار چیزوں ۱۔ فقر ۲۔ غنا ۳۔ مرض ۴۔ عقل و خرد کو مفلوج کر دینے والا بڑھاپا۔ کے متعلق انسانی زندگی کے تجربات و واقعات شاہد ہیں کہ ان حالات میں بھی انسان کو ہوش باقی نہیں

رہتا اور نہ ہی آخرت کے لئے کچھ کیا جاسکتا ہے اور یہ چاروں حالات بھی ایسے ہیں کہ انسان کسی وقت بھی ان کے پیش آجانے کی طرف سے مطمئن نہیں ہو سکتا ہر وقت ان کے پیش آنے کا کھٹکا لگا رہتا ہے لہذا اس سے پہلے کہ اس قسم کے حالات پیش آئیں انسان کو آخرت کے لئے جو کچھ کرنا ہے بلا تاخیر کر لینا چاہئے اور اس وقت اور فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہئے یہی حدیث شریف کا منشا ہے اور یہی ترجمہ الباب (عنوان باب) ہے۔

اللہ اور رسول کی زبان سے محبت کی تصدیق اور فتح کی بشارت حضرت عمرؓ کا جذبہ شہادت

الثامن : عَنْهُ : أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ : "لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّأْيَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ" قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَةً أَنْ أُدْعَى لَهَا ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا ، وَقَالَ : " اْمْسُ وَلَا تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ " فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ فَصَرَخَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَى مَاذَا أَقَاتِلُ النَّاسَ ؟ قَالَ : " قَاتِلَهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِذَا فَعَلُوا فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " رواه مسلم . " فَتَسَاوَرْتُ " هُوَ بِالسِّينِ الْمَهْمَلَةِ : أَي وَثَبْتَ مُتَطَلِعًا .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر (ایک دن) فرمایا: (آج) میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے (عمر میں) کبھی (لشکر کی) امداد (و قیادت) کی خواہش نہیں کی سوائے اس دن کے چنانچہ میں آگے بڑھا (اور سامنے آیا) اس امید پر کہ مجھے اس امداد کے لئے بلایا جائے گا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو بلایا اور وہ جھنڈا ان کو دیا اور فرمایا جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں چنانچہ حضرت علیؓ (آپ کے دست مبارک سے جھنڈا لے کر) تھوڑی دور چلے پھر ٹھہر گئے مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بلند آواز سے پکارا یا رسول اللہ! میں ان لوگوں سے کس بات پر جنگ کروں؟ آپ نے فرمایا: اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ وہ اس بات کی شہادت نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں جب وہ ایسا کر لیں گے (یعنی یہ شہادت دے دیں گے) تو (وہ مسلمان ہو جائیں گے اور) ان کی جانیں اور مال تمہاری دستبرد سے محفوظ ہو جائے گا سوائے اسلام کے حق کے (یعنی اگر وہ کوئی ایسا جرم کریں گے جس کی سزا اسلام میں قتل ہو تو دوسرے

مسلمانوں کی طرح وہ بھی قتل کئے جائیں گے) باقی ان (کے دلوں) کا حساب اللہ کے سپرد ہے (کہ وہ دل سے مسلمان ہوئے یا نہیں؟ اس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا لہذا اس کا حساب بھی وہی لے گا) (صحیح مسلم) فتاویٰ میں نے اس کی خواہش رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اونچا کیا۔

تشریح: اس حدیث میں حضرت عمرؓ کا اقدام ترجمہ الباب (عنوان باب) کے تحت آتا ہے کہ نہ صرف فتح خیبر کا کارنامہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی شہادت کا حصول ایک ایسا کار خیر ہے کہ اس کو انجام دینے کے لئے بغیر کسی جھجک اور تاخیر کے ان کا آگے بڑھنا اعمال صالحہ کی طرف مبادرت (عجلت) اور سبقت کی اہم ترین مثال ہے ساتھ ہی حب جاہ و منصب کی غلط فہمی کی تردید بھی فرما دی کہ اس دن کے علاوہ میں نے ساری عمر کبھی امارت جیش کی خواہش نہیں کی۔

بہر حال حضرت عمرؓ نے اپنے مخلصانہ جذبے کے اظہار میں مطلق کوتاہی نہیں کی یہ دوسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانے خداوندی کے تحت حضرت علیؓ کو فتح خیبر کی سعادت حاصل کرنے کا موقع دیا اور انہوں نے کا حقہ شجاعت و سرفروشی کا مظاہرہ کیا (تفصیل کیلئے کتب مغازی میں فتح خیبر کے حالات ملاحظہ کیجئے)

باب فی المجاہدۃ

مجاہدہ

قرآن کریم کی آیات اور ان کا ترجمہ و تشریح

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المنكوبت: ۶۹]

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ ہمارے واسطے مشقتیں اٹھاتے ہیں ان کو ہم اپنے راستے سمجھا دیتے (بتلا دیتے) ہیں اور بلاشبہ اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

۲. وجاهدوا فی اللہ حق جہادہ ہوا اجتہدکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابرہیم (سورۃ حج آیت ۷۸)

اور مشقتیں اٹھاؤ اللہ تعالیٰ کے لئے جیسی اس کے واسطے مشقتیں اٹھانی چاہئیں اس نے تم کو (اس کام کے واسطے) انتخاب کیا ہے اور اس نے (اس) دین میں ذرا بھی دشواری نہیں رکھی (یہ) تمہارے باپ ابراہیم (جد اعلیٰ) کی ملت ہے۔

تفسیر: قرآن وحدیث میں عام طور پر دو لفظ آتے ہیں۔ ایک جہاد ۲۔ دوسرے مجاہدہ۔ جہاد اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمنوں یعنی کافروں، مشرکوں اور بے دینوں کے ساتھ کیا جاتا ہے خواہ تلوار کے ذریعہ ہو خواہ زبان کے، خواہ قلم کے ذریعہ، مجاہدہ خود اپنے نفس امارہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ انسان کا سب سے بڑا اور خطرناک دشمن ہے اسکی صورت یہ ہے کہ نفس کی خواہشات اور رغبت کے خلاف اس کے علی الرغم اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں مسلسل شدید ترین مشقتیں اٹھائی جاتی ہیں نفس کی خواہش کے خلاف احکام شرعیہ پر پورا پورا عمل کیا جاتا ہے یہاں تک کہ نفس مخالفت اور سرکشی سے باز آجائے اور کلی طور پر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بن جائے احکام شرعیہ پر اگرچہ اس کی خواہش کے خلاف ہوں عمل کرنے کے لئے آمادہ ہو جائے مگر شرط یہ ہے کہ یہ مشقتیں قرآن وحدیث کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق اٹھالی جائیں جیسا کہ لہندینہم سبلنا میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور اس باب کی حدیثوں میں ان مشقتوں کی تفصیل مذکور ہے اسی مشقت کشی کو مجاہدہ کہتے ہیں یہی عنوان باب ہے جو ان دونوں آیتوں سے ثابت ہے احسان کی حقیقت آپ حضرت جبرئیل کی حدیث کے ذیل میں (مراقبہ کے بیان میں) پڑھ چکے ہیں پھر پڑھ لیجئے۔

نفس امارہ کی اس دشمنی کا ثبوت قرآن و حدیث سے

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے پاک دامن نبی کی زباں سے کہلاتے ہیں۔
وما أبرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم (سورۃ یوسف آیت ۵۳)
میں اپنے نفس کی برأت نہیں کرتا (صفائی نہیں پیش کرتا) بلاشبہ نفس تو بری ہی باتوں کا کثرت سے
حکم کرنے (اور ابھارنے) والا ہے بجز اس کے کہ میرا رب رحم فرمائے (اور اس کے شر سے بچائے)
بے شک میرا رب بہت زیادہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔

از روئے شریعت ممنوع اور حرام چیزوں اور لذتوں کے سبز باغ دکھا کر دعوت گناہ دینا اور خدا اور رسول کے احکام پر عمل کرنے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا اور روڑے اٹکانا تو اس نفس امارہ کا ہر وقت کا مشغلہ ہے ہی جیسا کہ قرآن کریم کے لفظ امارۃ بالسوء سے ظاہر ہے اور احادیث میں اس کی تفصیل آرہی ہے لیکن اس نفس کی سب سے زیادہ خطرناک اور تباہ کن دشمنی یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے عبادتیں اور ریاضتیں کرنے والوں کے دلوں میں غیر محسوس طریقے پر ریاکاری خود نمائی اور خود پرستی کے زہر ملا کر انہیں برباد کر دیتا ہے ایک اعلیٰ درجہ کے جانباز غازی کو ایک اعلیٰ درجہ کے واعظ اور خطیب کو ایک اعلیٰ درجہ کے صاحب قلم انشاء پرداز کو ان ہی ریاکاری شہرت پسندی اور خود نمائی وغیرہ کے خفیہ اور زیر زمین حربوں سے ہلاک اور ان کے جہاد فی سبیل اللہ کو برباد کر دیتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اسی طرح ایک عابد شب زندہ دار اور ایک تارک لذات و شہوات پرہیزگار کی ساری محنتوں اور مشقتوں کو انہی حربوں سے تباہ کر دیتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں ”احسان“ کی شرط لگائی۔ اور دوسری آیت کریمہ میں حَقُّ تَقَاتِهِ کا اضافہ فرمایا اور آیت کریمہ ذیل میں اس ریا سمعہ و عجب کو شرک فی العبادت قرار دیا اور اس سے منع فرمایا ارشاد ہے۔

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه احداً (سورۃ کہف آیت ۱۱۰)

اور جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے اس کو چاہئے کہ (زیادہ سے زیادہ) نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی (چیز) کو شریک نہ کرے۔

اس لئے اور کافروں، مشرکوں سے پہلے اس ماد آستین دشمن کو مارنا یعنی نفس کشی کرنا ضروری ہے اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ (جنگ) سے واپس آئے مدینہ کے قریب پہنچ کر صحابہ کرام کے رویہ میں نفس کی خباثت کے کچھ آثار محسوس فرمائے تو آپ نے کسی صحابی کو خطاب کر کے فرمایا:

رجعنا من الجهاد الا صغرى الى الجهاد الاكبر فان اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك

ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آرہے ہیں اس لئے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس

ہے جو تمہارے پہلوؤں کے درمیان (چھپا بیٹھا) ہے (اور ہر وقت اور ہر حالت میں دشمنی میں لگا رہتا ہے اور تمہاری جڑیں کاٹتا رہتا ہے)

انسان کا سب سے بڑا دشمن

بہر حال انسان کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خطرناک دشمن خود انسان کا نفس ہے یہی انسان کو لذت و آسائش کے سبز باغ دکھا کر طرح طرح سے ہر کار خیر سے روکتا ہے اور گناہوں اور برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اس کو مارنا اور اس کے علی الرغم (منشا کے خلاف) اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کارہائے خیر میں لگا رہنا ہی مجاہدہ ہے۔

اسلامی مجاہدہ اور عیسائیوں کی ”رہبانیت“ اور ہندوؤں کے ”یوگ“ میں فرق یہ مجاہدہ اور نفس کشی اس سے بالکل مختلف ہے جو عیسائی راہب اور ہندو سنیا سی کیا کرتے ہیں وہ لوگ تو جسم کی تمام قوتوں یا کسی خاص قوت کو بالکل ہی ناکارہ اور بے حس (سن) کر دیتے ہیں پھر وہ کوئی کار خیر بھی نہیں کر سکتا اور جو حقوق اللہ اور حقوق العباد اس پر فرض ہیں وہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔

اسلامی مجاہدہ اور نفس کشی شریعت کی حدود میں رہ کر صرف نفس انسانی کے تزکیہ (گناہوں سے پاک کرنے) اور روح انسانی کے تصفیہ (جسمانی الانسوں سے پاک و صاف کرنے) کے لئے کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ آئندہ باب الاقتصاد فی العبادۃ کے ذیل میں پڑھیں گے یہی فرق ہے اسلامی مجاہدہ اور عیسائیوں کی ”رہبانیت“ اور ہندوؤں کے ”یوگ“ میں۔

۳. قال اللہ تعالیٰ واذکو اسم ربك وتبتل الیہ تبیلاً (سورۃ مزمل آیت ۸)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور اپنے رب کا نام لیا کرو (نماز بسم اللہ سے شروع کیا کرو) اور ماسوی اللہ سے قطع تعلق کر کے اپنے رب کی طرف (کلی طور پر اس طرح) متوجہ ہو جایا کرو (کہ غیر اللہ کا خیال بھی دل میں نہ آئے)

۴. قال اللہ تعالیٰ واعبد ربك حتی یاتیک الیقین (سورۃ حجر آیت ۹۹)

اللہ فرماتے ہیں۔ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین (یعنی موت) آجائے۔

آیات کی تفسیر

آیت نمبر ۳ سورۃ مزمل کی آیت ہے جو نزول وحی کی آیات کے نزول کے بعد دوسری سورت ہے اس سے پہلے سورۃ مدثر نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قم فاندلرو (اٹھو پس خبردار کرو) کے ذریعہ انفرادی تبلیغ کے لئے تیار ہو جانے کا حکم دیتے ہیں اور سورۃ مزمل کی اس آیت میں تیار ہونے کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ پہلے اپنے نفس کو سخت ترین عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعہ جو یقیناً تمہارے نفس پر شاق اور دشوار ہوں گی پامال کر کے اپنے دل کا تعلق ماسوی اللہ سے اس طرح منقطع کر لو کہ دل میں غیر اللہ کا خیال تک نہ

آئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو (یعنی بسم اللہ سے نماز شروع کیا کرو) اور ترتیل کے ساتھ (رک رک کر اور سمجھ سمجھ کر نماز میں) قرآن پڑھا کرو۔

ان دونوں ریاضتوں میں شب بیداری اور ترتیل کیساتھ قرآن پڑھنے کا فائدہ ذیل کے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔

ان ناشئة الليل هي اشد وطأ و اقوم قليلاً

بلاشبہ رات کا اٹھنا (شب خیزی) نفس کو پامال کرنے کے لحاظ سے بہت سخت (ریاضت) ہے اور (زبان

سے نکلی ہوئی بات کو دل میں بٹھانے کے اعتبار سے) بہت محکم (طریقہ) ہے۔

یعنی آسائش پسند نفس پر خواب شیریں کو چھوڑ کر اٹھنا اور بیدار ہونا بہت زیادہ شاق اور دشوار ہے جب تم شب (میں) اٹھ کر روزانہ عبادت کیا کرو گے تو وہ نفس بری طرح پامال ہو جائے گا اور نفس کی سرکشی اور سرتابی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ تیسری ریاضت یعنی ماسوائے اللہ سے اس طرح قطع تعلق کہ دل میں غیر اللہ کا خیال تک نہ آئے آسان ہو جائے گی۔

چنانچہ یہ مجاہدہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ایک سال تک جاری رکھا رات کے اول حصہ میں ہی عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر مصلے پر کھڑے ہو جاتے اور رات بھر محویت کے عالم میں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے رہتے یہاں تک کہ رات ختم ہو جاتی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کیف و سرور میں سرشار ہو کر ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی چنانچہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ساری رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم

ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم (سورۃ نائدہ آیت ۱۱۸)

اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو بیشک تو سب پر غالب حکمران ہے۔ پڑھتے رہے اور جسم کی حالت یہ تھی کہ قدموں پر ورم آ گیا تھا اور پاؤں پھٹنے لگے تھے تب ایک سال بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر کہ اب آپ کے نفس کی سرکشی بالکل ختم ہو گئی ہے اور وہ نفس امارہ بالسوء کی پستی سے نکل کر نفس مطمئنہ کی بلندی پر پہنچ گیا ہے اب اس کی رضا ہی ہو گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اب امتثال اور امر و مریضات الہیہ ہی اس کے لئے وجہ طمانیت بن گئے ہیں تب اس مجاہدہ اور ریاضت میں تخفیف فرمادی ارشاد ہے۔

علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقروا ماتيسر من القران علم ان سيكون منكم

موضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل

الله فاقروا ماتيسر منه (سورۃ مزل آیت ۲۰)

تمہارے رب کو علم ہے کہ تم (اس شب خیزی کا) احاطہ نہیں کر سکتے اس لئے تمہارے رب نے تم پر رحم فرمایا اب (پوری رات کے قیام کی بجائے) جتنا قرآن مجید آسانی کے ساتھ پڑھ سکو پڑھ لیا کرو (اور آپ کے ساتھ قیام

کرنے والوں کے متعلق بھی) اللہ کو علم ہے کہ ان میں سے بعض پیار ہو گئے اور بعض اللہ تعالیٰ کا فضل (رزق) حاصل کرنے کے لئے روئے زمین میں سفر بھی کرتے ہوں گے اور بعض اللہ کی راہ میں جنگ بھی کیا کریں گے اس لئے جتنا آسان ہو قرآن پڑھ لیا کرو چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صلوة الیل کے متعلق ذخیرہ احادیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ عام طور پر رات کے آخری چھٹے حصہ میں اٹھتے اور کبھی سات اور کبھی نو اور کبھی گیارہ اور کبھی تیرہ رکعتیں وتر سمیت پڑھا کرتے تھے اور ساری عمر اس پر قائم رہے جیسا کہ آیت کریمہ نمبر ۴ میں مرتے دم تک اس عبادت پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اس مجاہدہ کا مقصد اور اس کی برکات

یہ مجاہدہ اور نفس کشی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس لئے کرائی کہ آپ کے نفس کی خلقی سرکشی و سرتابی ختم ہو جائے اور وہ آپ کا تابعدار بن جائے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ نفس امارہ بالسوء کے اونٹنی مرتبہ سے نکل کر نفس مطمئنہ کے اعلیٰ مرتبہ پر پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء ہی اس کا منشاء اور اللہ کی رضامندی اس کی رضا بن جائے اور امتثال اوامر و مریضات الہیہ ہی اس کے لئے وجہ طمانیت ہو جائے۔

چنانچہ اس سال بھر کے مجاہدہ کے بعد آپ کا نفس کلی طور پر آپ کے تابع ہو گیا کبھی بھی کسی نافرمانی یا بری بات کا خیال تک بھی نہ دن میں آپ کے دل میں آتا نہ رات میں اور آپ خالصتاً لوجہ اللہ نہایت کامیابی کے ساتھ انذار و تبلیغ کا فریضہ ادا کر سکے ابتدا میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی تام تراپزار سانیوں اور انذار و تبلیغ کی راہ میں ان کی پیدا کردہ رکاوٹوں کو نہایت صبر و سکون کے ساتھ برداشت کیا اور اپنا کام کرتے رہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ طیبہ ہجرت اور قیام فرما کر انہی دشمنوں کے ساتھ نہایت کامیاب لڑائیاں لڑیں اور بڑے بڑے معرکے سرکئے حتیٰ کہ صرف دس سال کے عرصہ میں تمام جزیرہ العرب مسلمان ہو گیا اور کفر و شرک کا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہا۔

اور سب سے بڑا آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ اس قیام الیل کی ریاضت میں آپ کے ساتھ شرکت کرنے والے صحابہ یعنی مہاجرین اولین اور انصار کی ایک ایسی سرفروش غازیوں اور مبلغوں کی جماعت تیار کر دی جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کے دین کو روئے زمین کے چپے چپے پر پہنچا دیا رضی اللہ عنہم و رضوانہ علیہم یہ ہیں اس مجاہدہ کے برکات و ثمرات جو آپ نے اور آپ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا۔

وقال تعالیٰ فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ

نیز فرمایا کہ ”جس میں ذرہ بھرنیکی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔“ (الزلزال: ۷)

تفسیر: چوتھی آیت میں فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ کوئی خیر کی ہوگی وہ اس کو اس کے ثواب اور جزاء کی شکل میں دیکھ لے گا، نیکی ایمان ہی کے ساتھ معتبر ہے بغیر ایمان نیکی کا اعتبار نہیں خود ایمان بہت بڑی نیکی ہے اس لئے صاحب

ایمان خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ وہ بلا آخر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ (تفسیر مظہری، معارف القرآن)

۴۶. وقال تعالیٰ: ﴿وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا﴾

مزید فرمایا کہ ”اور جو تم اپنے لیے اچھائی آگے بھیجتے ہو اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر اور صلہ میں بڑھا ہو پاؤ گے۔“ (المزمل: ۲۰) تفسیر: پانچویں آیت میں فرمایا کہ جو نیکی دنیا کی زندگی میں کرو گے اللہ کے ہاں اس کو نہایت بہتر صورت میں پاؤ گے اور بہت بڑا اجر اس پر ملے گا تو یہ نہ سمجھو کہ جو نیکی ہم کرتے ہیں یہیں ختم ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے یہاں سے تم جو نیکیاں آگے بھیج رہے ہو سب اللہ کے یہاں جمع ہو رہی ہیں اور ان میں اللہ سبحانہ کے فضل سے دس گنا اور سات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

﴿وقال تعالیٰ وما تنفقوا من خیر فان اللہ به علیم﴾ والایات فی الباب کثیرة معلومة

مزید فرمایا کہ

”اور نیکی کے کاموں میں جو مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو جانتا ہے“ (البقرہ: ۲۷۳)

غرض اس موضوع پر متعدد آیات قرآنی موجود ہیں۔

تفسیر: چھٹی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور فرمایا کہ جو مال تم دنیا میں خرچ کر گئے اسے اللہ کے ہاں بڑھا ہو پاؤ گے کہ وہ دنیا میں کے مال سے کہیں بہتر اور اجر و ثواب میں عظیم تر ہو گا۔

احادیث اور ان کی تشریح اللہ تعالیٰ کے ولی سے عداوت رکھنے والوں سے اعلان جنگ اور محبوب خدا بننے کا طریقہ

وأما الأحاديث : فالأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحَبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتَطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي أُعْطِيْتُهُ ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لِأَعِيذَنَّهُ “ رواه البخاري . ” آذَنْتُهُ “ : أعلمته بأني عمارب له . ” استَعَاذَنِي “ روي بالنون وبالبله .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جس کسی نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو (سمجھ لو) بلاشبہ میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا اور جو عبادتیں میں نے اپنے بندے پر فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز پسند نہیں کہ جس سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرے اور میرا بندہ نفلوں کے ذریعہ مجھ سے قریب سے قریب تر ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ (کسی چیز کو) پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور بخدا اگر وہ مجھ سے کچھ بھی مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ (کسی چیز سے) میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری

اُذنتہ: میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ اس سے میری جنگ ہے۔ استعاذنی: نون اور یاد کے ساتھ ہے۔

تشریح: اس حدیث قدسی کے تین جزو ہیں۔

۱۔ پہلے جزو میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے مرتبہ اور مقام کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ کے کسی بھی ولی سے عداوت رکھنا اور دشمنی کرنا اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے اس لئے کہ ان اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون (سورۃ النحل آیت ۱۲۸)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی ہیں اور دلوگ جو ”احسان“ کے رتبے والے ہوتے ہیں۔
تقویٰ کی تفصیل آپ اسی کتاب کے مستقل ”باب تقویٰ“ میں پڑھ چکے ہیں اور احسان کی تفصیل آپ
حدیث جبرئیل علیہ السلام میں پڑھ چکے ہیں دوبارہ پڑھ لیجئے تاکہ اس اعلان جنگ کی اہمیت واضح ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی تعیین بھی فرماتے ہیں ارشاد ہے۔

ان اولیاءہ الا المتقون (سورہ انفال آیت ۲۴)

اللہ کے ولی صرف پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔

لہذا آج کل کے نام نہاد ولی جو رعو تقویٰ کے مفہوم سے بھی آشنا نہیں ہوتے اس حدیث کا مصدق ہرگز نہیں ہیں۔
اس حدیث قدسی میں اولیاء اللہ سے عداوت رکھنے والوں اور دشمنی کرنے والوں سے اللہ پاک کا یہ اعلان جنگ
ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں سودی لین دین ترک نہ کرنے والوں سے اعلان جنگ کیا گیا ہے ارشاد ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وذرُوا ما بقی من الربوا ان کنتم مؤمنین ؕ فان لم تفعلوا فاذنوا

بحوب من اللہ ورسولہ (سورہ بقرہ آیت ۲۷۸)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور (جو سود تمہارا باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم (فی الواقع) مومن ہو اور اگر تم نے
اس پر عمل نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔

اس کے معنی یہ ہوئے کہ اولیاء اللہ سے عداوت رکھنے والے اور دشمنی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے
ہی کشتنی اور گردن زدنی ہیں جیسے ممانعت کے باوجود سودی کاروبار ترک نہ کرنے والے۔

۲۔ حدیث کے دوسرے جزو میں اللہ تعالیٰ نے ان محبوب ترین عبادات کی نشاندہی فرمائی ہے جن کے
ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتا ہے اور ولایت کے مرتبہ پر پہنچ سکتا ہے اور وہ تمام فرض عبادتیں
اور احکام شرعیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کئے ہیں خواہ وہ حقوق اللہ ہوں خواہ حقوق العباد
ظاہر ہے کہ کسی بھی فرض عبادت یا حکم شرعی کو ترک کرنا شدید ترین معصیت اور گناہ کبیرہ ہے جس
کا ارتکاب کرنے والا فاسق و قاجر اور عذاب جہنم کا مستحق ہے تو بھلا ایسے شخص کو اللہ کے قرب سے کیا
واسطہ یہی احتمال مامورات اور اجتناب منہیات (جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرنا اور جن چیزوں
سے منع کیا گیا ہے ان سے دور رہنا) تقویٰ کا ابتدائی درجہ اور مرتبہ ولایت کی طرف پہلا قدم ہے۔

۳۔ حدیث کے تیسرے جزو میں اللہ تعالیٰ نے قرب الہی کے مراتب و مدارج اور آخری مرتبہ مقام
رضاء و تسلیم کی نشاندہی فرمائی ہے جس پر پہنچ کر بندہ محبوب الہی اور مستجاب الدعوات بن جاتا ہے اور اس ارتقاء
و ترقی کے ذریعہ سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ کہ وہ ذریعہ کثرت نوافل ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی

باب کی بارہویں حدیث میں اپنے قول فاعنی علی نفسک بکثرة السجود سے اس کی تصریح فرمائی ہے لیکن جس طرح نوافل (نفل نمازوں) کی کثرت اس ازدیاد و قرب الہی کا ذریعہ ہے اسی پر قیاس کر کے تمام نفل عبادتیں نفلی روزے، نفلی صدقات و انفاقات نفلی حج و عمرہ وغیرہ بھی ازدیاد و قرب کا ذریعہ قرار دی جاسکتی ہیں اسی طرح تمام مستحبات و مندوبات بھی اسی ذیل میں آتے ہیں جیسا کہ ان فضائل سے متعلق احادیث سے ظاہر ہوتا ہے جو حدیثوں میں آتے ہیں تاہم اس میں شک نہیں کہ فوقیت اور ترجیح کثرت نوافل (نفل نمازوں کی کثرت) کو حاصل ہے۔

گویا فرض عبادتیں ادا کرنا تو بندہ کا فرض ہے ہی ان کے ترک پر تو مجرم گنناہگار سزا کا مستحق ہو گا لیکن خدا تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کی رغبت، طلب اور خواہش نفل عبادات بکثرت ادا کرنے سے ثابت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ طلب کے بغیر تو کچھ ملتا ہی نہیں چہ جائیکہ غنی مطلق پروردگار کا قرب، فرض عبادات اور نوافل کا یہ فرق پیش نظر رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔

تنبیہ: حدیث قدسی کے اس جزو میں مقام محبوبیت پر پہنچنے کے بعد بندہ جس رضاء و تسلیم کے مرتبہ پر پہنچتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے جن کے ظاہری معنی سے ایک طحہ و زندگی خدائے قدوس کی شان لقمہ لیس سے نا آشنا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے یہ دریدہ دہنی کر سکتا ہے کہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ خدا العیاذ باللہ بندہ کے اندر حلول کر جاتا ہے اور خدا اور بندے میں کوئی مغایرت باقی نہیں رہتی اسی طرح ایک منکر صفات الہیہ معتزلی (عقلیت پرست) یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اعضاء و جوارح اور جسم و جسمانیات سے پاک و منزہ ہیں ان کے کان، آنکھ، ہاتھ پاؤں نہیں پھر اس حدیث میں کیسے کہہ دیا گیا کہ میں اس کا کان، آنکھ، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں لہذا یہ حدیث غلط اور گھڑی ہوئی ہے۔

در حقیقت یہ حدیث ”تشابہات“ میں سے ہے اور اس بندے کی آنکھ، کان اور ہاتھ پاؤں بن جانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ بندہ رضاء و تسلیم کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنی آنکھوں سے صرف ان چیزوں کو دیکھتا ہے جن کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کے فشاء اور رضاء کے مطابق ہوتا ہے کانوں سے انہی آوازوں کو سنتا ہے جن کو سننا اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ انہی چیزوں کو ہاتھ سے پکڑتا یا چھوتا ہے جن کو پکڑنا یا چھونا اللہ پاک پسند فرماتے ہیں قدم اسی طرف اٹھاتا اور چلتا ہے جس طرف قدم اٹھانا یا چلنا اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں بالفاظ دیگر وہ اپنی مرضی، اپنے ارادہ و اختیار سے کلی طور پر دست بردار ہو جاتا ہے اس کی مرضی وہی ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے اس کی خواہش وہی ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا فشاء ہو جاتا ہے اس کا قصد و ارادہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے۔ گویا وہ اپنی ہستی کو فنا کر کے فنا فی اللہ کے مرتبہ پر پہنچ کر بقا باللہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے اسی لئے محبت کے درجہ سے ترقی کر کے محبوبیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے جیسا کہ حدیث کے الفاظ فاذا احببتہ سے صراحۃً معلوم ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ تمام تفصیل کہ میں اس

کا کان، آنکھ ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں اسی مقام محبوبیت کا بیان ہے جس کا حاصل صرف یہ ہے کہ بندہ اپنی ہستی کو فنا کر کے وہی کرتا کہتا سنتا اور دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اب وہ خود اپنی ذات سے باقی ہے نہ اس کی کوئی خواہش باقی ہے نہ اس کا کوئی منشاء اور ارادہ ہے وہ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی راہ میں قربان کر چکا اب تو اللہ ہی اللہ ہے اسی مقام کو مقام رضوا تسلیم یا مقام فنا فی اللہ وبقا باللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بغیر مجاہدہ کے یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

حدیث قدسی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے پاس دوڑ دوڑ کر آتے ہیں

الثانی: عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال: "إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شَيْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً، وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَأْساً، وَإِذَا أَتَانِي يَمْسِيهِ أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً" رواه البخاري.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار عزوجل کا قول نقل کرتے ہیں کہ بزرگ دہر تر پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے جب بندہ مجھ سے ایک باشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ (خراماں خراماں) چلتا ہوا آتا ہے تو میں لپکتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ صحیح بخاری

تشریح: یہ حدیث قدسی بھی پہلی حدیث کی طرح تشابہات میں سے ہے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ کی اللہ سے قریب ہونے اور اس کے پاس آنے کی رفتار کی بہ نسبت یگانہ و بے ہمتی پاک پروردگار کی بندے سے قریب تر ہونے اور اس کے پاس آنے کی رفتار و گئی ہے اس لئے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ سے قریب آنے کے لئے اپنے نفس کو مارنا اور فنا کی منزل سے گزرنا لازمی اور ضروری ہے جو بڑی ہی کٹھن منزل ہے اسی لئے حدیث شریف میں نفس کو مارنے کی جدوجہد کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا ہے اور نفس کو انسان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم رجعتان من الجهاد الا صغرى الجهاد الا كبرى. فان اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك (او كما قال النبي) صلى الله عليه وسلم

اس کے برعکس نہ صرف یہ کہ اللہ پاک کیلئے اپنے بندے سے قریب تر ہونے کیلئے کوئی مانع نہیں چنانچہ ارشاد ہے ورحمتى وسعت كل شيء (میری رحمت تو ہر چیز پر محیط ہے۔) (س۔ الاعراف: ۱۹ آیت ۱۵۶)

بلکہ وہ ایک شفیق اور مہربان ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں (جیسا کہ آپ توبہ کے بیان میں بندہ کے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی فرحت و مسرت کا حال حدیث نمبر ۲ میں پڑھ چکے ہیں اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے۔

حق جل وعلیٰ خود اپنے تقدس اور جسم و جسمانیات اور لامارات حدوث و فنا سے منزہ ہونے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ لیس كمثلہ شیء وهو السميع البصير (اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے اور وہی) (سورۃ الشوریٰ آیت ۱۱)

یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور تمام سننے اور دیکھنے والے ایک طرف کانوں اور آنکھوں یعنی قوت سمع و بصر کے محتاج ہیں اور دوسری طرف خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اگر اسکی مشیت نہ ہو تو قوت سمع و بصر کے باوجود انسان نہ کچھ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اس کے برعکس اللہ تعالیٰ بذات خود سننے اور دیکھتے ہیں نہ کسی قوت کے محتاج ہیں نہ کسی عضو کے اسی لئے ان کی صفت سمع و بصر ازلی وابدی ہے یہی حال ان کی تمام تر صفات کمال کا ہے اسی لئے ان جیسا اور کوئی نہیں ہے وہ اپنی ذات کی طرح صفات میں بھی وحدہ لا شریک لہ ہیں۔
(تو حقیقی معنی میں) سننے اور دیکھنے والا ہے۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ کا اپنے اس قرب کے طلب گار بندے کے پاس اس کی طلب کی بہ نسبت دو گنی رفتار سے آنے اور قریب تر ہونے کا مطلب اس بندہ کو اپنا محبوب و مطلوب بنانا ہے جیسا کہ پہلی حدیث کے الفاظ فاذا انا احببتہ اس حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں ورنہ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے تو اپنے تمام ہی بندوں کے ساتھ ہیں۔
وہو معکم اینما کنتم (سورۃ المائد آیت ۴)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ تو تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو۔

الغرض اس حدیث کا حاصل اور اللہ تعالیٰ کی رفتار طلب کو بندہ کی بہ نسبت دو گنا ظاہر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرب خداوندی کا طلب گار بندہ اللہ تعالیٰ کی رفعت و عظمت اور کبریائی کے سامنے اپنی پستی عاجزی اور کمتری کو دیکھ کر کہیں ہمت نہ ہار بیٹھے اور طلب سے دستبردار نہ ہو جائے سبحان اللہ کیا ذرہ نوازی اور حوصلہ افزائی ہے قربان جائیے ایسے پروردگار کے۔
مجاہدہ سے حدیث کا تعلق ظاہر ہے۔

دو نعمتیں جن سے نفع اٹھانے کے بجائے اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں

الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصَّحَّةُ ، وَالْفَرَاغُ " رواه البخاري .
ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بیشتر لوگ خسارہ میں ہیں ایک تندرستی دوسرے فارغ البالی (صحیح بخاری)

تشریح: حدیث سابق سے معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے اور مقام رضا و محبوبیت تک پہنچنے کا واحد ذریعہ نفل عبادت خصوصاً نفل نمازوں میں انتہائی یکسوئی اور خلوص کے ساتھ مشغول ہونا ہے اور اس کے لئے اول صحت و تندرستی درکار ہے اور اس کے بعد فارغ البالی و بے فکری ظاہر ہے کہ ایک مریض اور کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا انسان کے لئے تو فرض عبادتیں ادا کرنا ہی دو بھر ہوتا ہے چہ جائیکہ نفل عبادتیں خصوصاً

نفل نمازیں اور وہ بھی اس طرح دل لگا کر پڑھنا کہ ماسوی اللہ سے دل بالکل خالی اور ہمہ تن اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح متوجہ ہو کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات (سرگوشی) کر رہا ہے جیسا کہ آپ حدیث جبرئیل علیہ السلام میں احسان کے بیان میں پڑھ چکے ہیں۔

حدیث جبرئیل کے الفاظ یہ ہیں: ما الاحسان قال ان تعبدالله كأنك تراه وان لم تكن تراه فانه يراك (ردہ مسلم)

اس لئے انسان کی روح اور جسم کا تعلق چولی دامن کا ساتھ ہے ایک دوسرے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے اس لئے ممکن نہیں کہ ایک بیمار آدمی کو نماز میں وہ یکسوئی اور توجہ الی اللہ میسر آجائے۔ جو ایک تندرست آدمی کو میسر آسکتی ہے اسی طرح فارغ البالی یعنی تمام خارجی پریشانیوں اور پریشان کن حالات و معاملات سے امن و تحفظ جس شخص کو حاصل ہو وہ جس قدر یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے ایک متفکر اور الجھنوں میں گرفتار پریشان حال شخص ہرگز ہمہ تن متوجہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا خاص طور پر معاشی پریشانیوں اور کاروباری الجھنیوں یا لوگوں سے دوستی و دشمنی وغیرہ سے متعلق افکار اور پریشانیوں کہ یہ تو انسان کو نرم و گداز بستر پر بھی چین سے سونے نہیں دیتیں ساری ساری رات کو ٹیٹیں بدلتے گزر جاتی ہے اور نیند نہیں آتی چہ جائیکہ نماز پڑھنا اور وہ بھی دلجمعی اور یکسوئی کے ساتھ اس لئے بڑا ہی بدنصیب اور محروم القسمت ہے وہ شخص جو ان دونوں نعمتوں کے میسر ہوتے اپنے محبوب و مطلوب پروردگار کا قرب حاصل کرنے اور اس کا محبوب بننے سے محروم رہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی خسارہ اور محرومی ہو سکتی ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ اعلیٰ درجہ کی ناپاسی و ناشکری بھی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہی اس کا شکر یہ ادا کرنا ہے چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم ہے:

واما بنعمة ربك فحدث (س: النضحی آیت ۱۱) باقی اپنی رب کی عطا کی ہوئی نعمت کا اظہار کیا کرو اس لئے اندیشہ ہے..... کہ اس ناپاسی کی پاداش میں کہیں ان نعمتوں سے بھی محروم نہ کر دیا جائے ورنہ کم از کم قیامت کے دن ان نعمتوں پر باز پرس تو ضرور ہوگی ارشاد ہے:

ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم (س: النکاثر آیت ۸)

قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق تم سے باز پرس ضرور ہوگی۔

اسی حقیقت کی طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس مختصر سے مگر انتہائی بلیغ اور جامع و مانع حدیث میں توجہ دلائی ہے تاکہ جن لوگوں کو یہ دونوں نعمتیں میسر ہیں وہ ایک لمحہ بھی ضائع کئے بغیر اس سعادت اور خوش بختی یعنی محبوب رب العالمین اور مستجاب الدعوات بننے کا شرف حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کریں اور کثرت سے نوافل پڑھیں ورنہ اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہ ہوگا۔

اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں نعمتیں بھی دنیا کی تمام نعمتوں کی طرح ناپائیدار اور فنا پذیر ہیں بلکہ شب و روز کے

مشاہدات و تجربات شاہد ہیں کہ خاص طور پر یہ دونوں نعمتیں بے حد سریع الزوال ہیں آن کے آن میں انسان صحت اور فارغ البالی سے محروم ہو جاتا ہے اس لئے اس سے قبل کہ یہ دونوں نعمتیں ضائع ہوں ایک لمحہ کی تاخیر کئے بغیر ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھالینا چاہئے ورنہ پھر کف افسوس ملنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔

ہماری حالت

اس پُر آشوب زمانہ میں ہماری حالت تو اس قدر درگروں اور ناگفتہ بہ ہے کہ ہم ان دونوں نعمتوں تندرستی اور فارغ البالی سے قرب و رضاء الہی حاصل کرنے کے بجائے شب و روز دنیا کی بے حقیقت جائز و ناجائز اغراض و خواہشات پوری کرنے اور زیادہ سے زیادہ مال و جاہ حاصل کرنے میں بلکہ علانیہ نافرمانیوں اور گناہوں کا ارتکاب کرنے میں صرف کر رہے ہیں ہم نہ صرف یہ کہ ان نعمتوں سے جو فائدے اٹھانے چاہئے تھے وہ نہیں اٹھا رہے بلکہ ان سے ناروا فائدے اٹھا رہے ہیں اور صرف الشیء فی غیر محلہ (چیز کو بے محل استعمال) کر کے ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں اسی لئے مسنون دعاؤں میں ایک استغفار کے ذیل میں آیا ہے۔

وَاسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِي تَقْوِيَتْ بِهَا عَلَيَّ مَعْصِيَتِكَ

اور میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں ان نعمتوں (کے استعمال) پر جن سے میں نے تیری نافرمانی کرنے پر قوت حاصل کی۔ اس لئے ہمیں تو اس بدترین ناسپاسی پر زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہئے اس لئے کہ کفرانِ نعمت اور ناشکری و ناسپاسی کی اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دیتے ہیں ارشاد ہے۔

وَلَنْ نَكْفُرَكَ لِنِعْمِ انْ عَذَابِي لَشَدِيدٍ (س: ابراہیم آیت ۷)

اور بخدا اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔

اور جن لوگوں کو یہ دونوں نعمتیں تندرستی و فارغ البالی حاصل ہیں انہیں بلا تاخیر نفل عبادات خصوصاً نفل نمازوں میں مصروف ہو کر قرب و رضاء الہی حاصل کرنا چاہئے کہ یہی ان نعمتوں کے شکر یہ ادا کرنے کا طریقہ ہے اور اس عظیم خسران سے بچنا چاہئے واللہ یهدی الی الحق حدیث کا تعلق مجاہدہ کے باب سے ظاہر ہے:

طویل قیام لیل (تہجد کی نماز) مغفرت کا ذریعہ بھی ہے اور ادا شکر بھی ہے

الرَّابِعُ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقْلَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ ؟ قَالَ : "أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ . وَنَحْوَهُ فِي الصَّحِيحِينَ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ .

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام (ابتداء میں) شب کو اتنا

طویل قیام فرماتے (اور نماز میں کھڑے کھڑے قرآن پڑھتے رہتے) کہ آپ کے قدم مبارک پر درم آجاتا یہاں تک کہ پھٹنے لگتے تو (ایک دن) میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں دریاں حالیکہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ کے گلے پچھلے تمام گناہ بخش دیئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنا پسند نہ کروں؟ (اور اس کے انعام و احسان کا شکر یہ نہ ادا کروں) بخاری و مسلم صحیح بخاری (کی حدیث حضرت عائشہؓ) کے الفاظ ہیں مغیرہ بن شعبہ کی روایت بھی بخاری و مسلم میں اسی کے مانند آئی ہے۔

تشریح: یہ اس زمانہ کا واقعہ ہے جبکہ سورۃ مزمل کا صرف پہلا رکوع نازل ہوا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے (نماز میں) طویل قیام اور تریل کے ساتھ قرآن پڑھنے کا حکم دیا تھا چنانچہ ارشاد ہے:

ياايهاالمزمل قم الليل الا قليلا نصفه او نقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران توتيلاً (سورۃ مزمل: آیت ۳۱)

اے کملی والے!

یہ کچھ حصہ یعنی (تہائی حصہ) نماز عشاء کے لئے ہے۔ تقریباً ایک سال تک آپ نے (اور آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی) اس حکم کے تحت تمام شب تہجد کی نماز اور اس میں قرآن پڑھنے میں گزار دی یہاں تک کہ آپ کے مبارک قدموں پر درم آ گیا اور پھٹنے لگے تو قیام لیل کی اس طویل اور پُر مشقت ریاضت اور مجاہدہ کے بعد دوسرا رکوع نازل ہوا.....

حصہ کے علاوہ پوری رات (نماز میں) کھڑے رہا کرو آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم (ایک تہائی) یا کچھ زیادہ (دو تہائی) اور آہستہ آہستہ قرآن پڑھا کرو۔

ایک سال کے بعد ازراہ شفقت و ترحم اس میں تخفیف کر دی گئی ارشاد ہے۔

ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وثلثه من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقروء واما تيسر من القران (سورۃ مزمل: آیت ۲۰)

تحقیق تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم دو تہائی رات کے قریب یا آدھی رات یا ایک تہائی رات (نماز میں) کھڑے قرآن پڑھتے رہتے ہو اور تمہارے ساتھیوں کا ایک گروہ بھی (تمہاری پیروی کرتا ہے) اور اللہ ہی رات دن کے اندازے مقرر کرتا ہے (کبھی رات چھوٹی دن بڑا اور کبھی رات بڑی دن چھوٹا ہوتا رہتا ہے) اس نے جان لیا (یعنی ظاہر کر دیا) کہ تم اس کا احاطہ ہر گز نہیں کر سکتے (یعنی تہجد کے وقت کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے) اس لئے اس نے تمہاری حالت پر توجہ فرمائی (اور تمہاری مجبوری اور کمزوری پر ترس کھایا) بس اب جتنا تم سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو (تمام رات مشقت نہ اٹھایا کرو)

چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک طویل حدیث میں سعد بن ہشام کے سوال کے جواب میں فرماتی ہیں۔
السنت تقراء یا بیہا المزمئل
کیا تم (قرآن میں) سورۃ مزل نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا۔

قلت بلی قالت فان الله عزوجل افترض قیام الیل فی اول هذه السورة فقام النبی صلی اللہ
علیہ وسلم واصحابہ حولاً وامسك الله خاتمها الثی عشر شهرافى السماء حتى انزل فی
اخر هذه السورة التخفیف (صحیح مسلم جلد ۱ ص ۳۵)

کیوں نہیں (ضرور پڑھتا ہوں) کہنے لگیں اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے اول حصہ میں قیام لیل کو فرض قرار دیا
ہے چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک سال تک اس حکم کے تحت (تمام رات قیام لیل
جاری رکھا) اور اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے آخری حصہ کو بارہ مہینے آسمان (بیت المعمور) میں روکے رکھا تا اس کے
اس سورۃ کے آخر میں (اس پوری رات کے قیام میں) اللہ تعالیٰ نے تخفیف نازل فرمائی۔

الغرض ایک سال تک اس طویل ریاضت اور کٹھن مجاہدہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ تخفیف فرمادی لیکن آخر عمر تک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے تہائی حصہ یعنی چھٹے حصہ میں برابر قیام فرماتے اور نماز تہجد پڑھتے رہے ہیں
محققین کے نزدیک یہ تخفیف شدہ قیام لیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی طور پر فرض تھا جیسا کہ ارشاد ہے۔

ومن الیل فتهجد به نافلة لك عسی ان یبعثک ربك مقاماً محموداً (سورۃ نبی اسرا نکل ع: ۹ آیت ۷۹)

اور شب کے ایک حصہ میں تم تہجد (کی نماز) میں قرآن پڑھا کرو یہ تمہارے لئے (بہتر گناہ نمازوں پر) زائد ہے
توقع ہے کہ تمہارا پروردگار تم کو مقام محمود (مقام شفاعت عظمیٰ) عطا فرمائے گا۔
باقی امت کے لئے مستحب بلکہ سنت موکدہ ہے۔

باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام کردہ و ناکردہ گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت کا اعلان فرمادیا تھا ارشاد ہے:
انا فتحنالك فتحمبنا مینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر (سورۃ النور آیت ۱)

بلاشبہ ہم نے تم کو فتح مبین عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ تمہاری کردہ خطاؤں اور ناکردہ خطاؤں کو بھی معاف
فرمادے (اور تمام گناہوں اور خطاؤں سے بری اور پاک ہونے کا اعلان کر دیا ہے)

پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر عمر تک اس قیام لیل کی مشقت
برداشت کرنے پر ازراہ محبت و شفقت آپ سے یہ سوال کیا اس لئے کہ ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ کے اس سورۃ
مزل کے ختم پر واستغفروا اللہ ان الله غفور رحیم فرمانے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس قیام لیل کا مقصد اللہ
تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہے تو آپ کے تو تمام کردہ و ناکردہ گناہوں کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ

اعلان فرما چکے اب آپ کو اس قدر مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس خیال کی اصلاح فرماتے ہیں کہ اے عائشہ! اس قیام لیل کا مقصد جس طرح طلب مغفرت ہے اسی طرح شکر نعمت بھی اس کا مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا عظیم احسان فرمایا ہے کہ میرے تمام کردہ ونا کردہ گناہوں کی معافی کا دنیا میں ہی اعلان فرمادیا اس عظیم انعام و احسان کا شکریہ اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بعد بھی اعتراف نعمت اور اظہار منت کے طور پر مرتے دم تک اس قیام لیل اور شب بیداری کے مجاہدہ پر قائم ہوں۔

یہی انعام عظیم، تمام کردہ ونا کردہ خطاؤں کی مغفرت کا اعلان، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طغریٰ امتیاز ہے جس کی بنا پر محشر کے دن جبکہ اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب اپنی مخلوق پر اس درجہ پر پہنچا ہو گا کہ نہ اس طرح کبھی پہلے غضبناک ہوئے اور نہ آئندہ کبھی اس طرح غضبناک ہو گئے اور تمام انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس ہولناک دن میں اس شفاعت عظمیٰ یعنی تمام مخلوق کی شفاعت کے لئے خود کو سست ہناتم (میں اس کا اہل نہیں ہوں) کہہ کر اور اپنی اپنی خطاؤں کو یاد کر کے نفسی نفسی (مجھے تو اپنی بڑی ہے اپنی میں تمہاری سفارش کس منہ سے کروں) کہیں گے اور ہر نبی اپنے بعد کے نبی کے پاس بھیج دے گا تا آنکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے اور کہیں گے محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جاؤ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام کردہ ونا کردہ خطاؤں کی معافی کا اعلان فرما کر ہر طرح مطمئن کر دیا ہے وہی شفاعت کبریٰ کے اہل ہیں چنانچہ رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لئے رحمت، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام عرش عظیم کے سامنے سر بسجود ہو کر شفاعت کی اجازت طلب کریں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔

ارفع واسک سل تعطہ اشفع تشفع

سجدہ سے سر اٹھاؤ گاگو (جو مانگو گے) دیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔

اس اجازت کے بعد ہی آپ تمام امتوں کے لئے شفاعت (سفارش) فرمائیں گے یہی مقام وہ مقام محمود ہے جس کے عطا فرمانے کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قیام لیل کے حکم پر ساتھ ساتھ دی ہے ارشاد ہے۔

ومن الیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ان یرعک ربک مقاماً محموداً (سورۃ بنی اسرائیل: آیت ۷۹)

اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کی بنا پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف نعمت اور اظہار منت کے طور پر فرمایا ہے۔

انا سید ولد ادم ولا فخر بیدی لواء الحمد ولا فخر ادم فمن بعدہ تحت لواء اری ولا فخر

میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں فخر کے طور پر نہیں کہتا میرے ہاتھ میں حمد الہی کا جھنڈا ہو گا فخر کے طور پر

نہیں کہتا، آدم اور ان کے بعد کے تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے فخر کے طور پر نہیں کہتا۔

اس تمام تفصیل کے بعد اندازہ کیجئے کہ یہ تمام عمر شب بیداری کی ریاضت اور استغفار پر مداومت آپ کے

لئے کن عظیم رفعتوں پر پہنچنے کا باعث نبی ہے فدواہ ابی وامی صلی اللہ علیہ وسلم

تنبیہ: یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے مطابق معصوم اور گناہوں سے پاک و محفوظ ہیں خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا دامن تو برائے نام گناہوں سے بھی پاک ہے پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (س: النج آیہ ۲)

تاکہ تمہارے کردہ و ناکردہ (سب) گناہ معاف کر دے۔

اس شبہ کا جواب ہم باب توبہ و استغفار کے ذیل میں حدیث نمبر ایک کے تحت دے چکے ہیں اس کو ضرور دوبارہ پڑھ لیجئے۔

رمضان کے آخری دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے

الخامس : عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ أَحْيَا اللَّيْلَ ، وَأَيَقُظُ أَهْلَهُ ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمُتَزَّرَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَالْمُرَادُ : الْعَشْرُ الْأَوَّلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ . وَ" الْمُتَزَّرُ " : الْإِزَارُ ، وَهُوَ كُنَايَةٌ عَنْ اعْتِزَالِ النَّسَلَةِ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ تَشْمِيرُهُ لِلْعِبَادَةِ ، يُقَالُ : شَدَدْتُ لِهَذَا الْأَمْرِ مِثْرِي : أَي تَشَمَّرْتُ وَتَفَرَّغْتُ لَهُ .

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہتی ہیں۔ جب (رمضان المبارک کا) آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی (تمام) رات بیدار (اور نماز یا تلاوت قرآن اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار میں مشغول) رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے اور (عبادت میں) انتہائی محنت و مشقت برداشت کرتے اور تہبند کس لیتے۔

یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں تہبند کس لینے سے مراد ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کرنا ہے (یعنی اس عشرہ میں ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس بھی نہ جاتے) اور بعض علماء نے کہا کہ تہبند کس لینے سے مراد عبادت کے لئے کمر کس لینا ہے چنانچہ محاورہ میں کہا جاتا ہے میں نے فلاں کام کے لئے کمر کس لی ہے اور خود کو فارغ کر لیا ہے (یہی دوسرے معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس آخری عشرہ میں اعتکاف میں ہوتے تھے اس لئے ازواج مطہرات کے پاس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ زمانہ اعتکاف میں بیوی کے پاس جانا بیہش قرآن ممنوع ہے۔

تشریح: ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک سال کے بارہ مہینوں میں سب سے زیادہ خیر و برکت کا مہینہ ہے اس مہینے کے دن تمام سال کے دنوں سے افضل اور راتیں تمام سال کی راتوں سے افضل ہیں اس لئے کہ اسی ماہ مبارک کی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے جو قرآن کریم کی تصریح کے مطابق ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

اسی لئے اس ماہ مبارک میں رضاء خداوندی حاصل کرنے کی غرض سے خیر البریۃ افضل الخلائق رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدہ اور عبادت الہی میں محنت و مشقت اٹھانے کے لئے خود بھی کمر کس لیا کرتے اور اہل خانہ کو بھی شب بیداری کی تلقین فرماتے ہیں جس کا اجمالی تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے اور رمضان المبارک کے شب و روز میں عبادت کی تفصیل کہ دن میں آداب صوم کی پوری پابندی کے ساتھ روزے رکھتے رات میں قیام لیل فرماتے آخر عشرہ میں اعتکاف مسنون کر کے تہل تمام مخلوق بلکہ ماسوائے اللہ سے قطع تعلق اختیار فرماتے جس کی تفصیلات احادیث میں بھی مذکور ہیں اور آیات کی تشریح میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیتے۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوۂ حسنہ کی پیروی ہر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعی کا فرض ہے یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہو سکتا ہے ورنہ صرف زبانی دعویٰ اور خاص خاص اوقات و حالات میں بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا اور میلاو کی محفلیں سجانا تو فریب نفس کے سوا کچھ نہیں۔

امام نووی علیہ الرحمۃ کے اس حدیث کو باب مجاہدہ میں لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مجاہدہ اور ریاضت کا بہترین وقت رمضان المبارک کے روز و شب ہیں ایک لمحہ بھی اس زریں فرصت اور بابرکت مہینہ کا ضائع نہ کرنا چاہئے بلکہ ہر مسلمان کو چاہئے کہ اس انمول فرصت کو کہ ماہ رمضان المبارک اس کو میسر آ گیا اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم انعام و احسان سمجھ کر اس کا شکر یہ اس طرح ادا کرے کہ بغیر کسی بھی قسم کی کوتاہی کے خود کو ہر چیز سے فارغ کر کے شب و روز عبادت میں مصروف رہے واللہ الموفق (اللہ ہی توفیق دینے والا ہے)

بہر حال اس حدیث اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سال کے مبارک ترین ایام و لیالی میں قرب خداوندی حاصل کرنے کے لئے معمول سے زیادہ جد و جہد کرنا اور مشقت اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایسے ایام و لیالی کا منتظر رہنا اور نزول رحمت خداوندی کے اوقات اور فرصتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانا اس امت کا خصوصی شعار ہے۔

اسی شعار کو اختیار کر کے وہ دنیا کی دوسری قوموں اور ملتوں کیلئے لائق اقتداء نمونہ بن سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
لنكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً (سورۃ بقرہ آیت ۱۴۳)
تاکہ تم لوگوں کیلئے (حق پرستی کے) گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے (پورا) اقتداء سنت رسول کے) گواہ ہوں۔
کاش رحمۃ للعالمین کی امت خصوصاً اس زمانہ خدا فراموشی و خود فراموشی میں اپنے محبوب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کر کے اپنے رب کی محبوب امت بن جائے جیسا کہ خود رب العالمین اس امت کو خطاب فرماتے ہیں۔

کستم خیراۃ اخر جت للناس تاعرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ (سورۃ ہنر ع آیت ۱۳۰)
تم بہترین امت ہو تم کو لوگوں (کی رہنمائی) کے لئے پیدا کیا گیا ہے تم (از روئے شرع) بھلی بات (لوگوں کو) بتلاتے ہو اور (شرعاً) بری بات سے منع کرتے ہو اور اللہ پر (کما حقہ) ایمان لاتے ہو۔ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الایظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین (سورۃ لطفین رکوع آیت ۱۵۳)

کیا یہ لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کو ایک عظیم دن (قیامت کے دن) کے لئے ضرور ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا جس دن تمام مخلوق رب العالمین کے سامنے پیش ہوگی۔

لیکن وائے بر ماوہر حال ما (افسوس ہم پر اور ہمارے حال پر) بہر حال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ کارہائے خیر کے انجام دینے میں مطلق تاخیر اور ٹال مٹول نہ کرنی چاہئے جو بھی بن پڑے حالات کی پرواہ کئے بغیر آخرت کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔

اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے
مصیبت کے وقت یہ نہ کہو کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا

السادس: عن ابي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير . احرص على ما ينفعك ، واستمع بالله ولا تعجز . وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر ” اللہ ، وما شاة فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان “ رواه مسلم .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے اور خیر و خوبی تو سب ہی میں ہے جو امور تمہارے لئے مفید اور کار آمد ہیں ان (پر عمل کرنے) کی حرص (اور کوشش) کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو تا کارہ نہ ہو (جو کچھ بن پڑے کرتے رہو) اور اگر کوئی مصیبت پیش آجائے تو یوں مت کہو ”اگر میں (فلاں تدبیر) کرتا تو ایسا ایسا ہوتا“ بلکہ یوں کہا کرو یہ تقدیر خداوندی ہے (اسے کون بدل سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا کیا“ اس لئے کہ (اگر) کالفظ شیطان کی کارگزاری کا راستہ کھولتا ہے۔ مسلم نے روایت کیا۔

تشریح: اس ارشاد نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دو جزو ہیں اول جزو میں بندہ مومن کو جو بھی وہ حسب طاقت و قدرت عبادت و طاعت الہی رضاء خداوندی حاصل کرنے کے لئے کر سکتا ہے اس میں بلا تاخیر و تردد مصروف اور سرگرم عمل رہنے کی ترغیب ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون (سورۃ لطفین ع: آیت ۲۶)

اور اسی (نیکو کاری) میں (ایک دوسرے سے) آگے نکلنے کی کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہئے

اور اسی بنا پر طاقتور مومن کو کمزور مومن سے بہتر اور محبوب تر فرمایا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مشقت برداشت کر کے عبادت و طاعت خداوندی میں ہمہ تن مصروف رہ کر اس مقام محبوبیت پر پہنچتا ہے جس پر کمزور اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا لیکن بہر حال ایمان اور عمل صالح کی دولت اس کے پاس بھی ہے اس کے ذریعے جنت یعنی مقام رضاء الہی میں وہ بھی پہنچ ہی جائے گا گو مومن قوی کا درجہ نہ پاسکے رحمت خداوندی سے مایوس کسی کو بھی نہ ہونا چاہئے۔ سبحان اللہ ارشاد ہے۔

رحمتی وسعت کل شیء (میری رحمت تو ہر چیز (اور ہر شخص) کیلئے عام ہے) (سورۃ اعراف: ۱۹ آیت ۱۲۶)

اسی لئے آخرت میں کام آنے والے اعمال پر عمل پیرا ہونے کی حرص اور رغبت و شوق ہر مومن میں ہونا چاہئے اور عمل کے لئے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے رہنا چاہئے کہ ہم کو ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ارشاد ہے۔

ایاک نعبدو ایاک نستعین (تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں) (سورۃ فاتحہ)

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث (یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے) قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے ارشاد ہے۔

ولعبدی مائل اور میرے بندے کیلئے ہے جو اس نے مانگا۔

کاش کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے یا امام سے سنتے وقت اس ایمان پروردگار اور اس کی بشارت قبولیت کو کان لگا کر توجہ سے سنیں یا غور سے پڑھیں اور ہمارے ایمان تازہ ہوں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ اپنے کمزور اور عاجز بندے کے شوق اور حرص کو دیکھ کر ضرور اس کی مدد کریں گے جیسا کہ ان کا وعدہ ہے اس لئے اس کمزور اور عاجز بندے کا اپنی کمزوری اور عاجزی کو بہانہ بنا کر ناکارہ اور مایوس ہو کر بیٹھ رہنا بہر صورت مذموم ہے کیونکہ یہ یقیناً انسان کے ازلی دشمن شیطان لعین یا سب سے بڑے دشمن نفس امارہ کا فریب ہے جس سے ہمہ وقت چوکننا اور ہوشیار رہنا اور پچنا ہر مومن پر فرض ہے چنانچہ اسی شیطان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ولا تبصروا خطوات الشیطن انه لکم عدو مبین (قرم ۲۱ آیت ۳۸)

شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہر گز مت کرو بلاشبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

اور نفس امارہ کے متعلق ارشاد ہے۔

ان النفس لامارة بالسوء الامارحوم ربی (سورۃ یوسف ۷ آیت ۱۲۸)

بلاشبہ نفس تو بری باتوں کا ہی کثرت سے حکم دیتا ہے بجز اس کے کہ میرا پروردگار رحم فرمائے۔

اور دوسرے جڑوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شیطان کو خفیہ دراندازی سے جس کا بے خبری میں اور

غیر شعوری طور پر ایک مرد مومن بھی شکار ہو جاتا ہے خبردار کرتے ہیں کہ اگر تم کسی اچانک مصیبت یا ناگہانی حادثہ کا شکار ہو جاؤ تو یوں ہر گز مت کہا کرو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا شیطان تمہاری زبان سے یہ کہلوا کر تمہیں غیر شعوری طور پر تقدیر الہی کا منکر بنانا چاہتا ہے بلکہ یہ کہا کرو کہ تقدیر خداوندی یوں ہی تھی اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ محض تمہارا خیال ہے اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا حقیقت جو مشیت الہی تھی وہی ہوا ہے اور یوں ہی ہونا چاہئے تھا جیسا کہ باب مراقبہ کی تیسری حدیث میں جو حضرت علیؑ سے مروی ہے آپ پڑھ چکے ہیں اس حدیث کے بعض طرق کے الفاظ یہ ہیں۔

واعلم ان ما اخطنك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطنك
اور یاد رکھو جو تمہارے ساتھ نہیں ہوا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اور جو مصیبت تمہارے اوپر آئی وہ ٹل ہی نہیں سکتی تھی۔ اسی حدیث کے آخر میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

رفعت الاقلام وجفت الصحف

(تقدیر لکھنے والے) قلم اٹھ چکے (لکھ کر فارغ ہو گئے) اور تقدیر کے نوشتے خشک ہو گئے (اب نہیں مٹ سکتے)
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو بار بار پڑھیے بڑی ایمان افروز حدیث ہے اور تقدیر الہی پر ایمان تازہ کیجئے اس قسم کے شیطانی دوسوں کی بیخ کنی کے لئے مسنون دعاؤں میں مندرجہ ذیل دعائیں آتی ہیں انہیں پڑھا کیجئے تاکہ شیطانی فریب اور دوسوں سے آپ کو گمراہ نہ کر سکیں ایک دعا یہ ہے۔

اللهم ارضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لأحب تعجيل ما آخرت ولا تأخير ما عجلت
اے اللہ! تو مجھے اپنے فیصلے پر راضی کر دے اور جو تو نے میرے لئے مقدر کیا ہے اس میں برکت عطا فرماتا کہ جو (کام) تو نے پیچھے کیا میں اس کو (جلدی) کرنے کی خواہش نہ کروں اور جو تو نے جلدی کر دیا میں اس کی تاخیر کی کوشش نہ کروں۔

۲۔ اللهم اجعل كل قضائك لي خيرا وعاقبته رشداً

اے اللہ! تو اپنے ہر فیصلہ کو میرے لئے بہتر اور خیر کا باعث بنا اور اس کے انجام کو میرے لئے ہدایت و بہتری (کا) سبب بنا دے۔

۳۔ اللهم اني اسلك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك
وشوقاً الى لقاءك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے فیصلے کے بعد (اس پر) رضامندی کا اور مرنے کے بعد خوشگوار زندگی کا اور تیرے (بے کیف) چہرے کو دیکھنے کی لذت کا اور تیسری ملاقات کے شوق کا جس میں کسی مضرت کی بد حالی اور کسی فتنہ کی گمراہی (کا اندیشہ) نہ ہو۔

تنبیہ: یاد رکھئے ان الفاظ ”اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا“ کے استعمال کرنے کی یہ ممانعت ایسے امور ماضیہ گزرے ہوئے امور کیساتھ مخصوص ہے جن میں عموماً انسان تقدیر کی شکایت کے طور پر اپنی کوتاہی کو نوشتہ تقدیر تقدیر کا لکھا

قراردے کر خود کو کوتاہی کے الزام سے بری کرنا چاہتا ہے یا کسی دوسرے پر کوتاہی کا الزام رکھنا چاہتا ہے یا غیر ارادی طور پر اس قسم کے الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں جن سے ایمان بالقدر (تقدیر پر ایمان) کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے جیسا کہ باب مراقبہ کی تیسری حدیث میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حسب ذیل الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔

واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان

اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك

اور یاد رکھو! کہ اگر پوری امت تم کو نفع پہنچانے پر متفق و متحد ہو جائے تو جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتے اور اگر وہ تم کو نقصان پہنچانے پر متفق ہو جائیں تو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

ورنہ تو امور مستقبلہ آنے والے امور کے متعلق بطور حتمیہ ان الفاظ کا استعمال خود کوتاہی سے بچنے یا دوسروں کو بچانے کیلئے بالکل درست اور جائز ہے قرآن و حدیث میں بھی اور شب و روز کی گفتگو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

جنت مکروہات نفس میں اور جہنم خواہشات نفس میں گھری ہوئی ہے

السابع : عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : " حُفَّتْ " بَدَلُ " حُجِبَتِ " وَهُوَ بِمَعْنَاهُ : أَي بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا هَذَا الْحِجَابُ فَإِذَا فَعَلَهُ دَخَلَهَا .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم (نار) خواہشات سے چھپا دی گئی ہے (یعنی طبعاً مرغوب اور دلکش و دل آویز مگر شرعاً حرام و ناجائز چیزوں میں چھپا دی گئی ہے) اور جنت ناگوار (مگر شرعاً ضروری اور فرض و واجب عبادات و امورات) میں چھپا دی گئی ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں

یہ تو بخاری اور مسلم دونوں کی روایت کے الفاظ ہیں اور مسلم کی روایت میں حجت (چھپا دی گئی ہے) کے بجائے حفت (گھیر دی گئی ہے) آیا ہے معنی دونوں لفظوں کے ایک ہی ہیں یعنی انسان کے اور جہنم یا جنت کے درمیان (مرغوب امور یا ناگوار امور کی) ایک دیوار حائل ہے پس جب ان میں سے کسی ایک پر عمل کرے گا تو اندر داخل ہوگا (یعنی اگر نفس کی ناجائز خواہشات و مرغوبات پر عمل کرے گا تو جہنم میں جائے گا اور اگر نفس کو ناگوار محسوس ہونے والے اور دشوار امور عبادات و احکام شرعیہ پر عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا)

مفصل حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ

نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبرئیل سے کہا جاؤ ذرا جنت کو دیکھو چنانچہ جبرئیل گئے اور جنت کو اور ان نعمتوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لئے تیار کی ہیں پھر واپس آئے اور عرض کیا اے میرے رب قسم ہے تیرے عزت و عظمت کی جو بھی کوئی اس جنت (اور نعیم جنت) کا حال سنے گا اس میں ضرور داخل ہو کر رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو ناگوار اور دشوار امور (احکام الہیہ کی پابندیوں سے) گھیر دیا (یعنی مامورات اور منہیات کے خارزار اس کے چاروں طرف بچھادیئے) پھر ارشاد فرمایا اے جبرئیل (اب پھر) جاؤ اور جنت کو دیکھو جبرئیل گئے اور دیکھا تو واپس آکر عرض کیا اے میرے رب قسم ہے تیری عزت و عظمت کی بخدا مجھے تو ڈر ہے کہ اب تو کوئی بھی اس جنت میں داخل نہ ہونے پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو جبرئیل سے فرمایا اے جبرئیل جاؤ ذرا جہنم کو بھی جا کر دیکھو تو جبرئیل گئے اور جہنم (اور اس کے ہولناک عذابوں) کو دیکھا تو واپس آکر عرض کیا اے میرے پروردگار! تیری عزت و عظمت کی قسم جو بھی اس جہنم کا حال سنے گا ہرگز اس میں داخل نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو مرغوبات سے گھیر دیا (یعنی ممنوع و محرم لذائذ اور آسائش و راحت کے دل آویز سبز باغ چاروں طرف لگا دیئے پھر جبرئیل سے فرمایا اے جبرئیل جاؤ ذرا اب جہنم کو دیکھو جبرئیل گئے اور جہنم کو (اور اس کے چاروں طرف مرغوبات و لذائذ کے مقناطیسی کشش رکھنے والے سبز باغوں کو) دیکھا تو واپس آکر عرض کیا اے میرے پروردگار! تیری عزت و عظمت کی قسم اب تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی جہنم میں جائے بغیر نہ رہ سکے گا۔ (ترمذی، ابوداؤد اور نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے)

تشریح: اس حدیث کی تشریح سے پہلے نفس انسانی اور اس کی بلندی و پستی ارتقا و انحطاط، سعادت و شقاوت، فلاح و کسبت اور اس کے اسباب و موجبات کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ونفس وما سواها فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکھا وقد خاب من دسھا (سورۃ النفس: ۱)

اور قسم ہے نفس کی اور اس کو (خیر و شر کو قبول کرنے کیلئے) تیار کر دینے کی) پھر اس کو بدکاری اور پرہیزگاری سے آگاہ کر دینے کی پس متحقق جس نے اپنے نفس کو (بدکاری اور اس کے رجحانات سے) پاک کر لیا اس نے (دنیا اور آخرت دونوں میں) بلاشبہ فلاح پائی اور بلاشبہ جس نے اپنے نفس کو (بدکاریوں میں) دُفن کر دیا وہ (دونوں جہان میں تباہ و برباد ہوا) اور محروم و ناکام رہا۔

اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے اپنی اس اعجوبہ روزگار مخلوق کی یعنی نفس انسانی کی عجیب و غریب فطرت سے آگاہ فرمایا ہے کہ اس ظلم و جہول انسان کی خلقت اور فطرت میں ہم نے نیکو کاری اور بدکاری دونوں کے متضاد رجحانات پیدا کئی طور پر ودیعت فرمائے ہیں اور خیر و شر کی تمیز کے لئے عقل و فہم بھی عطا فرمائی ہے۔ اور عقل و فہم کی رہنمائی کے لئے ہر زمانہ میں انبیاء و رسل بھی بھیجے ہیں اور ہر زمانہ کے تقاضے کے مطابق آسانی

کتابیں اور صحیفے بھی نازل فرمائے ہیں مگر اسی کے ساتھ بدکاری اور گناہ کی طرف دعوت دینے والے شیاطین جن وانس بھی پیدا فرمائے ہیں اور مقناطیسی کشش رکھنے والی مرغوب و لذیذ اور جاذب و دلکش اشیاء بھی پیدا فرمائی ہیں جن کی طرف ہمہ وقت یہ شیاطین اور خود اس کا نفس لمارہ دعوت گناہ دیتے رہتے ہیں اور اس رزمگاہ خیر و شر اور کارگاہ کفر و ایمان میں ابتلاء اور آزمائش کی غرض سے انسان کو خیر و شر اور نیکو کاری و بدکاری ہر ایک کے اختیار کرنے کی قدرت بھی دیدی ہے اور بتلادیا ہے کہ اگر نیکو کاری اور پرہیزگاری کو اختیار کر دے تو امتحان میں کامیاب ہو گے اور فلاح دہرین نصیب ہوگی اور اس کے صلہ میں جنت ملے گی جو مقام رضاء الہی ہے اور اگر اس کے برعکس فسق و فجور اور کفر و شرک اختیار کر دے تو امتحان میں ناکام ہو گے انسانیت زندہ در گور ہو جائے گی اور اس کی پاداش میں جہنم تمہارا ابدی ٹھکانہ ہوگا جو مقام قہر الہی ہے لیکن کچھ تو اصل فطرت کے اعتبار سے اور کچھ لذیذ و پرکشش چیزوں کی کشش کی بنا پر یہ نفس عموماً بد کاریوں اور فسق و فجور پر ہی ابھارتا اور آکساتا رہتا ہے اور عبادات و طاعات اور احکام الہیہ کی پابندی سے گریز کرتا ہے خصوصاً وہ عبادات شاقہ اور احکام شرعیہ جو خواہشات نفس اور راحت و آسائش کی راہ میں حائل ہوں اور ان پر عمل کرنے سے عموماً پہلو تہی کرتا اور بھگتا ہے بجز اس شخص کے جس کو رحمت خداوندی اپنے سایہ رحمت میں لے لے چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے پاک دامن و پاکباز نبی بھی اپنے نفس کی برأت سے قاصر نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل فرماتے ہیں

وَمَا أُبْرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (پارہ ۱۳ سورہ یوسف آیت ۵۳)

اور میں اپنے نفس کو (بداندیشی و بدکاری سے) بری قرار نہیں دیتا بلاشبہ نفس تو برائیوں پر بڑا ہی ابھارنے والا ہے بجز اس کے کہ میرا رب ہی رحم فرمائے (اور اسکے شر سے محفوظ رکھے) درحقیقت میرا رب تو بے حد مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔

لیکن یہی برائیوں اور بد کاریوں پر آکسانے والا نفس رحمت خداوندی کے شامل حال ہو جانے کے بعد اپنی بد کاریوں اور فسق و فجور پر نادم ہو کر خود کو ملامت بھی کرنے لگتا ہے اور خدا کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لئے ہاتھ پھیلاتا اور آئندہ کے لئے توبہ کرتا ہے اور ان ربی غفور رحیم کی بشارت کے تحت پروردگار اس کے گناہوں کو معاف بھی فرمادیتے ہیں۔

مگر اکثر و بیشتر نفسانی خواہشات کے غلبہ اور بیرونی محرکات گناہ کی کشش سے مغلوب ہو کر پھر گناہ اور نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور پھر استغفار و توبہ کرنے لگتا ہے۔

اس حالت میں اس کا پروردگار اس کو نفس لوامہ کے نام موسوم کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَا أُقْسِمُ بِبُيُوتِ الْقِيَمَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ O (پارہ ۲۹ سورہ القیمہ آیت ۲۱)

یوں نہیں ہیں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور یوں نہیں قسم کھاتا ہوں کثرت سے ملامت کرنے والے نفس کی (کہ تم ضرور دوبارہ زندہ اور اپنے رب کے سامنے پیش کئے جاؤ گے)

اگر رحمت الہی اسی طرح برابر اس پر سایہ فگن اور شامل حال رہتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کو اپنی تمام تر خواہشات کو خدا اور رسول کے تابع کر دینے اور بیرونی محرکات یعنی نفسانی خواہشات کی کشمکش اور گرفت سے آزاد ہونے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے اور احکام الہیہ و مریضات خداوندی پر عمل پیرا ہونے میں ہی سکون و اطمینان نصیب ہو جاتا ہے تو اس مرحلہ پر اس کا رب کریم اس کو نفس مطمئنہ کے لقب سے سرفراز فرماتا ہے اور اسی لقب سے خطاب فرماتا ہے اور اس رزمگاہ خیر و شر اور جہان فسق و فجور سے کامیاب و کامران واپس آنے اور اپنے برگزیدہ بندوں کے زمرہ میں شامل ہونے اور جنت الخلد میں داخل ہونے کی دعوت اور بشارت دیتا ہے ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝

(سورۃ النجم آیت ۲۷-۳۰)

اے (عبادت و طاعت الہی پر) مطمئن نفس تو اپنے رب کی طرف واپس آ (اس شان سے کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی پھر میرے (برگزیدہ) بندوں (کے زمرہ) میں شامل ہو اور میری (خوشنودی) کی جنت میں داخل ہو جا۔

نفس انسانی ان تینوں مراحل سے گزرنے کے بعد ہی مقام رضاء الہی تک جس کا دوسرا نام جنت الخلد ہے پہنچ پاتا ہے لیکن اگر خدا تا کر وہ یہ نفس اپنے پہلے یا دوسرے مرحلہ میں ہی رہ جاتا ہے اور فسق و فجور اور کفر و شرک کے گورستان میں اپنی انسانیت کو زندہ درگور کر دیتا ہے تو جہنم جو مقام قہر الہی ہے اس کا ابدی ٹھکانہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۝ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝ (پارہ ۳۰ سورۃ الزمر آیت ۲۷-۳۰)

باقی جس نے سرتابی و سرکشی اختیار کی اور دنیا کی (لذت آفرین مگر فانی) زندگی کو آخرت کی (سدا باقی رہنے والی ابدی) زندگی پر ترجیح دی تو بلاشبہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝ (النجم آیت ۲۷-۳۰)

باقی جو (قیامت کے دن) اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈر اور نفس کو خواہشات سے باز رکھا تو بلاشبہ جنت ہی اس کا ابدی ٹھکانہ ہے۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان کے جہنم رسید ہونے کا بنیادی سبب خوف خدا کا نہ ہونا اور اس کے نتیجہ میں احکام الہیہ سے سرتابی و سرکشی اختیار کرنا ہے اس کے برعکس خوف خداوندی کا غلبہ اور استیلاء اور اس کے نتیجہ میں احکام الہیہ کی پابندی، جن چیزوں کا حکم ہے ان پر عمل کرنا اور جن چیزوں کی شرعاً ممانعت یہ ان سے دور رہنا یعنی نفس کو ناجائز خواہشات و مرغوبات سے باز رکھنا جنت الخلد تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔

دشوار محسوس ہوتا ہے اسی طرح ملازم پیشہ اور کاروباری طبقہ کے لوگوں کے لئے بھی اپنی ڈیوٹی یا دکان یا کاروبار چھوڑ کر ظہر اور عصر کی نماز کے لئے مسجد جانا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا انتہائی گراں اور شاق گزرتا ہے اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا یہ لوگ نمازیں بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں یا قضا پڑھتے ہیں یا ناوقت بلاجماعت ادا کرتے ہیں اور مکار نفس بہانہ یہ بناتا ہے کہ آخر روزی کمانا اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو فرض ہے یا یہ فریب دیتا ہے کہ خدا کسی کو اس کی برداشت سے باہر چیز کا مکلف اور پابند نہیں بناتا اسی قسم کے دھوکے اور فریب میں گرفتار ہو کر رفتہ رفتہ بالکل ہی نماز جیسی اہم عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں لیکن جن مسلمانوں کے دلوں میں خوف خدا جاگزیں اور آخرت کے مواخذہ کا ڈر غالب ہوتا ہے ان کی شان خود اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ارشاد ہے۔

رجال لاتلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلوۃ وایتاء الزکوۃ یخافون یوماً تنقلب

فیہ القلوب والابصار ○ (پارہ ۱۸ سورۃ نور: ع ۵ آیت ۳۷)

وہ ایسے مرد ہیں کہ نہ کوئی خرید و فروخت اور نہ ہی کوئی تجارتی کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے نہ نماز کو قائم کرنے سے نہ ہی زکوٰۃ ادا کرنے سے، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں (سینوں میں) بول (خوف و دہشت سے) اُلٹ پلٹ ہو جائیں گے اور آنکھیں بھی (دہشت کے مارے) پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔

اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے دنیا کے تمام معاشی کاروبار میں مصروف ہونے کے باوجود ان کا دل خدا کے ذکر سے ادائے فرائض دینیہ سے مطلق غافل نہیں ہوتا۔ بقول صوفیاء نقشبندیہ۔۔۔ ”دست بکار دل بیار“ یہی وہ خدا ترس بندے ہیں جو شب میں نرم و گرم بستروں کو خارزار محسوس کرتے ہیں چین و آرام کی نیند کبھی نہیں سوتے رات بھر خدا کی یاد میں مصروف رہتے ہیں یعنی جب آنکھ کھلتی ہے خدا کا ذکر ان کی زبان پر ہوتا ہے اور نماز کا وقت ہوتے ہی بستر ان کو کاٹنے لگتا ہے اور فوراً اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں ان خدا ترس بندوں کا حال شب میں جو خدا نے آرام کے لئے بنائی ہے یہ ہوتا ہے ارشاد ہے۔

تتجاهی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفاً وطعماً ومما رزقنہم ینفقون ○

(پارہ نمبر ۲۱ سورۃ السجدہ: ع ۴۰ آیت ۱۶)

ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں (غفلت کی نیند نہیں سوتے) خوف ورجا اور امید و بیم کی حالت میں اپنے رب کو پکارتے (اور یاد کرتے) رہتے ہیں اور جو (مال و منال) ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے (ہمارے حکم کے مطابق) خرچ کرتے رہتے ہیں۔

اور یہی وہ خدا ترس بندے ہیں جو کڑکڑاتے جاڑے میں ٹھہرے ہوئے بچ بستہ پانی سے پورے طور پر وضو کرتے ہیں اور مکار نفس کے اس فریب میں نہیں آتے کہ حتم سے نماز پڑھنا بھی تو جائز ہے اپنے آپ کو کیوں

ہلاکت میں ڈالتے ہو نمونیہ ہو جائے گا نہیں بلکہ وضو کرتے ہیں اور وضو بھی پورا اسی طرح مکان سے مسجد دور ہونے کی صورت میں نفس کہتا ہے اتنی دور کون جائے یہیں جماعت کئے لیتے ہیں نہیں بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ نماز کے لئے اٹھنے والے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک خطا معاف کرتے ہیں اور ایک درجہ بلند فرماتے ہیں مسجد دور ہونے کے باوجود جاتے ہیں اور جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں اور ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا ایسے انتظار کرتے ہیں جیسے کسی محبوب کی آمد کا انتظار ہوتا ہے غرض دل برابر نماز میں لگا رہتا ہے۔

مکارہ: ایسے ہی نمازی بندوں کو عفو خطایا اور رفع درجات کی خوشخبری مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیل کی حدیث میں دی ہے اور مکارہ نفس سے متنبہ فرمایا ہے اور مکارہ کی نشاندہی فرمائی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا (ایک دن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹاتے اور درجات کو بلند فرماتے ہیں صحابہؓ نے عرض کیا کیوں نہیں (ضرور بتلائیے) آپ نے فرمایا ناگوار اوقات و حالات میں وضو کو پورا کرنا مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا (دور سے چل کر جانا) ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا پس یہی تمہاری (دین کی) سرحدوں کی نگرانی (اور حفاظت) ہے یہی تمہاری سرحدوں کی نگرانی ہے (کہ مکارہ نفس تم کو اپنے مکرو فریب کے حملوں سے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے سے محروم نہ کر دے۔

اسی طرح موقع بموقع قرآن و حدیث میں مختلف عنوانات سے مکروہات سے آگاہ کیا گیا ہے تفصیلات کے لئے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے مختصر یہ ہے کہ جو بھی خدا اور رسول کا حکم نفس پر شاق ہو اور اس پر عمل کرنا یا اس کی پابندی کرنا ناگوار ہو وہ سب مکروہات میں شامل ہیں اس خار زار سے گذر کر ہی جنت میں داخل ہونا ممکن ہے۔

مرغوبات نفس

اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر شہوات اور مرغوبات و لذیذ چیزوں سے آگاہ فرماتے ہیں ارشاد ہے:

ذین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة
والخیل المسومة والانعام والحرث، ذالک متاع الحیوة الدنیا، واللہ عنده حسن الماب O

(پارہ نمبر ۳ آل عمران: ۱۴ آیت ۱۴)

آراستہ کردی گئی ہے لوگوں کے لئے پسندیدہ چیزوں کی محبت عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے جمع کردہ ذخیرے (اعلیٰ نسل کے) نشان لگے گھوڑے، مویشی، اور کھیتیاں یہ (سب) دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے (اور دنیا اور اس کا تمام ساز و سامان بیچ و پوچ اور فانی ہے) اور اللہ کے پاس خوب ترین ٹھکانہ (آخرت) ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر انسان کو مرغوب و مطلوب اور دلکش و دل آویز چیزوں کی جن سے انسان محبت کرتا ہے نشانہ ہی فرمائی ہے۔

کسی حکیم کا بھی قول ہے کہ تمام دنیا کا حاصل تین زے ہیں یعنی زن زر زمین باقی تمام چیزیں انہی کے لوازمات ہیں اگر مزید تجزیہ کیا جائے تو اصل اصول زن یعنی عورت ہے یہی شیطان کا سب سے زیادہ کارگر حربہ ہے چنانچہ دنیا کے واقعات شاہد ہیں کہ بیشتر جرائم کی تہ میں عورت کی ذات کار فرما ہوتی ہے اسی لئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کے لئے سب سے زیادہ ضرر رساں فتنہ قرار دیا ہے اور امت کے مردوں کو ان سے ہوشیار اور چوکنا رہنے کا حکم دیا ہے ارشاد ہے۔

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ ضرر رساں کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔

لیکن درحقیقت یہ تمام چیزیں منعم حقیقی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں جن پر قرآن و حدیث میں مختلف عنوانات سے متنبہ کیا گیا ہے مگر انسان کی آزمائش بھی زیادہ تر انہی نعمتوں کے استعمال و انفعالی میں مضمر ہے اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر انسان اس سے نفع اٹھائے تو یہی چیزیں آخرت کے لئے بہترین کارآمد اور اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے لیکن اگر انہی دلکش و دل آویز چیزوں کے سبزہ زار میں نفس کو بے لگام چھوڑ دے احکام الہیہ کو پس پشت ڈال کر حلال و حرام جائز و ناجائز کا فرق کئے بغیر عیش کو شمی و لذت اندوزی میں مستغرق ہو جائے تو یہی چیزیں جہنم کا کندہ بنا ڈالنے کا سبب بن جاتی ہیں اور یہی ہیں وہ شہوات جن کے سبز باغ جہنم کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں ان لذت مند مرغوبات کی مقناطیسی کشش سے صرف وہی خدا ترس انسان بچ سکتے ہیں جن کے دلوں پر خدا کا خوف اور آخرت کے مواخذہ کا ڈر مسلط ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں اسی حقیقت کو عارف رومی نے مثنوی میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے مثنوی کا ایک شعر یہ ہے۔

چوست دنیا؟ از خدا غافل بودن نے قماش و نقرہ و فرزند وزن

ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کو مخبر صادق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی وسیع حقائق پر مشتمل اور جامع حدیث پیش کرتے ہیں۔

حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشہوات

اس کو ہمیشہ یاد رکھئے اور حرز جاں بنا لیجئے اور زندگی کے ہر قدم پر پیش نظر رکھئے ان شاء اللہ العزیز آپ مکار نفس کے حملوں سے محفوظ رہیں گے اور آپ کا نفس نفس مطمئنہ کے مرتبہ پر پہنچ کر رب العالمین کے محبوب و مقرب بندوں میں شامل اور جنت الخلد میں داخل ہو گا۔ ان شاء اللہ الرحمن الرحیم۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کا واقعہ

الثامن : عن أبي عبد الله حَدِيْفَةَ بن اليمان رضي الله عنهما ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْتَحَتِ الْبِقْرَةَ ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ حِينَذِ الْمَثَةِ ، ثُمَّ مَضَى . فَقُلْتُ : يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ بِهَا ، ثُمَّ انْتَحَتِ النَّسْلَةَ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ انْتَحَتِ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا ، يَقْرَأُ مَتْرَسَلًا : إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعْوِذٍ تَعَوَّذَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَقَالَ : " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى " فَكَانَ سُجُودَهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ . رواه مسلم .

ترجمہ: ابو عبد اللہ حدیفہ بن الیمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب سر (رازدان) صحابی کے نام سے مشہور ہیں رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (تہجد کی) نماز پڑھی تو آپ نے (سورۃ فاتحہ کے بعد) سورۃ بقرہ شروع فرمائی تو میں نے (دل میں) کہا آپ سو آیتیں پڑھ کر رکوع کریں گے آپ (سو آیتوں کے بعد بھی) پڑھتے رہے تو میں نے دل میں سوچا آپ (پوری سورۃ بقرہ) ایک رکعت میں پڑھیں گے چنانچہ آپ پڑھتے رہے تو (سورۃ بقرہ ختم ہونے پر) میں نے سوچا (اب) آپ رکوع کریں گے (مگر) پھر آپ نے سورۃ نساء شروع کر دی اور پھر پوری سورۃ پڑھی اور آپ پڑھ بھی رہے تھے ٹھہر ٹھہر کر جب کوئی آیت تسبیح آتی تو آپ سبحان ربی العظیم کہتے اور جب کوئی دعا کی آیت آتی تو آپ وہ دعا مانگتے اور جب کوئی تعویذ کی آیت (پناہ مانگنے کی آیت) آتی تو آپ اعوذ باللہ فرماتے پھر (یہ تین سورتیں پوری پڑھ کر) آپ نے رکوع کیا تو (رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم کہنا شروع کیا اور پھر (رکوع بھی قیام کے قریب قریب (درازا) تھا پھر (رکوع سے اٹھے اور) سمح اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا شروع کیا اور پھر رکوع کے قریب قریب ہی (قومہ میں) طویل قیام فرمایا پھر سجدہ کیا تو (سجدہ میں) سبحان ربی الاعلیٰ کہنا شروع کیا تو آپ کا سجدہ بھی (قومہ میں) آپ کے قیام کے قریب قریب ہی تھا (مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں قیام

التاسع : عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ اقْبَلُ : وَمَا هَمَمْتُ بِهِ ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أُجْلِسَ وَأَدْعَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ (تہجد کی) نماز پڑھی تو آپ نے اتنا طویل قیام فرمایا کہ میں نے ایک بری بات کرنے کا ارادہ کیا ان سے دریافت کیا گیا آپ نے کیا بری بات کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ کو کھڑا رہنے دوں (مسلم)

احادیث کی تشویح۔ یہ دونوں حدیثیں سرور کائنات فخر موجودات، سید الانبیاء والمرسلین حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فدائے اہل وادی کے انہی طویل و شدید مجاہدات کے دو نمونے ہیں جن کے ذریعہ آپ یتیم آمنہ کے درجہ سے اناسید ولد ادم ولا فخر بیدی لواء الحمد ولا فخر (الحدیث) کے مرتبہ پر پہنچے ہیں۔ یہ دو جلیل القدر صحابی توافیق سے پہنچ گئے اور ان کو آپ کے ساتھ قیام کرنے کا موقع مل گیا اور ان کے ذریعہ پوری امت کو آپ کے ان مجاہدات کا علم ہو گیا اور نہ آپ تو عموماً کاشانہ نبوت میں ہی قیام لیل فرمایا کرتے تھے اور ایسے اوقات میں جبکہ تمام دنیا محو خواب ہوتی حتیٰ کہ ارواح مطہرات بھی خواب شیریں کے مزے لیتی ہوتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے طویل و شدید مجاہدات آپ نے اوائل نبوت میں ہی کئے جبکہ رب جلیل نے ازراہ شفقت آپ کو حکم دیا ہے۔

يا ايها المزمّل ۵ قم الليل الا قليلاً ۵ نصفه او انقص منه قليلاً ۵ او زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً ۵
(پارہ نمبر ۲۹ سورۃ زمزل ۱: ع)

اے کملی پوش تمام رات قیام کیا کر بجز تھوڑی سی رات کے، آدمی رات یا اس سے کچھ کم یا (آدمی رات) سے زیادہ اور قرآن رک رک (اور سمجھ سمجھ کر) پڑھا کرو۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ترتیل کی حقیقت بھی واضح ہو گئی ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھیے اور حسب موقعہ فرمان الہی کے تقاضے پورے کیجئے جہاں تسبیح و تحمید کا مقام ہو وہاں تسبیح و تحمید کیجئے جہاں دعا کا مقام ہو وہاں دعا مانگئے اور جہاں تعویذ کا مقام ہو وہاں پناہ مانگیئے اس طرح کہ گویا آپ اللہ تعالیٰ سے کلام فرما رہے ہیں اور ہمہ تن گوش ہو کر سن رہے ہیں اور تعمیل حکم کر رہے ہیں۔

ذرا تصور کیجئے اس طرح ٹھہر ٹھہر کر کلام اللہ کی قرأت میں اور اسی قیام کے مناسب طویل رکوع و سجود میں کس قدر لطف و سرور حاصل ہوتا ہوگا اور اسی کے ساتھ کتنا طویل وقت صرف ہوتا ہوگا اور کتنی شدید مشقت برداشت کرنی پڑتی ہوگی اسی مشقت برداشت کرنے کے نتیجہ میں مبارک قدموں پر درم آگیا تھا پھٹنے لگے تھے اسی لئے کہا گیا ہے کہ مشقت برداشت کئے بغیر کچھ نہیں ملتا چنانچہ انہی مجاہدات کے ایک سال تک کرنے پر ساری شدتیں اور تکلیفیں راحت و مسرت اور کیف و نشاط سے بدل گئی تھیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔
جعلت قرة عینی فی الصلوٰۃ میری آنکھ کی ٹھنڈک (اور دل کی راحت) نماز میں رکھ دی گئی ہے۔

صوفیاء کرام رحمہم اللہ کے تمام مجاہدات کا ماخذ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ ہے یہ مجاہدات بھی انہی مکارہ میں داخل ہیں جن کے خارزار سے گزرنے کے بعد جنت الخلد میں داخل ہونا نصیب ہوتا ہے جس کی تفصیل آپ حفت الجنة بالمکارہ کے تحت پڑھ چکے ہیں۔

مرنے کے بعد صرف انسان کے عمل اس کے ساتھ جاتے اور کام آتے ہیں

المعشر : عن أنس رضي الله عنه ، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
”يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ : أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ : يَرْجِعُ أَهْلُهُ
وَمَالُهُ ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ “ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ”آپ نے ارشاد فرمایا: مرنے والے کے ساتھ تین جاتے ہیں ایک اس کے اہل و عیال دوسرے اس کا مال تیسرے اس کے اعمال تو دو تو (دفن کرنے کے بعد) واپس آجاتے ہیں ایک اس کے ساتھ باقی رہتا ہے بیوی بچے اور مال تو واپس آجاتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

تشریح: ہر انسان ایک طرف ہوش سنبھالتے ہی خود کو ایسی معاشی ضروریات زندگی کا محتاج محسوس کرتا ہے جن کا حصول مال پر موقوف پاتا ہے اس لئے اپنی تمام تر توانائی کارکردگی کی قوت اور جدوجہد کو مال حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے اور کمائے ہوئے مال کے ذریعہ دیگر ضروریات زندگی اپنے لئے اور اپنے اہل و عیال کے لئے مہیا کرنے میں مصروف ہوتا ہے سب سے پہلے ایک رفیق حیات یعنی بیوی کو حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے بیوی کے رہنے کے لئے گھر اور گھر کا اثاثہ ہونا چاہئے کمائے ہوئے مال کا ایک حصہ اس میں صرف کرتا ہے نکاح میں بھی مہر متجمل و موجدل وغیرہ کے لئے مال درکار ہوتا ہے ایک حصہ اس میں صرف کرتا ہے نکاح کرنے اور بیوی کو حاصل کرنے کی اصلی اور فطری غرض و غایت اگرچہ جنسی خواہشات کے طوفان میں محسوس نہ ہو بقلم نسل ہے اس کے لئے اولاد کی ضرورت اور طلب رونما ہوتی ہے لہذا بیوی سے بچے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اب اپنی ضروریات زندگی کھانا، کپڑا، مکان کے ساتھ ہی ساتھ بیوی بچوں کی ضروریات زندگی مہیا کرنے کی ذمہ داری بھی قانوناً و اخلاقاً و شرعاً غرض ہر حیثیت سے اس پر عائد ہو جاتی ہے اس کے نتیجہ میں مال کی ضرورت زیادہ سے زیادہ تر ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے حاصل کرنے کے لئے کسب معاش کے مختلف اور متنوع ذرائع میں زیادہ سے زیادہ مصروف ہو جاتا ہے نہ دن کی خبر نہ رات کی نہ آرام کی پروا ہوتی ہے نہ راحت کی۔

دوسری طرف ہوش سنبھالنے یعنی بالغ ہونے کے بعد خدا اور رسول پر ایمان لانے اور ان کی اطاعت کو تسلیم کر لینے کی بنا پر احکام الہیہ کی پابندی اس پر عائد ہو جاتی ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے یعنی اوامر و نواہی شرعیہ کی پابندی کا فرض اس پر عائد ہو جاتا ہے۔

یہ ہے انسان کی عملی زندگی کا نہایت مختصر اور سرسری خاکہ اس لحاظ سے اس زندگی میں جو سرمایہ اس نے حاصل کیا وہ تین ہی چیزیں ہیں ایک مال، دوسرے اہل و عیال تیسرے عمل، لیکن انسان فطری محبت اور مال و اہل و عیال کی مقناطیسی کشش سے مغلوب ہو کر تیسری چیز یعنی عمل اور اس کی ذمہ داری کو بالکل بھول جاتا اور پس پشت ڈال دیتا ہے اور پہلی دو چیزوں کو ہی اپنا سرمایہ اور حاصل زندگی سمجھ بیٹھتا ہے اور انہی کے لئے ساری عمر سرکھپاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس غافل انسان کو متنبہ فرماتے ہیں۔

انا جعلنا ما علی الارض زینة لہا لنبلوہم ایہم احسن عملاً (پارہ ۱۵ الکہف، آیت ۷)

بے شک ہم نے روئے زمین کی تمام چیزوں کو اس کا سامان آرائش بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون زیادہ اچھے کام کرنے والا ہے۔

اس زینت اور جاذب قلب و نظر بنانے کی حکمت اور مصلحت، حسن عمل کی آزمائش بیان فرمائی اس لئے کہ اس آزمائش ہی سے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی اہلیت منظر عام پر آتی ہے اس زینت اور اس سے پیدائشی محبت کی تفصیل سے بھی آگاہ فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة

والخیل المسومة والانعام والحرث، (پارہ ۳ سورۃ آل عمران ع: ۱۴ آیت ۱۴)

لوگوں کے لئے مرغوب چیزوں کی محبت آراستہ کر دی گئی ہے عورتوں کی، اولاد کی، سونے چاندی کے ڈھیر کے ڈھیر، ذخیروں کی (خوبی کے) نشانوں والے گھوڑوں کی اور مویشیوں کی اور کھیتوں (اور باغوں) کی۔ آخر میں ان تمام مرغوب چیزوں کی ناپائیدار حقیقت سے بھی آگاہ فرماتے ہیں ارشاد ہے۔

ذالک متاع الحیوة الدنیا واللہ عندہ حسن الماب O (پارہ ۳ سورۃ آل عمران ع: ۲)

یہ سب چیزیں دنیا کی زندگی میں کام آنے والا سامان ہیں (اور دنیا اور اس کے تمام ساز و سامان قافی اور ناپائیدار ہیں) بہترین لوٹنے کی جگہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

تیسری چیز حسن عمل جو اس دنیا کی شریفانہ اور باعزت زندگی بسر کرنے میں بھی بہترین معاون ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں تو صرف عمل ہی عمل باقی رہ جائے گا اور وہی کار آمد سرمایہ ثابت ہو گا وہاں نہ اہل و عیال کام آئیں گے اور نہ مال و جائیداد مگر انسان اپنی جہالت و غفلت کی وجہ سے اس دونوں جہاں میں کار آمد سرمایہ کو خاطر میں نہیں لاتا اور مال و دولت اور اہل و عیال کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے حالانکہ دونوں اعلیٰ درجہ کے بے وفا ہیں مال کی بیوفائی کے تو صد ہا واقعات و مشاہدات انسان شب و روز دیکھتا ہے بسا اوقات بڑے بڑے لکھ پتی اور کروڑ پتی سماوی

دارضی آفات کی وجہ سے مفلس و قلاش کوڑی کوڑی کے محتاج بن جاتے ہیں باقی اہل و عیال بھی بوڑھے اور معذور ماں باپ سے بیزار اور ان کے مرنے کی دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔

اس زیر نظر حدیث نمبر ۱۰ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو متنبہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل و عیال اور مال و منال جس کے لئے تم اپنی توانائیوں کو خرچ کر رہے ہو یہ تو مرتے ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے مرنے کے بعد تمہارا ساتھ دینے اور باقی رہنے والا سرمایہ صرف حسن عمل ہے اس لئے زندگی کے ہر مرحلہ میں اسی حسن عمل کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کرنے کی کوشش کرو اور اپنی تمام تر توانائیوں کو حسن عمل یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اسی کی عبادت میں صرف کر دو یہ جدوجہد ہی اصل مجاہدہ ہے اور دشمن نفس کے خلاف اسی محاذ پر تمہیں جہاد کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ نفس امارہ کے کہنے میں آکر خدا کے احکام کی نافرمانی اور گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھو اور اگر خدا نخواستہ تقاضائے بشریت کوئی معصیت یا گناہ سرزد ہو جائے تو جلد از جلد توبہ و استغفار کے ذریعہ اس کا ازالہ کرو اور اس سے چھٹکارا حاصل کرو یہی اصل مجاہدہ ہے۔

مجازات اعمال کی تحقیق کے ذیل میں آپ قرآن و حدیث کی قطعی نصوص کی روشنی میں جزا کا عین عمل ہونا پڑھ چکے ہیں اس کو باور کر لینے کے بعد تو صرف عمل ہی عمل رہ جاتا ہے جب مرنے والے کو قبر میں دفن کر کے تمام عزیز و اقارب اور دوست و احباب اس کو اکیلا چھوڑ کر چلے آتے ہیں تو اس وقت صرف اعمال ہی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اعمال کی یہ معیت و رفاقت آخرت کے اس پہلے ہی مرحلے میں یعنی قبر میں مرنے والے کے کس طرح کام آتی ہے اس کی تفصیل حسب ذیل حدیث میں پڑھئے اور اعمال صالحہ کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کرنے کی جدوجہد کیجئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پروردگار کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ لوگ جب میت کو دفن کر کے اور اسے اکیلا چھوڑ کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز تک کو سنتا ہے کہ کیسے بے وفا ہیں یہ سب لوگ مجھے کس طرح اس کال کو ٹھڑی میں اکیلا چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں جیسے ان سے کبھی تعلق ہی نہ تھا۔

فرماتے ہیں: مرنے والا اگر ایمان دار ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کی جانب کھڑی ہوتی ہے اور زکوٰۃ اس کے داہنے جانب اور روزہ اس کے بائیں جانب اور اچھے اور شرعاً پسندیدہ کام اور لوگوں کے ساتھ کئے ہوئے احسان میت کے پاؤں کی جانب موجود ہوتے ہیں تو باز پرس کرنے والے فرشتے سر کی جانب سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے کہ میری جانب سے جانے کا راستہ نہیں ہے (واپس جاؤ) وہ دائیں جانب سے (میت کے) پاس جانا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ (تج بے نیام بن کر) کہتی ہے میری جانب سے جانے کا راستہ نہیں ہے (واپس جاؤ) پھر وہ بائیں جانب سے جانا چاہتے ہیں تو روزہ سپر بن کر کہتا ہے کہ میری جانب سے جانے کا راستہ نہیں ہے (واپس جاؤ) قدموں کی جانب

سے جانا چاہتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ کئے ہوئے نیک کام کہتے ہیں میری جانب سے جانے کا راستہ نہیں ہے (غرض عبادات و اعمال صالحہ قلعہ کی فصیل کی طرح میت کے چاروں طرف حصار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں) تب اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھ کر بیٹھو تو میت بیٹھ جاتا ہے اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو کہا جاتا ہے: ان اعمال صالحہ کے بعد ایمان کا امتحان لینے کی غرض سے منکر نکیر رب کے نبی اور دین کے متعلق سوالات کرتے ہیں صحیح جواب پا کر کہتے ہیں۔

”بیشک ہم تو (ان اعمال صالحہ کے حصار کو دیکھ کر ہی) جان گئے تھے کہ تم یہ جواب دو گے پھر اس کی (وہ تنگ و تاریک قبر) سرسبز اور خوب کشادہ کر دی جاتی ہے“

اور اسی کا نام مجاہدہ ہے اسی لئے امام نووی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو مجاہدہ کے باب کے تحت ذکر کیا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت اپنی مرحوم (قابل رحم) امت کو خبردار کیا ہے:

القبر امار وضة من رياض الجنة واما حفرة من حفرة النار

قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک (ہولناک) گڑھا ہے۔

تب اس کو روشن کر دیا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے آرام سے سو جاؤ میت کہتا ہے ذرا مجھے گھر والوں کے پاس جانے دو میں ان کو اپنا حال بتلا آؤں، تو دونوں فرشتے کہتے ہیں سو جا اس دلہن کی طرح جس کو اس کی محبوب ہستی یعنی شوہر ہی بیدار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی خواب گاہ سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔

اعمال صالحہ کی یہ رفاقت صرف قبر ہی میں کام نہیں آئے گی بلکہ حشر کے روز پل صراط سے گزرتے وقت جبکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زبان پر بھی رب سلم رب سلم ہو گا یہ اعمال خصوصاً تلاوت قرآن کرنے والے کے لئے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران وغیرہ قرآن کی سورتیں شفاعت کریں گی اور سروں پر سایہ فگن ہوں گی۔

اس لئے اصلی اور آڑے وقت میں کام کرنے اور ہمیشہ ساتھ رہنے والا سرمایہ عمل صالح ہی ہے اور اسی کے ذخیرہ جمع کرنے کی فکر ہونی چاہئے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔

جنت اور جہنم دونوں قریب تر ہیں انسان جسے چاہے اپنائے

الحادي عشر: عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

”الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ“ رواه البخاري .

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت تم میں سے ہر شخص سے اس کے چپلوں کے تسموں سے بھی زیادہ قریب ہے (نہایت

آسانی سے اس میں داخل ہو سکتے ہو) اور جہنم بھی اسی طرح (تم میں سے ہر شخص کے چیلوں سے بھی زیادہ قریب ہے ذرا سی غفلت سے اس میں جا سکتے ہو) صحیح بخاری

تشریح: نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مقصد امت کو متنبہ اور خبردار کرنا ہے کہ جنت بھی انسان سے انتہا درجہ قریب ہے آسانی سے اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمد رسول اللہ صدق دل سے کہا اور جنت کا حقدار ہو گیا اگر کہتے ہی موت آگئی تب تو سیدھا جنت میں جائے گا حدیث شریف میں آیا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة اور اگر کلمہ پڑھنے کے بعد زندہ رہا اور اس کلمہ کے مصداق کے مطابق یعنی دین کے تمام احکام فرائض و مامورات پر عمل کیا اور ممنوعات و منہیات سے اجتناب کیا اور دور رہا اگر بتقاضائے بشریت کوئی گناہ یا نافرمانی سرزد ہو گئی تو فوراً توبہ کر لی تب بھی جنت میں داخل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہاں اگر کوئی گناہ سرزد ہوا کوئی نافرمانی ہوئی اور بغیر توبہ کے موت آگئی جو ایک سچے مومن سے بے حد مستبعد ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت داخل ہے چاہے معاف فرمائیں چاہے بقدر گناہ سزا دیں یا یوں کہئے کہ گناہ کی آلودگی اور گندگی کو جہنم کی آگ میں جلا کر دور فرمادیں اور پاک و صاف کندن بنا دینے کے بعد جنت میں داخل فرمائیں صدق دل سے کلمہ پڑھنے کے بعد جنت ملے گی ضرور آگے پیچھے دیر سویر کی دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ان الله لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء: (پارہ ۵ سورۃ نساء: ۱۷ آیت ۱۱۶)

تحقیق اللہ تعالیٰ شرک (وکفر) کو تو ہرگز معاف نہیں کریں گے باقی اس کے سوا (گناہ) جس کے چاہے معاف کر دیں (ان کی مشیت پر موقوف ہے)

مادون ذالک (کفر و شرک کے علاوہ) کے تحت بڑے سے بڑا گناہ کبیرہ بھی داخل ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں (ایک دن) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سفید چادر اوڑھے آرام فرما رہے تھے میں (واپس چلا آیا) پھر (تھوڑی دیر بعد) حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ (صدق دل سے) کہا پھر اسی پر اس کو موت آگئی تو ضرور جنت میں داخل ہو گا میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو (تب بھی جنت میں داخل ہو گا) آپ نے فرمایا (ہاں ہاں) اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو میں نے پھر عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو میں نے پھر عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے پھر جواب دیا (ہاں ہاں) اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو تین مرتبہ میں نے اسی طرح سوال کیا اور تینوں مرتبہ آپ نے یہی جواب دیا۔ (بخاری شریف)

بخاری شریف ہی کی ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس وقت سو نہیں رہے تھے بلکہ نزول وحی

کے وقت جو ربودگی کی کیفیت ہو ا کرتی تھی وہ طاری تھی اور اسی وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام امت کے لئے یہ بشارت لے کر آئے تھے اور جیسے ابو ذرؓ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ سوال کیا ہے اور آپ نے جواب دیا ہے بالکل اسی طرح آپ نے جبرئیل علیہ السلام سے وان زنی وان سرق بغرض تحقیق یہی سوال کیا تھا اور جبرئیل نے وحی الہی کے مطابق: وان زنی وان سرق جواب دیا تھا۔

اس آیت کریمہ اور حدیث سے صراحتاً معلوم ہوا کہ کفر و شرک تو ہر گز معاف نہیں ہو سکتا باقی تمام چھوٹے بڑے گناہ حتیٰ کہ زنا اور چوری جیسے گناہ بھی جن پر دنیا میں بھی حد شرعی لگتی ہے اگر بغیر توبہ کئے بھی کوئی مسلمان مر جائے تو حق تعالیٰ کی مشیت کے تحت داخل رہے گا چاہیں معاف فرمادیں چاہے بقدر گناہ سزا دے کر جنت میں داخل فرمائیں بہر حال جنت کے دروازے کی کنجی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے پوری زندگی اسی پر قائم رہنا اور اس کلمہ کے تقاضوں کو پورا کرنا یعنی مامورات (جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے) پر پوری پابندی سے عمل کرنا اور منہیات (جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم ہے) سے بچنا اور دور رہنا اسی کا نام استقامت ہے اور اسی کا نام مجاہدہ ہے اسی لئے امام نووی علیہ الرحمۃ اس حدیث کو مجاہدہ کے باب میں لائے ہیں توبہ کے دروازے کے کھلا ہونے کے اعلان کے بعد ساری زندگی ایک مسلمان بغیر کسی دشواری یا تنگی کے دین اسلام پر پختگی کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے۔

سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے اس کے بارے میں دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا (صدق دل سے) امنت باللہ کہو اور (ساری عمر) اسی پر قائم رہو۔ صحیح مسلم

امنت باللہ صدق دل سے کہنے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی مسلمان سے کوئی گناہ یا معصیت سرزد ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کرے پھر اسے جنت میں داخل ہونے سے کون روک سکتا ہے اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا۔

ان الدین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا

بالجنة التي كنتم توعدون (پارہ ۲۲، سورہ ۱۰، آیت ۳۰)

بلاشک و شبہ جن لوگوں نے ربنا اللہ (صدق دل سے) کہا اور پھر اسی پر (ساری زندگی) قائم رہے (مرنے کے وقت) ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں تم (کسی بات کا) خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کی تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔

استقامت کی پوری تفصیل کتاب کے باب الاستقامت کے تحت آپ پڑھ چکے ہیں دوبارہ پڑھ لیجئے حاصل اس

مقام تفصیل اور خامہ فرسائی کا یہ ہے کہ فی الحقیقت جنت ہر اس شخص سے جو جنت میں جانا چاہے بے حد قریب ہے اور اس میں داخل ہونا نہایت آسان ہے اسی طرح جہنم بھی ہر اس شخص سے جو جہنم میں جانا چاہے اجتہادِ جہ قریب ہے اور نہایت آسانی سے اس میں بھی جاسکتا ہے اور ہر زبان سے کلمہ کفر کہا اور جہنم کے داروغہ نے جہنمیوں کے رجسٹر میں اس کا نام لکھا۔ مثلاً کسی جھوٹے مدعی نبوت کی تصدیق کر دی یا کسی بھی دین کے مسلمہ اور متواتر قطعی عقیدے کا انکار کر دیا مثلاً عدالت صحابہ کا انکار کر دیا یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دروغ گو اور بد کردار کہہ دیا تو کافر ہو گیا ساری اسلامی زندگی برباد گئی سیدھا جہنم میں جائے گا یا کسی بھی کافر نے فعل کارِ نکاب کر لیا بت یا کسی بھی غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنے کو جائز کہا اور سجدہ کر لیا یا کسی بھی قطعی حرام چیز کو حلال یا حلال چیز کو حرام کہہ دیا یا خنزیر کا گوشت، سود کا مال یا شراب کو حلال کہہ دیا اور کھالی لیا کافر ہو گیا ساری عمر کا اسلام برباد ہوا سیدھا جہنم میں جائے گا دیکھا آپ نے کس قدر قریب ہے جہنم اور کتنی جلدی انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے پناہ بخدا خدا بچائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يحلِفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا

(پارہ ۱۰ سورۃ توبہ ع: ۱۰ آیت ۷۴)

وہ (منافقین) اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے (کفر کی بات) نہیں کہی حالانکہ بخدا انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور وہ اپنے اسلام (اور مسلمان ہونے کے) بعد کافر ہو چکے ہیں اور انہوں نے تو منسوبہ بنایا تھا جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔

وہ کلمہ کفر جو ان لوگوں نے کہا تھا وہ بھی سورۃ منافقون میں بیان فرمایا ہے۔

يقولون لئن رجعنا آلى المدينة ليخوجننا الاعز منها الا ذل (س: المنافقون ع: ۷ آیت ۷)

۱۔ یہ منافقین کہتے ہیں بخدا اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو یقیناً عزت والے (یعنی ہم) ذلیلوں (یعنی مسلمانوں) کو ضرور بالضرور مدینہ سے نکال دیں گے۔

هم اللذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا: (پارہ ۲۸ منافقون ع: ۱ آیت ۷)

۲۔ یہ تو وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو مسلمان رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر (ایک پیسہ بھی) مت خرچ کرو تاکہ وہ (پاؤں کشی سے مجبور ہو کر) آپ کے پاس سے منتشر ہو جائیں اعاذنا اللہ منہ

اور وہ منسوبہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بروقت اپنے نبی کو وحی کے ذریعہ آگاہ کر کے ناکام بنا دیا وہ لیلۃ العقبہ کا واقعہ ہے جس کی تفصیل ارباب سیر نے غزوہ تبوک سے واپسی کے ذیل میں بیان کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ منافقین رات کی تاریکی میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر چھپ کر حملہ کر کے آپ کو العیاذ باللہ ہلاک کر دینا چاہتے تھے گویا ان بیوقوفوں نے آپ کو مدینہ سے نکال دینے کی یہ شیطانی تدبیر سوچی تھی۔

پھر ان دونوں کلمات کفر کے متعلق عذر گناہ بدتر از گناہ کے طور پر جو عذر ان لوگوں نے پیش کیا تھا اس کا ذکر فرما کر خود ان کے قول سے ان کا کافر ہونا ثابت کرتے ہیں:-

منافقوں کا عذر

ولئن سألتهم ليقولن انما كنا خوض ونلعب (بارہ ۱۰ توبہ: ۸۰ آیت ۶۵)
اور بخدا اگر تم ان سے دریافت کرو گے تو وہ یقیناً یہی کہیں گے ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے

جواب عذر

قل ابالله وآيته ورسوله كنتم تستهزؤن O لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم (بارہ ۱۰ توبہ: ۸۰)
کیا تم اللہ کے اور اس کی آیات کے اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء (اور ہنسی مذاق) کر رہے تھے؟
کوئی معذرت مت کر و بیشک تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے تھے

یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء (مذاق اڑانا) جس کا تم خود اعتراف کرتے ہو یہ استہزاء تو بجائے خود کفر ہے لہذا تم نے خود اپنی زبان سے اپنے کافر ہونے کا اقرار کر لیا۔
یہ کفریہ اقوال و افعال غزوہ تبوک کے شدید ترین اور دور دراز سفر کے دوران منافقین سے سرزد ہوئے تھے جو اس سے پہلے مسلمان سمجھے جاتے تھے مسلمانوں کے سے کام کرتے تھے اس لئے اس مقدس جہاد میں ساتھ تھے مگر ان کفریہ اقوال و افعال کی بنا پر کافر اور جہنم کے مستحق قرار دیئے گئے۔

دیکھا آپ نے کتنی ذرا سی بات پر کافر اور جہنم رسید ہو گئے انہی آیات کی بنیاد پر علماء اہل سنت والجماعت نے استہزاء آیات اللہ و استہزاء باحادیث الرسول کو موجب کفر قرار دیا ہے اور یہی تمام امت کا عقیدہ ہے۔

تنبیہ: ہم نے ان منافقین کے کفریہ اقوال و افعال کو قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں ذرا تفصیل سے اس لئے بیان کیا ہے کہ ہمارے زمانے کے غافل اور بے خبر مسلمان اس قسم کی باتوں اور کاموں سے اجتناب کریں اور احتیاط برتیں خصوصاً استہزاء آیات اللہ اور استہزاء باحادیث الرسول کہ اس قسم کے اقوال و افعال کو ہنسی مذاق کہہ کر نظر انداز نہ کریں خصوصاً نام نہاد تعلیم یافتہ نوجوان طبقہ کو ان کی زبان تو بہت ہی بے لگام ہے انہیں خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء اور ہنسی مذاق سے بھی ایک مسلمان کافر اور جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ العیاذ باللہ (پناہ بخدا)

یاد رکھئے یہ احکام الہی قدیم زمانے کے منافقین کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں قرآن کریم کوئی داستان پارینہ اور تاریخ اقوام دیرینہ نہیں ہے بلکہ قرآن کریم تو رہتی دنیا تک انسانوں کے لئے کتاب ہدایت اور مشعل نور ہے آج بھی جو شخص ان منافقین جیسے اقوال و افعال کا ارتکاب کرے گا کافر اور جہنم رسید ہو جائے گا۔

اس تمام تر تفصیل کے ساتھ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر سی حدیث کی گہرائیوں اور وسعتوں کو سمجھنے اور سبحان اللہ کہنے۔

الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنا مثل ذلك

جنت اور جہنم دونوں ایک مسلمان سے بے حد قریب ہیں نہایت آسانی سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے چاہے جہنم میں گویا جنت یا جہنم کے علاوہ کوئی تیسری جگہ نہیں ہے اب جہاں چاہے اپنا ٹھکانا بنالے اس کے فعل و عمل پر موقوف ہے اسی کی ترجمانی شاعر مشرق علامہ اقبال نے ذیل کے شعر میں کی ہے۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کا ذریعہ

الثاني عشر: عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ومن أهل الصُّفَّةِ رضي اللهُ عنه ، قَالَ : كُنْتُ أُبَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِيَهُ بَوْضُوئِهِ وَحَاجَّتِيهِ ، فَقَالَ : " سَلْنِي " فَقُلْتُ : " أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . فَقَالَ : " أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : هُوَ ذَلِكَ ، قَالَ : " فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ " رواه مسلم .

ترجمہ: حضرت ابو فراس ربيعة بن کعب اسلمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور اصحاب صفہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں فرماتے ہیں۔ میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر کیا کرتا تھا تو (جب آخر شب میں آپ بیدار ہوتے تو) میں روزانہ وضو کے لئے پانی اور دوسری ضروریات (ابتنیجے کے لئے ڈھیلے وغیرہ) پیش کیا کرتا تھا (ایک دن) آپ نے (میری خدمت سے خوش ہو کر) فرمایا مجھ سے کچھ مانگو! تو میں نے عرض کیا میں تو جنت میں آپ کی رفاقت کی درخواست کرتا ہوں آپ نے فرمایا اس کے علاوہ؟ میں نے عرض کیا "بس یہی" آپ نے ارشاد فرمایا: تو تم اپنے اوپر کثرت سے نفل نمازیں پڑھنے کو لازم کر کے میری مدد کرو (تو میں) جنت میں بھی تم کو اپنے ساتھ رکھ سکوں گا۔ صحیح مسلم

تشریح: جلیل القدر صحابی حضرت ابو فراس اسلمی رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ محبت اور خدمت محبوب کا یہ شوق کہ دونوں جہان کی نعمتوں میں سے کسی بڑی سے بڑی نعمت کے بجائے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں طلب کرنا ایک ایسا بے نظیر اور لائٹنی جذبہ محبت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کے علاوہ اس کی مثال نہیں ملتی ظاہر ہے کہ حاصل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت گزاری سے خوش ہو کر فرمایا تھا: اسلمی! مانگ جو مانگتا ہے؟ اس وقت اگر یہ دونوں جہاں دنیا و آخرت کی بڑی سے بڑی نعمت بھی

مانگتے تو یقیناً وہ نعمت اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے مگر انہوں نے جنت میں اپنے محبوب کی رفاقت کی درخواست صرف اس لئے کی کہ دنیا میں تو بہر حال اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو آپ کی صحبت و رفاقت کی سعادت نصیب ہو گئی تھی مگر اندیشہ تھا کہ کہیں جنت میں آپ کے درجات عالیہ کی رفعت کی بنا پر اس نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں اس لئے کہ ان کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی محرومی نہ تھی اس لئے جنت میں آپ کی رفاقت کی درخواست کی تاکہ وہاں بھی آپ کی خدمت و رفاقت کی سعادت اور دیدار محبوب کی نعمت نصیب ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس خیال سے کہ ممکن ہے انہوں نے بے سوچے سمجھے کہہ دیا ہو دوبارہ ارشاد فرمایا:

او غیر ذالک؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا: ہو ذاک بس میرا مدعا تو یہی ہے۔

اس سوال و جواب سے تحقیق ہو گئی کہ ان کی واحد آرزو اور سب سے بڑی خواہش یہی ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں کہ محبت ہمہ وقت محبوب کے ساتھ رہے۔ مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں اس رفاقت کی دعا کرنے سے پہلے ان کے اندر اس رفاقت کی اہلیت پیدا کرنے کی غرض سے فرمایا:

فاعنی بکثرت السجود: تو تم میری مدد کرو کثرت سے نقلیں پڑھنے کے ذریعہ۔

یعنی اس رفاقت کی دعا اور اس کی قبولیت کے بارے میں تم میری مدد کرو اور کثرت سے نقلیں پڑھا کرو تاکہ تم محبوب رب العالمین بن کر جنت میں میری رفاقت کی سعادت حاصل کر سکو کیونکہ جنت میں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق وہی بن سکتا ہے جو خود بھی محبوب رب العالمین ہو اور اسی باب کی حدیث نمبر اول کے ذیل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ محبوب رب العالمین کے مرتبے پر پہنچنے کا واحد ذریعہ کثرت سے نقلیں پڑھنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلیک بکثرت السجود۔ ”اپنے اوپر کثرت سے نقلیں پڑھنا لازم کر لو“ کے بجائے فاعنی بکثرت السجود۔ ”تو تم میری مدد کرو کثرت سے نقلیں پڑھ کر“ فرما کر انتہائی شفقت و رافت کا اظہار فرمایا ہے یعنی میں بھی دل سے چاہتا ہوں اور میری بھی خواہش ہے کہ تم جنت میں میرے رفیق ہو مگر اس کے لئے تمہارا محبوب رب العالمین کے مرتبہ پر پہنچنا ضروری ہے اس لئے تم بکثرت سے نقلیں پڑھ کر میری مدد کرو اور میری خواہش کو پورا کرو سبحان اللہ۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر دعا ہر شخص کے لئے نہیں کی جاتی بلکہ جس شخص میں جس چیز کی اہلیت ہو اس کی دعا اس کے لئے کی جاتی ہے اگر کسی شخص کے لئے کوئی ایسی دعا کرنی ہو جس کی اہلیت اس میں نہیں ہے تو پہلے اس شخص میں اس دعا کی اہلیت پیدا کرنے کی تدبیر کی جائے پھر دعا کی جائے مثلاً کوئی گھسیار کہے کہ آپ میرے لئے دعا کریں کہ میں اس ملک کا حکمران بن جاؤں یا جاہل شخص کہے کہ آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ میں عالم تقرب بن جاؤں اور آپ چاہیں بھی کہ ایسا ہو جائے تو پہلے اس شخص میں حکمران یا عالم بننے کی اہلیت واستعداد پیدا کرنے کی تدبیر کیجئے پھر دعا کیجئے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

ولا تتموا ما فضل الله به بعضكم على بعض: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن (پارہ ۵ سورۃ نساء: ۵ آیت ۳۲)

اللہ تعالیٰ نے جو تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت (فوقیت) دی ہے اس کی تمنامت کیا کرو مرد (جس کے اہل ہیں اور) جو کریں گے ان کیلئے اس کا حصہ ہے عورتیں (جس کی اہل ہیں اور) جو کریں گی ان کیلئے اس کا حصہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں سے متعلق کاموں (احکام و فرائض) کی اہلیت مردوں میں رکھی ہے اگر وہ ان کاموں احکام و فرائض کو انجام دیں گے تو اس کا اجر و ثواب اور جنت میں درجات عالیہ ان کو ملیں گے اور عورتوں سے متعلق کاموں احکام و فرائض کی اہلیت عورتوں میں رکھی ہے اگر وہ ان کاموں احکام و فرائض کو انجام دیں گے تو اس کا اجر و ثواب اور جنت میں درجات عالیہ ان کو ملیں گے گویا جنت میں درجات عالیہ حاصل کرنے کے لئے مردوں اور عورتوں کے راستے علیحدہ علیحدہ ہیں اس لئے جیسے مردوں کو عورتوں کے راستے اختیار کرنے کی تمنا نہیں کرنی چاہئے ایسے ہی عورتوں کو مردوں کے راستے اختیار کرنے کی تمنا نہیں کرنی چاہئے کہ یہ قانون فطرت اور نظام عادت کے خلاف ہے اور خالق کائنات کا یہ اعلان ہے۔

فطرت اللہ التي فطر الناس عليها: لا تبدل لخلق الله (پارہ نمبر ۲۱ سورۃ روم: ۴ آیت ۳۰)

(یہ) اللہ کی (پیدا کردہ) فطرت ہے جس پر لوگوں کو اس نے پیدا کیا ہے اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی۔ چنانچہ جہاں مردوں کو اللہ کے حکم کے مطابق عظیم اور پر مشقت کاموں کے انجام دینے کے بعد جنت ملتی ہے وہاں عورتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق چند آسان ترین کاموں کو انجام دینے سے ہی جنت مل جاتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورت جب پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لے ماہ رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس کو اختیار ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ مشکوٰۃ ص ۲۸۱

اسی لئے احادیث میں کسی عادیۃً محال چیز کی دعا کرنے کی ممانعت آئی ہے مثلاً کوئی بوڑھا سفید ریش دعا کرے اے اللہ تو مجھے جوان اور میرے بال جوانوں جیسے کر دے اگرچہ یہ قدرت خداوندی کے پیش نظر محال نہیں ہے مگر قانون فطرت کے خلاف ہے۔

اسی لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو فراس اسلمی کے درخواست کرنے پر اسی وقت ان کے لئے جنت کی رفاقت کی دعا نہیں فرمائی باوجودیکہ ان کے اس جذبہ کو دیکھ کر آپ بھی چاہتے تھے کہ ان کو یہ سعادت حاصل ہو جائے مگر درخواست کرنے کے وقت وہ اس کے اہل نہیں تھے اس لئے پہلے اس سعادت کو حاصل

کرنے کی اہلیت پیدا کرنے کی تدبیر بتلائی اور ازراہ شفقت اس مشقت کو اپنی مدد سے تعبیر فرمایا کہ یہ تمہاری ہی خواہش نہیں ہے بلکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم کو یہ سعادت حاصل ہو جائے اس لئے تم اپنی نہیں میری خواہش کو پورا کرنے کے لئے میری مدد کرو اور یہ مشقت برداشت کرو۔

سبحان اللہ کس قدر آسان ہو گیا ان کے لئے رات دن نقلیں پڑھنا کہ یہ میں اپنے محبوب کی مدد کر رہا ہوں اپنی نہیں قربان جائے اس رافت و شفقت پر فداہی والی صلی اللہ علیہ وسلم (میرے ماں باپ آپ پر قربان) مجاہدہ کے باب سے اس حدیث کا تعلق ظاہر ہے۔

کثرت سے سجدے کرنے یعنی نفل نمازیں ادا کرنے سے درجات کی بلندی

الثالث عشر: عن أبي عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ؛ فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لَهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ" رواه مسلم.

ترجمہ: حضرت ابو عبد اللہ اور بقول بعض ابو عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے آپ نے فرمایا تم کثرت سے (نقلیں پڑھنے اور) سجدے کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو اس لئے کہ تم جو سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے کرو گے اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند فرمادیں گے اور ایک خطا معاف فرمائیں گے۔ صحیح مسلم

یعنی تم جتنی زیادہ نقلیں پڑھو گے اور ان میں جتنے زیادہ سجدے کرو گے اسی قدر اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرمائیں گے اور اسی قدر تمہاری خطائیں معاف فرمائیں گے۔

تشریح: اس باب کی سابقہ احادیث سے معلوم ہو چکا کہ کثرت سے نقلیں پڑھنا اللہ سے قرب حاصل کرنے اور محبوبیت کے مرتبہ پر پہنچنے کا یقینی ذریعہ ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان نقلوں میں طول قیام کی نسبت کثرت رکوع و سجود افضل ہے اور رفع درجات اور غنوخطایا کا موجب ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ نوافل جن کے بغرض تقرب الی اللہ پڑھنے کی ترغیب فرمائی ہے۔ ان میں نہ وقت کی قید ہے نہ تعداد کی ان میں کثرت رکوع و سجود ہی افضل ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں تصریح فرمائی ہے۔

اقرب ما یكون العبد من ربه وهو ساجد

عبدیت کا حقیقی مظاہرہ معبود کے سامنے سر بسجود ہو جانے میں ہی مضمر ہے۔

اور وہ قیام لیل جس کا حکم سورۃ مزمل کے اندر ذکر فرمایا ہے اس میں طول قیام اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن ہی افضل ہے اسی لئے ایک سال کی اس طویل ریاضت اور مجاہدہ کے بعد اس طویل قیام اور قرأت قرآن میں تخفیف فرمادی گئی جس کی تفصیل آپ اسی باب میں پڑھ چکے ہیں۔

بعض علماء دین کا نوافل میں کثرت سجد کی ترغیب سے مطلقاً کثرت رکوع و سجد کی افضلیت پر استدلال کرنا بے محل ہے۔ واللہ اعلم

بہترین انسان؟

الرابع عشر: عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ " رواه الترمذي ، وَقَالَ : " حديث حسن " . " بسر " بضم الباء وبالسين المهملة .

ترجمہ: حضرت ابو صفوان عبد اللہ بن بسر اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر دراز ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ (ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے) بسر۔ باء کے ضمہ اور سین مہملہ کے ساتھ۔

تشریح: حدیث اپنے مفہوم اور مصداق کے اعتبار سے بالکل واضح ہے ظاہر ہے کہ حسن عمل اور نیکو کاری کی توفیق کے ساتھ ساتھ عمر دراز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کو اپنی ذات کے لئے بھی وسیع سے وسیع ترحمت بنانے کا موقع میسر آتا ہے اور خدا کی مخلوق کے لئے بھی سایہ رحمت بنتا ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے۔

خیر الناس من ينفع الناس بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اس نفع رسانی کی مختلف اور متنوع صورتیں ہیں جو تفصیل کے ساتھ احادیث میں مذکور ہیں یہی وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کی وفات پر زمین و آسمان بھی روتے ہیں۔

اس کے برعکس اگر حسن عمل کی توفیق کے ساتھ عمر دراز نصیب نہ ہوئی تو خدا کی مخلوق بھی زیادہ عرصہ تک اس کی نیک ذات سے فائدہ نہ اٹھا سکی خود بھی آخرت کے لئے معتد بہ ذخیرہ مہیا کرنے سے قاصر رہا یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی نیک نیتی اور حسن عمل کی بنا پر اس کی مکافات فرمادیں۔

اور اگر خدا نخواستہ عمر دراز تو ہوئی مگر حسن عمل کی توفیق سے محروم رہا تب تو زمین و آسمان بھی اس کی ایذا رسانیوں اور معضرت رسانیوں سے تنگ ہوتے ہیں اور اس کی موت کی دعائیں مانگتے ہیں اور خلق خدا بھی اور خود اپنی ذات بھی اپنی بد کاریوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے تنگ آجاتی ہے اور زندگی وبال ہو جاتی ہے جتنی عمر دراز ہوتی ہے اسی

قدر جہنم کے گونا گوں عذابوں کا ذخیرہ تیار ہوتا رہتا ہے یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ (س: الدخان آیت ۲۹)

پس ان (کی وفات پر) آسمان اور زمین نہیں روئے اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان عمر دراز کو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت سمجھے اور اس کو زیادہ سے زیادہ نیکو کاریوں اور عبادات و طاعات میں صرف کر دے ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دے اسی کا نام مجاہدہ ہے۔

عام طور پر انسان بڑھاپے میں قوی اور اعضاء کے طبعی اور فطری انحطاط کی وجہ سے تنگ آ کر موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے حالانکہ احادیث میں موت کی دعائیں مانگنے کی ممانعت آئی ہے بلکہ اس کی بجائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ ذیل دعا کی تعلیم دی ہے۔

اللهم احيني ما كانت الحيوۃ خیر الی وتوفني اذا كانت الوفاة خیر الی واجعل الحيوۃ زیادة

لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر

اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لئے خیر و برکت کا باعث ہو اور تو مجھے اٹھالے جبکہ وفات میرے لئے بہتر ہو اور زندگی کو میرے لئے ہر طرح کی خیر و برکت میں زیادتی کا باعث بنا اور موت کو میرے لئے ہر قسم کے شر سے راحت پانے کا ذریعہ بنا۔

باقی پیرانہ سالی کے ضعف کی مکافات کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین

بجناہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا پھر ہم نے پست درجہ میں لوٹا دیا۔ (بوڑھا اور ناکارہ بنا دیا)

الا الذین امنوا و عملوا الصلحت فلہم اجر غیر ممنون (پارہ ۳۰ سورۃ التین)

بجز ان لوگوں کے جو (جو انی میں برابر نیک کام کرتے رہے) پس ان کے لئے (بڑھاپے میں بھی) اجر و ثواب

(جاری رہے گا) منقطع نہ ہوگا۔

واضح ہو کہ حدیث میں اس آیت کریمہ کی یہی تفسیر آئی ہے۔

ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے کی شاندار شہادت

الخامس عشر: عن أنس رضي الله عنه ، قَالَ : غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ رضي الله عنه

عن قتال بدر ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، غِيبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ ، لَيْسَ اللَّهُ

أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيْرِينَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ . فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالَ :

اللَّهُمَّ اَعْتَذِرْ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي : أَصْحَابَهُ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي :

المُشْرِكِينَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : يَا سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ ، الْجَنَّةُ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ
إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أَحَدٍ . قَالَ سَعْدٌ : فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ ! قَالَ أَنَسٌ :
فَوَجَدْنَا بِهِ بَضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ ، أَوْ طَعْنَةً بِرِمْحٍ ، أَوْ رَمِيَّةً بِسَهْمٍ ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ
قُتِلَ وَمَثَلٌ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أَخْتَهُ بَيْنَانِهِ . قَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نَرَى أَوْ نَظُنُّ أَنْ هَذِهِ
الآيَةُ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ : ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ [

الأحزاب : ۲۳] إِلَى آخِرِهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
قوله : " لَيُرِينَ اللَّهُ " روي بضم الياء وكسر الراء : أَي لَيُظْهِرَنَّ اللَّهُ ذَلِكَ لِلنَّاسِ ، وَرَوِيَا
بفتحهما ومعناه ظاهر ، والله أعلم .

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میرے چچانصر بن انس رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں
شریک نہ ہو سکے تو انہوں نے (ازراہ تاسف) عرض کیا: یا رسول اللہ! (مجھے افسوس ہے) آپ نے
مشرکین سے جو پہلی جنگ لڑی میں اس میں شریک نہ ہو سکا بخدا (آئندہ) اگر اللہ تعالیٰ نے مشرکین
سے جنگ میں شرکت کا مجھے موقعہ دیا تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دکھلا دیں گے کہ میں کیا کرتا
ہوں تو جب جنگ احد ہوئی (اور خلاف توقع) مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو نصر بن انس نے کہا اے
اللہ جو ان مسلمانوں نے کیا (خلاف توقع پسپا ہو گئے) اس کے لئے میں تجھ سے معذرت خواہ ہوں اور جو
ان مشرکین نے آپ کے چہرہ مبارک کو زخمی کیا اس سے میں بے تعلقی کا اظہار کرتا ہوں پھر (یہ کہہ
کر) وہ آگے بڑھے تو سعد بن معاذ ان کے سامنے آگئے تو انہوں نے کہا: اے سعد بن معاذ رب کعبہ کی
قسم یہ ہے جنت میں تو احد کے آگے جنت کی خوشبوئیں سونگھ رہا ہوں (اس پر) سعد نے عرض کیا: جو
نصر بن انس نے کر دکھایا میں تو یا رسول اللہ نہیں کر سکا انس کہتے ہیں چنانچہ (جنگ ختم ہونے کے
بعد) ہم نے ان کے جسم پر اسی سے کچھ زیادہ تلواروں کے یا نیزوں کے یا تیروں کے زخم پائے اور ہم
نے ان کو قتل کیا ہوا پایا (مشرکین نے ان کے ناک کان کاٹ دیئے تھے اور چہرہ مسخ کر دیا تھا اس لئے)
سوائے ان کی بہن کے اور کوئی ان کو شناخت بھی نہ کر سکا ان کی بہن نے بھی صرف انگلیوں کے پوروں
سے پہچانا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے ہم یقین رکھتے یا گمان کیا کرتے تھے کہ یہ آیت کریمہ
ذیل نصر بن انس کے اور انہی جیسے دوسرے غازی مومنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صحیح مسلم
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما
بدلوا تبديلاً (پارہ ۲۱ سورۃ الاحزاب: ۳ آیت ۲۳)

ایمان والوں میں (کہتے ہی) ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جس بات پر عہد کیا تھا (کہ ہم اللہ کی راہ میں جان دے دیں گے) اس کو سچا کر دکھایا پس ان میں سے بعض نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی (اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے) اور بعض انتظار میں ہیں (کہ کب موقع آئے اور ہم جان دیں) اور ان ایمان والوں نے (اپنے عہد میں) کوزہ برابر تبدیل نہیں کی۔

یہی ان اللہیاء کے ضمہ اور راء کے کسرہ کے ساتھ بھی مروی ہے، یعنی اسے اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر فرمادے اور دونوں حروف کے فتح کے ساتھ بھی مروی ہے جس کے معنی ظاہر ہیں۔ واللہ اعلم
حضرت نصر بن انس رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ اور اس پر فوراً عمل سراسر مجاہدہ ہے اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو مجاہدہ کے باب میں ذکر کرتے ہیں۔

ایک دو لتمد کے مال کثیر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو ریا کہنا اور ایک مزدور کے صدقہ کی تحقیر کرنا نفاق کی علامت ہے

السادس عشر: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البديري رضي الله عنه ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا ، فَجَلَّ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ ، فَقَالُوا : مُرَاءٌ ، وَجَلَّ رَجُلٌ آخَرَ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ ، فَقَالُوا : إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعٍ هَذَا ! فَنَزَلَتْ : ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ [التوبة : ٧٩] . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ . وَ" نُحَامِلُ " بِضَمِّ النُّونِ وَبِالْحَلَّةِ الْمَهْمَلَةِ : أَيِ يَحْمِلُ أَحَدُنَا عَلَى ظَهْرِهِ بِالْأَجْرَةِ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا .

ترجمہ: حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس زمانے میں آیت صدقہ نازل ہوئی ہے ہم لوگ عام طور پر بار برداری کی مزدوری کیا کرتے تھے تو (صدقہ کی آیت نازل ہونے کے بعد) ایک آدمی آیا اور اس نے بہت سال صدقہ میں دیا تو اس پر منافقوں نے (ازراہ طنز) کہا ریاکار ہے (دکھلاوے کی خاطر اتنی فیاضی دکھا رہا ہے) دوسرا شخص ایک صاع (جو) لایا تو اس پر (ازراہ تمسخر) کہا اللہ تو اس کے صاع سے بے نیاز ہے (اسے اس کی ضرورت نہیں یہ بھی کیوں لایا) اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم
فیستخرون منهم سخر اللہ منهم ولہم عذاب الیم (سورۃ توبہ رکوع ۱۶ آیت ۷۹)
وہ لوگ جو ایمان والوں میں سے دل کھول کر صدقہ کرنے والوں پر بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان پر

بھی جن کو بجز اپنی محنت و مشقت کی مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں ٹھٹھہ کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے ٹھٹھہ کیا ہے اور انہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔

یہ بخاری کے لفظ ہیں۔ وصال۔ نون کے ضمہ کے ساتھ اور جاء مہملہ کے ساتھ یعنی ہم میں ایک شخص پشت پر بوجھ لاد کر مزدوری کرتا اور اس سے حاصل ہونیوالی اجرت کو صدقہ کرتا۔

تشریح: مذکورہ بالا حدیث مسلمانوں کے اس دور سے متعلق ہے جبکہ انصار عام طور پر انتہائی افلاس اور عسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے مگر اس کے باوجود ان کو اپنی آخرت کی فکر تھی صدقہ کی آیت نازل ہوتے ہی ہر شخص حسب مقدور صدقہ پیش کرتا تھا اور یہ طعن و تشنیع کرنے والے اور مذاق اڑانے والے وہی منافقین تھے جن کے حسد و نفاق کا تفصیلی بیان اس سے پہلے اسی باب کی حدیث میں آچکا ہے اللہ تعالیٰ کا دنیا میں ان کو کچھ نہ کہنا اور آخرت میں ان کی منافقانہ حرکات پر دردناک عذاب کی خبر دینا جزاء بالمثل ہے اسی لئے مشاکلت و مشابہت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے معاملہ کو حریہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس صدقہ سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے اس لئے کہ زکوٰۃ تو ایسے مفلس و نادار لوگوں پر واجب ہی نہیں ہوتی بلکہ اس صدقہ سے نقلی صدقہ مراد ہے جس کی نہ کوئی مقدار مقرر ہے نہ جنس نہ ہی اس میں صاحب نصاب ہونا اور حوالان حول (سال گزرنا) شرط ہے۔ بلکہ یہ وہ صدقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس تقرب کا وسیلہ بنتے ہیں جس کا حال آپ اسی باب کی حدیثوں میں پڑھ چکے ہیں اور جس کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

اتقوا النار ولو بشق تمرة (جہنم کی) آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعہ سے ہی ہو۔ بہر حال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعہ امت کو توجہ دلاتے ہیں کہ ہر وہ مسلمان جسے آخرت کی فکر ہو اس کو چاہئے کہ خطاؤں اور گناہوں کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کی غرض سے دیگر کارہائے خیر کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی ضرور کرتا رہے۔

ہمارا حال

لیکن ہم یعنی آج کل کے عام مسلمان تو اس طرح دنیا کی اغراض و خواہشات میں مستغرق اور ڈوبے ہوئے ہیں کہ سر اٹھانے تک کی فرصت نہیں آخرت کی فکر تو کجا کبھی بھول کر بھی خیال تک نہیں آتا ”وائے برسا و بر حال ما“ افسوس ہم پر اور ہمارے حال پر ”ہمارا حال تو یہ ہے۔“

شب چو عقد نماز بر بندم چہ خورد با مداد فرزندم

رات کو جب نماز کی نیت باندھ کر (کھڑا ہوتا ہوں) تو (ساری نماز میں یہی سوچتا رہتا ہوں) کہ صبح میرے بچے کیا کھائیں گے؟ (اور کہاں سے آئے گا)

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانہ میں ایسے خدا پرست لوگوں پر طعن و تشنیع کرنے اور مذاق اڑانے والے منافق دشمنان دین و ایمان لوگ ہوئے ہیں اور حدیث شریف اور آیت کریمہ ایسے ہی دشمنان دین و ایمان منافقین کی خدا دشمنی سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کیلئے وارد اور نازل ہوئی ہیں اور یہ ایک بڑا مجاہدہ کہ ایسے مار آستین دشمنوں کے طعن و تشنیع اور استہزاء و تمسخر کے ڈنک سہنا اور صراط مستقیم پر قائم رہنا آسان کام نہیں ہے۔

اسی بنا پر امام نووی اس حدیث کو باب مجاہدہ کے ذیل میں لائے ہیں۔

پر ظلم کرنے کو) حرام کیا ہے لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔

۲. یا عبادی! کلکم ضال الامن ہدیتہ فاستهدونی اهدکم
اے میرے بندو! تم میں سے ہر شخص گم کردہ راہ ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دوں
لہذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا۔

۳. یا عبادی! کلکم عار الامن کسوتہ فاستکسونی! کسکم
اے میرے بندو! تم میں سے ہر شخص لباس کا محتاج ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں لباس پہناؤں
گا پس تم مجھ ہی سے لباس طلب کرو میں تمہیں ضرور لباس پہناؤں گا۔

۴. یا عبادی! کلکم جائع الامن اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم
اے میرے بندو! تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں کھانے کو دوں پس تم
مجھ ہی سے کھانا طلب کرو میں تمہیں ضرور کھلاؤں گا۔

۵. یا عبادی انکم تخطون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعاً فاستغفرونی اغفر لکم
اے میرے بندو! تم رات دن خطائیں اور گناہ کرتے رہتے ہو اور میں ہی تمام گناہ معاف کرتا ہوں
لہذا تم مجھ سے گناہ معاف کراؤ میں تمہارے سب گناہ معاف کروں گا۔

۶. یا عبادی انکم لم تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتتفعونی.
اے میرے بندو! نہ تم مجھے نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہو کہ نقصان پہنچا سکو اور نہ تم مجھے نفع
پہنچانے کی قدرت رکھتے ہو کہ نفع پہنچا سکو۔

۷. یا عبادی لو ان اولکم واکھرم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم
ما زاد ذلک فی ملکي شیئاً

۷۔ اے میرے بندو! اگر تم اگلے پچھلے اور جن وانس (سب کے سب) تم میں کے سب سے زیادہ عبادت
گزار اور پرہیزگار آدمی کی طرح پرہیزگار بن جاؤ تو میری خدائی میں اس سے ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا۔

۸۔ یا عبادی! لو ان اولکم واکھرم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم
مانقص من ملکي شیئاً

۸۔ اے میرے بندو! اگر تم اگلے پچھلے اور جن وانس (سب کے سب) تم میں کے سب سے زیادہ بدکار آدمی کی
طرح بدکار بن جاؤ تو اس سے ذرہ برابر میری خدائی میں کمی نہ آئے گی۔

۹. یا عبادی! لو ان اولکم واکھرم وانسکم وجنکم قاموا فی صغیر واحد فاسئلونی فاعطیت
کل انسان مسئلته مانقص ذلک مما عندی الا کما ینقص المعیط اذا دخل البحر.

اے میرے بندو! تمہارے اگلے اور پچھلے اور جن وانس (سب مل کر) کھلے میدان میں جمع ہو کر (بیک وقت) مجھ سے (اپنی اپنی حاجت کا) سوال کرو تو میں اسی وقت ہر شخص کی حاجت پوری کر دوں گا اور اس سے جو خزانے میرے پاس ہیں ان میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ بجز اس سوئی کے جس کو سمندر میں ڈبو کر نکال لیا جائے تو اس سے سمندر کے پانی میں کچھ بھی کمی نہیں آتی (ایسے ہی تم میں سے ہر ایک سوال پورا کر دینے سے میرے خزانوں میں ذرا بھی کمی نہ آئے گی)

۱۰. یا عبادی! انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایاہا فمن وجد خیراً فلیحمد اللہ

ومن وجد غیر ذلک فلا یلو من الانفسہ.

اے میرے بندو! (یہ جزاء و سزا) تو تمہارے (اچھے برے) اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لئے (اعمال ناموں میں) جمع کرنا رہتا ہوں پھر قیامت کے دن تم کو وہی پورے کے پورے دے دوں گا تو جس کو جزائے خیر ملے اس کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے (کہ اسی نے نیک کاموں کی توفیق دی) اور جو اس کے سوا پائے (یعنی جو اپنے اعمال بد کی سزائے) اس کو خود اپنے کو برا کہنا چاہئے (کہ نہ شیطان کے کہنے میں آکر برے کام کر تانہ سزا بھگتا)

قال سعید: کان ابو ادریس اذا حدث بهذا الحدیث جثا علی ركبہ (رواہ مسلم)

سعید (اس حدیث کے راوی) نے بیان کیا کہ ابو سعید خولانی جب اس حدیث کو روایت کرتے تو (غلاموں کی طرح) باادب دوزانو بیٹھ جایا کرتے۔ مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا فرماتے ہیں۔

وروینا عن الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ قال: لیس لاهل الشام حدیث اشرف من هذا الحدیث:

اور امام احمد بن حنبل سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: اہل شام کی حدیثوں میں اس حدیث سے زیادہ شریف (شرف والی) کوئی حدیث نہیں ہے۔

تشریح: یہ حدیث قدسی خود آپ اپنی شرح ہے کسی مزید تشریح کی محتاج نہیں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی، بے پایاں اور لامتناہی قدرت اور عظمت و جلال کا مظہر ہے تو دوسری طرف بندوں سے بے پایاں محبت و شفقت اور رحمت و رأفت اس خطاب سے مترشح ہے درحقیقت رب جلیل کے اس مشفقانہ خطاب اور ذرہ نوازی کا تقاضا یہی ہے کہ حضرت ابو ادریس خولانی کی طرح نیازی مند اور فرمانبردار غلاموں کی طرح باادب اور دوزانو بیٹھ کر سر تسلیم خم کریں اور اس حدیث کو بیان کریں یا پڑھیں اور سنیں نیز بہت اچھا "یاد رست" فرمایا وغیرہ مناسب الفاظ میں اور تشکر آفرین انداز میں جواب دیں۔

علمی تحقیق

یہ حدیث قدسی ایک اہم علمی تحقیق کے لئے بھی روشن دلیل ہے وہ ایک مشہور و معروف مسئلہ ہے کہ جزا عین عمل ہے یا عمل کے علاوہ ہے؟ محققین کے نزدیک بندوں کے تمام اچھے یا برے گونا گوں اعمال و افعال باقی

رہتے ہیں فنا نہیں ہوتے گو ہمیں نظر نہ آئیں اور یہی گونا گوں اعمال صالحہ اور حسنات آخرت میں گونا گوں نعیم جنت کی صورت اختیار کر لیں گے اور یہی اعمال سیئہ (برے اعمال) آخرت میں گونا گوں عذاب جہنم کی شکل اختیار کر لیں گے اس مسئلہ کا عنوان ہے ”تجدد اعمال“

اس تحقیق کے ثبوت میں اگرچہ قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص اور تصریحات موجود ہیں اس کے باوجود ظاہر پرست علماء عقلیت پرست یونانی فلسفہ سے متاثر لوگ (معتزلہ) اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور صریح آیات و احادیث میں طرح طرح کی تاویلیں کرتے ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس حقیقت کا اظہار ذیل کے شعر میں کہا ہے۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

ہماری زندگی میں اس حقیقت کے اذعان و یقین کے فوائد

اگر آج مسلمان یقینی طور پر اس جزا و سزائے اعمال کی حقیقت کو باور کر لیں کہ جو چھوٹے بڑے گناہ، فسق و فجور، بدکاری و حرام خوری لوگوں پر ظلم و ستم اور حق تلفیاں، ہم شب و روز کرتے رہتے ہیں چاہے کتنے ہی خفیہ طور پر کریں کسی تنفس کو بھی پتہ نہ چلنے دیں ان کے ارتکاب کا کوئی ثبوت اثر و نشان وغیرہ بھی نہ چھوڑیں ان کی کوئی اذیت تکلیف یا عذاب بھی محسوس نہ ہو حتیٰ کہ ہم بالکل پاک و صاف اور متقی و پرہیزگار نظر آئیں تب بھی یہ گناہ (جرائم) ہرگز فنا نہیں ہوتے مٹ نہیں جاتے بلکہ ہمارے وجود کے ساتھ باقی اور چمٹے رہتے ہیں صرف اتنا ہے کہ اس زندگی میں ہمیں محسوس نہیں ہوتے نہ ان کی اذیت و تکلیف یا کسی قسم کا عذاب ہی محسوس ہوتا ہے لیکن مرنے کے بعد آخرت میں یہی ہماری سیہ کاری، نافرمانیاں، چھوٹے بڑے گناہ کفریہ و شرکیہ اعمال و افعال ظلم و جور جہنم کے ان ہولناک عذابوں کی شکل اختیار کر لیں گے جن کی خبر قرآن و حدیث میں دی گئی ہے الایہ کہ ہم توبہ و استغفار اور مکفرات (وہ عبادتیں جو گناہ کا کفارہ بنتی ہیں) کے ذریعہ ان گناہوں کا ازالہ کر لیں اور دنیا میں ہی ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں حقوق العباد ہوں تو ان کو ادا کریں یا معاف کر لیں ورنہ تو انہی سیاہ کاریوں حرام خوریوں حق تلفیوں اور فسق و فجور کفر و شرک کی آگ میں ہم ہمیشہ ہمیشہ جلتے اور ترپتے رہیں گے اور جیسے زندگی بھر ہم نے ان گناہوں کو نہیں چھوڑا ایسے ہی آخرت میں یہ گناہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے دنیا کی زندگی فانی تھی موت آنے پر ختم ہو گئی آخرت کی زندگی ابدی اور نہ ختم ہونے والی ہے وہاں موت نہ آئے گی اس لئے خود کردہ عذاب سے کبھی بھی چھٹکارا نصیب نہ ہوگا۔

اسی طرح ہمارے تمام اعمال صالحہ تمام عبادتیں اور طاعتیں غرض تمام نیکو کاریاں ہرگز فنا نہیں ہوتیں بلکہ باقی اور ہمارے ساتھ رہتی ہیں گو ہمیں اپنی اس زندگی میں نظر نہ آئیں نہ ان کی موجودگی کا کوئی اثر مسرت و فرحت لطف و لذت محسوس ہو بلکہ ہم تو اپنی جہالت کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ناگوار حالات کے باوجود مسجد میں جا کر

نماز پڑھ لی سخت گرمی اور بھوک پیاس کی شدت کے باوجود روزے رکھ لئے مال کی فطری محبت کے باوجود سال پورا ہوتے ہی پورے مال کی زکوٰۃ نکال دی سفر کی دشواریوں کے باوجود حج و عمرہ کر لیا قصہ ختم ہوا ہمیں کیا ملا ہم تو ویسے کے ویسے رہے جیسے پہلے تھے لیکن یہ قطعاً جہالت، شیطان کا فریب اور مکار نفس کا دھوکا ہے درحقیقت وہ ہماری نمازیں جوں کی توں باقی اور ہمارے ساتھ ہیں وہ روزے بھی جو ہم نے رکھے ہیں موجود ہیں جو زکوٰۃ خیرات ہم نے نکالی وہ بھی کہیں نہیں گئی ہمارے ساتھ ہے حج و عمرہ بھی اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ موجود و برقرار ہیں اسی طرح تمام عبادات و حسنات ہمارے ساتھ موجود ہیں صرف اتنا ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتیں نہ ان کے موجود ہونے کا ہم کوئی اثر محسوس کرتے ہیں لیکن مرنے کے بعد آخرت میں یہی عبادات و طاعات، اعمال صالحہ و حسنات ایسی حسین و جمیل صورت میں ہمارے سامنے آئیں گی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو گا نہ کسی کان نے سنا ہو گا نہ کسی بشر کے وہم و خیال میں آئی ہوں گی یہی وہ نعیم جنت ہیں جن کے حصول کی بشارت قرآن کریم اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ہم اس ابدی عیش و عشرت اور دائمی لطف و سرور میں ان نشاط آفرین حسنات سے محفوظ اور لطف اندوز ہوتے رہیں گے اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس معجز خطاب میں فرمایا ہے۔

انما ہی اعمالکم احصیہا علیکم ثم اوفیکم ایاہا فمن وجد خیراً فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلك فلا یلو من الانفسہ.

یہ (جزا و سزا) تو تمہارے (اچھے برے) اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لئے (اعمال ناموں میں) جمع کرتا رہتا ہوں پھر قیامت کے دن وہی پورے کے پورے تمہیں دے دوں گا تو جس کو (جزا) خیر ملے اس کو چاہئے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے (کہ اسی نے نیک کاموں کی توفیق دی) اور جو اس کے سوا پائے (یعنی جو اعمال بد کی سزا پائے) اس کو خود اپنے کو برا کہنا چاہئے (کہ نہ شیطان کے کہنے میں آکر برے کام کرنا نہ سزا بھگتنا)

اس زمانہ میں اس حقیقت کے یقین کا فائدہ

اگر مجازات اعمال کی اس حقیقت کا ہمیں یقین ہو جائے تو یقیناً ہماری سیاہ کاریوں حرام خوریوں اور اپنے بھائیوں کی حق تلفیوں اور چھوٹے بڑے گناہوں میں کافی حد تک کمی آجائے نیز ان کے جلد از جلد ازالے اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی غرض سے توبہ و استغفار اور مکلفات کی اہمیت و ضرورت کا شدت سے احساس اور فکر ہو جائے اسی لئے رب العالمین نے اس خطاب قدسی میں مجازات اعمال کی حقیقت بتلانے سے پہلے باہمی ظلم و جور اور حق تلفی سے منع فرمایا اور شب و روز توبہ و استغفار کرنے کی طرف توجہ دلائی اور توبہ کی قبولیت اور گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ ہم یہاں گلے نہ گزراؤ "یعنی نمونہ کے طور پر قرآن کریم کی صرف دو آیتیں اور دو صحیح حدیثیں پیش کرتے ہیں جن میں جزا کے عین عمل ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔ تیسوں کمال ظلماً کھانے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

۱. ان الذین یا کلون اموال الیتامی ظلماً انما یا کلون فی بطونہم ناراً ویصلون سعیراً
(سورۃ النساء آیت ۱۰)

جو لوگ ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں اس کے سوا نہیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ (کے انگارے) بھرتے ہیں اور عنقریب (یعنی مرنے کے بعد) وہ بھڑکتے ہوئے (آگ کے) شعلوں میں داخل ہوں گے۔
اس آیت کریمہ میں تصریح ہے کہ یتیموں کے مال کے چرب و شیریں لقمے درحقیقت آگ کے انگارے ہوتے ہیں جن سے وہ لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہیں صرف اتنا ہے کہ اس زندگی میں ان کی سوزش اور جلن محسوس نہیں ہوتی مرنے کے بعد وہی انگارے اپنی پوری سوزش کے ساتھ بھڑکنے لگیں گے اور ان کی آگ میں ظلماً یتیموں کا مال کھانے والے جلیں گے اور جلتے رہیں گے۔ سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرنے والوں کے متعلق ارشاد ہے۔

۲. والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ینفقو نہافی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب الیم ۵ یوم
یعمی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ہذا ما کنتم لانفسکم
فلذوقوا ما کنتم تکنزون (سورۃ التوبہ ۵ آیت ۳۴-۳۵)

اور جو لوگ سونے چاندی کے خزانے جمع کرنے (اور سینت سینت کر رکھتے ہیں) اور انکو اللہ کی راہ میں (یعنی اس کے حکم کے مطابق) خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو جس دن ان سونے چاندی کے خزانوں کو آگ میں تپایا جائے گا پھر ان سے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا (اور جب وہ چیخیں چلائیں گے تو ان سے کہا جائے گا یہ تو وہی (سونا اور چاندی) ہے جس کے خزانے تم نے اپنے لئے جمع کئے تھے اب چکھو اپنے جمع کئے ہوئے خزانوں کا مزہ۔

یہ آیت کریمہ تو صریح دلیل ہے اس امر کی وہی سونے چاندی کے خزانے جن کے حاصل کرنے کے لئے دنیا میں دولت مندوں کے سامنے پیشانیاں رگڑی تھیں اور حاصل کرنے کے بعد محبوب کی طرح انہیں سینے سے لگا کر رکھا تھا اور اس میں سے ایک پائی بھی اللہ کی راہ میں اور اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنے میں تکلیف محسوس کرتے اور بخل کرتے تھے قیامت کے دن اسی حرص و طمع مال کی آگ میں انہیں سونے چاندی کی سلاخوں کو تپا کر انہی پیشانیوں کو ان سے داغا جائے گا جو مال حاصل کرنے کے لئے رگڑی تھیں اور انہی پہلوؤں پر ان سونے چاندی کی تپائی ہوئی سلاخوں سے داغ لگائے جائیں گے جن کو دنیا میں سینے سے لگا کر رکھا تھا معلوم ہو مال جمع کرنے کی حرص و طمع دراصل ایک آگ ہے جس میں جمع کردہ سونے چاندی کی سلاخوں کو تپایا گیا تھا مگر دنیا میں نہ ان لوگوں کو اس آگ کا احساس تھا نہ ان تپئی ہوئی سلاخوں کا مرنے کے بعد اس عذاب کا احساس ہوگا اور جب وہ تکلیف کی شدت سے چیخیں و چلائیں گے تو ان کی توبیخ و سرزنش کے طور پر عذاب دینے والے فرشتے کہیں گے اب

کیوں چلاتے ہو یہ وہی تمہارے محبوب خزانے تو ہیں جو تم نے اپنے لئے جمع کئے تھے دنیا میں تو تمہارا کامزہ نہیں چکھ سکے اب آخرت میں ان کامزہ چکھو معلوم ہوا کہ مال کی حرص و طمع اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرنے میں بخل خود ایک عذاب ہے مگر دنیا میں اس عذاب کی تکلیف کا احساس نہ تھا مرنے کے بعد ہوگا۔

اسی طرح پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ذیل کی حدیث میں خطاؤں کے انسان کے جسم میں داخل اور وضو کامل سے ان کے خارج ہونے کی خبر دیتے ہیں۔

عبداللہ صنابچی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن بندہ وضو کرنے بیٹھتا ہے تو جب کلی کرتا ہے تو اس کے منہ (اور زبان) کی تمام خطائیں نکل جاتی ہیں اور جب ناک سے نکلتا ہے تو ناک کی (یعنی ناک کے ذریعہ کی ہوئی) خطائیں نکل جاتی ہیں اور جب چہرہ دھو تا ہے تو چہرہ کی خطائیں نکل جاتی ہیں یہاں تک کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی (یعنی نگاہوں کے ذریعہ کی ہوئی خطائیں بھی) پھر جب اپنے دونوں ہاتھ (کہنیوں تک) دھو تا ہے تو دونوں ہاتھوں سے کی ہوئی خطائیں نکل جاتی ہیں یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر سے کی ہوئی خطائیں نکل جاتی ہیں یہاں تک کہ کانوں سے کی ہوئی خطائیں بھی پھر جب اپنے دونوں پاؤں دھو تا ہے تو پاؤں کے ذریعے کی ہوئی خطائیں نکل جاتی ہیں یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے بعد اس کا مسجد چل کر جانا اور نماز (باجماعت) پڑھنا اس کے لئے مزید ثواب کا موجب ہوتا ہے (امام مالک اور نسائی نے روایت کیا) (مشکوٰۃ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے بدن کے جن اعضاء سے خطاؤں کا ارتکاب کرتا ہے وہ خطائیں ان اعضاء میں غیر محسوس طور پر داخل اور پیوست ہو جاتی ہیں اور وہ اعضاء ان خطاؤں سے اسی طرح آلودہ ہو جاتے ہیں جیسے غیر مرئی (نظر نہ آنے والی) نجاستوں سے گندے ہو جاتے ہیں اور جس طرح گندے اعضاء پانی سے دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں بدن گندگی سے پاک ہو جاتا ہے اسی طرح مسنون طریقے پر کامل وضو کرنے سے خطاؤں کی گندگی نکل کر دور ہو جاتی ہے اور انسان ظاہری نجاستوں کی طرح باطنی نجاستوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پاک و صاف ہو کر نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز مزید برآں رافع درجات کا موجب ہوتی ہے خطاؤں کا خروج جس کی اس حدیث میں تصریح ہے تجسد اعمال کی بین دلیل ہے۔

۲۔ اسی طرح حدیث ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاؤں کو آگ سے تعبیر فرمایا ہے جس میں انسان غیر محسوس طریق پر جلتا رہتا ہے اور صدقہ کو پانی سے تعبیر فرمایا ہے جو خطاؤں کی غیر محسوس اور نظر نہ آنے والی آگ کو بجھاتا ہے ارشاد ہے۔

الصدقة تطفيء الخطايا كما يطفىء الماء النار

صدقہ کرنا خطاؤں (کی آگ) کو اسی طرح بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔

اطفاء کا لفظ عربی زبان میں لگی ہوئی آگ بجھانے کے لئے مخصوص ہے اس لئے یہ حدیث بھی تجسّد اعمال کی روشن دلیل ہے گویا خطائیں ایک غیر مرنی آگ ہیں جس میں ارکاب کرنے والا جلتا ہے مگر جلنے کو محسوس نہیں کرتا اور صدقہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

لیکن اس جزاء و سزا کے عین اعمال ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آخرت میں جزاء و سزا صرف وہی اچھے برے اعمال ہوں گے جو بندوں نے دنیا میں کئے ہیں بلکہ نیکو کاروں اور پرہیزگاروں کو ان نیکوں کے علاوہ بھی بطور انعام ایسی نعمتیں دی جائیں گی جو اس جہان میں انسان کے وہم و خیال سے بھی باہر اور تصور سے بھی بالاتر ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** (السجدة آیت ۱۷) پس کوئی نہیں جانتا جو ایمان والوں کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک (اور دلوں کی فرحت) چھپا رکھی ہے ان کے اعمال کے صلہ میں

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ** (سورۃ ق: ۱۷: آیت ۳۵)

اور (جنت میں) ان ایمان والوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے (اور اس کے اہل ہوں گے) اور (خاص) ہمارے پاس تو اور بھی بہت کچھ ہے (جو ان کو ملے گا)

احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مزید کا مصداق رویت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ارشاد ہے۔ **وَجُوهٌ يُّومِنُونَ لَمْ يَلْبَسُوا الْحُلُمَ إِلَّا نُورًا** (سورۃ ق: آیت ۲۲: ۲۳) کچھ چہرے (اہل و ایمان کے چہرے) اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ ظاہر ہے اہل ایمان کے لئے جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جو احادیث کی تصریح کے مطابق روزانہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد اور ہفتہ وار جمعہ کے بعد ہوا کرے گا اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ یہ رویت بندوں کے کسی بھی عمل کی مثال صورت نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان ہے۔

اس کے بالمقابل کفار و مشرکین کے لئے علاوہ کفر و شرک کے جہنم میں جلنے اور پھکنے کے سب سے بڑا عذاب اسی نعمت یعنی اپنے رب کے دیدار سے محرومی ہوگی چنانچہ ارشاد ہے:

كُلًّا نَّهَمُّ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ يَلْبَسُوا الْحُلُمَ إِلَّا نُورًا (سورۃ طہ: آیت ۱۵)

ہرگز نہیں بے شک و شبہ وہ (کفار و مشرکین) اپنے رب (کے دیدار) سے محجوب اور محروم ہوں گے۔ اسی خصوصی جزاء کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

جز آء من ربك عطاءً حساباً (پارہ ۳۰ سورہ النہاع: آیت ۲۰-۲۶)

یہ جزاء ہے تیرے رب کی طرف سے عطا ہے حساب کے مطابق۔

یعنی یہ جزا جس کا متقین کے متعلق ارشاد ہوا ہے یہ درحقیقت تیرے پروردگار کی ایک عطا یعنی انعام ہے حساب کے مطابق یعنی حسب مراتب گویا جیسے درجے کا تقویٰ ہو گا اسی کے مطابق یہ عطا ہوگی اعلیٰ درجہ کے متقین کے لئے عطاء بھی اعلیٰ درجہ کی ہوگی۔

اس کے برعکس سرکشوں یعنی کفار و مشرکین و منکرین کو جزاء و سزا کے لئے سب سے بڑا عذاب جہنم کا سا لہا سال لانتا ہی عذاب ہو گا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلی آیت میں فرمایا ہے۔

جز آء وفاقاً (پارہ نمبر ۳۰ سورہ النہاع آیت ۲) ایسی سزا جو (جرم کے) مطابق ہے۔

یعنی یہ سا لہا سال لانتا ہی عذاب ان کے جرم یعنی کفر و شرک اور انکار جزاء و سزا پر عمر بھر اصرار کے موافق و مطابق ہے اس لئے کہ جیسے ان مجرموں نے دنیا کی پوری زندگی کفر و شرک اور انکار حق اور اس پر اصرار میں گزاری اب آخرت کی پوری زندگی جہنم کے عذاب میں گزارنی ہوگی اس لحاظ سے سزا جرم کے مطابق ہے یہ دوسری بات ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ تھی یا چند سالہ تھی ختم ہو گئی آخرت کی زندگی ابدی اور لانتا ہی ہے ختم نہیں ہو سکتی۔

بہر حال تجسد اعمال اور جزاء و سزا کے عین عمل ہونے کا عقیدہ اس زمانہ کے گونا گوں گناہوں اور نافرمانیوں کے بھنور

میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح اور بہبودی کے لئے نہایت مؤثر اور تریاق کی طرح کارگر ہے واللہ اعلم وباللہ التوفیق

بار ہواں باب باب الحدیث علی الازدیاد من الخیر فی اواخر العمر عمر کے آخری حصوں میں زیادہ سے زیادہ کارہائے خیر کرنے کی ترغیب کا بیان

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اولم نعلمکم مایتذکرفیہ من تذکر وجاءکم النذیر (س: فاطر آیت ۳۷)

قال ابن عباس والمحققون معناه اولم نعلمکم ستین سنة ویؤیدہ الحدیث الذی سندکرہ ان شاء اللہ تعالیٰ وقیل: معناه ثمانی عشرة سنة وقیل: اربعین سنة قالہ الحسن والکلبی ومسروق ونقل عن ابن عباس ایضاً، ونقلوا ان اهل المدينة كانوا اذا بلغ احدہم اربعین سنة تفرغ للعبادة وقیل: هو البلوغ وقولہ تعالیٰ: وجآئکم النذیر“ قال ابن عباس والجمهور: هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقیل: الشیب قالہ عکرمہ وابن عیینہ وغیرہما. واللہ اعلم

ترجمہ۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی جس میں وہ شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور خبردار کرنے والا بھی تمہارے پاس آچکا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور محققین کہتے ہیں کہ معنی ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں ساٹھ سال کی عمر نہیں دی اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے جو ان شاء اللہ ہم عنقریب ذکر کریں گے اور کسی نے کہا کہ اٹھارہ سال اور ایک قول ہے کہ چالیس سال مراد ہیں، یہ قول حسن کلبی اور مسروق کا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، یہ بھی منقول ہے کہ اہل مدینہ میں سے کسی کی عمر چالیس برس ہو جاتی تو وہ اپنے آپ کو عبادت کے لئے فارغ کر لیتا اور کسی نے کہا کہ بلوغ کی عمر مراد ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، کسی نے کہا کہ بڑھاپا نذر ہے یہ عکرمہ اور ابن عیینہ کی رائے ہے۔

تفسیر۔ آیت کریمہ کی تفسیر اور اس عمر کی تعیین کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ چار اقوال نقل کرتے ہیں۔

۱۔ ترجمان القرآن حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے علاوہ دوسرے محققین کے قول کے مطابق اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں کیا ہم نے تمہیں ساٹھ سال کی عمر نہیں دی؟ اس قول کی تائید صحیح بخاری کی وہ پہلی حدیث بھی کرتی ہے جو ہم نے اسی باب کے ذیل میں نقل کی ہے۔

۲۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ عمر اٹھارہ سال ہے۔

۳۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ عمر چالیس سال ہے حسن کلبی اور مسروق سے بھی یہی قول منقول ہے اسی طرح حضرت ابن عباس سے بھی یہی قول نقل کیا گیا ہے اور اسی کی تائید میں اہل مدینہ کا تعامل نقل کیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کی عمر چالیس سال کو پہنچ جاتی تو وہ (دنیا کے تمام کاروبار چھوڑ دیتا اور شب و روز عبادت میں مشغول ہو جاتا۔

۴۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ بلوغ کی مدت ہے (یعنی جب انسان بالغ ہو جائے خواہ پندرہ برس کی عمر میں خواہ اٹھارہ سال کی عمر میں)

اور اللہ تعالیٰ کے قول وقد جاءکم النذیر (اور خبردار کرنے والا بھی تمہارے پاس آچکا) کا مصداق حضرت عبد اللہ بن عباس اور عام مفسرین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور (حضرت ابن عباس کے شاگرد) حضرت عکرمہ اور ابن عبید وغیرہ کے نزدیک اس کا مصداق بڑھاپا ہے۔ واللہ اعلم

ان اقوال و آراء کا تجزیہ

دوسرے اور چوتھے قول اس پر مبنی ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے انسان مکلف ہوتا ہی نہیں لہذا ایک نابالغ بچے یا لڑکے کو نصیحت نہ حاصل کرنے اور خبردار کرنے والے کی بات نہ سننے اور نہ ماننے پر سرزنش کیسے کی جاسکتی ہے نہ یہ عقل کا تقاضا ہے نہ شریعت کا حکم ہے۔

تیسرا قول اہل مدینہ کے تعامل پر مبنی ہے ان کا یہ تعامل عہد نبوت یا قرب عہد نبوت کے فیوض و برکات پر مبنی ہے اور ظاہر ہے کہ آیت کریمہ میں مخاطب صرف اہل مدینہ یا صرف اس امت کے کفار ہی نہیں ہیں بلکہ نوع انسانی کے تمام ہی کافروں کو یہ سرزنش کی جائے گی۔

مصنف رحمہ اللہ کے انداز بیان سے نیز بخاری شریف کی آنے والی حدیث سے پہلے قول کی تائید ہوتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث امام بیہقی کی کتاب شعب الایمان میں اس سے زیادہ تفصیل سے آئی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

قیامت کے دن ایک منادی کرنے والا آواز دے گا ساٹھ سال کی عمر والے کہاں ہیں؟ (سامنے آئیں) اور یہی ساٹھ سال وہ عمر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی جس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور خبردار کرنے والا بھی تمہارے پاس آچکا ہے۔

علاحدیث مخر صلاقی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیل کی حدیث میں اپنی امت کی عمریں ساٹھ اور ستر سال کے درمیان بتلائی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہیں بہت کم لوگ ہوں گے جو ستر سے تجاوز کریں گیا (مشکوٰۃ)

مزید تشریح

اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ یہ سرزنش مکلف اور بالغ لوگوں کو ہی فرمائیں گے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بالغ ہوتے ہی انسان طبعاً اور فطرتاً دنیوی امور میں منہمک اور مستغرق ہو جاتا ہے ایک طرف تمام فطری اور خلقی جذبات و خواہشات شباب پر ہوتی ہیں ان کے تقاضے عقل و خرد سے بیگانہ بنا دیتے ہیں دوسری طرف معاشی ذمہ داریاں بھی اس پر عائد ہو جاتی ہیں بیوی بچوں کے تقاضے بالکل ہی اندھا بنا دیتے ہیں اس لئے اوائل شباب اور چڑھتی جوانی کے زمانہ میں وہ آخرت سے غافل اور دنیا میں منہمک اور مستغرق ہو جانے میں فی الجملہ معذور ہے لیکن تیس سال کی عمر کے بعد ایک طرف چڑھتی جوانی کے جذبات و خواہشات میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے دوسری طرف اس دس سالہ معاشی اشتغال اور کاروباری تجربات کی وجہ سے نفع نقصان اور خیر و شر کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے ہر کام کے عواقب و نتائج پر نظر رکھنے اور غور و فکر کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اور چالیس سال کے بعد تو زندگی میں ہر پہلو سے اعتدال اور ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے اولاد بڑی حد تک کاروبار کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتی ہے دنیا کی بے ثباتی عیاں ہو جاتی ہے اور اس زندگی کے بعد کسی دوسری زندگی کا شعور بیدار ہو جاتا ہے (تعالیٰ انصار اسی پر مبنی تھا وہ چونکہ ایمان باللہ اور آخرت پر یقین رکھتے تھے عہد نبوت کے انوار سے ان کے قلوب منور تھے اسی لئے وہ چالیس سال کی عمر کے بعد اپنے آپ کو دنیوی کاروبار سے آزاد اور آخرت کے لئے فارغ کر لیا کرتے تھے) اور ساٹھ سال کے بعد تو جسمانی اعضا اور قوی میں نمایاں انحطاط شروع ہو جاتا ہے اور ستر سال کی عمر میں تو ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء بالکل ہی جواب دینے لگتے ہیں عقل و خرد اور بینائی و شنوائی وغیرہ و جسمانی قوتیں انسانی عزائم کے ساتھ دینے سے انکار کر دیتی ہیں اور انسان ہار مان لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اعتراف کر لیتا ہے کہ میں بوڑھا اور ناکارہ ہو گیا اس عمر میں پوری طرح موت اور مابعد الموت کی فکر اس پر سوار ہو جاتی ہے۔

یہ عام طور پر اس امت مرحومہ کے افراد کی دنیاوی زندگی کے ارتقاء و انحطاط کا عمومی معیار ہے شاذ و نادر ہی اس امت کے افراد اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں جیسا کہ اس امت مرحومہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ اقلہم یجوز ذالک (اور بہت کم لوگ ہو گئے جو اس عمر سے تجاوز کریں گے) سے ظاہر ہے۔

باقی یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب اور سرزنش صرف اس امت کے کفار کو ہی نہ ہوگی بلکہ نوع انسانی کے تمام کفار اس کے مخاطب ہوں گے اور ام سابقہ کی عمریں اس امت کی بنسبت بہت زیادہ دراز ہوئی ہیں ان کی زندگی کا ارتقاء و انحطاط بھی اس امت سے مختلف ہو گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مدت عمر کو مبہم کہا صرف اتنا فرمایا کہ تمہیں اتنی عمر ضروری جس میں نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اس کے باوجود تمہاری آنکھیں نہ کھلیں اور اپنے خالق و مالک رب العالمین کو نہ پہچانا اور آخرت کی فکر نہ کی۔

اس لحاظ سے نذیر کا مصداق بڑھاپا صحیح معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم بالصواب وعلیہ اتم

ساتھ سال کی عمر پانے والے کے پاس کو تاہی کرنے کا کوئی عذر نہیں

وأما الأحاديث فالأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَعذَرَ اللهُ إِلَىٰ أَمْرِي أَخْرًا أَجَلَهُ حَتَّىٰ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً" رواه البخاري. قَالَ الْعَلَمَاءُ: مَعْنَاهُ لَمْ يَتْرُكْ لَهُ عُدْرًا إِذْ أَمَهَلَهُ هُنَا الْمُدَّةُ. يُقَالُ: أَعذَرَ الرَّجُلُ إِذَا بَلَغَ الْغَايَةَ فِي الْعُدْرِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لئے کسی عذر کی گنجائش نہیں چھوڑی جس کی عمر دراز کی یہاں تک کہ ساتھ سال کو پہنچ گیا (اور پھر بھی اسے خدایا نہ آیا اور آخرت کی کوئی فکر نہ کی) صحیح بخاری امام نووی فرماتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے: اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لئے (ایمان نہ لانے کا) کوئی عذر نہیں چھوڑا جس کو اتنی مدت تک مہلت دی عربی زبان میں کہا جاتا ہے اعذر الرجل جبکہ کوئی شخص عذر کے بارے میں انتہا کو پہنچ جائے صحیح بخاری

تشریح: اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف انسان کی ساخت ایسی بنائی کہ شر اور خیر دونوں کے محرکات خلقتاً اس کی فطرت میں ودیعت فرمادیئے ارشاد ہے فالهمها فجودها وتقونها (بدکاری اور پرہیزگاری دونوں کے محرکات اس کے دل میں ڈال دیئے) دوسری طرف دنیاوی لذائذ میں مقناطیسی کشش اس قدر رکھی کہ انسان ان کی طرف کھچے بغیر نہیں رہ سکتا ارشاد ہے:

انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملاً (س: الكهف آیت ۷)

ہم نے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ان کو زمین کی زینت (اور پرکشش) بنایا تاکہ ان کو آزمائیں کہ ان میں کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔

ہر قدم پر خدا سے غافل اور گناہ پر آمادہ کرنے والی مرغوب اور لذیذ چیزیں پیدا فرما کر انسان کی دسترس میں دیدیں اور اس کے ساتھ انبیاء و رسل کے ذریعہ اپنے احکام بھیجے کہ دیکھو ان تمام دل آویز چیزوں کو ہمارے احکامات کی حدود میں رہ کر استعمال کرنا خبردار ان شرعی حدود سے قدم باہر نہ نکلے۔ بقول شاعر

اندرون قعر دریا تختہ بندم کردہ بازی گوئی کہ دامن ترکن ہو شیراباش

بیچ دریا میں کھڑا کر دیا اور پھر حکم ہے کہ خبردار دامن تر نہ ہو (گناہ کا ارتکاب نہ ہو)

اس لئے بلوغ کے بعد جنسی جذبات کا اتنا زور اور نفسانی خواہشات کا ایسا طوفان برپا ہوتا ہے کہ اس طوفان میں بہہ کر اللہ تعالیٰ سے غافل اور آخرت سے بے پرواہ اور بے فکر ہو جانا کچھ بعید نہیں اس ہیجان میں کچھ کمی آتی ہے تو معاشی الجھنیں اور افکار علاوہ ازیں دنیاوی مصروفیتیں اس قدر گھیر لیتی ہیں کہ بقول شاعر۔

شب چو عقد نواز بر بندم چه خورد بامداد فرزندم

”رات کو جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو اس وقت یہی فکر سوار ہوتی ہے کہ صبح بچوں کے کھانے کو کہاں سے آئے گا“ اور یہ افکار پریشان نہ صرف اللہ تعالیٰ اور آخرت کو بھلا دیتے ہیں بلکہ احکام الہیہ کو بھی پس پشت ڈال دینے پر مجبور کر دیتے ہیں اور حرام و حلال کا امتیاز بھی ختم ہو جاتا ہے۔

زندگی کے یہ دونوں بحرانی دور گزر جانے کے بعد ایک طرف زندگی میں کچھ ٹھہراؤ سکون و اعتدال پیدا ہوتا ہے دوسری طرف سفید بال تازیانہ عبرت بن کر ہر وقت موت اور مابعد الموت کو یاد دلاتے رہتے ہیں اس وقت یہ فکر ضرور لاحق ہوتی ہے کہ آخرت کے لئے اب تک کچھ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا۔

لیکن اگر اس عمر کے بعد بھی درازی عمر اور حرص مال و زر میں پڑ کر خدیلہ نہ آیا اور آخرت کی فکر نہ ہوئی تو یقیناً اس شخص کے پاس خدا نداشتی اور آخرت فراموشی کا کوئی عذر نہ رہا ایسے لوگوں کو ہی اس توبیخ و سرزنش اور عتاب و عذاب کا نشانہ بننا پڑے گا۔

باقی وہ خدا ترس لوگ جنہوں نے زندگی کے ہر دور میں پھونک پھونک کر قدم رکھا اور احکام الہیہ کی حدود سے حتی الامکان قدم باہر نہ رکھا اور اگر کبھی بتقاضائے بشریت کوئی بے اعتدالی ہو گئی اور

گناہ سرزد ہو گیا تو فوراً توبہ و استغفار کے ذریعہ اس کی تلافی کر لی وہ تو

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزنوا
وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم
فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلامن غفور رحيم O س: (م السجدة آیت ۲۴۳۰)

پشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے (اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں) پھر (مرتے دم تک اس پر) ثابت قدم رہے ہیں ان کے پاس (مرتے وقت) فرشتے آتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ نہ تم کسی چیز کا خوف کرو اور نہ غم کرو اور تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا (اور) ہم تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی مددگار رہے اور آخرت میں بھی (تمہارے مددگار رہیں گے) اور اس جنت میں تمہارے لئے ہر وہ چیز مہیا ہوگی جس کو تمہارے دل چاہیں گے اور جو تم مانگو گے یہ (خاطر مدارات) تمہارے مغفرت کرنے والے مہربان رب کی طرف سے (تمہاری) مخصوص مہمانی ہے۔

یہی اصحاب استقامت اس بشارت عظمیٰ اور خداوندی مہمان نوازی کے مستحق ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ضرور پورا ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو بھی اس دوسرے اہل ایمان کے گروہ میں شامل فرمائیں اور ہمیں ساری زندگی خوف خدا اور فکر آخرت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں ذیل کی مسنون دعا یاد کر لیجئے اور ہمیشہ مانگا کیجئے۔

اللهم اجعلني اخشاك كاني اراك ابدًا حتى القاك واسعدني بتقوى ك ولا تشقني بمعصيتك.

اے اللہ تو مجھے ایسا (خدا پرست) بنا دے کہ گویا میں تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہوں یہاں تک کہ (مرنے کے بعد) تجھ سے جاہلوں اور مجھے اپنی تقویٰ (خوف) سے خوش نصیب بنا دے (کہ کوئی گناہ اور نافرمانی نہ کروں) اور مجھے اپنی نافرمانیوں (کے ارتکاب) سے بد بخت نہ بنا دے (کہ نافرمانیوں اور گناہوں کی سزا میں گرفتار ہو کر جہنم میں جاؤں)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مردم شماری اور عزت افزائی

الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قَالَ : كَانََ عَمْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاحٍ بَدْرٍ فَكَانَ بَعْضُهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ : لِمَ يَدْخُلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا ابْنَةٌ مِثْلُهُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ ! فِدَعَانِي ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَنِي مَعَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ ، قَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ ؟ [الفتح : ١] فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَمْرُنَا نَحْمَدُ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نَصَرْنَا وَفَتَحَ عَلَيْنَا ، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا . فَقَالَ لِي : أَكْذَلِكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقُلْتُ : لَا . قَالَ : فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ : هُوَ أَجَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَهُ لَهُ ، قَالَ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ وَذَلِكَ عِلْمَةٌ أَجَلِكَ ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ فَقَالَ عَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ . رواه البخاري .

توجہ : حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ (اپنی مجلس مشاورت میں) مجھے سن رسیدہ (اور معمر) شرکاء بدر کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے تو گویا ان میں سے بعض حضرات کو میری شرکت ان کے ہمراہ ناگوار محسوس ہوئی اور انہوں نے کہا اس نو عمر لڑکے کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے تو بیٹے اس کے ہم عمر ہیں حضرت عمرؓ نے جواب دیا یہ نو عمر لڑکا علم و فہم کے اعتبار سے اس مقام پر ہے جسے تم بھی جانتے ہو (اسی لئے میں اس کو اپنی مجلس مشاورت میں شریک کرتا ہوں) چنانچہ ایک دن حضرت عمرؓ نے مجھے (مجلس شوریٰ میں) بلایا اور ان کے ساتھ بٹھایا۔ مجھے یقین ہے کہ اس روز حضرت عمرؓ نے ان کو مشاہدہ کرانے کے لئے بلایا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر دریافت کی اذا جاء نصر الله والفتح (آخر تک)

توان میں سے بعض حضرات نے کہا: اس سورۃ میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب ہماری مدد کی جائے اور فتح حاصل ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں اور باقی لوگ خاموش رہے اور کچھ نہیں کہا تو اس کے بعد حضرت عمرؓ نے مجھ سے فرمایا کیا تم بھی یہی کہتے ہو آئے ابن عباس؟ میں نے کہا نہیں تو فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اس سورۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلادیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد (ظہور میں) آجائے اور (مکہ) فتح ہو جائے تو یہ تمہاری وفات کی علامت ہے لہذا تم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو شکر ادا کرو مغفرت طلب کرو بلاشبہ وہ بڑا ہی مہربان ہے حضرت عمرؓ نے کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں جو تم نے بیان کیا (کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی علامت بتلائی گئی ہے) بخاری شریف

تشریح: اس حدیث سے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مردم شناسی اور علم دوستی کا پتہ چلتا ہے وہیں انہوں نے شرکاء بدر کے سن رسیدہ اور معمر صحابہ پر اس امر کو بھی عملی طور پر ثابت کر دیا کہ عظمت و احترام علم و فضل کا ہونا چاہئے نہ کہ سن و سال کا یہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم (س: الحجرات، آیت ۱۳)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت و احترام کا مستحق وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور ظاہر ہے کہ علم کے بغیر تقویٰ کا حصول تو کیا تصور بھی محال ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ انا اتقاکم و اعلمکم باللہ میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں۔ اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت سن رسیدہ اور قدیم الاسلام صحابہ کے ساتھ حرمت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو شریک کیا کرتے تھے اور عام طور پر پیچیدہ اور دشوار امور ان سے دریافت کیا کرتے تھے۔ باقی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں وہ صرف اس جزو سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتلادیا تھا کہ اس لئے کہ سورۃ النصر کی سورتوں میں سے ہے کہ اگرچہ اس وقت کفار خصوصاً قریش کا غلبہ ہے ایک ایک دو دو آدمی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ بھی قریش کی ایذا سازئیوں کا نشانہ بن رہے ہیں مگر عنقریب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا اور اس کے بعد تم دیکھنا لوگ ایک ایک دو دو نہیں بلکہ فوج در فوج اور جوق در جوق اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہوں گے اور اس وقت تمہارا کام جس کے لئے تمہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے پورا ہو جائے گا لہذا جس وقت تم اس علامت کو دیکھو اور یہ تمہاری عمر کا آخری حصہ ہو گا تو ہمارے پاس آنے کی تیاری میں یعنی تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو جانا کہ ہمیں تمہارا اسی شان سے آنا پسند ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

وفات سے چند روز پہلے ایک دن منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا اور اس میں بیان فرمایا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زینت و آرائش اور عیش و عشرت کے سامان عطا کر دیں اور وہ دنیا میں رہے اور چاہے تو دنیا سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس آجائے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتیں ہیں ان کو اختیار کرے اور اس بندے نے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو پسند کر لیا ہے یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے صحابہ کو ان کی اس گریہ و زاری پر بڑا تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بندے کو اختیار دینے اور اس کے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کر لینے کا ذکر فرمایا ہے یہ کیوں رو رہے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں چند روز بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ بندہ جسے اختیار دیا گیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور ابو بکرؓ ہم سب سے بڑے عالم تھے (کہ وہ اس لطیف اشارے کو سمجھ گئے) کہ یہ آپ کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے اور اسی لئے ان آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار کرتے رہتے تھے۔

بہر صورت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اواخر عمر میں تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار کو ہی تجویز فرمایا ہے لہذا امت کے ہر فرد کا خصوصاً اس گناہ و معصیت کے عروج کے زمانہ میں ہمارا مشغلہ بھی یہی ہونا چاہئے کہ ہم زیادہ سے زیادہ۔

سبحنک اللہم وبحمدک استغفرك واتوب الیک

پاک ہے تو لے اللہ (اس سے کہ بغیر جرم کے کسی کو سزا دے) اور میں تیری ہی حمد و ثنا کرتا ہوں اور تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف ہی لوٹتا ہوں یعنی توبہ کرتا ہوں۔

کا ورد رکھیں اور یہی کہتے ہوئے احکم الحاکمین کے حضور میں پیش ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ تمہارے کردہ و ناکردہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیئے ہیں جب ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے اواخر عمر میں یعنی ساٹھ سال کے بعد یہ مشغلہ تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار تجویز فرماتے ہیں تو ہم تو سر تا پا خطا کار و گنہگار ہیں۔ ہمیں تو نہ صرف اواخر عمر میں بلکہ ہر حصہ عمر میں یہ مشغلہ ضرور اختیار کرنا چاہئے یہی ترجمہ الباب۔ عنوان باب ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری ایام میں سفر آخرت کی تیاری

الثالث : عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ إِلَّا يَقُولُ فِيهَا : " سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وفي رواية في الصحيحين عنها : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ

وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي"، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ. معنی: "يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ" أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾.

وفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ". قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحَدْتَهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ: "جَعَلْتِ لِي عَلَامَةً فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتَهَا قُلْتُهَا" ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ ﴿تَحَى إِلَى آخِرِ السُّورَةِ﴾.

وفي رواية لهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكثِرُ مِنْ قَوْلٍ: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ". قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَاكَ تُكثِرُ مِنْ قَوْلٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: "أَخْبَرَنِي رَبِّي أَنِّي سَأَرَى عَلَامَةً فِي أُمَّتِي فَإِذَا رَأَيْتَهَا أَكثَرْتُ مِنْ قَوْلٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتَهَا: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ فَنَحَ مَكَّةَ، ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾".

ترجمہ: یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے، ہم ہر طریق کا ترجمہ نمبر وار لکھتے ہیں۔

۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہتی ہیں: سورۃ النصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح (آخر تک) کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس کے بعد یہ کلمات نہ کہے ہوں سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی (پاک ہے تو اے ہمارے رب) اس سے کہ بغیر گناہ کے کسی کو سزا دے اور تیری ہی حمد و ثنا ہے اللہ تو مجھے بخش دے۔ بخاری و مسلم

۲۔ اور بخاری و مسلم ہی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود میں کثرت سے یہ کلمات کہا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یعنی قرآن پر عمل کرتے تھے۔

۳۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے کثرت سے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک پڑھا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں میں نے عرض کیا یہ کیسے نئے کلمات ہیں جو آپ نے کثرت سے پڑھنے شروع کئے ہیں (پہلے تو آپ نہیں کہا کرتے تھے) آپ نے فرمایا میری امت کے بارے میں ایک علامت ہے جو مقرر کی گئی ہے کہ جب میں اس علامت کا (امت میں) مشاہدہ کروں تو ان کلمات کو کہا کروں (وہ علامت یہ ہے) کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آجائے اور (مکہ) فتح ہو جائے اور تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اذا جاء نصر اللہ والفتح آخر سورت تک تو ان کلمات کو کہا کروں۔

۴۔ اور مسلم ہی کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ کلمات کہا کرتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ (عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں) اس پر میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کثرت سے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میں عنقریب اپنی اُمت میں ایک علامت دیکھوں گا تو جب میں اس علامت کو دیکھوں تو کثرت سے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہا کروں چنانچہ وہ علامت میں نے دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی اور مکہ فتح ہو گیا اور میں نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو میں نے بھی اللہ کے حکم فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان تواباً (سورۃ النصر آیت ۳) کے تحت کثرت سے ان کلمات کو پڑھنا (اور اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا) شروع کر دیا۔

حضرت عائشہؓ کی حدیث کی متعدد روایتوں کے بیان کرنے کا مقصد

تشریح: امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہؓ کی حدیث سے وفات سے پہلے او آخر عمر میں مذکورہ کلمات کی کثرت ثابت کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کے لئے انہوں نے متفق علیہ یعنی بخاری و مسلم کی دو روایتیں نقل کیں جن میں سے پہلی روایت سے سورۃ النصر کے نزول کے بعد ہر نماز کے بعد ان کلمات کا پڑھنا ثابت ہوتا ہے نہ زمانہ (اواخر عمر) کا ذکر ہے نہ ہی علامت وفات ہونے کا اسی طرح دوسری حدیث سے رکوع و سجود میں ان کلمات کے پڑھنے کا ذکر ہے اور بس ہاں مسلم کی پہلی روایت میں وفات سے پہلے ان کلمات کی کثرت اور اواخر عمر کا ایک نیا مشغلہ ہونا اور حضرت عائشہؓ کے دریافت کرنے پر اس کو ایک علامت کا نتیجہ قرار دینا مذکور ہے اور مسلم کی دوسری حدیث میں تو تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علامت کے مشاہدہ کے وقت کثرت سے تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار کا حکم دیا ہے اور آپ نے اسی حکم کی تعمیل کے تحت اواخر عمر میں یہ مشغلہ اختیار کیا ہے یہ حکم بھی آپ کی وفات کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کو آپ نے مبہم (گول مول) الفاظ میں خطبہ میں ایک بندہ کو اختیار دینے کے عنوان سے ظاہر فرمایا اور سوائے ابو بکر صدیقؓ کے اور کسی نے اس خفی اشارہ کو نہیں سمجھا حضرت ابن عباسؓ نے اسی بنا پر اس سورۃ کو آپ کی وفات کی خبر قرار دیا جس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تائید کی۔

المحدث یفسر بعضہ بعضاً (ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے) کے اصول کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ نے حضرت عائشہؓ کی حدیث کے چاروں طرق (روایات) نقل کر دیئے تاکہ پورا واقعہ سمجھ میں آجائے اور اس باب اواخر عمر میں زیادہ سے زیادہ کارہائے خیر کرنے کی ترغیب کے تحت اس حدیث کو نقل کرنا درست ہو جائے باقی حدیث کی مزید تشریح دوسری حدیث کے ذیل میں گزر چکی ہے۔

ایک اشکال اور اس کا ازالہ

اشکال یہ ہے کہ سورۃ النصر کی سورت ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے گویا مکہ المکرمہ ہی میں آپ کو یہ خبر دی گئی ہے اور اسی وقت سے آپ عمل بھی کرتے رہے یعنی تسبیح و تحمید اور استغفار و توبہ برابر کرتے رہے ہیں مگر صحیح مسلم کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات کے آخری ایام میں آپ کو یہ خبر دی گئی ہے اور آپ نے ایک نئے عمل کے طور پر تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار کو اختیار کیا ہے حضرت عائشہ کی روایت میں اسی کی تصریح ہے اور اواخر عمر میں ہی وہ خطبہ دیا ہے جس میں اشارۃً اس کا اظہار کیا گیا ہے گویا اس سے پہلے آپ کو خبر نہ تھی اور اسی بنا پر آپ نے کثرت سے تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار کو اختیار کیا ہے۔

اس اشکال کا ازالہ

اللہ تعالیٰ نے سورۃ مزمل میں جو مکہ کے مالداروں سے نمٹنے کا معاملہ اپنے ذمہ لیا اور آپ کو تھوڑے دن صبر و سکون کی ہدایت فرمائی چنانچہ ارشاد ہے۔

واصبر علی ما یقولون و اھجرھم هجراً جمیلاً و ذرنی و المکذبین او لی النعمۃ و مہلہم
قلیلاً (سورۃ مزمل آیت ۱۰-۱۱)

اور یہ جو (مکہ والے برا بھلا) کہتے ہیں اس پر صبر کرو (اور برداشت و تحمل سے کام لو) اور ان کو خوبی کے ساتھ ان کے حال پر چھوڑ دو اور دولت مند جھٹلانے والوں کو میرے حوالے کر دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ اس وعدہ کے ایفا کی تفصیل آپ کی سورۃ النصر میں بتلا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی مکہ فتح ہو گا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے اور تم اپنے مقصد بعثت کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گے صرف چند روز انتظار کرو تا کہ آپ صبر و سکون کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں اس مدت میں آپ تحدیث بالعمت و اظہار شکر کے طور پر تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار نمازوں میں کرتے رہے۔

جب یہ وعدہ (فتح مکہ) پورا ہو گیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اور آپ اپنے مقصد بعثت میں کامیاب ہو گئے اور رب الجلیل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آ گیا تو آپ نے کثرت سے تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی ایک نئی عبادت کے طور پر شروع کر دی یہاں تک کہ رفیقہ حیات حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کر کے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے ان کو صاف لفظوں میں وفات کی علامت ہونے کا حال بتلا دیا اور عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی خطبہ میں اشارۃً بتلا دیا جس کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق پر گریہ وزاری طاری ہو گیا۔

غرض آپ کو خبر تو پہلے بھی تھی مگر وقت نہیں آیا تھا جب وقت آ گیا تو بتلادیا جیسا کہ سورۃ الم نشرح میں فرمایا ہے: فاذا فرغت فانصب والی ربك فارغب اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو تیار ہو جاؤ اور اپنے رب سے ملنے کی رغبت کرو۔ واللہ اعلم وعلہ اتم۔

وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے نزول وحی

الرابع : عن أنس رضي الله عنه ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَقَاتِهِ حَتَّى تُوَفِّيَ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ : حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات سے پہلے پے در پے وحی نازل فرمائی چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ وحی نازل ہو چکی تھی (صرف چند آیتیں عین وفات سے پہلے نازل ہوئی ہیں) بخاری و مسلم

تشریح: اللہ تعالیٰ کی وحی نوع انسان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان اور اس کی ربوبیت کا کریمانہ تقاضا ہے خاص کر جب کہ قیامت تک کے لئے نبی آخر الزماں پر نبوت و رسالت اور وحی الہی کا سلسلہ ختم کیا جا رہا ہے آپ کی وفات کے بعد نہ کوئی اور نبی آئے گا نہ ہی اور وحی نازل ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے پے در پے وحی نازل فرما کر اپنا احسان جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور نبی آخر الزماں خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا پورا فرما دیا اور حجۃ الوداع کے دن ہی اعلان فرما دیا

اليوم اكملت لكم دينكم وانعمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً (سورة المائدة. آیت ۳ کا جزو)

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل (اور مکمل) کر دیا اور اپنا احسان تم پر پورا کر دیا اور اسلام کو دین (ہونے کے لحاظ سے) تمہارے لئے پسند فرما دیا۔

اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا سب سے بڑا فیض اور کار خیر یہی ہے کہ آپ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق تک پہنچا اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ مشقت اور صعوبت کا کام بھی یہی تحمل وحی تھا جیسا کہ نزول وحی کی کیفیات سے ظاہر ہے کہ نزول وحی کے وقت سخت سردی کے زمانہ میں آپ کی پیشانی پر پسینہ کے قطرے موتیوں کی طرح نمودار ہوتے اور ٹپکنے لگتے تھے آپ کی مخصوص اونٹنی جس کا نام قصویٰ تھا کے سوا اور کوئی اونٹنی نزول وحی کے وقت آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی ایک مرتبہ ایک صحابی کے زانو پر سر مبارک رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے کہ اسی حالت میں آپ پر وحی نازل ہونے لگی صحابی کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ میرا گھٹنا پھٹ جائے گا اس کے علاوہ اور بہت سی نزول وحی کے وقت کی کیفیات تحمل کی شدت اور صعوبت کو ظاہر کرتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

سنلقى عليك قولاً ثقیلاً (سورة المزمّل آیت ۵)

ہم عنقریب تم پر ایک وزن دار قول (کلام) ڈالیں گے (نازل کریں گے)

کلام الہی کا یہ ثقل معنوی بھی ہے اور حسی بھی چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اس ثقل کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

لوانزلنا هذا القرآن علی جبل لوابتہ خاشعاً متصدعاً من خشية الله (سورة حشر آیت ۲۱)

اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو (اے مخاطب) تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ (اللہ تعالیٰ کے خوف سے) لرزنے

لگتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔

جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی سے کہہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کر گر پڑے تھے۔

گویا کلام الہی کا جو وزن پہاڑ برداشت نہ کر سکتا تھا وہ ثقل آپ نزول وحی کے وقت برداشت کرتے تھے اور

موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش نہیں ہوتے تھے صرف ایک گرد و پیش سے غفلت اور ربودگی کی سی کیفیت

طاری ہوتی تھی وہ بھی صرف کلام الہی کی طرف توجہ کامل کی غرض سے جس کا آپ کو حکم دیا گیا تھا ارشاد ہے۔

فاذا قرأناه فاتبع قرأه (سورة القیامہ آیت ۱۸)

پس جب ہم (یعنی جبرئیل) قرآن پڑھیں تو تم (پوری طرح متوجہ ہو کر خاموشی کے ساتھ) سنا کرو۔

بات لمبی ہو گئی جس کے لئے ہم قارئین سے معذرت خواہ ہیں بہر حال اس میں شک نہیں کہ آپ کا سب

سے بڑا اور سب سے زیادہ دشوار کام مخلوق تک اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچانا تھا جو آپ نے اواخر عمر میں مکمل طور پر انجام

دیا اور یہی اس باب کا عنوان ہے واللہ اعلم۔

الخامس عن جابر رضی اللہ عنہ قال: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد علی مات علیہ " رواہ مسلم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ اسی حالت

میں اٹھایا جائے گا جس میں اس کی موت واقع ہوئی ہو۔ (مسلم)

تشریح: جب مردے قبر سے اٹھائے جائیں گے تو وہ اس حالت میں اٹھائے جائیں گے جس حالت میں

ان کی موت واقع ہوئی تھی، یہاں تک کہ اگر کسی کے ہاتھ میں مزار تھی وہ قبر سے اس حال میں نکل کر آئے

گا کہ اس کے ہاتھ میں مزار ہوگی۔

مقصود یہ ہے کہ مؤمن کو اپنی آخری زندگی کی فکر کرنی چاہئے اور اس کو اپنی پچھلی زندگی سے بہتر بنانے کی سعی

کرنی چاہئے، اور اسے چاہئے کہ حسن نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف رضائے الہی کے حصول

کے لیے اعمال صالحہ میں مصروف ہو جانا چاہئے، تاکہ انجام بخیر ہو اور آدمی اس دنیا سے جب رخصت ہو تو وہ نیک

عمل میں لگا ہوا ہو اور اس پروردگار کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہو جس کے سامنے پیش ہو کر اعمال کا حساب دینا ہے۔

۱۳ باب فی بیان کثرتہ طرق الخیر اعمال خیر کی کثرت کے بیان میں ہر شخص قیامت کے دن اپنے آخری عمل پر اٹھے گا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ۲۱۵].
ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تم جو بھی نیک کام کرو گے پس اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللهُ﴾ [البقرة: ۱۹۷].
ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو بھی تم نیک کام کرو گے اللہ اس کو جان لے گا۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ۷].
ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تو جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیک کام کیا ہو گا وہ اس کو (قیامت کے دن
دیکھ لے گا) موجود پائے گا)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [الجاثية: ۱۵].
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس شخص نے کوئی نیک کام کیا پس وہ اپنے نفس کے لئے ہی کیا (اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا)
امام نووی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں: (قرآن کریم) میں اس عنوان کے تحت بکثرت آیات موجود ہیں باقی حدیثیں
تو اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے ہم یہاں (بطور نمونہ) چند حدیثیں بیان کرتے ہیں۔

آیات کا اضافہ

ہم یہاں چند آیات کریمہ کا اضافہ مناسب سمجھتے ہیں کہ جن سے ان کا رہائے خیر کی نوعیت کہ وہ فرائض
و واجبات ہیں یا مستحبات و مندوبات ہیں اور ان پر اجر عظیم کے وعدے کا حال بھی واضح ہو جائے۔

۱۰. قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (پارہ سورۃ البقرہ ع ۱۹)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس شخص نے بہت ثواب کوئی بھی کار خیر کیا تو بے شک اللہ (بڑا) قدر دان
اور خوب جاننے والا ہے۔

۲. قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَا تَقْدُمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ

و اعظم اجراً (پارہ ۲۹۔ سورۃ الزلزلہ۔ ع ۲)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اور جو بھی کار خیر تم کرو گے اس کو اللہ کے پاس بہت بہتر اور اجر کے اعتبار سے) بہت بڑا پاؤ گے۔

۳۔ قال اللہ تعالیٰ: یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضاً (پارہ ۳ سورہ آل عمران-ع ۳۷)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس دن (قیامت کے دن) ہر نفس نے جو عمل خیر بھی کیا ہو گا کہ اسکو موجود پائے گا۔

۴۔ قال اللہ تعالیٰ: وما تنفقوا من خیر فلا نفسکم (پارہ ۳ سورہ البقرہ-ع ۲۷۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تم اپنے لئے ہی کرتے ہو (آخرت میں تمہارے ہی کام آئے گا)

آیات کی تفسیر:

ان آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ

(۱) ہر کار خیر کا بہت ثواب کرنا ضروری ہے

(۲) یہ کارہائے خیر فرائض و واجبات ہی نہیں بلکہ مستحبات و مندوبات بھی ہیں

(۳) یہ تمام کارہائے خیر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہیں قیامت کے دن تم ان کو موجود پاؤ گے

(۴) ان کا اجر و ثواب بہت عظیم ہے

(۵) اللہ تعالیٰ بڑے قدر دان اور قدر شناس ہیں اور ہر کار خیر کو خوب جانتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ بہت

عبادت و ثواب کیا جائے۔

احادیث اور ان کی تشریح

اب مذکورہ ذیل احادیث میں ان کارہائے خیر کی فراوانی اور کثرت اور اہمیت کا حال پڑھے۔

افضل اعمال کا بیان

الأول: عن أبي فرج جندب بن جندب رضي الله عنه ، قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ " . قُلْتُ : أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " أَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا " . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ : " تَعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقٍ " . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ ؟ قَالَ : " تَكْفُفُ شَرَكَ عَنِ النَّاسِ ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ۔ حضرت ابو فرج (جن کا نام) جندب بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ! کونسا عمل (سب سے زیادہ) افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ

تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا (پھر) میں نے عرض کیا: کون سا غلام آزاد کرنا (سب سے زیادہ) افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: جو غلام مالکوں کے نزدیک (سب سے زیادہ) نفیس ہو اور اس کی قیمت سب سے زیادہ ہو میں نے عرض کیا پس اگر میں (اپنی تہی دستی کی وجہ سے) نہ کروں (یعنی غلام آزاد نہ کر سکوں)؟ آپ نے فرمایا: تم کسی کارِ مگر کی مدد کرو یا کسی ناکارہ کے لئے کام کرو“ (یعنی خود محنت مزدوری کر کے اس کو دے دو یا اس کی معاش کی کفالت کرو) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ذرا بتلائیے اگر میں ان میں سے بھی کوئی کام نہ کروں (یعنی نہ کر سکوں) آپ نے فرمایا: ”تم اپنے شتر سے لوگوں کو بچاؤ“ (یعنی کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کا ضرر یا آفت نہ پہنچائیے کہ یہ تمہارا خود اپنے اوپر احسان اور کارِ ثواب ہے بخاری و مسلم۔

اعمالِ صالحہ اور کارِ ہائے خیر کی ضرورت و اہمیت

تشوہیح:۔ اعمالِ صالحہ کے بغیر صرف ایمان ایک ایسا درخت ہے جس کی صرف جڑ ہو وہ بھی زمین کے اندر لیکن زمین کے اوپر نہ اس کی کوئی شاخ ہو نہ گندانہ ٹہنیاں ہوں نہ ٹہنیوں پر پتے نہ پھول نہ پھل نہ اس کی کوئی شاخ ہو ظاہر ہے کہ جب تک یہ درخت زمین سے پھوٹ کر باہر نہ نکلے اس کا تناور گدے نہ ہوں ان پر ٹہنیاں اور ٹہنیوں پر پتے اور پھول پھل نہ لگیں اس وقت تک یہ درخت بیکار اور صرف نام کا درخت ہے اسی طرح جو شخص صرف دل سے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن نہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے نہ کوئی اور کام (نماز روزہ وغیرہ) کرتا ہے نہ ہی اسلام کے کسی بھی حکم پر عمل کرتا ہے اس کو ایمان نہیں کہا جاسکتا وہ صرف گوشت کھانے کا مسلمان ہے اس لئے کہ مسلمان بننے کے لئے دل سے ایمان لانے کے بعد زبان سے کلمہ توحید پڑھنا فرض عبادتوں (نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ) پر عمل کرنا نیز اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہی مسلمان ہونا ہے۔

اسی لئے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ جو ایک قدیم الاسلامِ جلیل القدر صحابی ہیں اور ایسے متقی اور پرہیزگار ہیں کہ ان کا تصور اور خیال بھی گناہ اور معصیت سے نا آشنا ہے اعمالِ صالحہ اور کارِ ہائے خیر کی حرص اور جستجو کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمالِ صالحہ اور کارِ ہائے خیر کے متعلق سوالات کرتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابوذر کو جواب میں ایسے ہمہ گیر اور دور رس اعمالِ صالحہ اور کارِ ہائے خیر بتلاتے ہیں جن سے کوئی بھی مسلمان کسی بھی حالت میں محروم نہیں رہ سکتا بشرطیکہ عبادت سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے کرے باقی جو ان پر بہ نیت ثواب عمل ہی نہ کرے اس کا تو کچھ علاج ہی نہیں۔

ہمارا زمانہ:

اسی بنا پر امام نووی رحمۃ اللہ اس باب کثرت کارِ ہائے خیر کے تحت سب سے پہلے اسی حدیث کو لائے ہیں ہمارے

اس پر آشوب اور گناہ و معصیت کی گرم بازاری کے زمانہ میں اس قسم کی احادیث کا ترجمہ اور بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے اعمال خیر کا بیان بے حد مفید اور ضروری ہے تاکہ ہر مسلمان یہ محسوس کرے کہ اعمال صالحہ اور کارہائے خیر ایسے بھی ہیں جو بغیر پیسہ، خرچ کئے اور بغیر محنت و مشقت اٹھائے کئے جاسکتے ہیں صرف نیت اور ارادہ کرنے کی دیر ہے۔

حضرت ابو ذر کا پہلا سوال سب سے افضل عمل کون سا ہے؟

از روئے لغت افضل، فضل سے ماخوذ ہے اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور فضل کے معنی ہیں زیادت کے، یہ زیادتی دنیا میں عمل کی دشواری، صعوبت اور مشقت کے اعتبار سے ہے اور آخرت میں اجر و ثواب کی زیادتی کے اعتبار سے ہے اور مسلم ہے کہ اشق الاعمال اکثر باثواب (جس کام میں جتنی زیدہ مشقت ہوگی اسی قدر اجر و ثواب زیادہ ہوگا) اس لحاظ سے سب سے زیادہ افضل وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ شوار اور ناقابل برداشت ہو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے کہ جواب میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔

ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کے لئے اپنے باپ دادا کے دین کو اور ہوش سنبھالتے ہی جس کو معبود جاتا ہے اس معبود کو چھوڑ کر ایک نئے معبود پر اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانا اور نئے مذہب کو قبول کرنا اگرچہ اس کی حقانیت کا یقین بھی ہو تب بھی نفسیاتی طور پر ایک انسان کے لئے بے حد شاق اور ناقابل برداشت عمل ہے۔

دیکھئے اوائل اسلام میں قریش نے بدر احد وغیرہ کی لڑائیوں میں اپنے اعلیٰ درجہ کے جنگجو اور زور آزمایہ داروں کو جن میں ایک ایک بہادر ہزاروں پر بھاری ہوتا تھا صرف اپنے آبائی دین اور بتوں کی پرستش پر قربان کر دیا مگر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے یہاں تک کہ چند سال میں ہی مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور کفار قریش کا نام و نشان مٹ گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابوطالب جن کی حمایت و سرپرستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس برس تک مکہ مکرمہ میں کفار قریش کے علی الرغم بت پرستی کی بیخ کنی اور دین توحید کی تبلیغ کرتے رہے اور قریش تمللاتے رہے اور ابوطالب کی حمایت کی بنا پر کچھ نہ کر سکے باوجودیکہ ابوطالب کو یقین تھا کہ جس دین توحید کی آپ دعوت دے رہے تھے بالکل برحق ہے جیسا کہ ابوطالب کے ذیل کے شعر سے ظاہر ہے۔

ودعوتنی وعلمت انک صادق ولقد صدقت وکنت قبل امینا

(اے میرے بھتیجے) تم نے مجھے (دین توحید کی) دعوت دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم سچے ہو اور بخدا تم نے بالکل سچ کہا ہے اور تم تو اس سے پہلے بھی امین ہو۔

لیکن صرف قومی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے حتیٰ کہ مرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اے عم قل لا اله الا الله اشهدک بهایوم القیامة

اے میرے چچا ایک کلمہ اشہدان لا اله الا الله (صدق دل سے) کہہ دیجئے تاکہ میں اس کی بنیاد پر آپ کے مومن ہونے کی شہادت دے سکوں مگر ابوطالب کا آخری جواب یہ تھا۔

لولا غیر تنی قریش لا قدرت عینک.

(بہتیبے) اگر مجھے قریش کے عار کا اندیشہ نہ ہوتا (کہ آخر وقت میں ابو طالب نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا) تو میں ضرور تمہارا اول ٹھنڈا کر دیتا اور اللہ پر ایمان لے آتا۔
دیکھئے ابو طالب کے لئے ”ایمان باللہ“ کتنا دشوار اور مشکل کام تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن بنا گوارا کیا مگر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لایا۔

یہ کفار قریش ہی کی کچھ خصوصیت نہ تھی بلکہ کسی بھی غیر مسلم کے لئے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کرنا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اتنا ہی مشکل تھا اور آج بھی اتنا ہی دشوار ہے۔

ہم نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالنے کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود سے ہمارے کان آشنا ہی نہیں ہوئے اس لئے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دشواری سے ہم ناواقف ہیں بقول عوام ہم تو سنی مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دشواری کا کیا پتہ؟ ہاں اس کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو معبود بنانے کے بجائے کرشن یا گوتم بدھ کو اپنا خدا مان لو اور ہندو دھرم یا بدھ مت قبول کر لو یا عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا مان لو اور عیسائی ہو جاؤ تو اس وقت ہمارا جواب یہ ہو گا کہ اگر تم چاند سورج ہمارے ایک ہاتھ پر رکھ دو اور تمام دنیا کی دولت اور نعمتیں ہمارے دوسرے ہاتھ پر رکھ دو تب بھی یہ ممکن نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود مان لیں اور اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے مذہب کو قبول کر لیں بشرطیکہ ہمارا ایمان کامل ہو یہ جواب کسی عالم دین ہی کا نہیں بلکہ ایک جاہل اور دینی تعلیمات سے نا آشنا مسلمان کا جواب بھی یہی ہے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایمان کی لذت تین آدمیوں نے پائی جن میں سے

ومن كان ان يلقى في النار احب اليه من ان يرجع الى الكفر بعد ان انقذه الله منه.

ایک وہ شخص ہے جس کے لئے آگ میں ڈالا جانا گوارا ہو بمقابلہ اس کے کہ کفر کی طرف لوٹے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے نجات عطا فرمائی ہے۔ صحیح مسلم

اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہی کافی مشکل اور دشوار کام ہے اسی کے ساتھ زندگی کے سب سے بڑے سرمایہ جان و مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا اور سر بکف کفن بردوش کافروں سے جنگ کرنے کے لئے جانا اور لڑنا اور بھی زیادہ دشوار اور مشکل کام ہے اس لئے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا دو گونہ دشوار کام ہے اس لئے کہ انسان کی جان و مال سے محبت فطری اور خلقی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس فطری محبت کو پس پشت ڈال کر عواقب و نتائج سے بے پرواہ ہو کر جنگ کی آگ میں کودنا بڑے دل جگرے کا کام ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی مومنوں کے متعلق فرماتے ہیں۔

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة (سورة توبه آیت ۳۰)
بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے بدلے خرید لئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ خریدار ہیں مومن دکاندار ہے جان و مال سود ہے جنت قیمت ہے ہر اللہ پر ایمان لانے والا اپنال و جان جنت کے عوض اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچ چکا ہے اسی لئے مومن کامل اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد بلا تردد و توقف جان و مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے اور جلد از جلد جنت حاصل کرنے کے شوق میں جب بھی موقع ملتا ہے میدان جنگ میں کود پڑتا ہے۔

بہر حال اول تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہی دشوار کام ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا اس سے بھی زیادہ دشوار کام ہے اسی لئے سب سے زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہے اور سب سے زیادہ افضل عمل ہے جو اعلیٰ درجہ کے ایمان والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔

ابوذر رضی اللہ عنہ کا دوسرا سوال ہے ای الرقاب افضل۔ کون سے غلام کو آزاد کرنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفسہا عند اہلبہاوا کثرا ثمنا جو غلام مالک کے نزدیک سب سے زیادہ نفیس ہو اور سب سے زیادہ قیمت والا ہو۔

آقا کے نزدیک نفیس تر ہونے کا مدار حسن خدمت پر ہے بعض غلام آقا کے ایسے مزاج شناس ہوتے ہیں کہ جس وقت جو خدمت آقا کو مطلوب ہوتی ہے آقا کے زبان سے کہے بغیر وہی خدمت انجام دیتے ہیں آقا کے مزاج کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کرتے ایسے غلام کو آقا کسی بھی قیمت پر اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں کرتا وہ آقا کی زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت بن جاتا ہے اسی کے ساتھ جب وہ گراں بہا اور بیش قیمت بھی ہو تو وہ آقا کے لئے ناگزیر اور ایک بیش بہا سرمایہ کی حیثیت حاصل کر لیتا ہے ایسے غلام کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے آزاد کر دینا نقصان مایہ بھی ہے اور اپنی زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت سے دستبردار ہونا بھی ہے اسی لئے بے حد دشوار اور ناقابل برداشت کام ہے اور اسی بنا پر سب سے زیادہ اجر و ثواب کا موجب اور سب سے زیادہ افضل کام ہے جو ایک خدا پرست اور خدا دوست انسان ہی جس کا واحد مقصد حیات رضاء مولیٰ کو حاصل کرنا ہو کر سکتا ہے ہر کس و نا کس نہیں انجام دے سکتا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فان الله به علیم (سورة آل عمران آیت ۹۶)

(اے مسلمانوں) تم ہرگز کوئی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنے محبوب ترین مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے اس پر چھپی نہیں رہ سکتی۔

ابوذر کے اس سوال کے جواب پر عمل کرنا بھی اعلیٰ درجہ کے خدا پرست اور خدا دوست مسلمانوں کا ہی کام ہے اس لئے ابوذر ایک عام مسلمان کو سامنے رکھ کر تیسرا سوال کرتے ہیں۔

فان لم افعل؟ تو اگر میں (تمہی دستی یا کم ہمتی کی وجہ سے یہ کام) نہ کروں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

تعین صانعاً او تصنع لا خورق

تم کسی کارِ گیر (کا ہاتھ بٹا کر اس) کی مدد کرو یا کسی ناکارہ انسان کے لئے کام (کر کے اس کی مدد) کرو۔

اس جواب کے دو جزو ہیں

(۱) کوئی شخص کارِ گیر یا پیشہ ور ہے وہ دن بھر میں اتنا کام نہیں کر پاتا کہ اس کے اور اس کے اہل و عیال کے روٹی کپڑا مکان سے متعلق ضروریاتِ زندگی پوری ہو سکیں دن بھر میں جتنا کام کرتا ہے اس کی اجرت سے ایک وقت پیٹ بھرتا ہے تو دوسرے وقت فاقہ ہوتا ہے یا دونوں وقت روٹی تول جاتی ہے مگر تن ڈھانپنے کے لئے کپڑا خریدنے کے لئے کچھ نہیں بچتا۔ اس لئے وہ اور اس کے بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں یا کپڑا بھی میسر آجاتا ہے مگر مکان کا کرایہ ادا کرنے کے لئے کچھ نہیں بچتا اس لئے سخت معاشی تنگی میں گرفتار ہے دن بھر کے کام کی اجرت سے جس سے ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے باقی ضرورتیں رہ جاتی ہیں اس لئے امداد و اعانت کا محتاج ہے ایسے ضرورت مند کی امداد اس طرح کی جائے کہ جو کام وہ کرتا ہے اس میں اس کا ہاتھ بٹائے تاکہ دن بھر میں اتنا کام وہ کر سکے اور اتنی اجرت اس کو مل سکے کہ اپنی باقی ضروریات کو بھی پورا کر سکے بہر حال جس صورت سے ہو سکے اس کی آمدنی میں اضافہ کر کے اس کی امداد کرے۔

(۲) دوسرا جزو ایک نکما آدمی ہے کوئی کام نہیں جانتا، محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتا پانچ ہے یا ناپینا ہے گونگا بہرا ہے اور ہے بال بچے دار تو ایسے شخص کی امداد و اعانت کی صورت یہ ہے کہ خود کوئی کام کرے اور اس کی آمدنی سے اس نکلے اور ناکارہ آدمی کی اور اس کے بال بچوں کی معاشی کفالت کرے تاکہ وہ در بدر بھیک مانگتے نہ پھریں۔

دونوں صورتوں کا مال واحد ہے ضرورت مند محتاجوں، لپا، جوں کی معاشی مدد و اعانت کرنا یقیناً بے حد ثواب کا کام اور خدمتِ خلق ہے حدیث شریف میں آیا ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:.. الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے (جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے)
لہذا اللہ کو سب سے زیادہ وہی شخص محبوب ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کرے۔
ابوذر غفاری اس کے بعد سوال کرتے ہیں۔

قلت: یا رسول اللہ! ارایت ان ضعفت عن بعض العمل

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ذرا ہٹلائیے اگر میں (اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے) ان دونوں میں سے کوئی کام بھی نہ کروں؟

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تکف شوك عن الناس فانها صدقة منك على نفسك۔
 تم لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ (یعنی کسی کو لذیت یا ضرر نہ پہنچاؤ) اس لئے کہ یہ تمہارا کار خیر احسان ہے اپنے حق میں۔
 ظاہر ہے کہ اگر تم نے کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کی لذیت یا کسی بھی قسم کا ضرر پہنچایا تو تم یقیناً گنہگار ہو گے
 لہذا تم نے لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ کر خود کو گناہ سے بچلایا اس لئے یہ خود تمہارے حق میں کار خیر اور کار ثواب ہے
 جو تم نے کیا یہی وہ کار خیر ہے جس میں نہ کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے نہ ہی کوئی کام کرنا پڑتا ہے نہ ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے
 ہیں کوئی مسلمان بھی کسی بھی حالت میں اس کار خیر سے محروم نہیں رہ سکتا۔ مگر یہ کارہائے خیر اسی صورت میں کار
 خیر اور ثواب کا کام ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی اور ثواب آخرت
 حاصل کرنے کی غرض سے کئے جائیں بالفاظ دیگر عبادت سمجھ کر اور عبادت کی نیت سے کرنا شرط ہے ورنہ تو بہت سے
 غیر مسلم بھی انسانی ہمدردی کے جذبہ سے یہ اور اسی قسم کے کام (جن کا ذکر آئندہ احادیث میں آرہا ہے) کرتے ہیں مگر
 نہ ان کو کار خیر کہا جاسکتا ہے نہ ہی اجر و ثواب کا سوال پیدا ہوتا ہے اس لئے کہ وہ ثواب و عذاب کو جانتے اور مانتے ہی نہیں۔

بدن کے جوڑوں کا شکر یہ اور نماز چاشت کی اہمیت

الثاني : عن أبي ذر أيضاً رضي الله عنه : أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
 ”يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيلَةٍ صَدَقَةٌ ،
 وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ،
 وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى “ رواه مسلم . ” السَّلَامِي ” بضم
 السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم : المفصل .

ترجمہ :- حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح
 تم میں سے ہر شخص کے (بدن کے) ہر جوڑ پر ایک کار خیر (شکر نعمت) واجب ہو جاتا ہے چنانچہ ہر تسبیح،
 سبحان اللہ کہنا ایک کار خیر (اور اداء شکر نعمت) ہے ہر تحمید الحمد للہ کہنا۔

ایک کار خیر (اداء شکر نعمت) ہے ہر تہلیل ، لا الہ الا اللہ کہنا۔

ایک کار خیر (اداء شکر نعمت) ہے اور ہر تکبیر ، اللہ اکبر کہنا۔

ایک کار خیر (اداء شکر نعمت) ہے اور کسی بھی (شرعاً) اچھے کام کے لئے کسی کو کہنا (کہ یہ کام کرو) ایک
 کار خیر (اداء شکر نعمت) ہے اور ہر شرعاً برے کام سے کسی کو منع کرنا ایک کار خیر (اداء شکر نعمت) ہے
 اور ان سب کاموں کے بجائے چاشت کی دور کعتیں پڑھ لینا بھی کافی ہے۔ (صحیح مسلم)

تشریح: ظاہر ہے کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ان میں سے ہر کلمہ کو حضور قلب کے ساتھ کہنا اور اسی طرح محض اللہ تعالیٰ کے لئے کسی بھی شرعی نیک کام کے لئے کسی کو کہنا اور کسی بھی برے کام سے کسی کو منع کرنا ان میں سے ہر ایک کام ایک مستقل کام اور ایک مستقل عبادت اور کارِ ثواب ہے۔

اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ انسانی بدن اور بدن کے جوڑ جن سے بدن حرکت کرتا ہے اور انسان مختلف و متنوع کام انجام دیتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اگر یہ بدن اور بدن کے جوڑ نہ ہوتے تو انسان پتھر کی طرح ایک جگہ پڑا رہتا نہ حرکت کر سکتا نہ کوئی کام کاج کر سکتا گویا یہ بدن اعضاء اور ان کے جوڑ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لئے دیئے ہیں کہ ان سے انسان دن بھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کام کاج کرے اور ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے اس عظیم انعام و احسان سے غافل نہ ہو اور ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ انسان مذکورہ بالا کارہائے خیر اور ان کے علاوہ دوسرے کارہائے خیر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انجام دیتا رہے اس کے برخلاف اگر اس بدن اور اس کے جوڑوں سے اللہ رسول کے احکام پر عمل کرنے کے بجائے اپنی اغراض و خواہشات نفسانی کے تحت برے بھلے حرام و حلال جائز و ناجائز کام کرتا رہا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اسی کا نام ناشکری اور کفرانِ نعمت ہے جس کی سزا بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔

لئن شکرتکم لازیدنکم ولنن کفرتم ان عذابى لشدید (سورۃ ابراہیم آیت ۷)

اور بخدا اگر تم نے (میری نعمتوں کا) شکر یہ ادا کیا تو میں (تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ) تمہیں اور نعمتیں دوں گا اور بخدا اگر تم نے ناشکری کی تو بلاشبہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔

اس نعمت کی ناشکری کی ادنیٰ درجہ کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو سلب کر لیں اور کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دیں کہ ہلنا جلنا محال ہو جائے کسی حادثہ میں ہاتھ پاؤں بیکار ہو جائیں یہ تو دنیا کی سزا ہے اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہو گا جس سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بچائیں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ: اس کے معنی یہ نہیں کہ انسان اپنی تمام طبعی و غیر طبعی اغراض و خواہشات سے کلی طور پر دست بردار ہو کر ہر وقت صرف اللہ اللہ ہی کرتا رہے اور انسان کے بجائے فرشتہ بن جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ہر غرض اور ہر خواہش کو پورا کرو مگر شریعت کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر اچھے سے اچھا کھاؤ پیو، عیش کرو ہر طرح کے کام کاج کرو و کاروبار کرو مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت اور شرعی حدود کے اندر رہ کر کرو (جیسا کہ اسی باب کی چوتھی حدیث میں اس کی تصریح آتی ہے) غرض یہ ہے کہ سب کچھ کرو مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت رہ کر کرو اور ہر وقت یہ خیال رکھو کہ یہ بدن اور یہ ہاتھ پاؤں اور یہ عمل کی قوت، سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس سے ایک لمحہ

کے لئے غافل نہ ہو۔ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں، لذتوں اور سامانِ راحت و آسائش سے انتفاع کو زہد و تقویٰ اور پرہیزگاری کے منافی اور خدا پرستی کے خلاف سمجھ کر ٹھکراتے ہیں ان پر ذیل کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ شدید عقاب اور ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔

ياايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين
 واكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون (سورۃ المائدہ آیت ۸۷-۸۸)

اے ایمان لانے والو! جو عمدہ (لذیذ) چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو (اپنے اوپر) حرام مت کرو اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر کے (حد سے تجاوز نہ کرو) (بندہ ہو کر خدا بننے کی کوشش نہ کرو) بلاشبہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو حلال و طیب چیزیں اللہ نے تم کو دی ہیں وہ کھاؤ (پو) اور اس اللہ سے (ہر وقت) ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔

یہ آیت کریمہ ان صحابہ کے متعلق نازل ہوئی ہے جنہوں نے عہد کیا تھا کہ ہمیشہ دن کو روزے رکھا کریں گے اور راتیں مصلے پر گزارا کریں گے بیویوں کے پاس تک نہ جائیں گے خوشبو کو ہاتھ نہ لگائیں گے گوشت بالکل نہیں کھائیں گے بستر پر ہرگز نہیں سوئیں گے (اور اس ترک لذت و آسائش کے ذریعہ نفس کشی کریں گے) چنانچہ اس وعید کے نازل ہوتے ہی ان صحابہ نے اپنے عہد توڑے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر ہی ان کا شکر یہ ادا کیا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اسی بڑے فریب پرہیزگاری کے متعلق فرماتے ہیں۔
 لا رہبانیت فی الاسلام اسلام رہبانیت (ترک دنیا) کی تعلیم نہیں دیتا۔

یہ رہبانیت تو عیسائیت کا شعار اور ناکام تجربہ ہے یا ہندو دھرم کا بڑا فریب جال ہے یہ تارک الدنیا راہب اور نفس کشی کرنیوالے سادھو درون خانہ اعلیٰ درجہ کے دنیا دار اور حرام خور ہوتے ہیں جیسا کہ تاریخی واقعات سے ثابت ہے۔

نماز چاشت اور اس کی اہمیت و فضیلت

ابوزر کی اس حدیث سے نماز چاشت کی عظیم فضیلت بھی ثابت ہوئی کہ دن بھر کے حدیث میں مذکور کارہائے خیر کی جگہ صرف چاشت کی نماز کافی ہو جاتی ہے سورج چڑھ آنے کے بعد دو یا چار رکعتیں نماز اشراق کہلاتی ہیں اور دوپہر سے پہلے تقریباً دس گیارہ بجے چار یا آٹھ رکعتیں نماز ضحیٰ (دن چڑھے کی نماز) کہلاتی ہیں چاشت کی نماز کی کم سے کم دو رکعتیں درنہ چار رکعتیں ہیں اور نماز ضحیٰ (دن چڑھے کی نماز) کی چار یا آٹھ رکعتیں ہیں علاوہ ابوزر کی روایت کے نماز چاشت کی فضیلت سے متعلق ایک اور حدیث قدسی بھی آئی ہے جو یہ ہے۔

عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ تبارک وتعالیٰ انه قال: یا ابن ادم ارفع لی اربع رکعات اول النهار اکفک اخره (رواہ الترمذی)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم کی اولاد تو دن کے اول حصہ میں میرے لئے چار رکعتیں پڑھ لے تو میں دن کے آخر تک تیرے لئے کفایت کروں گا (تیرے سارے کام ہنادوں گا) ترمذی

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اچھے برے اعمال پیش کئے گئے

الثالث : عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَرَضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ^{۳۳} عَنِ الطَّرِيقِ ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِيءِ أَعْمَالِهَا النَّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تَذْفَنُ " (رواه مسلم) .

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال میرے سامنے پیش کئے گئے تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں اس تکلیف دہ چیز تک کو بھی پایا جسے عام راستہ سے ہٹا دیا جائے اور ان کے برے اعمال میں مسجد میں اس (ناک کی) ریزش تک کو پایا جسے دفن نہ کیا گیا ہو۔ (مسلم)

تشریح: اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے اور برے ہر قسم کے کاموں کے کرنے کی قدرت عطا فرمائی ہے اور اچھے اور برے کاموں میں تمیز کرنے اور فرق کرنے کے لئے عقل بھی عطا فرمائی ہے مگر بسا اوقات خواہ اپنی کم فہمی یا کج فہمی کی بناء پر خواہ بیرونی گمراہ کرنے والے شیاطین جن و انس کے دھوکے اور فریب کی وجہ سے یا مبارک نفس کی مکاری و فریب کاری کی وجہ سے عقل اچھے اور برے کاموں میں فرق و امتیاز کرنے میں ناکام رہتی ہے اور بہت سے اچھے کاموں کو برا اور بہت سے برے کاموں کو اچھا سمجھ لیتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے تقاضاء رحمت و ربوبیت انسانوں کی صحیح رہنمائی کے لئے ہر زمانہ میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور آسمانی وحی ان پر نازل فرمائی کہ وہ وحی الہی کی روشنی میں انسانوں کی صحیح رہنمائی کریں آخری زمانہ میں پیغمبر آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لئے بھیجا اور کتاب الہی، قرآن کریم، آپ پر نازل فرمائی اور روحانی مکاشفات سے آپ کو نوازا تاکہ رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خود اور اپنی وفات کے بعد کتاب و سنت اور مکاشفات کے ذریعہ قیامت تک کے لئے رہنمائی کا نظام قائم کریں اور اپنی امت کے ذمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لازم قرار دے کر اس محکم نظام کو جاری فرمائیں۔

اسی کے ساتھ چونکہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا اس لئے آپ کو بطور کشف پہلے سے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ان چھوٹے بڑے اچھے کاموں کی فہرست ہے جو آپ کی امت کرے گی اور یہ ان

چھوٹے بڑے برے کاموں کی فہرست ہے جو آپ کی امت کرے گی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت و رحمت اپنی امت کو ہر بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے اچھے اور برے کام سے آگاہ کر دیا تاکہ اچھے کام کرتے وقت چھوٹے سے چھوٹے اچھے کام کو بھی یہ خیال کر کے نہ چھوڑیں کہ یہ بھی کوئی اچھا کام ہے؟ اسی طرح برے کاموں سے اجتناب اور پرہیز کرتے وقت کسی چھوٹے سے چھوٹے برے کام کو بھی سمجھ کر نہ کر بیٹھیں کہ اس کام کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ بھی کوئی برا کام ہے؟ اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوٹے سے چھوٹے اچھے اور برے کاموں سے آگاہ فرماتے ہیں جبکہ دوسری حدیثوں میں جو اسی باب میں آئی ہیں بڑے سے بڑے اچھے اور برے کاموں سے آگاہ فرماتے ہیں جب کہ دوسری حدیثوں میں جو اسی باب میں آئی ہیں بڑے سے بڑے اچھے اور برے کاموں سے آگاہ فرمایا ہے کہ یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے محاسن اعمال اور مساوی اعمال کے آپ پر کشف فرمانے کا۔

ظاہر ہے کہ انسان عام راستہ اور گزر گاہ سے کسی بھی ایذا رسان اور تکلیف دہ چیز ہٹا دینے کو کوئی اہم کار خیر اور کار ثواب نہیں سمجھتا حالانکہ بہترین خدمت خلق ہے اور راستہ چلنے والوں کی دعا خیر کا موجب ہے اور مسجد میں چھینک آنے پر ناک کی ریش (رینٹھ) یا کھانسی اٹھنے پر منہ سے بلغم ناک یا منہ سے نکلنے اور گرجانے کو برا کام نہیں سمجھتا حالانکہ مسجد کو گندا کر دینے کے لحاظ سے نمازیوں کے لئے بے حد تکلیف دہ اور انسانوں کی گالیوں اور فرشتوں کی بددعاؤں کا موجب ہے اس کم فہمی یا کوتاہ فہمی پر متنب فرمانے کے لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان دونوں درجہ کے اچھے اور برے کاموں کا ذکر فرمایا ہے اور اسی غرض سے امام نووی علیہ الرحمۃ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو اس باب کے ذیل میں ذکر فرمایا ہے جیسا کہ انہی ابو ذر کی تقریباً بارہ حدیثیں اسی کثرت کارہائے خیر کے ذیل میں نقل کی ہیں جن میں بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے کار خیر سے آگاہ کیا ہے کاش کہ مسلمان ان میں سے کوئی کار خیر تو اختیار کریں؟ کرتے ہیں مگر عبادت سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے نہیں کرتے اور ثواب سے محروم رہتے ہیں۔

موجودہ زمانہ

ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھندوں اور نفسانی اغراض و خواہشات کے پسندوں میں اس بری طرح گرفتار اور جکڑے ہوئے ہیں کہ کسی بھی معمول سے معمولی کار خیر کرنے کا ہمیں خیال ہی نہیں آتا اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائیں اور آخرت کی فکر کی یعنی ان احادیث سے فائدہ ماٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ امین یا رب العالمین۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غفلت اور بے حسی کو دور کرنے کی غرض سے مندرجہ ذیل دعائے نیک کی ہدایت فرمائی ہے۔

اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا

اے اللہ تو دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد اور منجھائے علم اور ہماری آخری رغبت (مرغوب چیز) نہ بناو۔

اس دعا کی روشنی میں ہماری حالت

آج ہماری حالت یہی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مقصد دنیا ہے آخرت کا بھول کر بھی خیال نہیں آتا تحصیل علم کی منہا بھی دنیا ہے یعنی ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں اگرچہ دینی علم ہی ہو اس کا مقصد صرف دنیوی اغراض ہیں اور بس آگے ہمیں کچھ نہیں چاہئے دنیاوی کامرانیوں ہی ہمیں مرغوب و مطلوب ہیں اور بس وائے بر ماوہر حال ما (افسوس ہم پر اور ہمارے حال پر)

آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیجئے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کیجئے یا اور کھئے اللہ تعالیٰ خلوص قلب سے مانگی ہوئی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں وباللہ التوفیق۔

باقی مسجد میں چھینک آنے پر ریش کا ناک سے لکلنایا کھانسی آنے پر منہ سے بلغم لکلنا غیر اختیاری چیز ہے اس لئے اس برے کام کا کفارہ بھی بتادیا۔

عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البزاق فی المسجد خطیۃ و کفار تھا دفنہا (متفق علیہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوک خطا ہے اور اس کو دفن کر دینا اس خطا کا کفارہ ہے۔ (بخاری مسلم)

اگر مسجد کی زمین کچھ نرم ہو تو ذرا مٹی کرید کر اس کو دفن کر دینا چاہئے اگر فرش پختہ ہو تو اپنے رومال چا دریا کرتے کے کنارہ پر لے کر اہن کو مسل دینا چاہئے یا کسی بھی اور طریقہ سے اس کا ازالہ کر دینا چاہئے تاکہ مسجد پاک و صاف رہے اسی لئے حضرت ابو ذر کی حدیث میں لا تدفن (جو دفن نہ کی گئی ہو) کی قید ہے اگر کسی بھی طرح ازالہ کر دیا تو برائی ختم ہو گئی ناک کی ریش، تھوک اور بلغم سب کا ایک حکم ہے۔

دولت مندوں کے مقابلہ میں غریبوں اور مفلسوں کیلئے صدقہ اور ثواب میں سہولتیں

الرابع : عَنهُ : أَنَّ نَاسًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ، قَالَ : " أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ : إِنَّ بَکُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَبَکُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَبَکُلِّ تَحْمِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَبَکُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَفِي بَضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : " أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ " رواه مسلم " الدُّثُورُ " بالثله المثلثة : الأموال وَاِحْدُهَا : دُتْر .

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) کچھ لوگوں نے عرض کیا: اے

اللہ کے رسول! مال دار لوگ سب اجر و ثواب لے گئے (اور ہم منہ تکتے رہ گئے دیکھئے) وہ نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں (مگر وہ اپنے فاضل اموال (دل کھول کر) صدقہ کرتے ہیں (ہم فقر و افلاس کی وجہ سے صدقہ نہیں کر سکتے اس لئے وہ اجر و ثواب میں ہم سے بڑھ گئے ہم ان سے پیچھے رہ گئے) آپ نے فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے صدقہ کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے کام نہیں تجویز کئے (جو بغیر مال و دولت تم کر سکتے ہو دیکھو) ہر کلمہ تسبیح (سبحان اللہ کہنا) ایک صدقہ (کارِ ثواب) ہے اور ہر کلمہ تکبیر (اللہ اکبر کہنا) ایک صدقہ (کارِ خیر) ہے ہر کلمہ تحمید (الحمد للہ کہنا) ایک صدقہ (کارِ خیر) ہے ہر کلمہ تہلیل (لا الہ الا اللہ کہنا) ایک صدقہ (کارِ ثواب) ہے۔ کسی کو بھلے کام کو کہنا ایک صدقہ (کارِ خیر) ہے ہر برے کام سے کسی کو منع کرنا ایک صدقہ (کارِ ثواب) ہے اور تم میں سے ہر شخص کی شرمگاہ (کے معاملہ میں بھی) ایک صدقہ (کارِ خیر) ہے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ! ایک شخص اپنی (خواہش نفس) کو پورا کرتا ہے اور اس میں بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم مجھے بتلاؤ اگر وہ اپنی اسی خواہش کو حرام محل میں (اجنبی عورت سے) پورا کرتا تو کیا اس پر گناہ نہ ہوتا؟ (ضرور ہوتا) تو اسی طرح جب اس نے اپنی اسی خواہش کو حلال محل میں (بیوی سے) پورا کیا تو اس پر اسے اجر نہ ملے گا (ضرور ملے گا؟) کیونکہ اس نے ایک حلال کام کر کے خود کو حرام کام اور اس کے گناہ سے بچا لیا کتنا بڑا کارِ ثواب ہے۔ صحیح مسلم

دثار کے معنی مال ہے۔ اور اس کی واحد دثہ ہے۔

تشریح: حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کارہائے خیر اور اجر و ثواب کے کام اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال و دولت خرچ کرنے میں منحصر نہیں ہیں کہ تمہید ست و نادر لوگ مالداروں کے مقابلہ میں خود کو کمتر محسوس کریں بلکہ بی شمار کام ایسے ہیں کہ انسان اگر چاہے تو بغیر پیسہ خرچ کئے کر سکتا ہے صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر خلوص قلب اور رضاء الہی کی نیت سے کہے تو یہی چار کلمات جنت میں سرسبز و شاداب باغات لگانے کے لئے کافی ہیں چنانچہ حدیث میں آیا ہے۔

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقیتم ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام لیلۃ اسری بی فقال: یا محمد اقری امتک منی السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانہا قیعان وان غراسہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر (ترمذی)

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شب معراج میں (ساتویں آسمان پر) حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا: اے محمد! اپنی امت کو میرا سلام اور یہ پیغام پہنچا دو کہ جنت کی زمین نہایت عمدہ (اور زرخیز) ہے پانی بھی میٹھا ہے (مگر ابھی) وہ خالی پڑی ہے سبحان اللہ والحمد للہ

ولالہ اللہ واللہ اکبر اس کے پودے ہیں (جس قدر ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ سرسبز و شاداب باغات لگالو)۔
 اسی طرح کسی بھی شخص کو خوش اسلوبی سے شرعاً بھلی بات بتلانا اور شرعاً بری بات سے منع کرنا بھی کوئی
 دشوار کام نہیں نہ ہی اس میں روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے بشرطیکہ نیک نیتی اخلاص اور خوش اسلوبی سے انجام دیا جائے
 تو بہت بڑے اجر و ثواب کا موجب ہے بلکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق:
 کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر (سورۃ آل عمران آیت ۱۱۰)
 تم (اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) بہترین امت ہو تمہیں لوگوں (کی رہنمائی) کے لئے پیدا کیا گیا ہے تم
 بھلی بات کا حکم کرتے ہو بری بات سے منع کرتے ہو۔

امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا طغری امتیاز ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان اپنی طبعی حاجات کھانے پینے آرام
 کرنے بیوی بچوں سے بات چیت کرنے میں مصروف ہونا چاہیے کہ اگر بیوی سے اختلاط بوس و کنار اور جماع میں بھی
 مشغول ہو تب بھی کارہائے خیر اور ثواب کی راہیں اس کے لئے کھلی ہیں صرف ارادہ کی ضرورت ہے کھانے پینے اور آرام
 کرنے کے وقت یہ نیت ہو کہ ان حاجات کو پورا کرنا خدا کا حکم ہے میں اسی کی تعمیل کر رہا ہوں اس لئے کہ کھائے پئے
 آرام کئے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت نہیں کر سکتا جماع کرتے وقت نیت یہ ہو کہ حلال بیوی اللہ تعالیٰ نے دی ہے
 اس سے اپنی حاجت پوری کر رہا ہوں تاکہ حرام کاری سے بچوں نیز یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا شکر یہی ہے
 کہ ان سے فائدہ اٹھاؤں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں اور کفرانِ نعمت کے گناہ اور عذاب سے بچوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 لئن شکرتم لاحدیٰ بدنکم ولن کفرتم ان عذابى لشدید۔

اور بخدا اگر تم شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا اور بخدا اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔
 اسی طرح ایک مسلمان اپنے گھر جا کر اہل و عیال کے درمیان بیٹھتا اٹھتا کھاتا پیتا بات چیت کرتا سوتا جاگتا
 ہے اور نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ میرے اہل و عیال ہیں ان کے اعمال و اخلاق کی نگرانی میرا فرض ہے غیر شرعی
 اعمال و اخلاق سے بحسن تدبیر ان کو روکوں اور منع کروں اور شرعی اعمال و افعال اور اسلامی آداب و اخلاق کی
 غیر محسوس طریق پر ان کو تعلیم دوں، اسلامی تہذیب و معاشرت سے ان کو روشناس کروں مثلاً گھر کے تمام رہنے
 والے عورتیں بچے جوان بوڑھے ایک دسترخوان پر کھانا کھائیں اور خود بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا بلند آواز سے
 کہہ کر کھانا شروع کرے جو بچے کم عمر ہیں ان کو پیار محبت سے سمجھائے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں
 تو جن سمجھدار مردوں، عورتوں نے ناواقفیت یا بے پروائی کی بنا پر بسم اللہ نہیں پڑھی ہوگی وہ تو اپنی غلطی یا کوتاہی
 خود ہی محسوس کر کے بسم اللہ پڑھ لیں گے اور دوسرے وقت جب دسترخوان پر بیٹھیں گے تو کھانا شروع کرنے
 سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نہ بھولیں گے اور اسی طرح روزانہ بار بار کی یاد دہانی اور فہمائش سے تمام گھر والے اس سنت پر

عمل کرنے لگیں گے اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی سب کو عادت پڑ جائے گی دیکھئے کہ ایک سنت کو زندہ کرنا کتنا بڑا کار خیر ہے اور کتنے بڑے ثواب کا کام ہے لیکن یہ کام اسی صورت ہو سکا جب اسی نیت اور اسی ذمہ داری کے فرض کو ادا کرنے کے ارادہ سے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر دونوں وقت روزانہ کھانا کھلایا یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے اسی طرح اور اسی نیت سے اگر اہل خانہ کے درون خانہ تمام اعمال و افعال اور آداب و اخلاق کی نگرانی اور اصلاح کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ و الرجل راع فی اہلہ و هو مسئول عن رعیتہ
تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور (قیامت کے دن) تم میں سے ہر شخص سے اس کے زیر نگرانی لوگوں کے بارے میں باز پرس ہوگی اور ہر مرد اپنے اہل و عیال کا نگران ہے اس سے اس کی رعایا (اہل خانہ) کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ کے مطابق آخرت کی مسئولیت سے بچ جائے گا ورنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان:

قو آنفسکم و اہلیکم نازا (سورۃ التحریم آیت ۶)

بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے۔ کے مطابق اہل و عیال کے گناہوں اور نافرمانیوں کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔

اس تفصیل کے مطابق ہر مسلمان کے لئے اپنے گھر میں بھی بے شمار کارہائے خیر اور ثواب کے کام موجود ہیں بشرطیکہ وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آخرت کے ثواب کی نیت اور غرض سے ان کاموں کو انجام دے ورنہ تو ہر شخص خصوصاً مہذب اور تعلیم یافتہ طبقہ کے سب ہی لوگ اپنے اہل و عیال کو ادب تمیز سکھانے اور آداب و اخلاق سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس غرض اور نیت سے کہ سوسائٹی میں ان کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے اور ان کی تعریف کی جائے نہ کہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اور آخرت کی مسئولیت سے بچنے کی غرض سے چنانچہ ان کو وہی آداب و اخلاق سکھاتے ہیں جو سوسائٹی میں مقبول اور پسندیدہ سمجھے جاتے ہیں دیکھئے آج کل ہاتھوں میں پلٹیں اور چچے لے کر کھڑے کھڑے چلتے پھرتے کھانا کھانا اور پانی پینا عین تہذیب سمجھا جاتا ہے اور گھروں میں اسی کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے حالانکہ یہ اسلامی تہذیب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل خلاف گداگرانہ اور بہیمانہ فعل ہے مگر اس طبقہ کا مقصد تو صرف سوسائٹی میں سرخروئی حاصل کرنا ہے ان کو خدا رسول اور آخرت کے ثواب و عذاب سے کیا واسطہ؟ بھول کر بھی کبھی خدا رسول کا خیال نہیں آتا یاد رکھئے! اسلامی معاشرہ اور خدا پرستی کا ماحول سچ کی تقریروں اور منبروں کی وعظوں سے کبھی قائم نہیں ہو سکتا بہت سے نیک دل مسلمان جس وقت ان تقریروں اور وعظوں کو سنتے ہیں اس وقت صدق دل سے ان پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں مگر جو نبی ان وعظوں اور تقریروں کی مجلس سے اٹھتے اور اپنے گھر آتے ہیں یا کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں تو وہی غیر اسلامی کام کرتے ہیں جن کی بچپن سے عادت پڑی ہوتی ہے یاد رکھئے علم نفسیات کے مطابق عادت سب سے ”قوی موثر اور عامل“ ہے۔

اس لئے جب تک ہر مسلمان گھرانے کا بڑا سربراہ مذکورہ حدیث کے مطابق اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کرے گا کہ ان اہل خانہ عورتوں، مردوں، بچوں اور بوڑھوں کی دینی اصلاح اور اسلامی تربیت میرا فرض ہے اور میں ہی قیامت کے دن جواب دہ ہوں اور عملی طور پر ان کے نشست برخاست خورد و نوش، خفت و خواب کی عادتوں کو اسلامی آداب و اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سانچے میں نہ ڈھالا جائے گا اس وقت تک گھر کا ماحول دینی اور اسلامی نہیں ہو سکتا اور جب تک اس فرض کو اہم ترین ذمہ داری اور آخرت کے مواخذہ سے بچنے کا واحد ذریعہ سمجھ کر نہ ادا کیا جائے گا اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آسکتی اسی طرح جب ہر گھر اور خاندان کا بڑا اور سربراہ اسی طریق کار پر عمل کرے گا تو پوری بستی کا معاشرہ اسلامی ماحول دینی ہو سکتا ہے اور جب ہر بستی اور ہر شہر کے مسلمان اسی طرح اپنے اپنے گھرانوں اور بستیوں میں اسی نچ پر کام کریں گے تو پورے ملک کا معاشرہ اسلامی اور خدا پرستی کے ماحول سے تبدیل ہو سکتا ہے یہی واحد تدبیر ہے اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی۔

ایک شبہ کا ازالہ

لیکن قرآن کریم کی سابقہ آیت کریمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پیش نظر ہر مسلمان پر بجائے خود اپنی اہل و عیال کی اصلاح و تربیت اپنا فرض ہے اور وہی قیامت کے دن مسئول اور جواب دہ ہے خواہ دوسرے لوگ اس پر عمل کریں یا نہ کریں لہذا کسی بھی مسلمان کا یہ کہنا کہ دوسرے مسلمان تو اپنے گھرانوں کی اصلاح اور تربیت کرتے نہیں میرے اکیلے کے گھر کا ماحول اگر دینی اور معاشرہ اسلامی ہو بھی گیا تو اس سے کیا بنتا ہے؟ یہ عذر اس کو قیامت کے دن مواخذہ اور پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔

غرض اس چوتھی حدیث کا حاصل یہ ہے کہ درون خانہ بھی اور بیرون خانہ بھی اتنے زیادہ اور بے شمار کارہائے خیر ہیں کہ انسان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں کوئی ثواب کا کام کرنے کے لئے نہ ہو، گرنیوالا ہونا چاہئے اور کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو آخرت کی فکر ہو پھر ساری زندگی اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے لہذا کسی بھی مسلمان کو کسی بھی حالت میں یہ خیال ہرگز نہ کرنا چاہئے کہ میں اس حالت میں کوئی کارِ ثواب نہیں کر سکتا فقروا فلاس ہو، دکھ بیماری ہو ہر حالت میں سبحان اللہ، والحمد للہ، واللا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، تو کہہ سکتا ہے زبان سے کہنے میں دشواری ہو تو دل میں تو کہہ سکتا ہے طلب صادق اور لگن ہونی چاہئے پھر کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو کتاب لکھنے والے کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی اور شائع کرنے والوں کو بھی یہ لگن عطا فرمائیں تاکہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ کارہائے خیر میں صرف ہو اور ہم ہمہ وقت ثواب کے کاموں میں مشغول رہیں۔

کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھئے ہر مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملئے

الخامس : عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَحْفَرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بَوَجْهِ طَلِيقٍ " رواه مسلم .

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: (اے ابو ذر) تم بھلائی کے کاموں میں سے کسی بھی کام کو حقیر (اور معمولی) ہرگز نہ سمجھنا اگرچہ اپنے (دینی بھائی) سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی (کیوں نہ) ہو۔ (صحیح مسلم)

تشریح: اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کو خاص طور پر خطاب کر کے متنبہ فرماتے ہیں کہ کبھی کسی بھی بھلے کام کو "معمولی" اور حقیر سمجھ کر ہرگز نہ ترک کرنا یہ نفس کا فریب اور دھوکا ہے۔ وہ تم کو کار خیر کے ثواب سے محروم کرنا چاہتا ہے چنانچہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے خوش روئی اور خندہ پیشانی سے ملنا اور ملاقات کرنا بھی کار ثواب ہے اگرچہ بظاہر اس میں نہ اس کی کوئی مالی امداد و اعانت ہوتی ہے نہ ہاتھ پاؤں کی کوئی مدد مگر یہ طرز ملاقات اپنے دور رس نتائج کے اعتبار سے بے حد اہم کار خیر ہے اس لئے کہ اس طرح سے ملنے اور ملاقات کرنے سے مسلمانوں میں باہمی اخوت اور بھائی بندی کا رشتہ استوار اور مضبوط ہوتا ہے اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی امداد و اعانت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے باہمی میل جول بڑھتا ہے اور ضرورت کے وقت بغیر کسی جھجک کے ایک دوسرے سے مدد اور جائز دنیوی کام لئے جاسکتے ہیں جو بغیر باہمی تعاون کے نہیں ہو سکتے۔

انسانی زندگی میں بہ باہمی امداد و تعاون اس قدر ضروری اور ناگزیر چیز ہے کہ دنیا کے ہر ملک اور قوم میں خدا پرست ہوں یا خدا ناشناس حتیٰ کہ خالص کمیونسٹ ملکوں اور قوموں میں بھی امداد باہمی کی بڑی بڑی انجمنیں اور ادارے موجود ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ صرف دنیوی کاموں میں خواہ وہ کام جائز ہوں خواہ ناجائز امداد باہمی کے منصوبے اور پروگرام بناتے ہیں خدا پرستی دینداری اور آخرت کے یا دوسرے سے منکر ہیں یا عاقل ہیں اس لئے دینی کاموں کا ان کے ہاں سوال ہی نہیں لیکن خدا پرست اور دیندار لوگ خدا کی عبادت و طاعت اور آخرت میں کام آنے والے کاموں کو دنیوی اغراض و مقاصد پر مقدم رکھتے ہیں اور مرنے کے بعد ایک ابدی اور لافانی زندگی پر یقین و ایمان رکھتے ہیں اس لئے ان کے نزدیک دینی کاموں میں باہمی امداد و تعاون دنیوی کاموں کی بہ نسبت زیادہ ضروری ہے اور دنیاوی کاموں میں امداد و تعاون صرف شرعاً جائز کاموں تک محدود رکھتے ہیں اور گناہ و نافرمانی میں باہمی امداد کو حرام اور ممنوع سمجھتے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد

العقاب (سورۃ مائدہ آیت ۲۰)

نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ و ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے (ہر حالت میں) ڈرتے رہو بلاشبہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔

بہر حال یہ شرعی تعاون اور امداد باہمی مسلمان کے لئے بھی ناگزیر ہے اور اس کی راہ خندہ روئی اور خوش خوئی سے ہی ہمواز ہوتی ہے اس لئے اس حدیث میں کشادہ پیشانی اور خندہ روئی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے کو بھی نیک کام اور کارِ ثواب قرار دیا ہے اور معمولی بات سمجھ کر اس کو ترک کرنے سے منع فرمایا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والی ابو ذر کی حدیث میں امر بالمعروف کو ایک کارِ ثواب بتلایا ہے اس لحاظ سے اس پانچویں حدیث میں ابو ذر کو ہی خطاب کر کے تنبیہ فرمائی کہ تم کسی بھی کارِ خیر کو حقیر اور معمولی مت سمجھنا اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو اس لحاظ سے یہ پانچویں حدیث جو تھی حدیث کا نتیجہ ہے اور امر بالمعروف ہی سے متعلق ہے۔

بدن کے تین سوساٹھ جوڑوں کا شکرانہ

السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَنَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتَمِيطُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ورواه مسلم أيضاً من رواية عائشة رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمِئَةِ مَفْصَلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ، وَحَمِدَ اللَّهَ، وَهَلَّلَ اللَّهَ، وَسَبَّحَ اللَّهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنِ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً، أَوْ عَظْمًا عَنِ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَى عَنِ مَنكَرٍ، عَدَّدَ السِّتِينَ وَالثَّلَاثِمِئَةَ فَإِنَّهُ يُمَسِّي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحَّحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ".

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کے (بدن کے) جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ایک صدقہ (کارِ خیر بطور شکرانہ) واجب ہے

(۱) دو شخصوں کے درمیان تم انصاف کرو یہ ایک (کارِ خیر بطور شکرانہ) واجب ہے۔

(۲) کسی شخص کی سواری (پر سوار ہونے میں) مدد کرنا اس کو (سہارا دے کر) اس پر سوار کر دینا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر اس کو دے دینا ایک کارِ ثواب ہے۔

(۳) اچھی بات (کسی کو بتا دینا) ایک کارِ ثواب ہے۔

(۴) ہر قدم جو نماز کے لئے (مسجد) جانے میں اٹھاویہ ایک کارِ ثواب ہے۔

(۵) راستہ (گذرگاہ) سے ایذا رساں چیز کو ہٹا دینا ایک کارِ ثواب ہے (بخاری اور مسلم)

لام مسلم نے بھی یہ حدیث (ذرا تفصیل کے ساتھ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی وہ کہتی ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اولاد آدم میں سے ہر انسان کے (بدن میں) تین سوساٹھ جوڑ پیدا کئے گئے ہیں پس (ان جوڑوں کا شکر ادا کرنے کے لئے) جس شخص نے اللہ اکبر کہا الحمد للہ کہا لا الہ الا اللہ کہا سبحان اللہ کہا استغفر اللہ کہا اور لوگوں کے راستے (گذرگاہ) سے پتھر ہٹا دیا یا کانٹا ہڈی لوگوں کے راستے سے ہٹا دی یا (کسی کو) بھلے کام کے لئے کہا یا برے کام سے منع کیا (اسی طرح) تین سوساٹھ جوڑوں (کے اداء شکر کے لئے) تین سوساٹھ کام کر لئے تو اس شخص نے اس دن شام ہونے تک اپنے آپ کو (جہنم کی) آگ سے دور (اور محفوظ) کر لیا۔

تشریح: اس سے قبل حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث میں بھی انسان کے بدن کے جوڑوں پر اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام واحسان ہونا اور اس انعام واحسان کے شکر یہ میں کارہائے خیر انجام دے کر شکر یہ ادا کرنے کا بیان آچکا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیثوں میں بھی اسی اداء شکر کا بیان ہے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ان جوڑوں کی تعداد تین سوساٹھ بتلائی ہے اور صبح سے شام تک روزانہ تین سوساٹھ کارہائے خیر انجام دے کر خود کو کفرانِ نعمت کی سزا جہنم سے نجات دلانے کی تاکید فرمائی ہے۔

ان دونوں حدیثوں میں جن کارہائے خیر کا ذکر ہے ان کی تعداد حسب ذیل ہے۔ (۱) ہر کلمہ سبحان اللہ (۲) ہر کلمہ الحمد للہ (۳) ہر کلمہ لا الہ الا اللہ (۴) ہر کلمہ اللہ اکبر (۵) ہر کلمہ استغفر اللہ (۶) ہر بھلا کام کسی کو بتلانا (۷) ہر برے کام سے کسی کو منع کرنا (۸) دو شخصوں کے درمیان انصاف کرنا (۹) کسی کمزور انسان کو سواری پر سوار ہونے یا سامان اٹھا کر اس کو دے دینے میں مدد کرنا (۱۰) ہر اچھی بات کہنا (۱۱) نماز کے لئے مسجد جانے میں ہر قدم اٹھانا (۱۲) عام گزرگاہ سے ہر ایذا رسان چیز کو دور کرنا (۱۳) لوگوں کے راستے سے پتھر کانٹے یا ہڈی کو ہٹا دینا۔ یہ کارہائے خیر اپنی نوعیت کے اعتبار سے تو صرف تیرہ قسم کے کام ہیں مگر ہر کام تعمیر کے اعتبار سے یہ بے شمار ہو جاتے ہیں جن سے کوئی انسان کسی وقت بھی خالی نہیں رہ سکتا (جس کی تفصیل اسی باب کی دوسری حدیثوں کی تشریح کے ذیل میں گزر چکی ہے) مگر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تو صرف دن چڑھے کی دو رکعتوں کو ہی ان تمام کارہائے خیر کی بجائے کافی قرار دے دیا ہے۔

سبحان اللہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان اور بندہ پروری ہے کہ تین سوساٹھ جوڑوں کے اداء شکر کے لئے تین سوساٹھ کارہائے خیر کی جگہ صرف دو رکعتوں کو ہی کافی قرار دے دیا اس کے بعد بھی اگر کوئی خدا پرست انسان ان بدن کے جوڑوں کا شکر یہ ادا نہ کرے تو اس سے بڑھ کر احسان ناشناس نا شکر اور کفرانِ نعمت کی سزا کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے۔

ہماری حالت

لیکن وائے برما! (افسوس ہماری حالت پر) ہم تو دن رات اس قدر دنیا میں منہمک اور سرگرداں ہیں کہ کسی

وقت بھول کر بھی ہمیں خیال نہیں آتا کہ یہ ہاتھ پاؤں اور اعضا جن سے ہم دنیا کے تمام کام لے رہے ہیں خواہشات پوری کر رہے ہیں اغراض حاصل کر رہے ہیں ان کو عطا کرنے والے کا بھی ہم پر کچھ حق ہے یا کسی کے انعام و احسان کا شکر یہ ادا کرنا تو انسانیت اور شرافت کا تقاضا بھی ہے جانور بھی چارہ ڈالنے والے کے سامنے سر جھکاتا ہے ہم تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں ہم تو دنیا میں اس قدر منہمک اور سرگرداں ہیں کہ ہمیں یہ سوچنے سمجھنے کی فرصت ہی نہیں ہمارے متعلق ہی فرمایا ہے۔

بل تؤثرون الحیوة الدنیا (سورۃ اعلیٰ آیت ۱۶) بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو (آخرت پر) ترجیح دیتے ہو۔ حالانکہ یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم نے اپنے آپ کو کھار کھا ہے اس کی آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں جس سے ہم بالکل بے پرواہ اور بے خبر ہیں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی نہ ہی اس کی کوئی بنیاد ہے ارشاد ہے۔
والاخوة خیر وابقی (سورۃ اعلیٰ آیت ۱۷)

حالانکہ آخرت (کی زندگی بدرجہا) بہتر اور پائیدار (لافانی) ہے۔

ہم بچشم خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے خوشحال اور دولت مند زمانہ کی گردش کا شکار ہو جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے نان شبینہ تک کے محتاج ہو کر در بدر ٹھو کریں کھاتے پھرتے ہیں درحقیقت یہ ہمارے خبیث نفس کی سرکشی اور سرتابی ہے کہ وہ ہمیں ان روز روشن کی طرح واضح حقیقتوں کے سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہیں دیتا اور دولت و ثروت جاہ و منفعت کے نئے سے نئے سبز باغ دکھا کر شب و روز سرگرداں رکھتا ہے اور مرتے دم تک اسی فنا ہونے والی دنیا میں ہم سرکھپاتے رہتے ہیں اس کا انجام یہ ہے ارشاد ہے۔

فاما من طغی واثرا الحیوة الدنیا فان الجحیم ہی الماوی (سورۃ الزمر آیت ۳۷-۳۸)

اور جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو (پسند کیا اور) ترجیح دی پس بیشک جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے۔ بجز اس خوش نصیب اور سعید اذلی شخص کے جو اس مکار نفس کی فریب کاری سے آگاہ ہو کر قیامت کے دن خدا کے روبرو پیش ہونے سے اور گناہوں کی سزا سے ڈرا اور اس بے لگام نفس کے منہ میں احکام خداوندی کی پابندی کی لگام دی اور اس کو ناجائز خواہشات سے باز رکھا تو بیشک قیامت کے دن جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی ارشاد ہے۔

واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فان الجنة ہی الماوی (سورۃ الزمر آیت ۳۰-۳۱)

اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے (اور پیش) ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے باز رکھا تو بیشک

جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے۔

اس باب کی احادیث اور ان کی تشریحات کے ذیل میں ہر حالت میں اور ہر وقت کارہائے خیر میں مصروف رہنے کا مقصد اسی بے لگام نفس کے منہ میں لگام دینا خدا اور سول کے احکام کے خلاف ورزی اور ممنوع اغراض

و خواہشات سے روکنا اور قیامت کے دن سرخرو ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دنیاوی خواہشات و اغراض سے دور اور محفوظ رکھے جو قیامت کے دن جہنم میں لے جانے والی ہوں۔

صبح شام مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے والے کی مہمانی

السابع: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَزْلًا كَلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. "النَّزْلُ": الْقُوَّةُ وَالرِّزْقُ وَمَا يُهَيِّئُ لِلضَّيْفِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص صبح کو (نماز کے لئے) مسجد گیا یا شام کو گیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں خصوصی ضیافت تیار فرمائیں گے جتنی مرتبہ بھی وہ صبح یا شام کو (مسجد) جائے گا۔ بخاری و مسلم

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نزل (عربی زبان میں) اس (خصوصی) غذاء (کھانے کو اور ہر اس چیز) کو کہتے ہیں جو مہمان کے لئے تیار کی جائے۔

نزل۔ کھانا پینا اور وہ اشیاء جو ایک مہمان کیلئے تیار کی جاتی ہیں۔

تشریح: اس نزل (خصوصی ضیافت) کی خوشخبری فرشتے (مرتے وقت) ہر اس مسلمان کو سناتے ہیں جو تمام عمر اللہ تعالیٰ پر ایمان اور دین پر پختگی کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان لا يخافوا او لا يحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم (سورة حم السجدة آیت ۳۲-۳۰)

بے شک جن لوگوں نے (صدق دل سے) کہا: ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر (تمام عمر پختگی کے ساتھ) اس پر قائم رہے ان کے پاس (مرتے وقت) فرشتے آتے ہیں (اور کہتے ہیں) اب تم نہ کسی چیز کا خوف کرو اور نہ ہی کسی چیز کا غم کرو اور تم کو خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا (دنیا میں) تم سے وعدہ کیا گیا تھا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار رہے اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار رہیں گے اس جنت میں تمہیں وہ تمام چیزیں (نعیمیں) ملیں گی جن کو تمہارا جی چاہے گا اور اس جنت میں تمہیں ہر وہ چیز (نعمت) ملے گی جو تم طلب کرو گے (یہ) خصوصی ضیافت ہے۔

بہت مغفرت کرنے والے مہربان (رب) کی جانب سے

یہ حقیقت ہے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ پانچویں وقت مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اتنا عظیم دین کا کام (عبادت) ہے کہ جو مسلمان اس کی پابندی کر لیتا ہے اس کے لئے اور دین کے کاموں (عبادتوں) کی پابندی آسان ہو جاتی ہے اور جو مسلمان بنجوقتہ نماز باجماعت کی پابندی نہیں کر سکتے وہ اور دین کے

کاموں (عبادتوں) کی پابندی بھی نہیں کر سکتے اور فرض عبادتوں تک کو ترک کرنے کے مجرم اور گنہگار ہوتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نماز کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔

واستعينوا بالصبر والصلوة وانها لكبيرة الاعلى الخاشعين الذين يظنون انهم ملائكة منهم
وانهم اليه راجعون (پارہ سورہ بقرہ: ۵)

اور تم (دین کے تمام کاموں میں) مدد حاصل کرو ثابت قدمی اور نماز سے بلاشبہ نماز (پڑھنا) بہت زیادہ گراں (اور دشوار) ہے سوائے ان لوگوں کے جن کو یقین ہے کہ ان کو (مرنے کے بعد) اپنے رب کے سامنے ضرور پیش ہونا ہے اور وہ (دنیا سے) اسی کے پاس لوٹ کر جائیں گے (اور سب سے پہلے نماز کے متعلق ہی سوال ہو گا کہ پابندی کے ساتھ پڑھی یا نہیں)

فارسی کا شاعر کہتا ہے۔

روز محشر کہ جان گداز بود اولین پرش نماز بود

محشر کے دن جبکہ جان پکھلی جا رہی ہوگی سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔

اس آیت کریمہ میں صبر سے مراد وہی استقامت ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں آیا ہے یعنی تمام عمر دین و ایمان پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا۔

اسی لئے حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں تمام صوبوں کے والیوں (گورنروں) کے پاس ذیل کا فرمان بھیجا تھا۔

ان اہم امور دینکم الصلوٰۃ فمن حافظ علیہا فهو لغيرہا حفظ ومن ضیعہا فهو لغيرہا ضیع.

بلاشبہ تمہارے دین کے کاموں (عبادتوں) میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے تو جس شخص نے نماز کی پابندی کر لی وہ کاموں (عبادتوں) کی آسانی سے پابندی کر سکے گا اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ اور کاموں کو زیادہ آسانی کے ساتھ ضائع کر دے گا۔

یہی لقاء رب (پروردگار کے سامنے پیش ہونے) کا یقین نہ صرف نماز جیسی نفس پر گراں اور دشوار عبادت کو آسان اور سہل کر دیتا ہے بلکہ نماز کو دل کی ٹھنڈک، آنکھوں کی خشکی اور محبوب ترین عمل بنا دیتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

قوة عینی فی الصلوٰۃ میری آنکھوں کی خشکی (اور مسرت) نماز میں ہے۔

اور اسی نماز کی محبت و مسرت کی بنا پر دین کے اور تمام کام بھی آسان اور سہل ہو جاتے ہیں اسی لئے قرآن کریم میں صبر اور صلوٰۃ سے دین کے تمام کاموں میں مدد لینے کا حکم فرمایا ہے کہ یہی نماز کی پابندی دین کے تمام

کاموں کی پابندی کو آسان بنا دیتی ہے جیسا کہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فرمان میں بتلایا گیا ہے نماز نہ صرف دین کے کاموں کو آسان کر دیتی ہے بلکہ دنیا کی تمام پریشانیوں کو بھی دور کر دیتی ہے جیسا کہ حدیث میں شریف میں آیا ہے۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر بآراء الصلوة
رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجب كوكى (پریشان کن) دشوار امر پیش آتا تو آپ نماز کی طرف دوڑتے
(اور فوراً نماز پڑھنے لگتے)

گویا نماز دین و دنیا دونوں کے دشوار کاموں کو آسان کر دیتی ہے اور پریشانیوں سے نجات دلاتی ہے نہ صرف یہ بلکہ نماز بے حیائی کے کاموں اور شرعاً ممنوع کاموں سے بھی روکتی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولدكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون (سورة عبكوت آیت ۴۵)
بلاشبہ نماز فحش کاموں (بے حیائی کے کاموں سے) اور (شرعاً) ممنوع کاموں سے روکتی (اور باز رکھتی) ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو (خوب) جانتا ہے۔

یہ ذکر اللہ جس کے اکبر ہونے پر اس آیت کریمہ میں تشبیہ کی گئی ہے اس کا سب سے زیادہ یقینی مصداق نماز ہے اسی ذکر اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الابدكر الله تطمنن القلوب (سورة بعد آیت ۲۸)

سن لو! اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔

کاش اس کتاب کے پڑھنے والوں کے کان اس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو دل و جان سے سن لیں اور دین و دنیا کی تمام فکروں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتاب کے لکھنے والے اور شائع کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائیں۔

بات لمبی ہو گئی مختصر یہ ہے کہ اس حدیث میں پانچویں وقت مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے لئے غفور و رحیم پروردگار کی جانب سے خصوصی ضیافت کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے واللہ اعلم بالصواب۔

کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ادنیٰ سے ادنیٰ چیز دینے کو بھی حقیر نہ سمجھے

الثامن : عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا نِسَةَ الْمُسْلِمَاتِ ، لَا تَحْقِرْنَ جَارَةً لِبَجَارَتِهَا وَلَا فَرْسِينَ شَاةٍ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْفَرْسِينَ مِنَ الْبَعِيرِ كَالْحَافِرِ مِنَ الذَّابَّةِ قَالَ : وَرُبَّمَا اسْتَعْمِرَ فِي الشَّاةِ .

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا۔ اے مسلمان عورتو! کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لئے (کسی بھی چیز کو) حقیر نہ سمجھے اگرچہ بکری کا کھر ہی ہو۔ (بخاری و مسلم)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (امام لغت) جوہری کا کہنا ہے: اونٹ کا فرس (تلوے) ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے چوپایہ کے کھر، نیز کہا اور بسا اوقات فرس کا لفظ بکری کے (کھر کے) لئے بھی استعمال ہوتا ہے (اس حدیث میں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے)

تشریح: اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو خاص طور پر اس لئے خطاب فرمایا ہے۔ کہ عام طور پر عورتیں اپنی لاعلمی اور کم فہمی کی بنا پر تھوڑی سی یا چھوٹی موٹی چیز پڑوسن کو دینے میں شرم محسوس کرتی ہیں کہ ”اتنی سی چیز کیا دیں“ حالانکہ پڑوسن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس حقیر چیز کو غنیمت سمجھتی ہے اسی طرح بسا اوقات لینے والی پڑوسن اس حقیر سی چیز کے دینے کو اپنی توہین سمجھتی ہے اور کہتی ہے ”کیا دینے چلی ہیں اتنی سی چیز دیتے ہوئے شرم بھی نہ آئی“ حالانکہ اس کو اس معمولی چیز کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو اس باب (کارہائے خیر کی کثرت) کے ذیل میں اس لئے لائے ہیں کہ معمولی سی چیز بھی پڑوسن کو دے کر پڑوس کا حق ادا کرنا بھی اہم کار خیر ہے یہی نیت اس معمولی سی چیز دینے کے وقت کرنی چاہئے تو اس معمولی سے کام پر بھی۔ جس کے مواقع کثرت سے میسر آتے ہیں بڑا ثواب ملتا ہے اس لئے پڑوس کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه
حضرت جبرئیل اتنی کثرت سے پڑوسی کے حقوق بتلانے کے لئے میرے پاس آئے کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔

دوسرے لفظوں میں یوں کہئے کہ اس حدیث سے پہلے احادیث میں جن کارہائے خیر کا ذکر آیا ہے وہ بالعموم عامۃ الناس اور مردوں سے متعلق ہیں اس حدیث میں عام طور پر عورتوں کو پڑوسی کے حقوق کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ پڑوس کے حقوق عام لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں ان کا ادا کرنا بھی عظیم کار ثواب ہے۔

اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں ہماری مسلمان عورتوں کو بھی اتنی سمجھ اور کثرت سے کارہائے خیر کرنے کی تڑپ عطا فرمائیں اس لئے کہ اس زمانہ کی عورتیں ثواب کے ان کاموں سے بالکل بے خبر اور ناواقف ہیں اور زینت و آرائش میں ہر وقت منہمک ہیں اللہ ہم سب پر رحم فرمائیں۔

ایمان کے کچھ اوپر ستر شعبے

التاسع: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الإيمانُ بضعٌ وسبعونُ أو بضعٌ وستونُ

شُعْبَةٌ: فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَذَانُهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحِلْيَةُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ “
 مُنْفَقٌ عَلَيْهِ”. ”الْبِضْعُ“ مِنْ ثَلَاثَةِ إِلَى تِسْعَةٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَقَدْ تَفْتَحُ. وَ”الشُّعْبَةُ“: الْقِطْعَةُ.
 ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کے
 چند اور ستریا (فرمایا) چند اور ساٹھ شعبے ہیں تو ان میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ ہے اور ان میں
 سب سے اونٹنی شعبہ (عام) راستے سے ایذا رساں چیز کو مٹا دینا (ہٹا دینا) ہے اور حیا (شرم) تو ایمان
 کا بہت ہی اہم شعبہ ہے۔ (بخاری و مسلم)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بضح کالفظ تین سے نو تک کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کا تلفظ ب کے زیر
 کے ساتھ ہوتا ہے کبھی کبھی ب کے زیر کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے اور شعبہ کے معنی حصہ کے ہیں۔
 تشریح: ایمان کا محل مومن کا دل ہے جب ایمان دل سے نکل کر ہاتھ پاؤں اور اعضاء و جوارح پر اعمال کی
 شکل میں نمودار ہونا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے زبان پر کلمہ طیبہ آتا ہے اور اشدھان لا الہ الا اللہ و اشدھان محمد
 رسول اللہ کہتا ہے اس کے بعد ہاتھ پاؤں حرکت میں آتے ہیں وضو کرتا ہے مسجد جاتا ہے اور باجماعت پنجوقتہ
 نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھتا ہے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا
 کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مال میں مزید وسعت میسر آتی ہے اور حج فرض ہوتا ہے توجیح بھی ادا کرتا ہے اسی
 طرح رفتہ رفتہ تمام بدنی اور مالی فرض اور نفل عبادتیں ادا کرنے لگتا ہے اور حسب مقدور زیادہ سے زیادہ اعمال خیر
 اور ثواب کے کام کرنے لگتا ہے اس مرحلہ پر پہنچ کر ایمان کا نام اسلام ہو جاتا ہے اور یہی پانچ اسلام کے بنیادی
 ستون کہلاتے ہیں جن میں کلمہ شہادت مرکزی ستون ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا اور چار
 عبادتیں اور ان کے ساتھ سنن و نوافل نماز روزہ زکوٰۃ حج چاروں طرف کے چار ستون ہیں جن پر اسلام کی عظیم
 الشان عمارت قائم ہے اور اس پوری عمارت کو شیطان اور نفس امارہ کی رخنہ اندازیوں (گناہوں اور مصیبتوں) سے
 بچانے اور محفوظ رکھنے کے لئے ایک بہت ہی اہم اور عظیم شعبہ کہتے یا حفاظتی ستون (چہار دیواری) حیا اور شرم ہے
 یہ حیا اور شرم خواہ انسانوں سے ہو خواہ احکم الحاکمین سے بہر صورت بے حیائی کے کاموں اور اخلاقی و شرعی برائیوں
 (گناہوں اور نافرمانیوں سے) ایک غیر متمدد اور باحیا مسلمان کو ضرور باز رکھتی ہے اس لئے کہ ایک غیرت دار انسان
 بے حیائی کے کام کر کے لوگوں سے خود کو بے حیا اور بے شرم یا بدمعاش فاسق و فاجر کہلاتا ہرگز گوارا نہیں کرتا باقی
 جو ایمان دار اللہ تعالیٰ سے شرم کرتا ہے وہ تو نہ لوگوں کے سامنے اور نہ تہائی میں کسی بھی حالت میں بے شرمی کے اور
 برے کام یعنی گناہ اور نافرمانی کر ہی نہیں سکتا اس لئے کہ وہ جانتا ہے اور اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے
 ہیں ساری دنیا سے چھپ سکتا ہوں مگر اللہ تعالیٰ سے کسی بھی حالت میں نہیں چھپ سکتا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

یعلم خائنة الاعین و ماتخفی الصدور (س: المؤمن آیت ۱۹)

وہ اللہ جانتا ہے نگاہوں کی چوریوں کو بھی اور جودل میں چھپا (اس کو بھی)

نیز ارشاد ہے: وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب

من یشاء واللہ علی کل شیء قدید (سورۃ بقرہ آیت ۲۸۲)

چاہے جو تمہارے دل میں ہے اس کو تم ظاہر کرو چاہے چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا پھر جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے عذاب دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے

اسی لئے بعض عارفین نے حیا کی تعریف ذیل کے الفاظ میں کی ہے۔ مولاک لایواک حیث نہاک

(حیا یہ ہے کہ) تیرا آقا تجھے اس جگہ (اور اس حال میں) نہ دیکھے جس سے تجھ کو منع کیا ہے۔

بہر حال حیا اور شرم ایک حیا اور غیر تمند آدمی کو بے شرمی اور برے کاموں سے ضرور روکتی اور باز رکھتی ہے خواہ یہ حیا خالق سے ہو خواہ مخلوق سے باقی رہا بے حیا اور بے غیرت آدمی وہ تو انسان ہی نہیں جانور ہے مشہور مقولہ ہے۔

اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت جب تم سے حیاء فوت ہو جائے (یعنی حیاء نہ رہے) تو پھر جو چاہو کرو۔

حدیث میں حیا کو عظیم شعبہ اسی لئے کہا گیا ہے کہ یہ حیا اور شرم اسلام کی عظیم الشان عمارت کے لئے ایک چہار دیواری ہے جو تمام عبادات اور اعمال صالحہ کو گناہوں اور نافرمانیوں سے محفوظ رکھتی ہے غرض ایک مومن

ایمان کی تحریک سے رفتہ رفتہ تمام عبادات اور وہ اعمال صالحہ جن کے کرنے کا خدا اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے بجالانے کی کوشش کرتا ہے اور حیا و شرم کی بنا پر جن برے کاموں (گناہوں اور نافرمانیوں) سے منع کیا ہے حتی

اللامکان دور رہتا ہے (اور بتقاضائے بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس سے توبہ کر لیتا ہے) تو اس کی یہ تمام عبادات اور اعمال صالحہ روزانہ احکم الحاکمین کے حضور میں پیش ہوتے ہیں دن کے محافظ فرشتے صبح سے شام تک کی

عبادات و اعمال صالحہ اور رات کے محافظ فرشتے شام سے صبح تک کی عبادات و اعمال صالحہ پیش کرتے ہیں۔

احادیث میں تفصیل سے اور قرآن کریم کی ان دو آیتوں میں اجمالاً ان کے پیش ہونے کا ذکر ہے۔

۱. ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت و فرعها فی السماء (سورہ ابراہیم آیت ۲۴)

اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ایک درخت کی مانند جس کی جڑ (زمین میں) مضبوط ہے اور اسکی ٹہنیاں آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں۔

۲. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. (سورۃ قاطر آیت ۱۰)

اللہ کی طرف ہی چڑھتے (اور پہنچتے) ہیں پاکیزہ کلمات (کلمہ شہادت) اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے (یہاں تک کہ وہ بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتا ہے)

قرآن عظیم کی اس مثال کے اعتبار سے ایمان کے درخت کا بیج مومن کے دل کی زمین سے پھوٹ کر نکلتا ہے تو اس کی پہلی کو ٹیل زبان سے کلمہ طیبہ کی صورت میں نمودار ہوتی ہے اس کو ٹیل سے چار ٹہنیاں پھوٹ کر نکلتی ہیں نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کی صورت میں بڑھتی اور دیگر اعمال صالحہ کی صورت میں نمودار ہوتی رہتی ہیں اور روزانہ مومن کی عبادات اور اعمال صالحہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہتے ہیں آیت کریمہ میں الیہ یصعد اور فرعہا فی السماء سے اسی کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔

عربی زبان میں درخت کی ٹہنی کو شعبہ اور فرع اور جڑ کو جو زمین کے باہر ہوتی ہے اصل کہتے ہیں قرآن کریم میں اصل کے لفظ سے کلمہ طیبہ کی طرف اور فرع کے لفظ سے چاروں عبارتوں اور بقیہ اعمال صالحہ کی طرف اشارہ ہے زیر نظر حدیث میں انہی فرض و نفل عبادتوں اور اعمال صالحہ کو شعبہ (بمعنی شاخ کی جمع شعبہ) سے تعبیر فرمایا ہے۔

علماء حدیث نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان شعبہ ایمان کی تعیین کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کے بیان پر مستقل کتابیں لکھی ہیں جن میں امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب شعبہ الایمان زیادہ مشہور ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے اعمال صالحہ (کارہائے خیر) سے متعلق باب میں متفرق حدیثوں کے ساتھ ہی اس حدیث کو اس لئے ذکر فرمایا ہے کہ کارہائے خیر اور اعمال صالحہ انہی پچیس حدیثوں میں منحصر نہیں ہیں بلکہ اس حدیث کے مطابق تمام ہی اعمال صالحہ خواہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں خواہ حقوق العباد سے جن کا قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے سب اعمال صالحہ کے ذیل میں آتے ہیں۔

دعا: اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر آشوب زمانے اور پر فتن دور میں مسلمانوں کو ان کارہائے خیر اور اعمال صالحہ میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ان کے ایمان کا درخت سرسبز و شاداب اور بار آور رہے اور یہ کارہائے خیر اور اعمال صالحہ کی مصروفیت ان کو آخری زمانے کے فتنوں سے دور اور محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین۔

پیاسے کتے کو بھی پانی پلانا کارِ ثواب ہے

العاشر: عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بئراً فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ إِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرْبَ مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَلَهُ ثُمَّ أَمْسَكَ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ" قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: "فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ" "۳" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ" وَفِي رِوَايَةٍ لِمَا: "بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرِكْبَةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيًّا مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مَوْقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ فَغَفَرَ لَهَا بِهِ". "الموق": الخلف. و"يُطِيفُ": يدور حول "رِكْبَةٍ": وهي البئر.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: اس اثناء میں کہ ایک آدمی راستہ پر چلا جا رہا تھا اس کو سخت پیاس لگنے لگی تو اسے ایک کنواں نظر آیا تو وہ کنویں میں اترا اور (سیر ہو کر) پانی پیا پھر باہر آیا تو ناگاہ ایک کتے کو (پیاس کی شدت سے) ہانپتا اور گیلی مٹی کو چاٹتا ہوا دیکھا تو اس وقت آدمی نے (دل میں) کہا بخدا اس کتے کو بھی ایسی ہی سخت پیاس لگ رہی ہے جیسے مجھے لگ رہی تھی تو وہ کنویں میں اتر اور اپنے (چرمی) موزہ میں پانی بھرا پھر اس کو اپنے منہ سے پکڑا یہاں تک کہ اوپر چڑھ آیا اور کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی (اس ہمدردی کی) قدر فرمائی اور اس کے گناہ معاف فرمادیے

تو اس پر صحابہؓ نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! کیا جانوروں (کے ساتھ ہمدردی کرنے) میں بھی ثواب (ملا) ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر جاندار کے ساتھ ہمدردی کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ بخاری و مسلم اور بخاری کی ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی (اس ہمدردی کی) قدر کی اور اس کی مغفرت فرمادی اور اس کو جنت میں داخل (کرنے کا حکم) فرمادیا اور بخاری و مسلم دونوں کی ایک روایت میں (اس طرح) آیا ہے اس اثناء میں کہ ایک کتا (پیاس کی شدت سے) ایک کنویں کے چاروں طرف گھوم رہا تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک (پیشہ ور) فاحشہ عورت نے اس کتے کو دیکھا (اور اس کی شدید پیاس کو محسوس کیا) تو اس نے اپنا چرمی موزہ پاؤں سے اُتار اور اس کو (کنویں سے پانی بھر کر نکالا اور) اس (پیاس سے) کتے کو پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی (اس ہمدردی کی) قدر فرمائی اور اس کی (مغفرت فرمادی۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں موق کے معنی چرمی موزے کے ہیں اور رکیۃ کے معنی کچے کنویں کے ہیں اور یطیف کے معنی چاروں طرف گھومنے کے ہیں۔

تشریح: اس حدیث اور اس کی مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو واقعے ہیں ایک مرد کا اور ایک عورت کا اور دونوں ہی نے پیاس سے کتے کی تکلیف کو محسوس کیا ہے اور اس کو کنویں سے پانی نکال کر پلایا ہے باوجودیکہ ہر سلیم الطبع انسان کتے سے نفرت کرتا ہے پھر بھی ایک ذی روح مخلوق کی پیاس جیسی سخت تکلیف کو انہوں نے اپنے اوپر قیاس کر کے شدت کے ساتھ محسوس کیا ہے اور کچے کنویں کے اندر اترے اور برتن میسر نہ ہونے کی بناء پر اپنے چرمی موزے میں ہی پانی بھر کر نکالا اور اس پیاس سے کتے کی معاف فرمادیے ہیں اور جنت میں داخل کرنے کا حکم فرمادیا ہے حالانکہ عورت تو کھلی ہوئی بدکار ہے اور مرد بھی عام آدمی تھا صد ہا گناہ کئے ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کریمی سے ان کی اس جاندار کی ہمدردی کی قدر افزائی کی اور تمام گناہ معاف کر دیئے صحابہ کرامؓ کو اس معمولی سے کام کے اتنے بڑے ثواب پر تعجب ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے تعجب کا اظہار کیا آپ نے جواب میں فرمایا: کتے کی کوئی خصوصیت نہیں ہر جاندار مخلوق بھوک پیاس سے بے قرار ہو جاتی ہے اس کی بھوک پیاس کو دور کرنے میں انسان و حیوان سب برابر ہیں لہذا جیسے ایک بھوکے اور پیاس سے انسان کو کھانا کھلانا اور

پانی پلانا یقیناً انسانی ہمدردی اور کارِ ثواب ہے ایسے ہی ہر بھوکے پیاسے جاندار کو بھوک پیاس کی تکلیف سے نجات دلانا بھی کارِ ثواب ہے اور اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو کثرت کارہائے خیر کے باب میں لائے ہیں۔

دعا: دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ہر بھوکے پیاسے کی انسان ہو یا حیوان تکلیف کو ایسے ہی محسوس کریں جیسے ہم کو بھوک پیاس لگتی ہے تو ہم بیقرار ہو جاتے ہیں اور جب ہمیں کوئی اللہ کا بندہ بھوک پیاس کی ناقابل برداشت تکلیف سے کھانا کھلا کر اور پانی پلا کر نجات دلا دیتا ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی اس ہمدردی کی قدر فرماتے اور گناہ معاف فرمادیتے ہیں اور ایسے ہی ہم بھی بھوکوں کو کھانا کھلا کر پیاسوں کو پانی پلا کر گناہوں کی مغفرت کے مستحق بنیں اور اللہ تعالیٰ اپنی شانِ کریمی سے ہمارے بھی گناہ معاف فرما دیں۔ واضح ہو کہ یہ عمل صالح حقوق العباد کے ذیل میں آتا ہے اسی لئے اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے واللہ اعلم۔

عام راستہ سے کانٹے ہٹا دینے والے کے درجات

الحادی عشر: عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَأَنَّ تَوْفِيي الْمُسْلِمِينَ " رواه مسلم . وفي رواية: " مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَأُنْحِثَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ ، فَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ " . وفي رواية لهما : " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنًا شَوْكًا عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَجَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ " .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میں نے جنت میں ایک آدمی کو چلتا پھرتا دیکھا ایک درخت کو مسلمانوں کے راستے پر سے کاٹ دینے کے (ثواب) میں جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا۔

اور ایک روایت میں اس طرح آیا ہے: ایک آدمی کا ایک ایسے درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزر ہوا جو عین راستہ کے بیچ میں (اگا ہوا) تھا تو (اس نے دل میں) کہا بخدا میں اس درخت کو ضرور ہٹا دوں گا تاکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دے (چنانچہ اس نے ہٹا دیا) تو اس کو اس کارِ خیر کے صلہ میں جنت میں داخل کر دیا گیا اور بخاری و مسلم دونوں کی ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ اس اثنا میں کہ ایک آدمی ایک راستہ سے گزر رہا تھا اس نے ایک کانٹوں کی ٹہنی راستہ پر پڑی پائی تو اس نے اس ٹہنی کو ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کارِ خیر کی قدر کی اور اس کے گناہ بخش دیئے۔

تشریح: اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف کے طور پر قیامت کے بعد پیش آنے والے واقعات اور اہل جنت کے وہ اعمال حسنہ جن کی بنا پر وہ جنت میں جائیں گے اور اہل دوزخ کے وہ اعمال قبیحہ (کفر و شرک) اور گناہ کبیرہ) جن کی بنا پر وہ دوزخ میں جائیں گے نیز جنت و دوزخ کے تفصیلی حالات پہلے

سے، صرف اس لئے دکھلائے کہ آپ اپنی امت کو ان اچھے برے اعمال سے آگاہ فرمادیں جن کی بنا پر وہ جنت یا دوزخ میں جائیں گے سبحان اللہ کتنے مہربان ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کی امت پر۔

احادیث میں ایسے کشف کے متعدد واقعات مذکور ہیں یہ آئندہ پیش آنیوالے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے ہیں اور آپ نے امت کو آگاہ فرمایا ہے اسی سلسلہ میں اس حدیث میں آپ نے اپنا کشف بیان فرمایا ہے کہ مسلمان کی عام گذرگاہ اور راستہ سے خاردار درخت یا ٹہنی کو کاٹ دینا یا ہٹا دینا اتنا بڑا کار خیر اور عمل صالح ہے کہ نیک نیتی سے اس کار خیر کو انجام دینے کا اجر و ثواب جنت ہے بشرطیکہ کوئی اور امر مثلاً کفر و شرک یا حقوق العباد سے متعلق کوئی گناہ مانع نہ ہو دسویں حدیث میں بنی اسرائیل کے ایک مرد اور ایک عورت کا واقعہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے ان واقعات اور اعمال کے ذکر فرمانے کا مقصد ان اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی ترغیب دلانا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اور آسان کام بھی جنت میں جانے کا وسیلہ بن سکتے ہیں بشرطیکہ ثواب کی نیت سے کئے جائیں اور ان کو حقیر یا معمولی کام نہ سمجھا جائے۔

یاد رہے کہ ”شعب ایمان“ کی دسویں حدیث میں اسی راستہ پر سے کسی تکلیف دہ چیز کے ہٹا دینے (اماطة الاذی عن الطریق) کو ایمان کا ادنیٰ شعبہ بتلایا گیا ہے یہ ادنیٰ سب سے سہل اور آسان ہونے کے معنی میں ہے نہ کہ مرتبہ اور درجہ کے اعتبار سے ادنیٰ کے معنی ہیں آسان اس لئے کہ یہی اماطة الاذی عن الطریق دسویں اور گیارہویں حدیث میں جنت میں داخل ہونے کا باعث ہوا ہے۔ علاوہ ازیں یہ اماطة الاذی عن الطریق حقوق العباد میں سے ہے جو بغیر لوگوں کے معاف کئے معاف نہ ہوں گے۔ واللہ اعلم

نماز جمعہ پورے آداب کے ساتھ ادا کرنے کا اجر عظیم

الثاني عشر : عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا “ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کی نماز کے لئے مسجد آیا پس (پوری توجہ سے) خطبہ سنا اور خاموش بیٹھا سنتا) رہا اس کے اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک کے اور تین دن زیادہ کے گناہ بخش دیئے گئے اور جس نے کنکر یوں کو (اپنی جگہ سے) ہٹایا اس نے بیہودہ کام کیا (مسلم نے روایت کیا)

تشریح: اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ خاص انعام فرمایا ہے کہ ایک حسنة (نیک کام) پر ایک اجر کے بجائے کم از کم دس گنا ثواب اور زیادہ سے زیادہ سات سو گنا اجر کا وعدہ

فرمایا ہے مگر ایک سید (برے کام) کی سزا ایک ہی تجویز فرمائی دس گناہ نہیں چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي الا مثلها وهم

لا يظلمون (سورۃ انعام آیت ۱۶۱)

جس نے ایک اچھا کام کیا تو اس کے لئے دس گنا ثواب ہے اور جس نے برا کام کیا اس کی سزا ایک ہی دی جائیگی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا (کہ دس گنی سزا دی جائے)

نیز ارشاد ہے: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة اذ ترمى سبع سنابل في

كل سنبله مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم (سورۃ بقرہ: ۲۶۱)

ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں ایسی جیسے ایک دانہ جس سے سات خوشے اُگے ہر خوشے میں سو دانے (اس طرح ایک دانہ بو کر سات سو دانے حاصل ہوئے) اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دو گنے دیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا ہے (اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے) اور (دلوں کا حال بھی) خوب جاننے والا ہے (جس کے عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہو گا اتنا ہی زیادہ ثواب دے گا)

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں مختلف عنوانات سے اس تضعیف حسنت کی خبر دی ہے اسی اصول کے تحت ہم دن رات میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں مگر ثواب پچاس نمازوں کا ملتا ہے اور گناہ الگ معاف ہوتے ہیں اسی طرح ہفتہ میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے دس دن کا ثواب ملتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں یہی مطلب ہے غفر له بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام کا (اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک اور تین دن زیادہ کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اس دس دن کے گناہ معاف فرمانے کا غالباً (واللہ اعلم بالصواب) باعث یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز کے علاوہ خطبہ بھی دیا جاتا ہے یہ خطبہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس خطبہ کو پوری توجہ سے کان لگا کر سننا اور خاموش رہنا بھی واجب ہے اور یہ ایک مستقل عبادت اور کارِ ثواب ہے اسی لئے دس دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں مگر اس کی شرط بھی اتنی سخت ہے کہ اگر خطبہ کے دوران اپنی جگہ سے کنکریوں کو بھی ہٹایا تو یہ بھی لغو اور بیہودہ کام کیا اور ثواب کی کمی کا باعث ہو اسی طرح اگر کوئی شخص دوران خطبہ کوئی بھی بات کرے اور اس کو منع کرنے کے لئے ”چپ رہو“ کہا تو یہ بھی لغو اور بیہودہ کام کیا اور ثواب کی کمی کا باعث ہو احوالاً تک یہ نبی عن المنکر ممنوع کام سے روکنا ہے مگر خطبہ کے دوران یہ نبی عن المنکر بھی لغو اور بیہودہ کام ہے اس لئے کہ خطبہ کے دوران ”چپ رہو“ کہنا خود ممنوع اور برا کام ہے تو اس شخص کی طرح یہ کہنے والا خود ایک ممنوع کام کا مرتکب ہو اسی لئے لغو اور بیہودہ کام ہے اور دیگر اہل رافضیت خود رافضیت (دوسروں کو نصیحت اپنے کو نصیحت) کا مصداق ہے اسی طرح کی اور تقریباً پندرہ شرطیں ہیں جن کی پابندی کرنے کے بعد جمعہ کا یہ عظیم ثواب (دس دن کے گناہوں کی بخشش) ملتا ہے اسی لئے فقہانے فرمایا ہے الخطبة يوم الجمعة كصلوة الجمعة (جمعہ کے دن کا خطبہ بھی جمعہ کی نماز کی مانند ہے)

واضح ہو کہ یہ گناہ جن کی مغفرت کی حدیث میں خبر دی گئی ہے صغیرہ گناہ ہیں گناہ کبیرہ توبہ کرنے سے بخشے جاتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو اس باب میں صرف اسی لئے لائے ہیں کہ ہفتہ میں صرف ایک دن تمام کاموں کی چھٹی کر کے صبح سے شام تک نماز جمعہ کو ان تمام آداب و شرائط کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے مگر ثواب اتنا عظیم ہے کہ دس دن کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اسی لئے تمام مسلمان ملکوں میں ہفتہ واری چھٹی جمعہ کی ہوتی ہے تاکہ مسلمان سارا دن نماز جمعہ کی تیاری میں اور ادا کرنے میں صرف کریں۔

بجہ اللہ پاکستان کی حکومت بھی مسلمان ہو گئی ہے اور اس نے بھی جمعہ کی ہفتہ واری چھٹی کا اعلان کر دیا ہے کاش کہ ہم بھی اور تمام کاروبار اور مصروفیتوں کو چھوڑ کر جمعہ کا پورا دن پکنک اور کھیل کود سیر و تفریح یا دن بھر پڑے سوتے رہنے کے بجائے نماز جمعہ کی تیاریوں اور مسنون طریقہ پر نماز جمعہ ادا کرنے میں صرف کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔

مسنون طریقہ سے وضو کرنے والے کی خطائیں بھی دُھل جاتی ہیں

الثالث عشر: عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ كَانَتْ بَطَشَتْهَا يَدَاؤُهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذَّنُوبِ " (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان یا فرمایا مومن بندہ وضو کرتا ہے پس چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرہ سے ہر وہ خطا جس کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتی ہے پھر جب (کہنوں تک) دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ہر وہ خطا اس کے ہاتھوں سے پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتی ہے جس کو اس نے ہاتھوں سے پکڑا (یا چھوا) ہوتا ہے پھر جب (ٹخنوں تک) پاؤں دھوتا ہے تو ہر وہ خطا جس کی طرف پاؤں سے چل کر گیا پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتی ہے یہاں تک کہ (پورا وضو کر کے) گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا۔

تشریح: اس حدیث میں لفظ مسلم یا مومن میں اسی طرح مع الماء یا مع آخر قطرۃ الماء کے ان الفاظ میں راوی کو شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے یا دوسرے (اگرچہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے) اسی

طرح راوی نے اس حدیث میں اختصار سے بھی کام کیا نہ کلی اور ناک صاف کرنے کا ذکر کیا ہے نہ سر کے مسح کا اسی طرح صرف آنکھوں کی خطاؤں کا ذکر کیا ہے نہ زبان کی خطاؤں کا نہ کان اور ناک کی خطاؤں کا ورنہ تو دوسری روایتوں میں تمام اعضاء و ضو اور ان کی خطاؤں کا ذکر موجود ہے اس اختصار کی دلیل یہ ہے کہ آخر میں تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلنے کا ذکر کیا ہے آنکھوں، ہاتھوں اور پاؤں کا ذکر صرف اس لئے کیا ہے کہ عام طور پر ہر انسان آنکھوں سے دیکھتا پاؤں سے چلتا اور ہاتھ سے پکڑتا لیتا ہے کان زبان ناک سے کام لینے کی نوبت ہی نہیں آتی بہر حال دوسری روایتوں میں ان اعضاء اور ان کی خطاؤں کا ذکر موجود ہے غرض ایک مومن مسلمان بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کامل وضو کرتا اور تمام خطاؤں سے پاک و صاف ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ تمام خطا کار اعضاء بھی نماز پڑھنے میں مصروف و مشغول ہو جاتے ہیں یعنی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو یہی نماز اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائیں۔

یاد رکھئے! جس طرح نماز صحیح ہونے کے لئے حسی نجاستوں مثلاً پیشاب، پاخانہ اور نجس چیزوں سے نمازی کے بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے اسی طرح نماز کے قبول ہونے کے لئے غیر محسوس نجاستوں، خطاؤں اور گناہوں سے پاک و صاف ہونا بھی شرط ہے اور ان غیر حسی نجاستوں سے پاک کرنے والا وضو کی نیت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کامل وضو ہے۔ یہ بھی یاد رکھئے! جس طرح انسان کا بدن گندی چیزوں سے آلودہ اور گندہ ہو جاتا ہے اور پانی سے دھونے سے پاک ہوتا ہے ایسے ہی خطاؤں اور گناہوں سے بھی آلودہ اور گندہ ہوتا ہے ہمیں یہ گندگی آنکھوں سے نظر نہ آئے مگر ہاتھ پاؤں اور خطا کار اعضاء ان خطاؤں اور گناہوں سے آلودہ ہو جاتے ہیں اور جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کامل وضو نہ کریں گندے اور آلودہ رہتے ہیں یہی صادق امین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے اسی پر ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ قیامت کے دن اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔

پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے

اور پورے رمضان کے روزے رکھنے کا اجر عظیم

الرابع عشر: عنه، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ" رواه مسلم.
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: پانچوں نمازیں (ایک نماز سے دوسری نماز تک) اور جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے لے کر رمضان تک درمیان میں (کی ہوئی خطاؤں) کا کفارہ کرنے والے ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے دور رہا جائے۔

تشریح: گناہ دو قسم کے ہیں ایک کبیرہ (بڑے) گناہ دوسرے صغیرہ (چھوٹے) گناہ ان چھوٹے گناہوں کو شریعت کی اصطلاح میں سینات (برائیاں) یا خطایا وغیرہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

۱. ان تعتنبوا کبائر ما نھون عنہ نکفر عنکم سیناتکم (سورۃ نسا آیت ۳۱)

اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری سینات (برائیوں) کا کفارہ کر دیں گے۔

۲. ان الحسنات یدھبن السیئات (سورۃ ہود آیت ۱۱۳)

پیشک اچھے کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔

اس حدیث میں حسنات کا بیان فرمایا ہے پانچ وقت کی فرض نمازوں کو جمعہ کی نماز کو، رمضان کے روزوں (یعنی فرائض کو) مکلف (کفارہ کر دینے والا) بتلایا ہے گویا ان فرائض کے ادا کرنے سے سینات خود بخود مٹو ہو جاتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں۔

اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا تعلیم فرمائی ہے۔

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و تو فنامع الابرار (سورۃ آل عمران آیت ۱۹۳)

اے ہمارے رب! ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے سینات (برائیوں) کا کفارہ کر دے (مٹا دے) اور تو ہم کو نیکو کاروں کے ہمراہ وفات دے (دنیا سے اٹھا)

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ذنوب (بڑے گناہ) استغفار کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہاں سینات

(چھوٹے گناہ) بغیر استغفار کے بھی معاف ہو جاتے ہیں فرائض کا ادا کرنا خود بخود ان کو مٹا دیتا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص نے کسی اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا اور گھبرایا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے حد لگا دیئے (زنا کی سزا دیجئے) آپ نے واقعہ دریافت کیا اس نے بتلایا: میں نے اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ذرا ٹھہرو عصر کا وقت تھا اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی اس شخص نے بھی عصر کی نماز باجماعت پڑھی نماز سے فارغ ہوتے ہی اس نے پھر کہا مجھے حد لگائیے آپ نے فرمایا: فرض نماز باجماعت پڑھنے سے تمہارا گناہ معاف ہو گیا اس نے خوش ہو کر دریافت کیا یہ معافی میرے ساتھ خاص ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لئے عام ہے اور اسی عموم کے بیان کرنے کے لئے مذکورہ بالا آیت کریمہ ان الحسنات یدھبن السیئات نازل ہوئی۔

کبیرہ اور صغیرہ گناہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کیا گناہ کبیرہ سات ہیں؟ انہوں نے جواب

دیا ”سات؟ سات سو سے بھی زیادہ ہیں کبیرہ گناہ“

ہم ذیل میں ان امور کی نشاندہی کرتے ہیں جن سے کسی گناہ کا کبیرہ یا صغیرہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

کبیرہ گناہ

- ۱۔ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کی سزا قرآن یا حدیث میں جہنم بتلا دی گئی ہو جیسے کسی مسلمان کو عداقت کرنا۔
- ۲۔ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر قرآن حدیث میں حد (متعین شرعی سزا) آئی ہو جیسے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا۔
- ۳۔ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر قرآن یا حدیث میں لعنت اور خدا کا غضب آیا ہو جیسے عدالت میں جھوٹی گواہی دینا۔
- ۴۔ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو قرآن یا حدیث میں کبیرہ گناہ کہا گیا ہو۔
- ۵۔ ہر اس فرض عبادت کا ترک کرنا جو قرآن و حدیث کی رو سے فرض ہے جیسے بغیر کسی شرعی عذر کے نماز نہ پڑھنا۔
- ۶۔ ہر اس ممنوع کام کو کرنا جس سے قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہو اور حرام کہا گیا ہو جیسے غیبت (یعنی کسی کے پس پشت اس کی برائی) کرنا۔
- ۷۔ ہر وہ صغیرہ گناہ جس کو معمولی اور حقیر سمجھ کر کیا جائے جیسے کسی اجنبی عورت کا بوسہ لینا۔
- ۸۔ ہر وہ گناہ جس کو جان کر بار بار کیا جائے جیسے نامحرم عورت کی طرف بری نیت سے بار بار دیکھنا۔
- ۹۔ ہر وہ گناہ جس کی معصرت یا شاعت (برائی) مذکورہ بالا کبیرہ گناہوں کے برابر ہو یا ان سے بھی زیادہ ہو جیسے مسلمانوں کے خلاف مخبری کرنا اور ان کے راز کافروں کو پہنچانا۔
- ۱۰۔ بندوں کے حقوق جو نہ ادا کئے گئے ہوں اور نہ ان سے معاف کرائے ہوں۔

صغیرہ گناہ

- ۱۔ مذکورہ بالا کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام برے کام سینکڑوں جوتھے کاموں حسانت کرنے سے خود بخود مٹ جائیں پانچوں وقت کی نماز پڑھتے رہنے سے درمیان میں کئے ہوئے برے کام اپنے آپ مٹ جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں۔
- ۲۔ مذکورہ بالا کبیرہ گناہوں کے ابتدائی مراحل میں کئے گئے برے کام جیسے بلا تصور کسی مسلمان کو قتل کرنے والے کو خنجر یا پستول دے دینا۔
- ۳۔ مذکورہ بالا چودھویں حدیث میں حسانت (فرائض) کے ذریعہ جن گناہوں کے معاف ہونے کی خبر دی گئی ہے وہ سب صغیرہ گناہ ہیں اسی لئے آخر میں کہا گیا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے یعنی بچا جائے اور دور رہا جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ان فحشنتوا کبائر ما قنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم (سورۃ نساء آیت ۳۱)

اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے نہ ہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے برے کاموں کو معاف کر دیں گے بہر حال اس حدیث اور ان آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان کو فرض عبادت پر عمل کرنے میں کوتاہی نہ

کرنی چاہئے تاکہ وہ گناہ اور برے کام جن کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ برے کام کر رہا ہوں ان حسنات کے ذریعے اپنے آپ مٹنے اور معاف ہوتے رہیں ورنہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو گئے تو ان کی سزا سے بغیر توبہ کے بچنا ناممکن ہو گا خصوصاً حقوق العباد کہ اگر ادا نہ کئے یا ان لوگوں سے معاف نہ کرائے جن کی حق تلفی ہوئی ہے تو مرنے کے بعد قیامت کے دن ان کے حقوق ضرور ادا کرنے پڑیں گے اور اس دن ان کے حقوق ادا کرنے کے لئے انسان کے پاس اپنے حسنات کے سوا اور کچھ نہ ہو گا نتیجہ یہ ہو گا کہ اس کے حسنات ان حقوق کے بدلے میں ان کو دے دیئے جائیں گے اور ان کے گناہ اور سینات اس پر ڈال دیئے جائیں گے جس کی بنا پر یہ شخص جہنم میں جائے گا اور وہ جنت میں اعاذ باللہ (خدا ہمیں اس سے بچائے) اور توفیق دے کہ ہم مرنے سے پہلے ہر حق والے کا حق ادا کر دیں یا اس سے معاف کرائیں یہی تفصیل احادیث میں آئی ہے۔

وہ کام جن سے خطاؤں کے معاف ہونے کے علاوہ درجات بھی بلند ہوتے ہیں

الخامس عشر: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أُذَلِّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟" قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ" رواه مسلم. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرماتے ہیں اور جس کی وجہ سے درجے بلند فرماتے ہیں صحابہؓ نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ ضرور بتلائیے اے اللہ کے رسول! آپ نے ارشاد فرمایا (۱) ناگوار یوں کے باوجود کامل وضو کرنا (۲) مسجدوں کی طرف (نماز کے لئے) زیادہ قدم رکھنا (دور سے چل کر جانا) (۳) ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا پس یہی تمہاری (دین کی) سرحدوں کی حفاظت ہے۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکلفات کے علاوہ درجات بلند کرنے والی حسنات کا بیان بھی فرمایا ہے سابقہ حدیث میں پنجوقتہ فرض نمازوں کو ہر جمعہ کی نماز پابندی سے پڑھنے کو ہر رمضان کے مہینہ میں پابندی سے روزے رکھنے کو سینات (صغیرہ گناہوں) کو مٹا دینے والا بتلایا تھا۔ یہ تینوں فرض عبادتیں ہیں اس حدیث میں (۱) ناگوار حالات میں پورا وضو کرنے کو (۲) دور سے چل کر جانے اور نماز باجماعت کے لئے مسجد آنے کو (۳) ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کو جو ان فرض عبادتوں کے مکملات و متمات ہیں محو سینات کے علاوہ رفع درجات کا بھی موجب بتلایا ہے یعنی اصل فرض عبادتوں کو ادا کرنا تو محو سینات کا موجب ہے لیکن ان کو کامل طور پر آداب

و مستحبات کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا محوسبتیات کے علاوہ رفع درجات کا بھی موجب ہے۔ منشاء یہ ہے کہ تمام آداب و مستحبات کے اہتمام کے ساتھ ان عبادت کو ادا کرنا چاہئے تاکہ تمام صغیرہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قرب میں اعلیٰ درجات کے مستحق بنیں مزید شوق کو بردھانے کے لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اول صحابہ کرام سے سوال فرماتے ہیں کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں جس پر عمل کر کے تم محوسبتیات کے علاوہ اعلیٰ مراتب بھی حاصل کر سکو؟ صحابہ سر اپا شوق بن کر عرض کرتے ہیں ضرور بتلائیے اس کے بعد تینوں چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں اور آخر میں ذاکم الرباط کی خوشخبری دے کر ایک اور سب سے اہم چیز کا بھی ذکر فرمادیتے ہیں کہ فرض عبادتوں کو دشمن نفس امارہ کی رخنہ اندازیوں سے بھی محفوظ رکھا جاسکتا ہے جس کی تفصیل یہ ہے۔

نفس امارہ انسان کا سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے وہ چاہتا ہے ہر ممکن طریق پر راحت و آسائش اور فوائد و منافع کے سبز باغ انسان کو دکھا کر پروردگار کی عبادت و طاعت سے اگر بالکل نہ روک سکے تو ان عبادتوں میں اپنے دھوکوں اور فریب سے ایسے رخنے ڈال دے کہ ثواب سے محروم ہو جائے۔

۱۔ اسباغ الوضو علی المکارہ (ناگوار اوقات یا حالات میں پورا اور کامل وضو کرنا) چنانچہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی نفس کی رخنہ اندازی سے بچانے کی تدبیر بتلائی ہے ہوتا یہ ہے کہ مثلاً سخت سردی کا زمانہ ہے پانی لوٹے میں لیتے ہی جم جاتا ہے ایسے وقت میں نمازی کا وضو کرنا نفس امارہ پر بے حد شاق ناگوار اور تکلیف دہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اتنی سردی میں وضو کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے ایسی ہی حالت کے لئے شریعت نے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے پھر کیوں نہ اس حکم شرعی سے فائدہ اٹھایا جائے آج وضو کے بجائے تیمم کر کے نماز پڑھ لو مگر جب ایک خدا پرست پرہیزگار نمازی اس کے کہنے میں نہیں آتا تو کہتا ہے پھر وضو ہی کرتے ہو تو پورا وضو کرنے اور اعضاء پر پوری طرح پانی بہانے کی کیا ضرورت ایک ایک چلو لے کر ہاتھ پاؤں پر چڑھ لو کافی ہے لیکن ایک پختہ کار دیندار نمازی سردی لگنے کے باوجود نفس کے علی الرغم منشاء کے خلاف اس طرح کامل وضو کرتا ہے کہ کوئی عضو ناخن برابر بھی سوکھا نہیں رہتا اور سنت کے مطابق ہر عضو کو تین بار اچھی طرح دھوتا ہے تو مکار نفس سر پینٹا رہتا ہے اور نمازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق ایسے طریق پر کامل اور پورا وضو کرتا اور نماز پڑھتا ہے تو اعلیٰ مراتب قرب حاصل کرتا ہے۔

۲۔ سحرت الخطا الی المساجد (جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے دور سے چل کر مسجد جانا اور زیادہ سے زیادہ قدم رکھنا) گھر مسجد سے کافی دور ہے راحت پسند نفس امارہ کہتا ہے نماز پڑھنے کے لئے اتنی دور جانا آنا اور اتنا وقت برباد کرنا بے حد شاق اور گراں ہوتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے شائق مسلمان کو یہ شیطان نفس امارہ بہکا کر جماعت کے ثواب سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے: نماز ہی تو فرض ہے جماعت تو فرض نہیں ہے چلو آج بغیر جماعت کے ہی نماز پڑھ لو اتنی دور جانا آنا اور اتنا وقت برباد کرنا کون سی عظیمندی ہے لیکن وہ جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند نمازی اس کی بات

نہیں مانتا تو کہتا ہے کہ اچھا چلو گھر پر ہی جماعت کئے لیتے ہیں اور دو چار اپنے جیسے لوگوں کو ملا لیں گے مگر وہ جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند نمازی کہتا ہے میں تیرے اس فریب میں بھی نہیں آؤں گا پتہ ہے اقامت صلوٰۃ کے معنی ہیں مسجد جا کر اور مسلمانوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنا اس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ہی گونا گوں اجر و ثواب ملتا ہے اور یہ کہہ کر نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے کے شوق میں مسجد کافی دور ہونے کے باوجود چلا جاتا ہے نفس لامارہ کے سارے ہتھکنڈے اور ثواب سے محروم کرنے کے حربے بیکار ثابت ہوتے ہیں ذلیل و خوار ہو کر اپنا سامنہ لے کر رہ جاتا ہے اور وہ جماعت کا پابند نمازی اپنی نماز کو شیطان کی رخنہ اندازی سے محفوظ کر لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رب العالمین کی بارگاہ سے مراتب عالیہ کا پروانہ حاصل کر لیتا ہے اسی طرح

۳۔ انتظار الصلوٰۃ بعد الصلوٰۃ (ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا) اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ایک نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اس خیال سے کہ گھریا دوکان جا کر نہ معلوم کن دھندوں میں پھنس جاؤں دوسری نماز جماعت سے پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو ہے ہی یہیں مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کروں تو بہتر ہے دوسری نماز جماعت سے فوت نہ ہوگی اور اتنی دیر مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہوں گا یا کلام اللہ کی تلاوت کرتا رہوں گا یا درود پڑھتا رہوں گا تو دوسرا ثواب ملے گا دشمن نفس امارہ پر نمازی کا یہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا سخت شاق اور ناگوار ہوتا ہے طرح طرح کے ضروری کام یاد دلا کر گھریا دوکان چلنے کا تقاضا کرتا ہے فائدہ اور نفع کے سبز باغ دکھاتا ہے اور دوکان یا مکان پر موجود نہ رہنے کے بھیمانک نقصان سے ڈراتا ہے اور انتہائی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح گھریا دوکان چلنے پر آمادہ کروں اور دنیاوی دھندوں میں پھنسا کر اس گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے کارہائے ثواب سے محروم کروں نیز کوشش کروں کہ اگلی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے لیکن خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر پختہ یقین رکھنے والا پابند جماعت نمازی نفس کی ایک نہیں سنتا اور دوسری نماز جماعت سے پڑھ کر ہی مسجد سے نکلتا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مسجد سے گھریا دوکان آتو جاتا ہے مگر فکر یہی لگی رہتی ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت ہو یا اذان کی آواز آئے اور کب میں سب دھندے چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھوں نفس امارہ سب کاموں کو بیچ میں چھوڑ کر چلے جانے کے نقصانات بہت کچھ دکھاتا ہے مگر وہ ایک نہیں سنتا اور وقت ہوتے ہی مسجد میں پہنچ کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے دونوں صورتوں میں اگلی نماز کا انتظار ہے مگر پہلی صورت میں انتظار کے دوران مسجد میں بیٹھ کر جو ثواب کے کام کرتا ہے وہ انتظار صلوٰۃ کے ثواب پر مستزاد ہیں اور دوسرا ثواب ملتا ہے اور دوسری نماز جماعت کے ساتھ یقینی ہو جاتی ہے اور دوسری صورت میں نہ کارہائے ثواب کا ثواب ملتا ہے نہ ہی دوسری نماز جماعت سے پڑھنے کا یقین ہوتا ہے حدیث کے الفاظ میں دونوں صورتیں آتی ہیں بہر حال نفس امارہ سے جنگ دونوں صورتوں میں کرنی پڑتی ہے۔

اسی دشمن نفس امارہ کی سرکوبی کی غرض سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 ذالکم الرباط ذالکم الرباط (یہی ہے تمہاری سرحدوں کی حفاظت یہی ہے تمہاری سرحدوں کی حفاظت)
 ”رباط“ کے اصل معنی ہیں اسلامی ملک کی دشمنوں سے حفاظت کرنا کہ وہ بے خبری میں ملک کے اندر نہ گھس
 آئیں یا اچانک حملہ نہ کر دیں آج کل کی اصطلاح میں اس حفاظتی دستہ کو ”ریجنر فورس“ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ
 سرحدوں کی حفاظتی تدابیر اسی وقت کی جاتی ہیں جب جنگ جاری ہو یا حالت جنگ ہو احادیث میں اس رباط کی بہت
 زیادہ فضیلت آئی ہے اور بڑے ثواب بیان ہوئے ہیں مگر ہر زمانے میں اور ہر شخص کو اس دین کا کام کرنے کی
 سعادت حاصل نہیں ہو سکتی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ
 تمہارے لئے دین کی سرحدوں کو دشمن نفس امارہ کی رخنہ اندازیوں سے مذکورہ بالا احتیاطی تدابیر کے ذریعے محفوظ
 رکھنے میں وہی اجر و ثواب جو ملک کی سرحدوں کو کافروں کی رخنہ اندازیوں سے حفاظت کرنے والے مجاہدوں اور
 غازیوں کو ملتا ہے اس لئے کہ نفس امارہ تمہارا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے۔

واقعہ: ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ (کافروں کے ساتھ جنگ) سے مظفر و منصور
 تشریف لا رہے تھے غازی صحابہ اس فتح و ظفر پر بے حد خوش تھے تو آپ نے ان سے خطاب فرمایا:

رجعنا من الجهاد الا صغرى الى الجهاد الاكبر فان اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك (اوکمال قال)
 ہم چھوٹے جہاد سے (فارغ ہو کر) بڑے جہاد کی طرف واپس آ رہے ہیں اس لئے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن
 تمہارا وہ نفس ہے جو ہر وقت تمہارے پہلوؤں کے درمیان (چھپا بیٹھا) ہے اور ہر وقت دشمنی پر تیار ہے طرح طرح
 کے راحت و آسائش کے سبز باغ دکھا کر یا مضرت و نقصان کے بھیانک نتائج سے ڈرا کر دین کے فرائض سے غافل
 کرنے یا ان میں رخنہ ڈالنے میں مصروف رہتا ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دشمن نفس امارہ کی دشمنی سے خبردار کر کے اس کے حربوں
 کو بیکار کرنے کے لئے مثال کے طور پر تین چیزوں کا ذکر فرماتے اور ان کی ترغیب دیتے ہیں کتنے مہربان ہیں نبی
 رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر سبحان اللہ۔

اللہ تعالیٰ اسی رباط (دین کی سرحدوں کی دشمنوں سے حفاظت) کا ذکر ذیل کی آیت کریمہ میں فرماتے ہیں۔
 يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون (سورۃ آل عمران آیت ۲۰۰)
 اے ایمان والو! (دین پر) ثابت قدم رہو اور ثابت قدمی میں دشمنوں سے بڑھ جاؤ اور (دین کی) سرحدوں کی
 حفاظت میں دشمنوں پر غالب آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم (دین و دنیا دونوں میں) فلاح پاؤ۔
 اور نفس امارہ کے متعلق حضرت یوسف جیسے پاک دامن نبی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان سے ارشاد ہے۔

وما أبرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي (سورہ یوسف آیت ۵۳)

اور میں اپنے نفس کی برأت نہیں کرتا بلکہ شبہ نفس تو بری باتوں کا ہی حکم کرتا ہے، بجز اس کے کہ میرا رب رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی اس نفسِ امارہ پر نفسِ مطمئنہ کو غلبہ عطا فرمادیں اور وہ اس کی سرکوبی کرے جیسا کہ نفسِ امارہ کی دشمنی اور نفسِ مطمئنہ کی سرکوبی کا کچھ حال تینوں عبادتوں کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں یہ فرضی یا خیالی باتیں نہیں ہیں یہ وہ کشف ہے جس سے ہر انسان کو ہر وقت سابقہ پڑتا ہے اسی لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات

جنتِ نفس کے مکروہات سے گھیر دی گئی ہے اور جہنمِ نفس کی خواہشات سے گھیر دی گئی ہے جب تک انسان مکروہات کے خارزار سے نہ گزرے گا جنت میں نہیں پہنچ سکے گا اور جو شخص خواہشاتِ نفس کے سبزہ زار میں پھنس کر رہ گیا وہ سیدھا جہنم جائے گا۔

صدق اللہ ورسولہ (اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا) اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے اور نفسِ امارہ کے دھوکے اور فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ امام نووی علیہ الرحمۃ اس حدیث کو اس باب (کثرتِ طرقِ خیر کے ذیل میں اسی لئے لائے ہیں کہ اگر انسان مکارِ نفس سے چوکنار ہے تو ثواب کے کاموں کی کچھ کمی نہیں۔

فجر اور عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کا خصوصی ثواب

السادس عشر: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . " الْبَرْدَانِ " : الصُّبْحُ وَالْعَصْرُ .

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دو ٹھنڈی نمازیں (پابندی سے) پڑھ لیں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ (بخاری، مسلم)

امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں دو ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر کی نمازیں ہیں۔

تشریح: دوسری احادیث میں من صلی کے بجائے من حافظ آیا ہے جس کے معنی ہیں (پابندی کی) یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے کہ جس مسلمان نے پابندی سے فجر اور عصر کی نماز باجماعت کے ساتھ پڑھیں وہ جنت میں ضرور جائے گا ان دو نمازوں کی خصوصیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادی ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: یتعاقبون فیکم ملئکة باللیل باللیل ملئکة بالنهار ویجتمعون فی صلوة الفجر وصلوة العصر ثم یرجع الذین باتوا فیکم فیستلهم ربهم وهو اعلم بهم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وهم یصلون واتینہم وهم یصلون. (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فرشتے نوبت نبوت تمہارے درمیان آتے ہیں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے اور وہ سب فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں رات کے فرشتے صبح کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں دن کے فرشتے فجر کی نماز میں آتے ہیں اسی طرح دن کے فرشتے عصر کی نماز پڑھ کر جاتے اور رات کے فرشتے عصر کی نماز میں آتے ہیں اس طرح فجر اور عصر کی نمازوں میں دن اور رات کے فرشتے ان دو وقتوں میں جمع ہوتے ہیں تو فرشتوں کا رب ان (آنے اور جانے والے گروہوں سے) دریافت کرتا ہے حالانکہ وہ ان فرشتوں سے زیادہ (اپنے بندوں کا حال) جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا (رات اور دن دونوں کے) فرشتے جواب دیتے ہیں ہم نے ان کو نماز پڑھتا ہوا ہی چھوڑا ہے اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

اس طرح دن کے نامہ اعمال کے اول و آخر میں بھی اور رات کے اعمال نامہ کے اول و آخر میں بھی ان دو نمازوں کی پابندی کی وجہ سے نمازی مسلمان نمازوں کے پابند لکھے جاتے ہیں نامہ اعمال میں اول آخر کو ہی دیکھا جاتا ہے یہی نامہ اعمال قیامت کے دن پیش ہوئے اور یہ نمازی جنت میں ضرور جائیں گے نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بغیر جماعت کے فجر عصر پڑھتے ہیں وہ فرشتوں کی اس گواہی سے محروم رہتے ہیں ان دو نمازوں کی تخصیص کی ایک وجہ تو یہ ہوئی دوسری وجہ مسلم ہی کی حدیث میں آیا ہے۔

عن جریب بن عبد اللہ یقول کنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ نظر الی القمر لیلة البدر فقال انکم سترون ربکم کماترون ہذا القمر لا تضامون فی رویہ فان استطعتم ان لا تغلبوا علی صلوة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر ثم قرأ فسبح بحمدر ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ (رات کے وقت) ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کی نگاہ چودھویں رات کے چاند پر پڑی تو آپ نے فرمایا: تم اپنے رب کو (جنت میں ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اس کے دیدار میں تمہیں ایسے ہی کوئی رکاوٹ اور مزاحمت نہ ہوگی جیسے اس کے دیکھنے میں نہیں ہے پس تم اگر (اپنے دنیاوی دھندوں سے) مغلوب نہ ہو اور پابندی سے طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر کی نماز باجماعت اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز باجماعت پڑھ سکو تو ان دونوں نمازوں کو باجماعت پابندی سے پڑھا کرو (تاکہ جنت میں انہی دو وقتوں میں دیدار الہی کی سعادت حاصل کر سکو) اس کے بعد آپ نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی پس اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرو اس کی حمد و ثنا کے ساتھ آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے (یعنی فجر اور عصر کی نماز) پڑھا کرو۔

حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ جنت میں روزانہ دو وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا کرے گا ایک فجر کی نماز کے وقت یہ آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے ایک عصر کی نماز کے وقت آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے اور اس دو وقت دیدار کی سعادت وہی لوگ حاصل کر سکیں گے جو دنیا میں پابندی کے ساتھ باجماعت فجر اور عصر کی نمازیں پڑھتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھی خاص طور پر ان دو نمازوں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔
ان دو نمازوں کی تخصیص کی تیسری وجہ سے مسلم ہی کی حدیث شریف میں آیا ہے۔

عن روایة رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبہا یعنی الفجر والعصر۔

حضرت روایہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی بھی (پابندی کے ساتھ) طلوع آفتاب سے پہلے اور بعد نماز باجماعت پڑھے گا یعنی فجر اور عصر کی نمازیں پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔

اس حدیث سے ایک طرف مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی فسبح بحمد ربك (الآیہ) سے مراد نماز فجر اور نماز عصر ہیں دوسری طرف جہنم سے مطلق نجات پانے کی بشارت دی۔
ان دو نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے کی خصوصیت احادیث میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ پہلی امتوں پر صرف یہی دو نمازیں فرض کی گئی تھیں مگر انہوں نے ان دو نمازوں کو بھی پڑھ کر نہ دیا اسی لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان دو نمازوں کی اس قدر تاکید فرما رہے ہیں اور ترغیب دے رہے ہیں چنانچہ لیلۃ الاسراء میں پانچ نمازیں فرض ہونے سے پہلے بھی آپ بعثت کے بعد اول دن سے برابر یہی دو نمازیں مسلمانوں کے ساتھ جماعت سے پڑھا کرتے تھے۔
ان خصوصیات کے علاوہ جو خصوصیات بیان کرتے ہیں وہ چنداں اہم نہیں اس لئے کہ وہ اور نمازوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔

امام نووی رحمہ اللہ کثرت طرق خیر کے باب میں اس حدیث کو لائے ہیں کہ مسلمان ان دو نمازوں کو ہرگز نہ چھوڑیں کہ بڑی محرومی اور بد نفسی کا موجب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دو نمازوں کو بھی اور باقی تین نمازوں کو بھی پابندی سے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔

بیماری اور سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رعایت

السابع عشر : عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا " رواه البخاري .

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب مسلمان بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں چلا جاتا ہے (اور صحت یا قیام کی حالت میں جو نفل عبادتیں

اور اذکار و اوراد کیا کرتا تھا وہ اب بیماری یا سفر کی وجہ سے نہیں ادا کر سکتا تو اس کے لئے نامہ اعمال میں وہ تمام عبادات لکھ دی جاتی ہیں جو وہ صحت اور قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ بخاری۔

تشریح: مرض اور سفر دو ایسی حالتیں ہیں کہ ان میں رب کریم و رحیم نے فرض عبادتوں میں بھی تخفیف فرما دی ہے شریعت کا حکم ہے کہ اگر سفر میں پانی تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے یا بیماری میں پانی سے وضو کرنے یا ناپاکی کا غسل کرنے میں مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو پانی کے بجائے پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے اشاروں ہی سے پڑھ لو چھوڑ دو مت جس طرح بھی بن پڑے پڑھ لو سفر میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے خود ہی فرضوں میں چار کے بجائے دو فرض کر دیئے اور مرض و سفر دونوں حالتوں میں فرضوں کے علاوہ سنتوں کے ترک کرنے کا اختیار دے دیا اسی طرح رمضان کے فرض روزے بھی ترک کرنے کی اجازت دے دی کہ وطن پہنچ کر یا تندرست ہو کر اتنے دن کے روزے رکھ لینا۔

ایک پانچوں وقت کی نمازوں اور سنن و نوافل اذکار و اوراد کے پابند نمازی کو اپنی اس حالت پر رونا آتا ہے اور سخت افسوس ہوتا ہے کہ فرض نمازیں بھی ادھوری سدھوری ادا ہو رہی ہیں سنن و نوافل اور اذکار و اوراد بھی سب چھوٹ گئے ہیں بڑی سخت محرومی محسوس کرتا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی عبادات کے شیدائی مسلمان بندے کو اس حدیث میں اطمینان دلاتے ہیں کہ گھبراؤ مت صبر و شکر سے کام لو اور بے فکر رہو تندرستی اور قیام کے زمانہ میں تم جس قدر عبادتیں خواہ فرض ہوں خواہ نفل روزانہ ادا کیا کرتے تھے اور تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی تھیں وہ سب بیماری اور سفر کی حالت میں بھی لکھی جا رہی ہیں تو بندہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خوشخبری سن کر بے حد خوش اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریبی سے میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہونے دیا کچھ نہ کرنے کے باوجود سب کچھ لکھا گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور تندرست ہونے یا قیام کے بعد خوشی خوشی زیادہ سے زیادہ عبادتیں پورے اہتمام سے ادا کرتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اگر پھر بیمار ہو یا سفر کرنا پڑا تو بغیر کئے یہ سب عبادتیں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی یہی ترغیب و تحریص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوشخبری سنانے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو زیادہ سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور یہی مقصد ہے امام نووی رحمہ اللہ کے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کرنے کا ورنہ بظاہر تو اس حدیث میں کسی بھی عمل خیر کا ذکر نہیں ہے اسی مقصد کو واضح کرنے کی غرض سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنی تفصیلی شرح کی ہے حدیث کے ترجمہ کے لئے ایک سطر کافی تھی مگر پڑھنے والے تشنہ رہتے کہ اس حدیث میں تو کسی بھی کارِ ثواب کا ذکر نہیں ہے۔ واللہ الموفق۔

ہر نیک کام ثواب کا کام ہے

الثامن عشر : عن جابر رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ " رواه البخاري ، ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه .
ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ہر (از روئے شریعت) بھلا کام ثواب کا کام ہے بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

لام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لام مسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔
تشریح: گو حضرت جابر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما دونوں صحابی اس حدیث کے راوی ہیں باقی بھلے کاموں کی کافی تعداد اس باب کی حدیثوں کے ذیل میں بیان ہو چکی ہے صرف اتنا اضافہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نہ نیک کام کرنے والے کی ذاتی خواہش کا اعتبار ہے نہ کسی دوسرے انسان کی خواہش کا نیک یا بھلا کام صرف وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک اور بھلا کام فرمادیں۔ اس لئے کہ انسانی خواہش اور محبت کا حال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وعسى ان تكووا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم' والله يعلم وانتم لا تعلمون (سورہ بقرہ آیت ۲۱۵)

کچھ بعید نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں اچھی ہو اور کچھ بعید نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ چیز تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ ہی (اچھی بری چیز کو) جانتا ہے تم نہیں جانتے (کہ کون سی چیز بری ہے، کون سی اچھی ہے)

اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یعنی تمام انسانوں کی پسند اور ناپسند میں بیشتر دخل دشمن یعنی نفس امارہ کا دخل ہوتا ہے اور اس کی خواہشات تمام تر ہمارے حق میں مضر ہی ہوتی ہیں آپ اس سے پہلے ایک حدیث میں پڑھ چکے ہیں۔

حفت الجنة بالمكاراة وحفت النار بالشهوات

جنت مکروہات نفس کے خارزار سے گھری ہوئی اور جہنم خواہشات نفس کے سبزہ زاروں میں گھری ہوئی ہے۔
اگر خواہشات نفس پر عمل کرو گے سیدھے جہنم میں جاؤ گے ہاں اگر نفس کی خواہشات کو ٹھکرا کر مکروہات نفس پر عمل کرو گے تو بیشک جنت میں جاؤ گے سبحان اللہ کتنا واضح معیار جہنم اور جنت میں جانے کا بیان فرمایا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کاش کہ امت اس پر عمل کرے واللہ الموفق۔

باغ والوں اور کھیتی والوں کا جو بھی نقصان ہو اس پر ثواب ملنے کا بیان

التاسع عشر : عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ

يَغْرَسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا سُوقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَلَا يَرْزُؤُهُ أَحَدًا إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ “ رواه مسلم .
 وفي رواية له : ” فَلَا يَغْرَسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ “ . وفي رواية له : ” لَا يَغْرَسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا ، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ “ .

ورویاہ جمعاً من روایۃ انس رضی اللہ عنہ . قولہ ” یرزوہ “ ای ینقصہ

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی مسلمان نے کوئی درخت لگایا تو جو بھی اس کا پھل کسی نے کھایا اس کا ثواب اس کو ملے گا اور جو بھی اس کے پھل چوری گئے وہ بھی اس کے لئے ثواب کا موجب ہیں اور جو بھی کسی نے اس کا نقصان کیا اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔

مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے جس مسلمان نے بھی کوئی درخت لگایا اور کسی انسان نے یا چوپایہ نے یا پرندہ نے اس کا پھل کھالیا تو اس کو قیامت کے دن تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔

مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے جس مسلمان نے کوئی بھی درخت لگایا کوئی کھیت بویا اور کسی انسان نے یا کسی چوپایہ نے یا کسی نے بھی کچھ کھالیا تو اس کا ثواب مالک کو ملتا رہے گا۔

اور بخاری و مسلم دونوں نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ برزء کے معنی بتلاتے ہیں ” نقصان کیا “

تشریح: اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغوں اور کھیتوں کے مسلمان مالکان کو کرم اخلاق اور بلند حوصلگی کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہیں باغ یا کھیت کا مالک بنایا ہے تمہیں اس قدر متکدل اور بے حوصلہ نہ ہونا چاہئے کہ اگر کسی انسان نے یا جانور نے یا پرندہ نے باغ سے پھل کھالئے یا کسی جانور نے کھیت میں منہ ڈال دیا تو لگے غصہ ہونے اور گالیاں دینے کیا خبر ہے وہ انسان یا حیوان بھوکا ہی ہو تو بھوکے کے پیٹ کو بھرتا تو بہر حال کار ثواب ہے اسی طرح باغ یا کھیت کا کسی اور قسم کا کوئی نقصان ہو گیا تو باغ یا کھیت کے رکھوالے کو برا بھلا کہنے لگے حاصل یہ ہے کہ باغ یا کھیت کا جو بھی نقصان ہو اس کو منجانب اللہ باور کر کے صبر کرنا چاہئے اور جو بچ گیا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہئے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کمی کو پورا کر دیں گے اور نقصان کی تلافی فرمادیں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔

لئن شکرتکم لازیدنکم (سورۃ ابراہیم آیت ۷) بخدا اگر تم نے شکر ادا کیا تو تمہیں ضرور اور زیادہ دوں گا۔

زیادہ تر غصہ اس وقت آتا ہے جب بھوکا اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لئے دو چار پکے پھلوں کے لئے دس

بیس کچے پھل گردا دیتا ہے یا جانور کھیت میں گھس کر کھانے کے علاوہ اپنے قدموں سے کھیت کو روند دیتا ہے کھاتا کم ہے اور نقصان زیادہ کرتا ہے اسی کے پیش نظر ہر قسم کے نقصان کو بھی ثواب کا موجب فرمایا ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو کثرت طرق خیر کے باب میں اس لئے لائے ہیں کہ یہ تو وہ کام ہیں جنہیں بغیر کچھ کئے دھرے محض ثواب کی نیت کر لینے پر ثواب ملتا ہے بہر حال ثواب کی لگن ہونی چاہئے پھر کارہائے ثواب تو بے حد و حساب ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ لگن عطا فرمائیں آمین۔

مسجد میں نماز باجماعت پڑھنے کے لئے آنے جانے میں ہر قدم پر ثواب ملتا ہے

العشرون : عَنْهُ ، قَالَ : أَرَادَ بَنُو سَلِيمَةَ أَنْ يَسْتَقِيلُوا قَرَبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُمْ : " إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْتَقِيلُوا قَرَبَ الْمَسْجِدِ ؟ " فَقَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ . فَقَالَ : " بَنِي سَلِيمَةَ ، دِيَارُكُمْ ، تَكْتَبُ آثَارُكُمْ ، دِيَارُكُمْ تَكْتَبُ آثَارُكُمْ " رواه مسلم . وفي رواية : " إِنَّ بِكُلِّ خَطْوَةٍ تَرَجَّةٌ " رواه مسلم . رواه البخاري أيضاً بِمَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَ" بَنُو سَلِيمَةَ " بِكسر اللام : قَبِيلَةٌ مَعْرُوفَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَ" آثَارُهُمْ " : خَطَاهُمْ .

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قبیلہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ (اپنی بستی سے) مسجد نبوی کے قریب منتقل ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (بنو سلمہ کے اس ارادہ کی) خبر ملی تو آپ نے (اس خبر کی تصدیق کی غرض سے) فرمایا: مجھے خبر ملی ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم نے یہ ارادہ کیا تو ہے تو آپ نے فرمایا: اے بنو سلمہ! اپنی بستی میں ہی رہو تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ (مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا) اور ایک روایت میں ہے بلاشبہ ہر قدم پر ایک درجہ (بلند ہوتا) ہے امام بخاری نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کی ہے (صرف لفظوں میں فرق ہے مفہوم ایک ہے) امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں بنو سلمہ لام کے زیر سے انصار رضی اللہ عنہم کا مشہور و معروف قبیلہ ہے اور نشان قدم سے مراد قدم ہیں۔

تشریح: واقعہ! قبیلہ بنی سلمہ مدینہ طیبہ کی ایک نواحی بستی میں مدینہ سے دو تین میل فاصلہ پر آباد تھا مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے قرب و جوار میں کچھ رہائشی زمین کے قطعے خالی ہوئے تو اس قبیلہ نے اس خیال سے کہ ہماری بستی مسجد سے قریب ہو جائے گی پانچوں وقت جو اتنی دور سے چل کر آنا پڑتا ہے اس سے بچ جائیں گے منتقل ہونے کا ارادہ کیا مگر دراصل یہ خیال انسان کے پوشیدہ دشمن آسائش پسند نفس امارہ کا ایک فریب تھا وہ

راحت و آسائش کا سبز باغ دکھا کر اس اجر عظیم اور رفیع درجات سے محروم کرنا چاہتا تھا جو دور سے چل کر آنے کی بنا پر ان کو مل رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کو ان کے اس ارادہ کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان کو بلا کر ان سے دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں ارادہ تو کیا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بنو سلمہ سے خطاب کر کے بتا کید اس ارادہ سے باز رکھا اور نفس امارہ کے اس فریب سے آگاہ کیا اور بتلایا کہ مسجد سے قریب ہو کر کتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جاؤ گے جو پانچوں وقت اتنی دور سے چل کر مسجد میں آنے کی مشقت پر تم کو مل رہا ہے کتنا بڑا خسارہ ہے چنانچہ بنو سلمہ نے دشمن نفس امارہ کے اس فریب سے آگاہ ہو کر منتقل ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے نام بنو سلمہ کے مطابق اس نقصان عظیم سے بچ گئے۔

یہ اس زمانہ کا واقعہ ہے جب نوحی بستیوں میں مسجدیں نہیں بنی تھیں ہر بستی والوں کو نماز باجماعت پڑھنے کے لئے مسجد نبوی میں آنا پڑتا تھا اس کے بعد بھی اگرچہ نوحی بستیوں میں مسجدیں بن گئی تھیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت اور دور سے چل کر آنے کے اس اجر عظیم کو حاصل کرنے کی غرض سے بیشتر لوگ دور دور سے چل کر آتے اور ثواب حاصل کرتے تھے اگر بنو سلمہ اس وقت منتقل ہو جاتے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس اجر عظیم سے محروم ہو جاتے۔

اب بھی جبکہ قریب قریب ہر بستی میں مسجدیں بن گئی ہیں بڑی مسجد میں جہاں زیادہ نمازی ہوتے ہیں اور بڑی جماعت ہوتی ہے اگرچہ دور ہو چل کر جانا اجر و ثواب کا موجب ہے الا یہ کہ محلہ کی مسجد کے ویران ہو جانے کا اندیشہ ہو یا وقت نکل جانے کا خوف ہو تو قریب کی مسجد میں ہی نماز پڑھ لینی چاہئے وقت پر نماز پڑھنے اور خدا کے گھر کو ویران ہونے سے بچانے کے اجر و ثواب سے اس اجر و ثواب کے نقصان کی مکافات ہو جائے گی جو دور سے چل کر مسجد جانے پر ملتا اگر کسی اور دنیوی غرض یا منفعت کی بنا پر کوئی بھی صورت اختیار کی گئی تو وہ غرض تو پوری ہو جائے گی منفعت حاصل ہو جائے گی مگر اجر و ثواب مطلق نہیں ملے گا انما الاعمال بالنیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عملوں کا مدار نیتوں پر ہے۔

گرمی جاڑے اور برسات میں دور سے چل کر مسجد آنے والے کا ثواب

الحادي والعشرون : عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه ، قال : كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ ، وَكَانَ لَا تَحْطِئُهُ صَلَاةٌ ، فَقِيلَ لَهُ أَوْ فَقُلْتَ لَهُ : لَوْ اشْتَرَيْتَ جِمَارًا تَرَكَبْتَهُ فِي الظَّلْمَاءِ فِي الرَّمْضَةِ ؟ فَقَالَ : مَا يَسْرُنِي أَنْ مَنَزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مِمَّشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ " رواه مسلم . وفي رواية : " إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ " . " الرَّمْضَةُ " : الأَرْضُ التي أصابها الحر الشديد .

ترجمہ: حضرت ابوالمہذر اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں ایک آدمی تھا میرے علم میں مسجد سے اس کے گھر سے زیادہ دور کسی اور کا گھر نہ تھا اور (جماعت کی پابندی کا یہ حال تھا کہ) کوئی نماز باجماعت اس سے نہیں چھوٹی تھی تو اس سے کہا گیا میں نے اس سے کہا (راوی کو شک ہے کہ روایت میں پہلا لفظ ہے یا دوسرا) اگر تم ایک گدھا خرید لو اور اندھیری راتوں میں یا تھقی ہوئی دوپہر میں اس پر سوار ہو کر مسجد آؤ جاؤ (تو کتنا اچھا ہو) اس شخص نے جواب دیا (تکلیف سے بچنے کے لئے گدھا خریدنا تو دور کی بات ہے) مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو میں تو چاہتا ہوں کہ میرا یہ (مسجد) چل کر آنا اور جب گھر واپس جاؤں تو پیادہ لوٹنا میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس کا یہ عاشقانہ جواب سن کر) فرمایا: (مبارک ہو) یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے یہ سب جمع فرمادیا (آنے اور جانے کے ایک ایک قدم کا ثواب تمہیں ملے گا) امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک روایت میں آیا ہے جو تم نے نیت کی وہ تمہیں ضرور ملے گا“ نیز فرماتے ہیں عربی میں رمضاء شدید گرمی سے تھقی ہوئی زمین کو کہتے ہیں۔

تشریح: سبحان اللہ! نماز باجماعت سے کس قدر والہانہ عشق ہے کہ اندھیری راتوں کے تمام خطرے اور شدید گرمی سے تھقی ہوئی زمین پر پیادہ چلنے کی تمام تکلیفیں سب گوارا ہیں مگر باجماعت نماز نہ چھوٹے سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے!!

حفت الجنة بالمکارہ جنت مکروہات نفس سے گھری ہوئی ہے۔

ان مشقتوں کے خارزار سے گزرے اور قدموں کو فگار (زخمی) کئے بغیر جنت نہیں مل سکتی اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نماز باجماعت کا عشق نہ سہی شوق ہی عطا فرمائیں آمین۔

اس باب کی سابقہ احادیث میں پیادہ مسجد جانے کے اجر و ثواب کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔

جنت میں لے جانے والی چالیس خصلتوں کا بیان

الثاني والعشرون : عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أَرْبَعُونَ خَصْلَةً : أَعْلَاهَا مَنِيحَةُ الْعَتْرِ ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا ؛ رَجَلَةٌ تَوَابَهَا وَتَصَدِّيقُ مَوْعُودِهَا ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ " رواه البخاري . " الْمَنِيحَةُ " : أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهَا لِيَأْكُلَ لَبَنَهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت ابو محمد عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چالیس خصلتیں ہیں جن میں سب سے اعلیٰ خصلت دودھ والی بکری کا عطیہ ہے جو بھی کوئی

عمل کرنے والا ان چالیس میں سے کسی بھی خصلت پر اس کے ثواب کی اُمید پر اور جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے اس وعدہ کو دل سے سچا جاننے اور ماننے کے بعد اس پر عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ (بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عربی میں مٹھیا اس دودھ دینے والی بکری کو کہتے ہیں جسے مالک کسی حاجت مند کو دودھ پینے کے لئے عاریتہ دے دے اور جب دودھ ختم ہو جائے تو واپس لے لے۔

تشریح: حدیث شریف میں صرف دودھ کے اس معمولی سے عطیہ کو سب سے اعلیٰ خصلت قرار دیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ باقی انتالیس خصلتیں اس سے بھی زیادہ معمولی اور ادنیٰ درجہ کے کام ہیں (جن کی تفصیل گذشتہ احادیث میں آچکی ہے) لہذا اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی حاجت مند کی کسی بھی حاجت کو پورا کر دینا اگرچہ کتنی ہی معمولی ہو عند اللہ اور عند الرسول اجر عظیم کا موجب ہے اور ان پر جنت میں داخل فرمانے کا وعدہ ہے مگر یہ اجر عظیم جب ہی ملتا ہے کہ جبکہ اجر کے وعدوں پر کامل یقین ہو اور نیت خالص ہو ورنہ اگر نام و نمود کے لئے یا حاجت مند پر احسان جتانے کے لئے یہ کام کئے تو کچھ نہیں ملے گا نیز حدیث شریف میں ان چالیس کاموں کو خصائل سے تعبیر کیا ہے جس کے معنی ہیں عادتیں اس سے معلوم ہوا کہ اس اجر اور اس وعدے کے مستحق وہی لوگ ہیں جن کی عادت یہ ہو جائے کہ محتاج کو دیکھتے ہی جب تک اس کی حاجت پوری نہ کر دیں چھین نہ آئے ظاہر ہے جب کسی مسلمان کے دل میں مخلوق خدا کی حاجت روائی کا یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ اس کے مقبول بارگاہ الہی ہونے کی روشن دلیل ہے اس لئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے۔

عن انس قال قال رسول الله ﷺ الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله (اوکمال قال)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال (کنبہ) ہے لہذا اللہ سب سے زیادہ محبت اس سے فرماتا ہے جو اس کی عیال (کنبہ) کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو اس باب میں اسی لئے لائے ہیں کہ یہ تمام کارہائے خیر اسی وقت اجر و ثواب کا موجب ہوتے جب کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر کامل یقین ہو اور خالص اللہ انجام دیئے جائیں۔

ضرورت مند کو معمولی سے معمولی چیز دینے پر بھی خدا خوش ہوتا ہے

الثالث والعشرون: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: "اتقوا النار ولو بشق تمرة" متفق عليه. وفي رواية لهما عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا

يَرَى إِلَّا النَّارَ تَلْقَاهُ وَجْهَهُ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِيكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ“
ترجمہ: حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا (جہنم کی) آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی ہو (بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا) اور بخاری اور مسلم ہی کی ایک روایت میں انہی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے تم میں سے ہر ایک شخص سے اس کا رب (براہ راست) بات کرے گا (اس طرح کہ) اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی (دوسرا) ترجمان نہ ہوگا پس (اس وقت) وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اس کے کئے ہوئے اعمال کے سوا کچھ نہ ہوگا اور بائیں جانب دیکھے گا تو (ادھر بھی) اس کے کئے ہوئے اعمال کے سوا کچھ نہ ہوگا اور سامنے (کی طرف) دیکھے گا تو اس کے منہ کے سامنے آگ ہی آگ ہوگی اور کچھ نہ ہوگا پس (اس) آگ سے (جس طرح ہو سکے) بچو اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی بچو اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات (کے ذریعہ سے) ہی بچو۔

تشریح: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ برہ راست ہر بندے سے اس کے کئے ہوئے اعمال کے متعلق سوال فرمائیں گے کہ میں نے عمر بھر تجھ پر بے شمار انعامات اور احسانات کئے بتلا تو نے اس کا شکر یہ کس طرح ادا کیا بندے کے پاس اس وقت عمر بھر کئے ہوئے اعمال کے سوا کچھ نہ ہوگا دائیں طرف نیک اعمال ہوں گے اور بائیں طرف بد اور سامنے کی جانب ایک طرف جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اور دوسری طرف جنت لہلہاتی ہوگی حساب اعمال کے بعد جن کی بائیں جانب کے اعمال وزنی ہوئے وہ تو جہنم کی آگ میں ڈال دیئے جائیں گے اور جن کے دائیں جانب کے اعمال وزنی ہوئے وہ جنت میں بھیج دیئے جائیں گے قرآن کریم کی مذکورہ ذیل آیات اس پر روشنی ڈالتی ہیں۔

۱. وَاِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ (سورۃ نحر آیت ۱۳۲۱)

اور جبکہ جہنم بھڑکادی جائے گی اور جبکہ جنت بالکل قریب کر دی جائیگی اس وقت ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لایا ہے۔

۲. يَبْنُوا الْاِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ مَّا قَدَّمْ وَاخِرَ اِسْمِ دِنِ الْاِنْسَانِ كُو تَلْيَا يَجَايْ كَا جُو اِسْ نِي كِي لَانِي كِي اِي كَا (سورۃ قیامہ آیت ۱۳)

۳. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاخِرَتْ هِرْ خُصْ جَان لِي كَا كَا اِسْ نِي كِي اِي كَا اِسْ نِي كِي لَانِي كِي اِي كَا (سورۃ انفطار آیت ۵)

۴. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اِسْتِثْنَاءً لِيُرَوَّ اَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَاَمَّنْ يَعْمَلْ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. (زلزال آیت ۸۴۶)

اس دن لوگ مختلف گروہوں میں واپس ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں پس جس نے ذرہ برابر بھی نیک کام کیا ہوگا اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برا کام کیا ہوگا اس کو دیکھ لے گا (حشر کے دن)

۵. فاما من ثقلت موازينه، فهو في عيشة راضية، واما من خفت موازينه، فامه هاروية. (تارخہ ۹۶)

پس جس کے وزن کئے ہوئے اعمال وزنی ہوں گے تو وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا اور جس کے اعمال ہلکے اور کم وزن ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔

۶. وازلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين (سورۃ شراہ آیت ۹۰)۔

اور جنت پر ہیزاروں کے بالکل قریب کر دی جائیگی اور جہنم گمراہوں اور کجراہوں کے سامنے بے نقاب کر دی جائے گی۔

مذکورہ بالا زیر بحث حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی محاسبہ اعمال کا ذکر فرماتے ہیں اور ہر شخص کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے جہنم سے بچنے کی جدوجہد کی ترغیب دیتے ہیں کہ محتاج کو اور کچھ نہیں تو مجبور کا ایک کھڑا دے کر ہی جہنم سے بچو اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو کسی کو بھلی بات بتا کر ہی جہنم سے بچو (اس میں تو کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا)

اگرچہ شرح حدیث نے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ کے دو مطلب بیان کئے ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ اگر کسی کا ذرا سا حق بھی تمہارے ذمہ ہو تو اس کو بھی ادا کر کے جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرو کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں مطلق معاف نہیں ہوتے اگر کسی کا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تمہارے ذمہ رہ گیا تو جہنم میں جاؤ گے۔

۲۔ دوسرا یہ کہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی سزا سے بچنے کے لئے کسی بھی نیک کام کرنے میں کوتاہی نہ کرو اگرچہ کتنا ہی معمولی کار خیر ہو اس دوسرے مطلب کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

الصدقة تطفىء الخطايا كما تطفىء الماء النار.

صدقہ (خیرات) خطاؤں (کی آگ) کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔

اسی طرح اسی باب کی آٹھویں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان عورتوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں۔

بالنساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتهن ولو فوسن شاة

اے مسلمان عورتو! کوئی پردوں اپنی پردوں کے لئے (کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ بکری کا کھر ہی ہو۔ اور پانچویں حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا ہے۔

قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقا اخطاک بوجه طلیق.

حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ (خاص طور پر) مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا: اے (ابو ذر) تم کسی بھی بھلے کام کو حقیر مت سمجھنا اگرچہ اپنے (مسلمان) بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔

اسی طرح زیر نظر حدیث میں وان لم یجد فکلمة طيبة اگر نہ ہو تو بھلی بات کے ذریعے ہی بچو۔

اور یہی دوسرا مطلب امام نووی رحمہ اللہ کے پیش نظر ہے اسی لئے اس باب میں اس حدیث کو لائے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو بھی زیادہ سے زیادہ کارہائے خیر کر کے جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔

کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنے والے بندے پر اظہار خوشی

الرابع والعشرون : عن أنس رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
”إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ ، فَيَحْمَدُهُ
عَلَيْهَا“ رواه مسلم . و” الْأَكْلَةُ “ بفتح الهمزة : وهي الغدوة أو العشوة .

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: بیشک اللہ تعالیٰ بندہ سے (اس پر) خوش ہوتا ہے کہ جو کھانا (صبح کا یا شام کا) وہ کھاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور جو بھی پانی پیتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے

امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اکتہ ہمزہ کے زبر کے ساتھ صبح کے یا شام کے کھانے کو کہتے ہیں (نہ کہ ہر لقمہ اور ہر گھونٹ کو)

تشریح: ظاہر ہے کہ دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اور پیاس پر پانی پینے کو دینا اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام واحسان ہے کہ ہم اس کا شکر یہ ادا کر ہی نہیں سکتے اس لئے کہ ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ باوجود انتہائی محنت کرنے اور مشقت اٹھانے کے دو وقت پیٹ بھر کر انہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا اور ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لذت اور عمدہ کھانے دستر خوان پر موجود ہیں مگر کسی مرض یا بیماری کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے نہیں کھا سکتے اس لئے دونوں وقت شکم سیر ہو کر کھانا اور کھانے کی قدرت بھی دینا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کسی بھی طرح اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے تھے یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمی ہے کہ انہوں نے نہایت آسان طریق پر شکر ادا کرنے اور اس پر اپنی رضامندی و پسندیدگی کا بھی اظہار فرمادیا اور قرآن کریم میں شکر ادا کرنے پر مزید نعمتیں دینے کا بھی وعدہ فرمایا ہے جس کا ہم شب و روز مشاہدہ کرتے ہیں ہر روز نئی سے نئی نعمتیں کھانے کو ملتی ہیں۔

مگر وائے برابروں کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس قدر نا آشنا ہیں کہ نہ کھانا شروع کرنے کے وقت کبھی بسم اللہ کہنا نصیب ہوتا ہے نہ فارغ ہونے کے بعد الحمد لله اللہی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کہنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں بچپن میں نہ بتلایا گیا نہ عمل کرنے پر تنبیہ و تادیب کی گئی یہی وجہ ہے کہ ہماری نہ صرف نوجوان نسل بلکہ اچھے اچھے صوم و صلوة کے پابند گھرانے بھی کھانا کھانے کے اسلامی آداب سے بے بہرہ ہیں اس وقت ہمارا حال وہی ہے جو قرآن کریم نے کافروں کا بتلایا ہے یا کلون کمانا کل الانعام (جانوروں کی طرح کھانا کھاتے ہیں آج بڑی بڑی ضیافتوں میں میزوں پر رکھے ہوئے کھانے کی مختلف ڈشوں سے پلیٹوں میں کھانا لیکر جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے کھانا اور کھاتے ہوئے ادھر سے ادھر گھومتے

رہنا عین تہذیب سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائیں ہم ذیل میں مختصر طور پر آداب طعام لکھنا مناسب سمجھتے ہیں امید ہے کہ مسلمان خود بھی اس پر پابندی سے عمل کریں گے اور اپنے بچوں سے بھی عمل کرائیں گے۔

آداب طعام:

- ۱۔ کھانا کھانے کی نیت سے ہاتھ دھونا اگرچہ ہاتھ بالکل پاک و صاف ہوں۔
- ۲۔ کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا اگر شروع میں بسم اللہ کہنا یاد نہ رہے تو کھانے کے درمیان جب یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع میں بھی آخر میں بھی۔
- ۳۔ گھر کے تمام افراد ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں الگ الگ نہ کھائیں اگر ایک ایک قسم کا کھانا ہو تو ایک ہی بڑے برتن قاب (ڈش) وغیرہ میں سب کھائیں اگر کئی قسم کا ہو تو اپنی اپنی پسند کے مطابق علیحدہ علیحدہ پلیٹ میں لے کر کھائیں مگر ایک ہی دسترخوان پر ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں کھڑے ہو کر نہ کھائیں متکبروں کی طرح آلتی پالتی مار کر نہ بیٹھیں دسترخوان پر جو سب سے عمدہ کھانا ہو اسی کی طرف سب سے پہلے ہاتھ نہ بڑھائیں اگر بڑے برتن سینی یا قاب میں کھانا ہو تو کنارے سے لیس بیچ میں ہاتھ یا چمچ نہ ماریں تین انگلیوں سے کھائیں حریص لوگوں کی طرح بڑے بڑے لقمے نہ لیں دوسرے کھانا کھانے والوں کی طرف نہ دیکھیں خاموش بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں مناسب اور موزوں گفتگو کرتے رہیں بلند آواز سے ڈکار نہ لیں۔
- ۴۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھوئیں اور الحمد للہ اللہی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھیں (شکر ہے اس اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں کھانا کھلایا پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا)

ہر مومن مسلمان کیلئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بہت سے طریقے

الخامس والعشرون : عن أبي موسى رضي الله عنه ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ " قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ : " يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَصَدِّقُ " قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : " يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ " قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، قَالَ : " يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْخَيْرِ " قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : " يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مسلمان کے پورے بدن پر صدقہ (اداء شکر کے لئے) واجب ہے (ابو موسیٰ نے عرض کیا آپ بتلائیے اگر کچھ میسر نہ ہو (کہ صدقہ کرے) آپ نے فرمایا: اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرے خود اپنے کو بھی نفع پہنچائے (اپنی ضروریات بھی پوری کرے) اور صدقہ بھی کرے عرض کیا آپ بتلائیے اگر اس کی قدرت

نہ ہو؟ آپ نے فرمایا: مصیبت زدہ حاجتمندوں کی مدد کرے عرض کیا: آپ بتلائیے اگر مدد بھی نہ کر سکے؟
 آپ نے فرمایا (شرعاً) بھلی بات کہے یا فرمایا: کلمہ خیر کہے عرض کیا: آپ بتلائیے اگر یہ بھی نہ کرے؟ آپ
 نے فرمایا (خود کو) برے کام سے باز رکھے اس لئے کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے (بخاری و مسلم نے روایت کیا)
 تشریح: اس حدیث میں دوسرے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ
 صرف اسی حدیث میں مذکور ہے اور بہت غیرت انگیز ہے کہ ایک اچھے بھلے تندرست مسلمان کو ہاتھ پاؤں توڑ کر
 نہیں بیٹھنا چاہئے بلکہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھی بھرنا چاہئے اور جو بچے اسے صدقہ
 کر کے آخرت کے لئے ذخیرہ بھی کرنا چاہئے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ذرائع معاش پر محنت
 مزدوری کر کے روزی کمانے کو ترجیح دی ہے۔

عن رافع بن خدیج قال: قيل يا رسول الله اى الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده.
 حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا:
 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کسب (ذریعہ معاش) افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔
 بدن اور اس کے تین سوساٹھ جوڑوں کا شکریہ ادا کرنے کے لئے جن امور کا ان چھپیس احادیث میں
 ذکر فرمایا ہے وہ بنیادی طور پر دو قسم کے ہیں (۱) ایک حقوق اللہ یعنی عبادات اور ان سے متعلق آداب یعنی مستحبات
 و مندوبات (۲) دوسرا حقوق العباد سے متعلق امور۔ ہم ان دونوں قسم کو الگ الگ بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں
 تاکہ عمل کرتے وقت اسی کی نیت کی جائے۔

امور خیر کا تجزیہ

حقوق اللہ	حقوق العباد
۱۔ کلمہ سبحان اللہ کہنا	۱۔ ضرورت مند کا ریگہ کی مدد کرنا۔
۲۔ کلمہ الحمد للہ کہنا	۲۔ ناکارہ آدمی کے لئے کام کرنا۔
۳۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا۔	۳۔ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا۔
۴۔ کلمہ اللہ اکبر کہنا۔	۴۔ عام راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔
۵۔ کلمہ استغفر اللہ کہنا۔	۵۔ مسجد میں سے تھوک یا ناک کی ریزش دور کرنا
۶۔ ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ	۶۔ بیوی سے جماع کرنا۔
۷۔ نفیس ترین اور بیش قیمت غلام یا کنیر آزاد کرنا	۷۔ کتنی ہی حقیر اور معمولی چیز ہو حاجت مند کو دینے میں عار محسوس نہ کرنا۔

- ۸۔ امر بالمعروف کرنا۔
 ۹۔ نبی عن المکر کرنا۔
 ۱۰۔ نماز کے لئے دور سے پاپیادہ چل کر مسجد آنا
 ۱۱۔ خصوصاً ہر صبح شام یعنی فجر و عصر کی نماز باجماعت ۱۱۔ یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھ دینا۔
 مسجد میں جا کر ادا کرنا۔
 ۱۲۔ تمام مستحبات و مندوبات کیساتھ پابندی کی نماز ادا کرنا۔ ۱۲۔ اچھی بات کہنا۔
 ۱۳۔ شرم و حیا کرنا۔
 ۱۳۔ عام گزرگاہ سے پتھر یا ہڈی یا کانٹے ہٹا دینا۔
 ۱۴۔ نیت کر کے پورا اور کامل وضو کرنا خصوصاً ناول حالات میں۔ ۱۴۔ عام راستہ سے کانٹے یا کانٹے دار درخت کاٹ دینا۔
 ۱۵۔ پانچوں نمازیں پابندی سے مسجد میں باجماعت ادا کرنا۔ ۱۵۔ پیاسے جانور کو پانی پلا دینا۔
 ۱۶۔ صحت اور قیام کے نذر میں نیلہ سے زیادہ عملت کرنا تاکہ بیلہی ۱۶۔ باغ یا کھیت والے کا جو بھی نقصان ہو یا انسان یا حیوان
 اور سفر کی حالت میں بھی لکھی جائیں اور اس کا ثواب ملے کھالے اس پر ثواب کی نیت کرنا۔
 ۱۷۔ ہر نیک کام اگرچہ کتنا ہی معمولی ہو جہنم سے بچنے کی ۱۷۔ دودھ والے جانور کو دودھ پینے کے لئے حاجت
 غرض سے کرنا۔ مند کو دے دینا۔
 ۱۸۔ صبح و شام کھانے پر دونوں وقت اللہ تعالیٰ ۱۸۔ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بآل بچوں کا پیٹ
 کا شکر ادا کرنا۔ بھی بھرنا اور صدقہ بھی کرنا۔
 ۱۹۔ چاشت کی نماز ادا کرنا۔ ۱۹۔ کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا۔
 ۲۰۔ اپنے کو ایذا رسانی کے گناہ سے بچانا۔ ۲۰۔ اپنی ذات سے کسی کو نقصان یا ایذا نہ پہنچانا۔
 کل چالیس کارہائے خیر اور موجب ثواب کام ان پچیس حدیثوں میں مذکور ہیں ان کے علاوہ شعب ایمان والی
 حدیث میں باقی ۲۷ کام اجمالاً مذکور ہوئے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔

چودھواں باب باب فی الاقتصاد فی العبادة عبادت میں اعتدال اور میانہ روی کا بیان

۱. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى (سورۃ طہ آیت ۲۱)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے طہ! ہم نے تمہارے اوپر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑو۔

۲. قال الله تعالى: يرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (سورۃ البقرہ آیت ۱۸۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ تمہارے لئے سہولت پیدا کرنا چاہتا ہے تمہیں دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتا۔

آیات کی تفسیر: آپ باب مجاہدہ کی چوتھی حدیث کے ذیل میں اس مشقت کا حال حضرت عائشہؓ کی حدیث میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں جو آپ سورۃ عزل میں قیام لیل کا حکم نازل ہونے کے بعد سال بھر تک اٹھاتے رہے ہیں اور آخر ایک سال بعد دوسرے رکوع میں قیام لیل کے اندر تخفیف نازل ہوئی ہے اسی مشقت کی اس آیت کریمہ میں نفی کی گئی ہے کہ یہ قرآن ہم نے اس لئے نازل نہیں کیا کہ تم مشقتیں برداشت کرتے رہو۔ نیز شب و روز کی مسلسل فہمائش کے باوجود معاندین کے ایمان نہ لانے پر آپ کو شدید روحانی کوفت اور تکلیف ہوتی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ ذیل میں فرمایا ہے۔

فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفاً (سورۃ الکہف: آیت ۶)

تو کیا تم غم کے مارے اپنے آپ کو ان معاندوں کے پیچھے ہلاک کر ڈالو گے اگر یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اس روحانی تکلیف اور مشقت کا ذکر فرمایا ہے جو آپ معاندین کے ایمان نہ لانے پر اٹھا رہے تھے جیسا کہ پہلی آیت میں جسمانی مشقت کا ذکر فرمایا ہے دونوں قسم کی مشقتوں کا باعث نزول قرآن بن رہا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی مشقتیں برداشت کرنے سے آپ کو منع فرمایا ہے اور نزول قرآن کے اصل مقصد سے آپ کو بھی اور آپ کی امت کو بھی آگاہ فرماتے ہیں:

الاتذكرة لمن يخشى تنزيراً لمن خلق الارض والسموات العلی (سورۃ طہ: آیت ۳۳)

لیکن (ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے) ان لوگوں کی صحیحیت کے لئے جن کے دل میں ڈر ہے اتارا ہے اس (رب العالمین) نے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔

جسمانی مشقت کے بجائے روحانی مشقت اور تکلیف مراد لینا زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ جسمانی مشقت تو ایک سال بعد قیام لیل میں تخفیف فرمادینے سے ختم ہو گئی تھی روحانی تکلیف آخر تک قائم رہی جس کا ازالہ قرآن کریم میں مختلف عنوان سے فرمایا ہے۔

اسی طرح آیت کریمہ شہور رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے ذریعہ سال کے باقی مہینوں کے مقابلہ میں ماہ رمضان کی عظمت و اہمیت بیان فرمانے کے بعد حکم فرماتے ہیں فمن شهد منکم الشهر فلیصمه اور پورے ایک مہینہ کے روزے فرض فرمادیئے اور من کان منکم مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام آخر کے ذریعہ مریض اور مسافر کو ایام مرض و سفر میں رمضان کے روزے ترک کرنے اور سال کے دوسرے دنوں میں اتنے ہی دنوں کے روزے رکھ لینے اور رمضان کے روزے قضا کرنے کی سہولت عطا فرمانے کا ذکر مذکورہ آیت میں فرمایا ہے۔

یورید اللہ بکم الیسر ولا یورید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ہداکم۔ (سورۃ البقرہ: ۱۸۵ آیت ۱۸۵)
اللہ تمہارے لئے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے تمہیں دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتا اور تاکہ تم (رمضان کے روزوں کی تعداد بھی پوری کر لو اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار بھی کرو یعنی شکر یہ ادا کرو) اس پر کہ اس نے تمہیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائی۔

بعض علماء نے ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم کا مصداق عید الفطر کی نماز اور تکبیرات کے ساتھ ادا کرنا قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

امام نووی رحمہ اللہ نے تو صرف ان دو آیتوں پر اکتفا کیا ہے ہم مزید وضاحت کرنے کے لئے اسی سلسلہ کی دو تین اور آیتیں نقل کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اور بھی بعض ایسے احکام سے متعلق جن کو کو تاہ فہم اور ناعاقبت اندیش لوگ دشوار اور سخت احکام سمجھتے ہیں اس طرح غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے اور بتلادیا ہے کہ وہ انتہائی سہل اور آسان ہیں۔

مثلاً اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم القصاص فی القتل فی القتل کے ذریعہ امیر اور غریب شریف و ذلیل مرد و عورت کا فرق کئے بغیر قصاص (جان کے بدلے جان لینے) کو فرض فرمایا تو اعداء اسلام نے اس حکم پر شدت اور سختی کا الزام لگایا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس قصاص کے حکم میں خود ہی اتنی آسانی فرمادی ہے کہ اگر درثناء مقتول چاہیں تو قاتل کو بالکل ہی معاف کر دیں چاہے قاتل سے دیت (خون بہا) لے لیں یا باہمی رضامندی سے جتنے مال پر چاہیں صلح کر لیں چنانچہ اس سہولت کا اظہار بھی فرمادیا ہے ذلك تخفیف من ربکم ورحمة کہ دیکھو ایک طرف یہودی مذہب میں اتنی سختی ہے کہ قصاص (جان کے بدلے جان) کے سوا اور کوئی صورت نہیں دوسری جانب عیسائی مذہب میں قاتل کو کسی صورت میں بھی قتل نہیں کیا جاسکتا دیت کے سوا اور کوئی بدلہ لینے کی سبیل

ہی نہیں حالانکہ بعض قاتل اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کو قتل کئے بغیر امن قائم ہی نہیں ہو سکتا اسی لئے اسلام نے ورغاء مقتول کو اختیار دے دیا کہ اگر وہ قاتل کے خطرناک ہونے کی بناء پر جان کے بدلے جان لینا ہی ضروری سمجھیں اور اس پر مصر ہوں تو بیشک قتل کرنا ضروری ہو گا اور آخر میں فرمادیا۔

ولکم فی القصاص حیوة یا اولی الاباب (اے عقلمند و قصاص لینے میں ہی تمہاری زندگیوں کا تحفظ ہے) قتل کا سدباب بدلہ لئے بغیر ممکن نہیں خواہ جان کے بدلے میں جان ہو خواہ خون بہا لینا اس لئے کہ قاتل سے ڈر کر یا مرعوب ہو کر یا ترس کھا کر اسے چھوڑ دینا انتہائی خطرناک ہے۔

۲۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز وغیرہ عبادت کے لئے غسل یا وضو کو شرط قرار تو دیا مگر اسی کے ساتھ پانی نہ ملنے کے وقت تیمم کی سہولت عطا فرمادی جو صرف امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیت ہے اور فرمادیا۔
ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولكن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعکم تشکرون (سورۃ المائدہ آیت ۶)

اللہ تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تم کو (ظاہری اور باطنی نجاستوں سے) پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت کامل کر دے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔
۳۔ اسی طرح پورے دین اسلام اور اس کے احکام سے تنگی اور سختی کی نفی فرماتے ہیں۔

وما جعل علیکم فی الدین من حرج (س: حج ع: ۱۷)

اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دین (کے احکام) میں مطلق تنگی نہیں رکھی۔

امام نووی رحمہ اللہ کا مقصد قرآن کریم کی ان آیات کو پیش کرنے سے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں ہر طرح کی آسانی اور سہولت رکھی ہے اور تخفیف کا اعلان کیا ہے تو تم اپنے آپ کو ساری ساری رات عبادت گزار کرنا اور بارہ مہینے روزے رکھنے کا عہد کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالتے ہو اندیشہ ہے کہ یہ ناشکری میں شمار ہو اور تم بجائے اجر و ثواب کے کفران نعمت کی سزا کے مستحق بن جاؤ لہذا خدا پرستی اور عبادت گزاروں میں میانہ روی اور اعتدال کو اختیار کرو۔

علاوہ ازیں رات دن اس طرح عبادت میں بے تحاشا منہمک ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے خداوندی احکام جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے عائد کئے ہیں مثلاً حلال روزی کمانا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا اولاد کی پرورش کرنا اور اہل و عیال کی خدا اور رسول کے فرمانے کے مطابق تربیت کرنا علم دین حاصل کرنا کرنا اسی طرح وہ تمام حقوق العباد جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے عائد کئے ہیں وہ سب ترک ہو جائیں گے اور قیامت کے دن شب و روز کی اس عبادت کے اجر و ثواب اور گناہوں کی مغفرت کے بجائے ان تمام

احکام الہیہ کے ترک کرنے کے مجرم بنو گے خصوصاً حقوق العباد کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہ فرمائیں گے اس لئے اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کئے بغیر اللہ تعالیٰ کے تمام احکام (مامورات و منہیات) پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔

حد سے زیادہ مشقت اور حرص عبادت کا انجام

وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ ، قَالَ : " مَنْ هِيَ ؟ " قَالَتْ : هَذِهِ فَلَانَةٌ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا . قَالَ : " مَهْ ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا " وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَ" مَهْ " : كَلِمَةٌ نَهَى وَزَجَرَ . وَمَعْنَى " لَا يَمَلُّ اللهُ " : لَا يَقْطَعُ ثَوَابَهُ عَنْكُمْ وَجَزَاءَ أَعْمَالِكُمْ وَيُعَامِلُكُمْ مُعَامَلَةَ الْمَالِ حَتَّى تَمَلُّوا فَتَتْرَكُوا ، فَيَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَا تُطِيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيْهِ لِيَدُومَ ثَوَابُهُ لَكُمْ وَفَضْلُهُ عَلَيْكُمْ .

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ (ایک دن) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی آپ نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا یہ فلاں عورت (خولہ بنت تویت) ہے اس کے متعلق مشہور ہے کہ ساری رات نماز پڑھتی ہے آپ نے فرمایا باز آؤ تم پر لازم ہے کہ تم اتنی عبادت کرو جتنی طاقت ہے (یعنی جتنی برداشت کر سکو) اس لئے کہ خدا کی قسم اللہ نہیں آکتائے گا تم ہی آکتا جاؤ گے اللہ تعالیٰ کو وہی دین (عبادت) پسند ہے جس پر عبادت کرنے والا ہمیشہ قائم رہ سکے۔ بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلمہ مہ (عربی میں) جھڑکنے اور منع کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور لا یمل اللہ (اللہ نہیں آکتاتا) کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دینا بند نہیں کرتا اور تمہارے اعمال کی جزا دینے سے بیزار نہیں ہوتا اور آکتا جانے والے کا سا معاملہ نہیں کرتا کہ بیزار ہو کر ثواب دینا موقوف کر دے یہاں تک کہ تم ہی آکتا جاؤ اور عبادت ہی ترک کر بیٹھو (اور بالکل ہی ثواب سے محروم ہو جاؤ) پس تمہارے لئے مناسب یہ ہے کہ جتنی عبادت ہمیشہ برداشت کر سکو اتنی ہی عبادت کرو تاکہ اجر و ثواب (کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے اور اس کا فضل ہمیشہ تمہارے شامل حال رہے۔

تشریح: امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث میں جو ملال کی نسبت اللہ تعالیٰ و تقدس کی طرف کی گئی ہے حالانکہ ملال ایک نقص اور کمزوری ہے اور اللہ تعالیٰ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہیں اس کی حقیقت بتلانا چاہتے ہیں کہ ملال کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے نتیجے یعنی ترک کے اعتبار سے منسوب کیا گیا ہے یا مشابہت و مشاکلت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے ورنہ تو اللہ تعالیٰ ملال کے حقیقی معنی کے اعتبار سے ملال یا کسل سے بالکل پاک ہیں یہی دو توجیہ ہیں ان تمام الفاظ

کے بارے میں کی جاتی ہیں جو حدوٹ و تغیر پر دلالت کرتے ہیں اور انفعالی صفات ہیں مثلاً ان اللہ لا یستحی (الایۃ) کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف حیا کی نسبت حیا کے نتیجے یعنی ترک کے اعتبار سے کی گئی ہے اور لایستحی کے معنی ہیں لایترک اسی طرح اس حدیث میں لایعمل کے معنی ہیں لایقطع اور بعاملکم معاملۃ الممال میں دوسری توجیہ مشاکلت کی طرف اشارہ ہے اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی عادت کے خلاف اتنی تفصیل سے اس حدیث کی شرح کی ہے۔

تشریح: بہر حال ہوتا یہ ہے کہ انسان خصوصاً جوانی میں عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے فضائل اور عظیم اجر و ثواب کے تذکرے و اعظوں سے سن کر یا کتابوں میں پڑھ کر اپنی موجودہ قوت و فرصت اور آئندہ جسمانی طاقت کے انحطاط اور مصروفیت کے فرق کو نظر انداز کر کے نقلی عبادات صوم و صلوة اور نقلی صدقات کے شوق میں رات بھر جاگنا اور نمازیں پڑھنا اور مسلسل روزے رکھنا زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی قوت برداشت سے بہت زیادہ کام کرنے لگتا ہے مگر کچھ عرصہ کے بعد جسمانی قوتیں اور مالی وسعت و فراوانی جواب دے دیتے ہیں اور وہ تمام نقلی عبادتیں اور صدقات و خیرات بادل ناخواستہ ترک کر دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس محبوب مشغلہ سے محروم ہو جاتا ہے اور اس محبوب مشغلہ سے محروم ہونے پر ایسی بے دلی اور بیزارگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ فرائض میں بھی سستی یا ترک کرنے کی نوبت آجاتی ہے اور اجر و ثواب کے بجائے عذاب و عتاب کا مستحق بن جاتا ہے یہ نتیجہ اور رد عمل اس بے اعتدالی کا ہوتا ہے جو ابتداء میں اختیار کی جاتی ہے اس لئے فرض عبادتیں تو فرض ہیں انہیں تو بہر حال ادا کرنا ہے باقی ان میں بھی آسانیاں اور سہولتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہئے کہ یہی شکر نعمت ہے باقی رہیں نقل عبادتیں ان میں خوب سوچ سمجھ کر رفتہ رفتہ اضافہ کرنا چاہئے اپنی صحت موجودہ اور آئندہ بدنی و مالی طاقت کو پیش نظر رکھ کر اس طرح بڑھنا چاہئے کہ جو قدم بڑھیں پیچھے نہ ہٹانا پڑیں یعنی جو نقل عبادت شروع کرے اسے ترک کرنے کی نوبت نہ آئے خواہ کتنی ہی کم ہو مگر بڑھنے کی یہ رفتار برابر جاری رہنی چاہئے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ یہی نقل عبادتیں ہیں جیسا کہ آپ حدیث قدسی ما زال العبد یتقرب الی بالنوافل کی تشریح کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں۔

بہر حال مداومت ضروری ہے ورنہ استقامت کے خلاف ہو گا اس کی تفصیل باب استقامت کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں دوبارہ پڑھ لیجئے استقامت نہایت ضروری ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیانہ روی پر مبنی اسوہ حسنہ

وعن أنس رضي الله عنه ، قَالَ : جَلَّةُ ثَلَاثَةٌ رَهْطٌ إِلَى بَيْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ تَقَالُوهَا وَقَالُوا :
 أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ أَحَدُهُمْ
 : أَمَا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا . وَقَالَ الْآخَرُ : وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا أَفْطِرُ . وَقَالَ الْآخَرُ : وَأَنَا
 اعْتَرَلُ النَّسَةَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا . فَجَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : " أَنْتُمْ
 الَّذِينَ قَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ ، وَأُصَلِّي
 وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النَّسَةَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ تین شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق
 استفسار کرنے کی غرض سے ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جب ان کو (درون خانہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی تفصیلات بتلائی گئیں) کہ آپ رات کو سوتے بھی ہیں
 حاجت بھی پوری کرتے ہیں اور تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں ہر مہینہ میں روزے بھی رکھتے ہیں اور نہیں
 بھی رکھتے تو انہوں نے گویا اس عبادت کو بہت تھوڑا سمجھا اور کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 کیا نسبت آپ کے تو اگلے پچھلے کردہ ناکردہ سب گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں (اور ہم تو سراپا گناہ ہیں
 ہمیں تو اپنی پوری زندگی عبادت کے لئے وقف کر دینی چاہئے) چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا: بھی میں
 تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا (اور سونایا آرام کرنا بالکل ترک کر دوں گا) دوسرے نے کہا: میں
 ہمیشہ دن کو روزہ رکھا کروں گا (ایک دن بھی) روزہ ترک نہ کروں گا تیسرے نے کہا میں عمر بھر عورتوں
 سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہ کروں گا اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف لے آئے
 اور آپ نے فرمایا تم ہی نے ایسا اور ایسا کہا ہے (کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے
 اور کردہ ناکردہ سب گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے اور ہم تو سراپا گناہ
 گار ہیں ہمیں تو اپنی ساری زندگی عبادت میں صرف کر دینی چاہئے چنانچہ تم نے عمر بھر ساری رات
 عبادت کرنے اور دن بھر ہمیشہ روزہ رکھنے اور عمر بھر شادی نہ کرنے کا عہد کیا ہے آپ نے
 فرمایا: سنو! میں خدا کی قسم تم سے بدرجہا زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں اور تم سے بدرجہا زیادہ اللہ کی نافرمانی سے
 (ڈرتا اور) بچتا ہوں۔ اس کے باوجود میں دن میں کبھی روزے بھی رکھتا ہوں کبھی انظار بھی کرتا
 ہوں (روزے نہیں بھی رکھتا) رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے
 شادی بھی کی ہے اپنی اور ان کی حاجت بھی پوری کرتا ہوں پس جس نے میرے سنت (اس طریق
 خدا پرستی) سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی علاقہ نہیں۔ بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا۔

تشریح: ان تینوں شخصوں نے عبادت اور پرہیزگاری کا مقصد صرف گناہوں کی مغفرت کو سمجھا تھا اسی غلط فہمی کی بنا پر آپ کو عبادت سے مستغنی اور اپنے کو زیادہ سے زیادہ عبادت کا محتاج سمجھا تھا آپ نے انہی لاشعناکم للہ و اتقاکم لہ فرما کر اس غلط فہمی کو دور فرمایا کہ عبادت کا اصلی محرک تو علما خدا کی ذات و صفات کی معرفت اور اس کی عظمت و جلال کے اعتراف کی بنا پر دل میں پیدا شدہ خشوع و خضوع ہے اور عملاً اس کے تمام احکام (مامورات و منہیات) کی اطاعت و فرمانبرداری ہے اول کمال علمی ہے اور دوسرا کمال عملی ہے گناہوں کی مغفرت تو ایک ثمرہ ہے جو اس علمی اور عملی کمال پر آپ سے آپ مرتب ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی کے حکم کے تحت کرنی چاہئے گناہوں کا ہونا یا نہ ہونا یا مغفرت کا ہونا یا نہ ہونا عبادت کا مقصد ہرگز نہیں اگر گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے نہ ہوں گے تو یہ خدا شناسی اور خدا ترسی یعنی عبادت اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ قرب اور رفح درجات کا موجب ہوگی یہ ہے میری سنت اور طریق خدا پرستی

ان لوگوں پر گناہوں کا ہول اس قدر سوار تھا کہ انہوں نے ان تمام خدائی احکام کو نظر انداز کر دیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں حقوق العباد کے طور پر فرض کئے ہیں جس میں اہل و عیال اعزہ و اقربا کے علاوہ خود ان کے نفس اور اعضائے بدن کے تقاضے بھی شامل ہیں اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے طرز عمل کو بیان فرما کر اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی کی تشبیہ نہ فرماتے تو یقیناً ان تمام احکام پر عمل نہ کرنے کی بناء پر جو حقوق العباد سے متعلق ہیں مزید گنہگار ہوتے گناہوں کی مغفرت کے بجائے ایسے گناہوں کے مرتکب ہوتے جو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہ فرمائیں گے۔

بہر حال دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کی معرفت یہ کمال علمی ہے دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری یہ کمال عملی ہے انہی دو چیزوں کا نام عبادت ہے اور ظاہر ہے کہ ان دونوں قسم کے کمالوں میں خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کیا برابر بھی بلکہ آپ کے آس پاس بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا اس لئے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام فطری طور پر گناہوں سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ یا معصیت سرزد ہو ہی نہیں سکتی ہاں بعض اوقات بتقاضائے بشریت منشاء خداوندی کو سمجھنے میں غفلت ہو جاتی ہے اور خلاف اولیٰ امور سرزد ہو جاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ فوراً یا تاخیر سے متنبہ فرمادیتے ہیں یہی حقیقت ہے ان کے گناہوں کی اور گناہوں کو معاف کر دینے کی۔

اور زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہتے کہ عام انسانوں کی خدا پرستی کا معیار تو یہ ہے کہ جن کاموں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں اگر عمل نہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کے پاس بھی نہ جائیں اگر ان کاموں کا ارتکاب کریں گے تو گنہگار ہوں گے لیکن انبیاء کرام کا فرض ہوتا ہے کہ وہ منشاء الہی کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اگر منشاء الہی کے خلاف کوئی کام کر بیٹھتے ہیں تو اس پر فوراً یا تاخیر تشبیہ کر دی جاتی

ہے اسی لئے عرفاء کا مقولہ ہے حسنات الابراہیمات المقربین (نیک لوگوں کے بعض اچھے کام مقربین کی سیئات (خطائیں) ہوتی ہیں اسی حقیقت کو فارسی زبان میں اس طرح ادا کیا گیا ہے مقربان را بیش بود حیرانی مقربین کو بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے حقوق العباد کی اہمیت آگے آتی ہے۔

سخت کوش عبادت گزار اور تشدد پسند لوگوں کو تنبیہ

وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ " قالها ثلاثاً . رواه مسلم . " الْمُتَنَطِّعُونَ " : المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد . ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گئے (اپنے اوپر) سختی کرنے والے، ہلاک ہو گئے (اپنے اوپر) سختیاں کرنے والے، ہلاک ہو گئے سختیاں اٹھانے والے، تین مرتبہ فرمایا:

امام نووی رحمہ اللہ المتخطون کے معنی بیان کرتے ہیں بے محل اور بے جا سختیاں اٹھانے والے۔

تشریح: بے جا اور بے محل سختیاں برداشت کرنے کی چند مثالیں اور ان کے ضرر رساں خطرناک نتائج

۱۔ اللہ تعالیٰ نے بیمار ہو جانے یا مرض بڑھ جانے کے خوف کی بنا پر پانی سے وضو کرنے کی بجائے پاک مٹی کے تیمم کر لینے کی اجازت فرمادی ہے اس کے باوجود کوئی شخص کہے میرا تودل نہیں مانتا اور پانی سے غسل یا وضو کرے اور بیمار پڑ جائے یا مرض بڑھ جائے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے سفر میں چار رکعت کے بجائے دو رکعت فرض نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کوئی شخص نہ صرف فرضوں میں دو کے بجائے چار رکعت پڑھے بلکہ فرضوں سے پہلے اور بعد کی سنتیں اور نفل بھی پڑھنے پر اصرار کرے چاہے اتنی دیر میں ریل چھٹ جائے یا ہوائی جہاز پرواز کر جائے اور سفر سے رہ جائے۔

۳۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے سفر یا مرض کی حالت میں روزے نہ رکھنے اور رمضان کے بعد سال بھر میں جس وقت بھی آسانی سے ممکن ہو ان روزوں کی قضا کر لینے کی اجازت عطا فرمائی ہے مگر اس اجازت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے کوئی شخص کہے کہ میرا تودل نہیں مانتا اور بیماری یا سفر کی حالت میں ہی روزے رکھے اور مرض بڑھے یا لاعلاج ہو جائے سفر میں کتنی ہی ناقابل برداشت تکلیفیں اور مشقتیں اٹھانی پڑیں اور روزے رکھ کر گونا گوں مصیبتوں میں گرفتار ہو۔

۴۔ اللہ تعالیٰ نے قتل ناحق کا بدلہ لینے میں ورثاء مقتول کو اختیار دیا ہے کہ چاہیں تو ظالم قاتل سے قصاص لیں اور قتل کریں چاہیں بالکل معاف کر دیں اور چاہیں دیت (خون بہا) لیں اب اگر حکومت یا عدالت قاتل کی دولت مندی یا جاہ و منصب کی بنا پر یا قوم میں مقبولیت کی بنا پر ورثاء کو معاف کر دینے یا خون بہا لینے پر مجبور کریں یا اس کے برعکس ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا ہے ورثاء مقتول یا باپ معاف کر دینا چاہیں مگر حکومت یا عدالت

درہاء یا باپ کو قصاص لینے یعنی دوسرے بیٹے کو بھی قتل کرنے پر مجبور کریں تو یہ دونوں صورتیں اس مقصد اور تخفیف کے بالکل خلاف ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے قصاص کے بارے میں تخفیف کا اعلان فرمایا ہے۔

یہ ہیں بے محل اور بے جا سختیوں کی چند مثالیں اور ان کے معززت رساں اور خطرناک نتائج جو صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی سہولتوں اور آسانیوں سے فائدہ نہ اٹھانے کی بناء پر برداشت کرنی پڑتی ہیں انہی کو حدیث شریف میں ہلاکت سے تعبیر کیا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام ہی شرعی احکام میں آسانیاں اور سہولتیں عطا فرمائی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے۔

ما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ نے دین میں تمہارے اوپر تنگی نہیں کی۔

ان سہولتوں سے فائدہ نہ اٹھانا کفرانِ نعمت بھی ہے طرح طرح کے جسمانی اور مالی سختیاں برداشت کرنا اس ناشکری کی سزا ہے اسی لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں تین مرتبہ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے! ہلاک ہو گئے ہلاک ہو گئے ہلاک ہو گئے۔

اس سے بڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور کیا ہو سکتی ہے کاش ایسے لوگ جن کے متعلق عرف عام میں کہا جاتا ہے انہیں تو تقویٰ کا ہیضہ ہو گیا ہے اس شفقت آمیز تعلیم و تنبیہ سے فائدہ اٹھائیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں اور صلوة والسلام بھیج کر شکر یہ ادا کریں اللھم صل علی نبی الرحمة محمد والہ واصحابہ اجمعین۔

دین آسان ہے دین سے زور آزمائی کرنے والوں کو نصیحت

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينُ إِلَّا غَلَبَةً ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ " رواه البخاري . وفي رواية له : " سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَأَغْدُوا وَرَوْحُوا ، وَشَيْءٌ مِنَ الدَّلْجَةِ ، الْقَصْدُ الْقَصْدُ تَبَلَّغُوا " . قوله : " الدِّينُ " : هُوَ مَرْفُوعٌ عَلَى مَا لَمْ يَسْمِ فاعله . وروي منصوباً وروي " لَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ " . وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ غَلَبَهُ " : أي غَلَبَهُ الدِّينُ وَعَجَزَ ذَلِكَ الْمَشَادُّ عَنْ مَقَاوِمَةِ الدِّينِ لِكثْرَةِ طَرْفِهِ . وَ" الْغَدْوَةُ " : سِيرٌ أَوَّلُ النَّهَارِ . وَ" الرَّوْحَةُ " : آخِرُ النَّهَارِ . وَ" الدَّلْجَةُ " : آخِرُ اللَّيْلِ . وَهَذَا اسْتِعَارَةٌ وَتَمْثِيلٌ ، وَمَعْنَاهُ : اسْتَعِينُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْأَعْمَالِ فِي وَقْتِ نَشَاطِكُمْ وَفَرَاغِ قُلُوبِكُمْ بِحَيْثُ تَسْتَلِدُونَ الْعِبَادَةَ وَلَا تَسَامُونَ وَتَبْلُغُونَ مَقْصُودَكُمْ ، كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ الْحَاقِقَ يَسِيرُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَيَسْتَرِيحُ هُوَ وَدَابَّتُهُ فِي غَيْرِهَا فَيَصِلُ الْمَقْصُودَ بِغَيْرِ تَعَبٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ دین تو (بہت) آسان ہے لیکن دین پر (عمل کے بارے میں) جب بھی زور آزمائی کی جائے گی دین ہی غالب آجائے گا لہذا (دین پر عمل کے بارے میں) راستی پر قائم رہو اور میانہ روی اختیار کرو اور خوشخبری حاصل کرو کہ (تم نے مقصد کو پایا اور (دین کے احکام پر قائم رہنے کے بارے میں) صبح کے وقت سے اور شام کے وقت سے اور کسی قدر آخر شب سے مدد حاصل کرو۔ بخاری

امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں آیا ہے: راستی پر قائم رہو اور میانہ روی اختیار کرو اور صبح کا وقت اختیار کرو اور شام کا: اور کسی قدر آخر شب کا! اعتدال کو اختیار کرو اعتدال کو (افراط و تفریط سے بچو) تو مقصد کو پہنچ جاؤ گے۔

اس کے بعد امام نوویؒ از روئے لغت الفاظ کے معنی اور حدیث کا مطلب بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لن یشاد المدین میں الدین مرفوع (پیش کے ساتھ) اور لن یشاد فعل مجہول کا نائب فاعل ہے اسی روایت میں لن یشاد الدین احد بھی آیا ہے اس روایت کے مطابق لن یشاد فعل معروف ہو گا اور الدین مفعول منصوب (زبر کے ساتھ) پڑھا جائے گا اور احد فاعل مرفوع (پیش کے ساتھ) ہو گا اور الاغلبہ کا مطلب یہ ہے کہ دین ہی غالب آئے گا اور یہ زور آزمائی کرنے والا دین کے مقابلہ سے عاجز آجائے گا اس لئے کہ دین کے طریقے (اعمال) بہت زیادہ (بلکہ بے شمار ہیں) اور الغدوۃ کے معنی ہیں دن کے اول حصہ میں یعنی صبح کے وقت سفر کرنا اور الروحہ کے معنی ہیں دن کے آخری حصہ میں یعنی شام کے وقت سفر کرنا اور الدلجہ کے معنی ہیں رات کے آخری حصہ میں سفر کرنا سفر کے یہ تین وقت استعارہ ہیں اوقات نشاط کار سے اور مثال کے طور پر مطلب یہ ہے کہ تم خدائے بزرگ و برتر کی عبادت میں اپنے نشاط اور قلبی اطمینان کے اوقات سے مدد لو اس طرح کہ تم ان اطمینان کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں لطف و لذت محسوس ہو اور تم عبادت سے دل برداشتہ اور بیزار نہ ہو اور اپنا مقصد (رضاء الہی) حاصل کرنے میں کامیاب ہو جیسا کہ ایک تجربہ کار مسافر صرف ان تین وقتوں میں (جو سب سے زیادہ موزوں ہیں) سفر کرتا ہے اور باقی اوقات میں خود بھی آرام کرتا ہے اور سواری کا اونٹ بھی اور بغیر تھکے ہارے اور بغیر مشقت اٹھائے اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے (اس کے برعکس ایک تشدد اور بے تحاشی عبادت گزار دیندار کی مثال اس تجربہ کار مسافر کی سی ہے جو اپنی اونٹنی کو بے تحاشا دوڑاتا ہے نہ خود آرام کرتا ہے نہ اونٹنی

کو آرام لینے دیتا ہے آخر کار اونٹنی تھک کر چور اور نڈھال ہو جاتی ہے اور سفر ادھور ادھور رہ جاتا ہے نہ راستہ طے ہوتا ہے نہ اونٹنی چلنے کے قابل رہتی ہے جیسا کہ بیہقی کی روایت میں ارشاد فرمایا ہے۔

فان السائر المنبت لا رضاء قطع ولا ظہر ابقی. اس لئے کہ ایک بے تحاشا دوڑانے والا مسافر نہ مسافت ہی طے کر پاتا ہے نہ سواری کو ہی سفر کے قابل رہنے دیتا ہے۔

مزید تشریح: اگرچہ امام نوویؒ نے اس حدیث کے نہ صرف معنی بتلائے بلکہ حدیث کے مقصد کی کافی تشریح کر دی تاہم چند چیزیں بیان کی محتاج ہیں۔

سادہ لفظوں میں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور اجر و ثواب کے کاموں کی جو توفیق اور ذوق شوق اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے یہ بڑی قابل قدر نعمت ہے اس سے نہایت اعتدال اور میانہ روی سے کام لو اور رفتہ رفتہ اس طرح اعتدال کے ساتھ چلو کہ جو قدم اٹھے آگے بڑھے پیچھے نہ ہٹے تاکہ مرتے دم تک یہ عبادت و طاعت کا سلسلہ قائم رہے اور اجر و ثواب ملتا رہے تم انسان ہو اور انسان کی فطرت خلقی طور پر ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی چیز سے کچھ عرصے کے بعد اکتا جاتا ہے اور پیزار ہو کر چھوڑ بیٹھتا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ عبادت و طاعت کا جذبہ اور ذوق شوق جو تم کو نصیب ہوا ہے تمہارے غلط طریقے پر استعمال کرنے کی وجہ سے بالکل ہی ختم ہو جائے یا اس میں کچھ فتور آجائے اور تم اس اجر و ثواب سے جو مل رہا تھا محروم ہو جاؤ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نقصان نہ ہو گا وہ بہر حال تمہاری عبادت سے بالکل بے نیاز ہے نقصان تمہارا ہو گا کہ تم سر تاپا اس کے فضل کے محتاج ہو تمہارا اس بے اعتدالی کی بنا پر بندگی کا وہ جذبہ اور ذوق و شوق ختم ہو جائے گا اور تم اجر و ثواب سے محروم ہونے کے علاوہ ایک عظیم نعمت سے بھی محروم ہو جاؤ گے اس لئے دن میں کام کرنے کا بہترین وقت صبح کا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے اشراق کے وقت تک تسبیح و تہلیل یا ذکر اللہ میں یا تلاوت کلام اللہ میں مصروف رہا کرو اور سورج نکلنے اور کافی بلند ہونے کے بعد چار رکعت اشراق کی نماز پڑھ کر خواہ آرام کیا کرو خواہ اور دینی و دنیاوی معاشی کاروبار میں مصروف ہو جایا کرو فرصت ملے تو زوال سے پہلے چار رکعت نماز چاشت کی پڑھ لیا کرو ظہر کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام (قیلولہ) کیا کرو اس کے بعد سے عصر کی نماز تک کام دھندوں میں لگے رہو عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک پھر ذکر اللہ یا تسبیح و تہلیل میں مصروف ہو جایا کرو کہ یہ شام کا وقت فراغت و اطمینان سے کام کرنے کا وقت ہے رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لئے بنائی ہے عشاء کی نماز پڑھ کر سو جایا کرو شب کا آخری حصہ بھی عبادت کے لئے بے حد موزوں ہے اس میں جتنی میسر ہو تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔

اس طرح کام کے بعد آرام اور آرام کے بعد کام کا سلسلہ برابر جاری رہے گا اور عبادت میں نشاط اور سرور و کیف بھی میسر آجائے اور اجر و ثواب کا سلسلہ بھی برابر جاری رہے گا اسکے برعکس اگر تم اس جذبہ عبادت و طاعت

سے شب دروزبے تماشا کام لوگے تو انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق لازمی طور پر یہ جذبہ فنا ہو جائے گا اور اس کے رد عمل کے طور پر سب کچھ چھوڑ بیٹھو گے حتیٰ کہ فرض عبادتیں بھی ترک ہونے لگیں گی اور اجر و ثواب کے بجائے گناہ اور عذاب الہی کے سزاوار ہو جاؤ گے اور یہ نتیجہ صرف تمہارے غلط استعمال کا ہو گا اس برے انجام سے ہی حدیث شریف میں خبردار کیا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کا کلام نہایت مختصر مگر ہمہ گیر ہوتا تھا چنانچہ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتيت جوامع الكلم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جامع (ہمہ گیر) کلمات دیئے گئے ہیں۔

اسی کا یہ کرشمہ ہے کہ اس ڈیڑھ سطر کی حدیث کی تشریح میں ڈیڑھ دو صفحے صرف ہو گئے اور بفضلہ اس تشریح کی ایک سطر بھی آپ بیکار اور بھرنی کی نہ پائیں گے۔

مشقت کشی کرنے والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل

وعن أنس رضي الله عنه ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارَتَيْنِ ، فَقَالَ : " مَا هَذَا الْحَبْلُ ؟ " قَالُوا : هَذَا حَبْلٌ لِرَزِينِ ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حُلُّوهُ ، لِيُصَلَ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرَقُدْ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں: (ایک مرتبہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو اچانک ایک رسی دو ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی دیکھی تو آپ نے دریافت کیا یہ (رسی) کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: یہ رسی زینب کی ہے وہ جب رات کو نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو اسی رسی سے لٹک کر (یعنی رسی کے سہارے) کھڑی ہوتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسی کو کھول دو (اور فرمایا) تم میں سے ہر شخص کو چاہئے کہ جب تک طبیعت میں نشاط باقی رہے (نماز پڑھے) جب نیند کے غلبہ کی وجہ سے نشاط میں فتور آجائے تو اس کو سو جانا چاہئے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: جس عبادت میں لطف و لذت اور کیف و سرور حاصل نہ ہو وہ عبادت تو کیا ریگزار اور زبردستی سر پڑے کا کام کا مصداق ہوگی اس سے رضا و قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور اور روح کے نشاط کا باعث نہیں ہو سکتی عبادت میں نشاط اور انہماک ایسا قوی ہونا چاہئے کہ تن بدن کا ہوش ہی باقی نہ رہے لیکن اس تغیر پذیر جسم اور اس کے قوی کے ساتھ تعلق رہتے ہوئے یہ مد ہوشی کی کیفیت چند لمحوں یا چند ساعتوں تو باقی رہ سکتی ہے اس سے زیادہ دیر تک نہیں باقی رہ سکتی لہذا ان چند ساعتوں کو ہی حاصل زندگی سمجھ کر عبادت کے لئے

مخصوص کر دینا چاہئے اور جو نبی جسمانی عوارض نیند، تھکن یا آکٹاہٹ وغیرہ کی وجہ سے اس نشاط میں فرق محسوس ہونے لگے عبادت ختم کر کے جسم کے ان ناگزیر تقاضوں کو پورا کرنا چاہئے نیند آرہی ہو تو سو جانا چاہئے تھکن محسوس ہو رہی ہو تو آرام کرنا چاہئے طبیعت آکٹا گئی ہو تو کوئی دوسرا طبیعت کو مرغوب جائز مشغلہ اختیار کرنا چاہئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

جعلت قرة عینی فی الصلوة میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔

اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نشاط کے اوقات کی رہنمائی فرمائی ہے (واللہ اعلم)

نیند کی حالت میں نماز پڑھتے رہنے کا نقصان

وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ” إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَفْغِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ “ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے لوگھنے لگے تو اسے نماز ختم کر کے اتنی دیر سو رہنا چاہئے کہ نیند کا اثر جاتا رہے اس لئے کہ تم میں سے جو شخص بھی لوگھتے لوگھتے نماز پڑھے گا تو کچھ بعید نہیں کہ وہ مغفرت کی دعا مانگنے کا قصد کرے (لیکن نیند کے غلبہ کی وجہ سے زبان قابو میں نہ رہے تو) مغفرت کی بجائے خود کو برا کہہ بیٹھے کو سنے لگے (مثلاً) خدا تو مجھے معاف کر دے کی بجائے اے خدا تو میرا استیذان کر دے کہہ بیٹھے۔

تشریح: یہ حدیث پہلی حدیث کا تتمہ ہے کہ اگر نیند کے غلبے کے باوجود حرص عبادت کی بنا پر نماز پڑھتا رہے گا تو اس کا نقصان یہ ہو گا کہ پڑھنا کچھ چاہے گا اور زبان سے نکلے گا کچھ اور لہذا اس حالت میں نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تو کیا اتنا بھی بھروسہ نہ رہے گا کہ نماز صحیح بھی ادا ہو رہی ہے یا نہیں ایسی نماز سے کیا فائدہ جس میں ثواب کے بجائے گنہگار ہونے کا اندیشہ ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کار

وعن ابی عبد اللہ جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال : كنت اصلي مع النبي . صلى الله عليه وسلم . الصلوات ، فكانت صلاحه لصدأ وعطبه لصدأ . (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو عبد اللہ جابر بن سمرة سواکی سے روایت ہے کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے (سب ہی) نمازیں پڑھا کرتا تھا تو آپ کی (جمہ کی) نماز بھی متوسط ہوتی تھی اور (جمہ کا) خطبہ بھی متوسط ہوتا تھا۔ (مسلم)

امام نووی حدیث کے لفظ قصد کے معنی بتاتے ہیں درازی اور کوتاہی کے درمیان (یعنی نہ بہت لمبے نہ بہت مختصر) تشریح: باوجودیکہ اس زمانہ میں ذریعہ ابلاغ صرف جمعہ کے خطبے ہی تھے کیونکہ مسلمان جمعہ کا بڑا اہتمام کرتے اور بیمار یا معذور لوگوں کے علاوہ سب ہی جمعہ کی نماز کے لئے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے بالفاظ دیگر مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع کہتے جلسہ (جمعہ کے دن) ہی ہوتا تھا اس لئے تمام اجتماعی اور قومی ضرورتوں سے مسلمانوں کو جمعہ کے خطبے میں ہی آگاہ کیا جاتا تھا مگر آپ نے جمعہ کا خطبہ بھی نماز بھی نہ کبھی زیادہ دراز پڑھائی اور نہ زیادہ مختصر بالفاظ دیگر آپ نے خطبہ جمعہ کو سیاسی مقاصد کے لئے کبھی آلہ کار نہیں بنایا اس کے برعکس آپ کی وفات کے بعد امراء بنی امیہ نے اپنے عہد حکومت میں طویل سے طویل خطبے دینے اور مختصر سے مختصر نمازیں پڑھانی شروع کر دی تھیں اور جمعہ کے خطبے کو سیاسی اغراض و مقاصد کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اتنے لمبے لمبے خطبے دیتے کہ جمعہ کی نماز کا وقت ہی نکل جانے کا اندیشہ ہوتا اسی لئے نماز مختصر سے مختصر پڑھاتے اسی بے اعتدالی کے خلاف حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں اور نمازوں کا حال بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نماز بھی متوسط ہوتی اور خطبہ بھی متوسط ہوتا تھا اور اسی بے اعتدالی کے خلاف امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو عبادات کے اعتدال کے ذیل میں بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم

ایک صحابی اور ان کے خیر خواہ دوست کا طرز عمل

وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه ، قال : آخى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَتْ : أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا ، فَجَلَّهَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا ، فَقَالَ لَهُ : كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ : مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكُلُ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ : نَمٌ ، فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ : نَمٌ . فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ : نَمٌ الْآنَ ، فَصَلَّيَا جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلَا أَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَأَعْطَ كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَدَقَ سَلْمَانُ " رواه البخاري .

ترجمہ: حضرت ابو جحیفہ و ہب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان (فارسی) اور ابو درداء کے درمیان دینی بھائی بندی کا رشتہ قائم کر دیا تھا چنانچہ ایک مرتبہ اسی دینی اخوت کے رشتہ سے سلمان ابو درداء سے ملاقات کے لئے ان کے گھر آئے تو سلمان نے (ابو درداء کی بیوی ام درداء کو معمولی حالت میں بیوہ عورتوں کی طرح بغیر زینت و آرائش کے) دیکھا تو کہا یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تمہارے بھائی ابو درداء کو تو دنیاوی کاموں سے کوئی رغبت

نہیں (پھر میں سنگھار کس کے لئے کروں میں تو شوہر ہونے کے باوجود بیوہ عورتوں کی طرح بے شوہر ہوں) تو (اتنے میں) ابو درداء آگئے اور مہمان کے لئے کھانا تیار کر لیا چنانچہ (دستر خوان پر کھانا رکھنے کے بعد) کہا آپ کھائیے میرا تو روزہ ہے سلمانؓ نے کہا میں اس وقت تک ہرگز نہ کھاؤں گا جب تک تم نہ کھاؤ گے (مجبوراً) ابو درداء نے بھی کھانا کھایا جب رات ہوئی تو ابو درداء (مصلیٰ سنجال کے) نماز پڑھنے چلے تو سلمان نے کہا کہاں جاتے ہو (گھر میں جاؤ) آرام کرو (رات سونے کے لئے ہے) جب آخر شب کا وقت ہوا تو سلمان نے ابو درداء کو بلایا اور کہا اب نماز پڑھو چنانچہ دونوں نے (تہجد کی) نماز پڑھی اس کے بعد سلمان نے ابو درداء سے کہا بلاشبہ تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے (مگر) تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے لہذا (تمہارا فرض ہے کہ) تم ہر حق والے کا حق ادا کرو (اپنے رب کی عبادت بھی کرو آرام بھی کرو اور بیوی کی حاجت بھی پوری کرو) اس کے بعد ابو درداء (اور سلمان) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان بالکل ٹھیک کہتے ہیں (ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر صاحب حق کا حق ادا کرے ورنہ قیامت کے دن جواب دہ ہوگا)

تشریح: اس حدیث سے شب و روز بے تحاشا عبادت کرنے کے نقصانات ظاہر ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم حقوق العباد کا ضیاع ہے جس سے دستکاری کی سوائے ان ارباب حقوق سے مرنے سے پہلے معاف کرانے کے اور کوئی سبیل نہیں اللہ تعالیٰ بھی حقوق العباد کو معاف نہیں فرمائیں گے عرفہ کے دن میدان عرفات میں ہی اللہ تعالیٰ نے حج مبرور ادا کرنے والوں کے سب ہی گناہوں کے معاف فرمادینے کا وعدہ فرمایا ہے مگر رد مظالم (یعنی بندے کی حق تلفیوں کے معاف کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا اگرچہ ایک ضعیف روایت سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ارباب حقوق سے حقوق معاف کر دینے کا ذمہ لیا ہے بہر حال امت اس پر متفق ہے کہ حقوق العباد بڑی سے بڑی عبادت کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک حدیث میں آتا ہے۔

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: الدواوین ثلثة دیوان لا یغفر اللہ الاشرک باللہ یقول اللہ عزوجل ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و دیوان لا یترکہ اللہ ظلم العباد فیما بینہم حتی یقتض بعضہم من بعض و دیوان لا یعباء اللہ بہ ظلم العباد فیما بینہم و بین اللہ فذاک الی اللہ ان شاء عذبه وان شاء تجاوز عنہ (رد المحتار فی شعب الایمان بحوالہ مشکوٰۃ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں تین رجسٹریں ہیں ایک رجسٹر تو ایسا ہے کہ جن لوگوں کے نام اس میں درج ہوں گے ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا (اس رجسٹر میں شرک کرنے والوں کے نام درج ہوں گے اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ بلاشک و شبہ شرک کرنے والوں کو ہرگز نہیں بخشے گا دوسرے رجسٹر میں جن کے نام درج ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک چھوڑے گا نہیں جب تک

کہ ان میں سے بعض کو (مظلوم کو) ظالم سے ظلم کا بدلہ نہ دلا دے گا اور تیسرے رجسٹر میں ان لوگوں کے نام ہوں گے جنہوں نے حقوق اللہ (نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ عبادتیں) ادا نہیں کئے اس رجسٹر کی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے۔ (تبہتی نے شعب الایمان میں روایت کیا)

قیامت کے دن اس اقتصاص (بدلہ لینے کی) بھیانک تفصیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث اس طرح بیان فرمائی ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتنرون ما المفلسن قالو: المفلس فیما من لادرم له ولا متاع فقال المفلس من امتی من یاتی یوم القیامۃ بصلوۃ وصیام و زکوٰۃ ویاتی قد شتم هذا و قذف هذا او اکل مال هذا و سفک دم هذا و ضرب هذا فیعطی هذا من حسناته فان فنیت حسناته قبل ان یقضی ما علیہ، اخل من خطایا ہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار (رواہ مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے) دریافت کیا: کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں مفلس وہی ہوتا ہے جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو نہ کوئی سامان (زمین جائیداد وغیرہ ہو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں (حقیقی) مفلس وہ شخص ہو گا جو قیامت کے دن نمازیں بھی لائے گا زکوٰۃ بھی روزے بھی (لیکن) اس نے کسی کو (بے تصور) گالیاں دی ہوں گی کسی پر (ناحق) ہتھتیں لگائی ہوں گی کسی کا (تاجاز طور پر) مال کھایا ہو گا کسی کا (ناحق) خون بہایا ہو گا کسی کو (بے تصور) مارا پیٹا ہو گا تو (ان تمام ظلموں اور حق تلفیوں کا اس طرح بدلہ دلا یا جائے گا کہ اس ظلم اور حق تلفی کرنے والے کے تمام حسنات (عبادتیں) اس کو دے دی جائیں گی (جس پر ظلم کیا تھا یا حق تلفیاں کی تھیں) اگر نیکیاں (عبادتیں) ختم ہو جائیں گی (اور حقوق باقی رہ جائیں گے) تو اس کی برائیاں (گناہ) اس (ظلم اور حق تلفیاں کرنے والے) پر ڈال دیئے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا (صحیح مسلم)

حقوق العباد اور ان کی اہمیت

ان دونوں حدیثوں کو پڑھنے کے بعد یہ نفل عبادات اور کارہائے خیر میں بے اعتدالیاں کرنے والے غور کریں کہ اجر و ثواب اور قرب الہی حاصل کرنے کا شوق و ذوق میں مست ہو کر عمر بھر دن کو روزے رکھنے رات بھر نمازیں پڑھنے کا عہد کرنے والے اپنے بیوی بچوں، قرابت داروں، مہمانوں، پڑوسیوں اور عام مسلمانوں کی کس قدر حق تلفیوں کے مرتکب ہوتے ہیں اور بجائے اجر و ثواب اور قرب الہی کے کس طرح ان حق تلفیوں کے بدلے میں جہنم کا ایندھن بنتے ہیں اعاذ باللہ منہ اسی لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حدیث میں اپنا طریق کار اور اپنی سنت بیان کرنے کے بعد اعلان فرمادیا تھا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی پس جو شخص میری سنت سے اعراض (و انحراف) کرتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

ہمارا حال: بہر حال یہ تو ان عبادتوں میں بے اعتدالیاں کرنے والوں کا حشر ہوا ان کے پاس تو حقوق کے بدلے میں دینے کے لئے عبادت کا ذخیرہ تھا بھی جس سے کچھ نہ کچھ تلافی ہو گئی ہم تمہی دامن لوگوں کے پاس تو یہ نفل عبادت کا ذخیرہ بھی نہیں ہم تو فرض عبادتیں بھی اوصوری سدھوری ادا کرتے ہیں نفل عبادتوں سے تو ہم بالکل ہی نا آشنا ہیں اور رات دن بے محابا لوگوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں بلا تکلف لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں دھوکے اور فریب سے لوگوں کے اموال ہضم کر جانے کو تو ہم اپنا بڑا ہنر سمجھتے ہیں اور فخر یہ کہتے ہیں ہم نے فلاں شخص یا تاجریا گاہک کو چکمہ دے کر خوب لوٹا اچھے خاصے روزہ نماز کے پابند لوگوں کا بھی معاملات اور کاروباری دنیا میں حال یہی ہے۔

حقوق العباد سے متعلق ان دو حدیثوں کو پڑھ کر ہماری آنکھیں تو کھل جانی چاہئیں خصوصاً معاملات اور کاروبار کے معاملہ میں خاص طور پر اس کا خیال رہنا چاہئے کہ کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ رہے اس کے علاوہ عائلی (خاندانی) اور اجتماعی (معاشرتی) زندگی کے اندر بھی ہر شخص کا حق ادا کرنا چاہئے اس کو شش کے بعد بھی جن لوگوں کے حق ذمے رہ جائیں ان سے اور اگر وہ وفات پا گئے ہوں تو ان کے ورثاء سے معاف کرا لینے چاہئیں اور پھر بھی اگر کچھ حقوق رہ جائیں تو ان اصحاب حقوق کے لئے مغفرت کی دعا کرنی چاہئے اور اپنا نام دوسرے رجسٹرر و مظالم (ادائے حقوق العباد میں) نہ آنے دینا چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔

عبادات میں بے اعتدالی کا اور نقصان

عبادات میں بے اعتدالی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ایسی حالت میں لازمی طور پر اصحاب حقوق کے حقوق ذمہ رہ جاتے ہیں لیکن عام طور پر حقوق العباد کے ادا نہ کرنے کو ہم کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے اسی لئے ہم نہایت بے دردی سے اصحاب حقوق کے حق برباد کر رہے ہیں اور جن کے حقوق ادا بھی کرتے ہیں مثلاً بیوی کے بال بچوں کے ماں باپ کے مہمانوں اور پڑوسیوں کے وہ بھی شخص روایتی خوش خلقی اور رواداری کی بنا پر ادا کرتے ہیں نہ کہ شریعت کی پابندی اور اللہ رسول کے حکم کی اطاعت کی بنا پر اس لئے کہ ہم اس کو کارِ ثواب سمجھتے ہی نہیں کتنی بڑی بد نصیبی اور محرومی ہے کہ سب کچھ کرتے ہیں مگر سب بیکار آخرت میں ذرہ برابر کام نہ آئے گا اس لئے کہ حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لکل امرء ما نوى (ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی) ہم صرف دنیا داری اور منہ دکھاوے کے لئے کرتے ہیں آخرت سے تو ہم بالکل ہی غافل اور بے خبر ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائیں اس بے حسی، غفلت اور جہالت سے نجات دیں اسی تشبیہ کی غرض سے ہم نے حقوق العباد کے متعلق یہ تفصیل بیان کی ہے۔

گزارش اور معذرت

ریاض الصالحین اور اس کی احادیث کے ترجمہ سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم

کی احادیث کے آئینہ میں اپنی صورت دیکھیں اور اس آئینہ کی مدد سے اپنے چہرہ کے داغ دھبے یا کالک دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی میں ان کی افادیت واضح ہو اور ہم محسوس بلکہ یقین کریں کہ گذرے ہوئے زمانوں کی بہت آج کی زندگی میں ان احادیث کی بے حد ضرورت ہے اور ان احادیث پر عمل کئے بغیر ہم صحیح معنی میں مسلمان اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلانے کے مستحق ہر گز نہیں جب تک ان حدیثوں پر عمل نہ کریں اور اپنی شب و روز کی زندگی کو اسلامی زندگی نہ بنائیں اسی مقصد کے تحت احادیث کی تشریح میں طوالت ہو جاتی ہے امید ہے کہ پڑھنے والے معاف فرمائیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی حرص عبادت کا عبرت انگیز واقعہ

وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، قَالَ : أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَقُولُ : وَاللَّهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ ، وَلَا قَوْمَنَّ اللَّيْلَ مَا عَشْتُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ ؟ " فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : " فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ ، وَنَمْ وَقُمْ ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بَعَشْرَ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ " قُلْتُ : فَإِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : " فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ " قُلْتُ : فَإِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : " فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ أَعْزَلُ الصِّيَامِ " . وَفِي رَوَايَةٍ : " هُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ " فَقُلْتُ : فَإِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ " ، وَلَإِنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي .

ترجمہ: ۱۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ میں کہتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں ہمیشہ دن کو روزے رکھا کروں گا اور رات بھر نماز پڑھا کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی یہ کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ! بیشک میں نے ہی یہ کہا ہے تو آپ نے فرمایا: (یاد رکھو) تم اس پر عمل ہر گز نہیں کر سکو گے (بہتر یہ ہے) تم (کچھ دن) روزے رکھو (کچھ دن) افطار کرو (روزے نہ رکھو) اور رات کو (کچھ حصہ میں) سوؤ اور (کچھ حصہ میں) نماز پڑھو اور ہر مہینہ میں تین دن روزے رکھو (مہینہ بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا) اس لئے کہ ایک نیکی کا ثواب دس گنا ملتا ہے اور اس حساب سے یہی (ہر مہینہ میں تین روزے) پورے سال کے روزے ہو گئے عبداللہ بن عمر

رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ (روزوں) کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا تو ایک دن روزہ رکھو و دن افطار کرو (روزہ نہ رکھو) میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں اور یہی سب سے زیادہ معتدل روزے ہیں اور ایک روایت میں ہے سب سے زیادہ افضل روزے ہیں تو میں نے عرض کیا: میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس سے زیادہ افضل روزے نہیں اور (آخر میں عبد اللہ بن عمرو کہا کرتے تھے) بخدا اگر میں نے ہر مہینہ میں تین روزے قبول کر لئے ہوتے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ابتداء) حکم فرمایا تھا تو یہ مجھے اپنے اہل و عیال اور مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتا۔

۲۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے یہ نہیں بتلایا گیا ہے کہ تم روزانہ دن کو روزے رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو (نماز پڑھتے ہو) میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) صحیح بتلایا گیا ہے) تو آپ نے فرمایا تم ایسا مت کرو (بلکہ) کچھ دن روزے رکھو کچھ دن افطار کرو رات کا کچھ حصہ آرام کرو اور کچھ حصہ نماز پڑھو اس کے بعد فرمایا تحقیق تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور بلاشبہ تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور بلاشبہ تمہارے آنے والوں (مہمانوں) کا بھی تمہارے اوپر حق ہے (ہمیشہ دن کو روزے رکھنے اور رات بھر قیام کرنے کی صورت میں بلاشبہ ان سب کے حقوق تلف ہوں گے) پھر فرمایا: بلاشبہ تمہارے لئے اتنا کافی ہے کہ تم ہر مہینہ میں تین روزے رکھ لیا کرو (مہینہ بھر کے روزوں کا ثواب مل جائے گا) اس لئے کہ تمہارے ہر نیک کام (عبادت) کا تمہیں دس گنا ثواب ملے گا (تو اس حساب سے ہر مہینہ میں تین روزے پورے سال کے روزے ہو گئے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو میں نے خود ہی سختی کو اختیار کیا اس لئے مجھ پر سختی عائد ہوئی چنانچہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے اندر (اس سے زیادہ) طاقت پاتا ہوں آپ نے فرمایا (تو پھر تم اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام) کے روزے رکھو اس سے زیادہ نہ رکھو میں نے عرض کیا: داؤد علیہ السلام کے روزے کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا آدھے سال کے روزے (ایک دن روزہ ایک دن افطار کے حساب سے) تو عبد اللہ بن عمرو بوڑھا ہو جانے کے بعد کہا کرتے تھے کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخفیف کو قبول کر لیتا (صیام داؤد ایک دن روزہ ایک دن افطار کی ذمہ داری نہ لیتا)

۳۔ اور ایک روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ناگواری کے طور پر) فرمایا: کیا مجھے یہ

نہیں بتلایا گیا ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو اور رات بھر (نماز میں) قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ! آپ کو ٹھیک بتلایا گیا ہے مگر میرا ارادہ اس (شب و روز کی عبادت) سے خیر پر ہی مبنی ہے (یعنی نیک نیتی سے میں نے یہ ارادہ کیا ہے) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (زری سے) فرمایا: تو تم اللہ کے نبی داؤد (علیہ السلام) کے روزے رکھو اس لئے کہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے اور ہر مہینہ میں ایک قرآن (رات میں) پڑھا کرو (ایک پارہ روزانہ) میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ (قرآن پڑھنے کی) طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا: تو بیس دن میں ایک قرآن پڑھا کرو (ڈیڑھ پارہ روزانہ) میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا: اچھا سات دن میں ایک قرآن پڑھا کرو اس سے زیادہ مت پڑھو۔ عبد اللہ بن عمرو (آخر عمر میں) کہتے ہیں (میں نے خود ہی سختی اختیار کی اس لئے مجھے سختی اٹھانی پڑ رہی ہے) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا خبر تمہاری عمر زیادہ ہو؟ عبد اللہ بن عمرو کہتے ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اور میری عمر کافی دراز ہوئی) چنانچہ اب جب کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ کیا اچھا ہو تا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت (یعنی ایک مہینہ میں ایک قرآن کو قبول کر لیتا ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا تمہاری اولاد کا بھی تمہارے اوپر حق ہے (وہ کیسے ادا کرو گے) اور ایک روایت میں ہے جس نے ہمیشہ (بارہ مہینے روزانہ) روزے رکھے اس نے روزے نہیں رکھے بلکہ ایک وقت کھانے پینے کی عادت ڈال لی اور ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں اور سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے وہ آدھی رات سوتے اور ایک تہائی رات نماز پڑھتے اور (آخری) چھٹے حصہ میں (پھر) سو جاتے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تو پیچھے نہ ہٹتے (اگر وہ روزانہ روزے رکھتے اور رات بھر نماز پڑھتے تو دشمنوں سے مقابلہ کی طاقت نہیں باقی رہ سکتی تھی)۔

۴۔ ایک اور روایت میں ہے: (عبد اللہ بن عمرو کہتے ہیں) میرے والد نے میرا نکاح ایک عالی خاندان خاتون سے کیا تھا اس لئے وہ اپنی بہو (بیٹی کی بیوی) کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے اور شوہر کے متعلق دریافت کرتے تو وہ ان کو جواب دیتی مرد ہونے کے اعتبار سے وہ بہت اچھے مرد ہیں لیکن انہوں نے کبھی ہمارے بستر کو پامال نہیں کیا نہ ہی کبھی ہمارے دل کو ٹٹول کر دیکھنے کی جستجو کی (کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے) جب سے میں ان کے گھر آتی ہوں (ان کا طرز عمل یہی ہے) تو جب اس (بے) توجہی اور بے خبری کی کیفیت کا زمانہ زیادہ دراز ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر

کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ان کو میرے پاس بھیج دو چنانچہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا: تم روزے کس طرح رکھتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا ہر روز روزہ رکھتا ہوں آپ نے فرمایا: قرآن کس طرح پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہر رات کو ایک قرآن ختم کرتا ہوں تو آپ نے وہی ہدایت فرمائی جس کا بیان پہلے گزر چکا ہے (کہ ایک دن چھوڑ کر روزے رکھو اور سات راتوں میں ایک قرآن ختم کرو) چنانچہ دن میں اپنے کسی گھر والے کو (بیوی ہی ہو سکتی ہے) جو ساتواں حصہ (منزل) رات کو پڑھنا ہو تانا لیا کرتے (دور کرتے) تاکہ رات کو پڑھنا آسان ہو اسی طرح ضعف کی وجہ سے جب دوسرے دن روزہ نہ رکھ پاتے تو جتنے دن کے روزے چھوٹے ان کو یاد رکھتے اور قوت آجانے کے بعد ان کی قضا کرتے تاکہ جو معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھا اور جو کام اپنے ذمہ لیا تھا اس میں فرق نہ آئے۔

امام نووی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں (عبداللہ بن عمرو سے متعلق) یہ تمام روایتیں صحیح ہیں بیشتر روایتیں بخاری مسلم دونوں میں مذکور ہیں کچھ روایتیں صرف بخاری یا صرف مسلم میں مذکور ہیں

تشریح: اس حدیث میں سے مجاز بے تحاشا عبادت گزاری سے حضرت عبداللہ بن عمرو کو منع کرنے کا موجب وہی حق تلفیاں ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں بھی آیا ہے اور تفصیل سے اس باب کی دوسری حدیثوں اور ان کی تشریحات میں گزر چکا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے صحیحین اور غیر صحیحین کی تمام روایتوں کو اسی لئے جمع کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو کا پورا واقعہ قارئین کے سامنے آجائے اور عبادت میں بے تحاشا بے اعتدالی کا نتیجہ بھی سامنے آجائے۔

صحابہ کرام ذرا دیر کی غفلت کو بھی نفاق سمجھتے تھے

وعن أبي ربيعٍ حنظلة بن الربيع الأسيديّ الكاتب أحد كتّاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، قال : لقيني أبو بكر رضي الله عنه ، فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ قلتُ : نائفٌ حنظلة ! قال : سبحان الله ما تقول ؟ قلتُ : نكونُ عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُذكّرنا بالجنّة والنار كأننا رأينا رأي العين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عافسنا الأزواج والأولاد والضيّعات نسينا كثيراً ، قال أبو بكر رضي الله عنه : فوالله إننا لنلقى مثلَ هذا ، فانطلقتُ أنا وأبو بكر حتّى دخلنا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . فقلتُ : نائفٌ حنظلة يا رسول الله ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : " وما ذاك ؟ " قلتُ : يا رسول الله ، نكونُ عندك تُذكّرنا بالنار والجنّة كأننا رأينا العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيّعات نسينا كثيراً . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : " والذي نفسي بيده ، لو

تَدُومُونَ عَلَيَّ مَا تَكُونُونَ عِنْدِي ، وَفِي الذُّكْرِ ، لَصَافَحْتَكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَيَّ فَرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ ، لَكِنَّ يَا حَنْظَلَةَ سَاعَةً وَسَاعَةً " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . رواه مسلم .

قولہ: "ربعی" بکسر الراء "والاسیدی" بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياءً مشددة مكسورة.

وقوله: "عافسنا" هو بالعین والسين المهملتين: اى عالجتنا ولاعبنا. "والضيعات" المعاش

ترجمہ: حضرت ابو ربیع حنظلہ بن الربیع الاسیدی الکاتب سے روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے ایک تھے وہ کہتے ہیں (ایک دن راستہ میں) ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے دریافت کیا (کہو) حنظلہ کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا: حنظلہ تو منافق ہو گیا تو انہوں نے (حیران ہو کر) کہا: سبحان اللہ یہ تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا (جس وقت) ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت (اور جنت میں لے جانے والے اعمال و افعال) دوزخ (اور دوزخ میں لے جانے والے اعمال و افعال) یاد دلاتے ہیں تو ہم پر دنیا و ما فیہا سے بے خبری اور خوف ورجا امید و بیم کی دو گونہ کیفیت کی وجہ سے ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے جیسے جنت و دوزخ ہمارے سامنے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں اور جب ہم آپ کے پاس سے آجاتے ہیں (اور گھر پہنچتے ہیں تو) بیوی بچوں میں اس طرح گھل مل جاتے ہیں یا معاشی مشغلوں میں اس طرح مصروف ہو جاتے ہیں کہ جنت و دوزخ کی بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں تو (یہ سن کر) ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تو خدا کی قسم ہمارا حال بھی بالکل ایسا ہی ہے تو میں اور ابو بکر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہوئے جب ہم دونوں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! حنظلہ تو منافق ہو گیا فرمایا: یہ کیسے؟ میں نے عرض کیا ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت (اور جنت میں لے جانے والے اعمال و افعال) اور دوزخ (اور دوزخ میں لے جانے والے اعمال و افعال) یاد دلاتے ہیں تو ہم پر دنیا و ما فیہا سے بے خبری و بیخودی اور امید و بیم کی ایسی دو گونہ حالت طاری ہو جاتی ہے جیسے جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہیں (اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہم آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو بیوی بچوں میں گھل مل جاتے ہیں اور معاشی مشغلوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور جنت و دوزخ کی بیشتر باتیں بھول جاتے ہیں (دنیا اور دنیوی معاملات ہمارے دل و دماغ پر اس طرح مسلط ہو جاتے ہیں کہ ہم جنت و دوزخ سب کو بھول جاتے ہیں) یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر تم اسی (دنیا و ما فیہا سے بے خبری اور ذکر و فکر میں محویت کی) حالت میں ہمیشہ رہو جس میں میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستوں میں (جاتے آتے) تم سے مصافحے کریں لیکن اے حنظلہ یہ بے

خبری کسی کسی وقت اچھی ہے تین مرتبہ یہی فرمایا (ورنہ دنیا اور امور دنیا سے متعلق فرائض کیسے ادا کر سکتے ہو) تشریح: حضرت حظلہ اور ابو بکر صدیقؓ نے ظاہر اور باطن اور دل اور زبان کے اختلاف کی طرح قلب کی حالتوں اور کیفیتوں کے اختلاف کو بھی نفاق سمجھ کر اپنے کو منافق سمجھ لیا تھا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس غلط فہمی کو دور بھی فرمایا اور اس کی مصلحت بھی بیان فرمائی کہ اگر دنیا و مافیہا سے لاتعلقی اور بے خبری کی وہی کیفیت ہمہ وقت قائم رہے جو میرے پاس موجودگی کے وقت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر دنیا اور امور و معاملات دنیویہ سے متعلق جو احکامات واجب اور فرائض عائد کئے ہیں وہ کیسے انجام دیئے جاسکتے ہیں؟ اس لحاظ سے یہ دنیا و مافیہا سے لاتعلقی اور بے خبری کی جستجو بھی حد سے بڑھی ہوئی خدا پرستی اور بے اعتدالی کا نتیجہ ہے اور اس کا نقصان بھی دنیا اور امور و معاملات دنیویہ سے متعلق احکام و فرائض سے محرومی ہے جیسا کہ عبادت میں بے اعتدالی کا نتیجہ حقوق العباد کی حق تلفی ہے جو انتہائی خطرناک ہے جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں مزید وضاحت کے لئے یوں کہتے کہ بظاہر دنیا اور امور دنیویہ سے بے تعلقی اور بے خبری بڑی خوش آئند چیز ہے اور فتاویٰ اللہ کی منزل تک پہنچانے میں بے حد مدد و معاون معلوم ہوتی ہے اور قرآن حکیم کے اعلان:

فَقَرُّوْا اِلَى اللّٰهِ اِنِّى لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مِّمَّنْ (سورۃ الذاریات: ۳-۴ آیت ۵۰)

پس بھاگو اللہ کی جانب بیشک میں اس کی جانب سے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں

پر عمل کرنے کا پہلا قدم ہے مگر یہ کیفیت اور محویت اگر ہمہ وقت قائم اور کار فرما رہے گی تو وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کس طرح ادا کئے جاسکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر ان امور سے متعلق عائد کئے ہیں لیکن کسی کسی وقت اس کیفیت کا قلب پر طاری ہونا بھی بے انتہا ضروری ہے ورنہ انسان صرف سگ دنیا اور خالص دنیا پرست بن کر رہ جائے اور نفس و خواہشات نفس اس پر اس طرح مسلط ہو جائیں کہ حرام و حلال میں فرق اور جائز و ناجائز میں امتیاز کئے بغیر نفس کی اغراض و خواہشات پورا کرنے میں منہمک ہو کر خدا کے خوف اور آخرت کے محاسبہ اور جزاء و سزا سے بالکل بے پروا ہو کر نفس اور خواہشات نفس کا پرستار بن جائے۔

الْمَنْ اتَّخَذَ الْهَوَا وَ اضْلَهَ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمِ

تو کیا وہ شخص جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہو (اور اس بنا پر) اللہ نے اس کو جان کر گمراہ بنا دیا

ہو (اس کو کوئی ہدایت کر سکتا ہے)

کا مصداق بن جائے اس لئے و قافو قفا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا بھی انتہائی ضروری ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیر اور یاد دہانی کے ذریعہ خدا کا خوف اور آخرت کے محاسبہ اور جزاء و سزا کا ڈر برقرار رہے یعنی خدا کا بندہ اور خدا پرست رہے اور آپ کے پاس سے جا کر ان تمام احکام پر عمل کرے اور ان تمام فرائض کو ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر عائد کئے ہیں۔

افسوس آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو ہمارے درمیان نہیں ہے مگر آپ کے وہ تمام اقوال و افعال جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سنتے اور دیکھتے تھے وہ سب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کتب حدیث کے اندر موجود و محفوظ ہیں انہی کتب حدیث میں سے ایک کتاب ”ریاض الصالحین“ بھی ہے جس میں مذکور حدیثوں کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ باور کیجئے اور اس یقین کے ساتھ پڑھئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں اور جنت دوزخ سے متعلق جو تذکیر اور یاد دہانی آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا کرتے تھے ہمیں بھی فرما رہے ہیں اگر توفیق الہی ہمارے شامل حال ہوئی تو ہم بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح اس تذکیر و یاد دہانی سے فائدہ اٹھا کر خدا اور رسول کے تمام احکام اور عائد کردہ تمام فرائض ادا کرنے لگیں گے یہ ہی وہ اقتصاد اور میانہ روی ہے جس کی غرض سے امام نووی علیہ الرحمۃ نے حضرت حظلہؓ کی اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے۔

گویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ احادیث میں عملی بے اعتدالی اور اس کی مضرتوں سے آگاہ فرما کر عملی میانہ روی کی تعلیم دی ہے اور اس حدیث میں ذہنی اور فکری بے اعتدالی اور اس کی مضرت سے آگاہ فرما کر لوکن یا حنظلہ ساعة فساعة کے ذریعہ فکری اور ذکر میاندہ روی کی تعلیم دی ہے۔

احادیث اور کتب حدیث پڑھنے کی ضرورت

اس لئے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی روزانہ دن میں یارات میں کسی کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیر اور یاد دہانی سے متعلق احادیث اسی تصور اور یقین کے ساتھ مطالعہ کیا کریں اور پڑھا کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں تو ان شاء اللہ العزیز ان احادیث سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔

حدیث کی کتابوں کے پڑھنے کا مقصد!

حدیث کی کتابوں خصوصاً ”ریاض الصالحین“ میں حدیثوں کا مطالعہ اور وقتاً فوقتاً پڑھنا دوسرے علوم و فنون خصوصاً تاریخ کی کتابوں کے پڑھنے سے بالکل مختلف ہے اس لئے کہ اور کتابوں کا پڑھنا تو صرف آگاہی اور معلومات میں اضافہ کی غرض سے مطلوب ہوتا ہے لیکن حدیث کی کتابوں کے مطالعہ اور احادیث کے پڑھنے سے مطلوب و مقصود ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھالنا اور سنوارنا اور حقیقی اسلامی زندگی بنانا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اسی مقصد کے تحت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں یا ان کے ترجموں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

شرعاً جائز اور ناجائز نذروں و منتوں کا حکم

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو

برجل قائم فسأل عنه ، فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، ويصوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " مرؤه ، فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتيم صومه " رواه البخاري .

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں (ایک دن) اس اثنا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اچانک ایک آدمی کو دیکھا کہ (وہ مسلسل کھڑا ہے تو آپ نے اس کے متعلق دریافت کیا) (یہ کون ہے کھڑا کیوں ہے بیٹھتا کیوں نہیں) تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یہ ابو اسرائیل ہے اس نے نذر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا ہے گانہ بیٹھے گانہ (کسی چیز کے) سایہ کے نیچے آئے گانہ بات کرے گا اور روزہ رکھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو اس کو چاہئے کہ بات کرے اور (کسی چیز کے) سایہ میں آئے اور بیٹھ جائے اور روزے کو پورا کرے۔

تشریح: اس حدیث سے پہلی حدیثوں میں بے تحاشا عبادت کرنے کا جوش و خروش شرعی عبادت کے دائرہ میں تھاملاً مسلسل روزے رکھنا ساری رات نمازیں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادت میں اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دی اور بے اعتدالی سے منع فرمایا۔

مگر اس شخص ابو اسرائیل نے محض جہالت کی بنا پر اپنے کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانے کو ہی عبادت سمجھ لیا اس لئے مذکورہ نذر مانی جو پانچ چیزوں پر مشتمل ہے۔

(۱) دھوپ میں کھڑا رہنا (۲) کسی چیز کے سایہ کے نیچے نہ آنا (۳) نہ بیٹھنا (۴) بات نہ کرنا (۵) روزہ رکھنا ان پانچ چیزوں کے اندر صرف ایک روزہ شرعی عبادت ہے اس لئے روزے کو پورا کرنے کا حکم فرمایا: (۴) پہلی اُمتوں میں عبادت تھی اور خاموشی کا روزہ رکھا جاتا تھا شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں چپ رہنا کوئی عبادت نہیں باقی تینوں چیزوں کا مقصد اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایذا پہنچانا ہے اس لئے ان چاروں باتوں سے منع فرمایا۔

شریعت محمدیہ میں نذر (یعنی منت صرف انہی چیزوں کی مانی جاسکتی ہے جو از قبیل عبادت ہوں مثلاً نمازیں پڑھنا روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا حج کرنا قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہمارے اس جہالت کے دور میں بھی اس طرح کی منتیں مانی جاتی ہیں مثلاً کسی زندہ یا مردہ پیر کے نام پر جانور قربان کرنا یا زندہ جانور چھوڑنا وغیرہ اس قسم کی نذریں ماننے پر شدید وعید آئی ہے اور گناہ کبیرہ ہے بلکہ اندیشہ کا فر ہو جانے کا بھی ہے۔ العیاذ باللہ من تلک الجہالات (اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں اس قسم کی جہالتوں سے) تاواقف شخص کو منت ماننے سے پہلے کسی عالم یا مفتی سے دریافت کر لینا چاہئے ورنہ ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔

پند رھواں باب باب فی المحافظۃ علی الاعمال اعمال (خیر) کی حفاظت (اور پابندی) کا بیان

۱. الم یان للذین امنوا ان تخشع قلوبہم لذكر الله وما نزل من الحق ولا یكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فقسست قلوبہم وکثیر منهم فسقون (سورہ آلہ عر ۲۲ آیت ۶۶)
ترجمہ۔ کیا (ابھی) وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لئے کہ انکے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے اور اس حق کیلئے جو نازل ہوا ہے اور وہ نہوں ان لوگوں کی مانند جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل (پتھر کی طرح) سخت ہو گئے اور (اب) ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔

۲. وقال تعالیٰ: وقفینا بعیسی ابن مریم واثینہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رافۃ ورحمة ورحمۃ ابتدعوها ما کتبنا علیہم الا ابھاء رضوان اللہ فمارعوا حق رعایتها (پہرہ ۲۷ سورہ صدہ آیت ۲۷)
ترجمہ۔ اور پیچھے بھیجا ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور ہم نے دی عیسیٰ کو انجیل اور ان لوگوں کے دلوں میں شفقت اور مہربانی رکھ دی جنہوں نے عیسیٰ کی پیروی کی اور رہبانیت (ترک دینا) تو انہوں نے از خود نکالی تھی ہم نے اس رہبانیت کو ان پر فرض نہیں کیا تھا بجز اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے پس نہیں بھیایا اس رہبانیت کو انہوں نے جیسا کہ اس کو نبھانا چاہئے تھا۔

۳. وقال تعالیٰ: ولا تكونوا کالذین نقصت غزلہا من بعد فواقنکالا (سورہ نحل آیت ۹۲)
ترجمہ۔ اور تم اس عورت کی مانند نہ ہو جس نے اپنے کپڑے ہونے سوت کو مضبوط کاٹنے کے بعد لٹھیر ڈالا (تار ہار کر دیا)
۴. وقال تعالیٰ: واعبد ربک حتی یاتیک الیقین (سورہ البقرہ آیت ۶۹)
ترجمہ۔ اور (اے نبی) تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین (یعنی موت) آجائے۔

آیات کی تفسیر

پہلی آیت کریمہ کا مقصد ام سابقہ خاص کر یہودیوں کے انجام بد سے ڈرانا ہے کہ اہل ایمان کے دل بلا تاخیر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دین حق کے احکام کی پابندی میں مصروف ہو جانے چاہئیں ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ معقول جواب باقی نہیں

رہی ذکر اللہ اور دین حق کے احکام کی پابندی میں تاخیر اور ٹال مٹول کی وجہ سے آج کل میں مدت دراز گزرتی چلی جائے اور دلوں میں جذبہ عبادت و طاعت سرد پڑ جائے اور رفتہ رفتہ پہلی اُمتوں کی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین سے باغی اور علانیہ نافرمان خسر الدنیا والاخر اکام صدق بن جائیں جیسا کہ یہودیوں کا حشر ہوا یہ ان دنیا دار لوگوں کا انجام ہوتا ہے جو دنیا کی اغراض و خواہشات میں منہمک اور مستغرق ہو کر خدا رسول کے احکام سے غافل اور بے پروا بلکہ بے باک ہو جاتے ہیں حرام و حلال کی تمیز اور جائز ناجائز کا فرق ہی ختم کر دیتے ہیں۔

دوسری آیت کریمہ میں ان کے برعکس ان حد سے متجاوز خدا پرستوں کا انجام مذکور ہے جنہوں نے رضائے الہی حاصل کرنے کا انوکھا اور غیر فطری طریقہ نکالا کہ تمام دنیاوی اور جسمانی لذائذ اور آرام و آسائش سے کلی طور پر دستبردار ہو جانے اور تارک الدنیا بن جانے کو ہی رضائے الہی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا اور ان تارک الدنیا راہبوں اور نشوں نے بستیوں سے دور خانقاہوں میں ڈیرے ڈال لئے مگر وہ اس طریقہ کو بھانہ سکے (اور تارک الدنیا کہلانے کے باوجود درون خانہ یعنی گرجاؤں کے تہ خانوں میں اول درجہ کے نفس پرست اور اعلیٰ درجہ کے دنیا دار ثابت ہوئے جیسا کہ عیسائی گرجاؤں اور کلیساؤں کی رودادوں سے ظاہر ہوتا ہے۔

دنیا کی دو بڑی قوموں (یہودیوں اور عیسائیوں) کے اس انجام بد کا باعث صرف ان کی افراط و تفریط اور بے اعتدالی ہے ایک قوم خدا پرستی میں اپنی حد سے آگے بڑھ گئی اور دوسری قوم حد اعتدال سے گر گئی اور ناکام ہو گئی اسی لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

جنتکم بالحنيفية السهلة ليلها ونهارها سواء

میں تمہارے لئے ایسی آسان حنیفی شریعت لایا ہوں جس کے لیل و نهار برابر ہیں۔

سور تیسری آیت کریمہ میں اسی بے اعتدالی کو ایک احمق بڑھیا کا فعل قرار دے کر کہ صبح سے دوپہر تک ہایت مضبوط سوت کا تتی ہے اور شام تک کتے ہوئے سوت کو ادھیڑ کر تار تار کر دیتی ہے اگلے روز پھر یہی ادھیڑ بن شروع کر دیتی ہے اور اسی میں عمر گزر جاتی ہے مردان راہ خدا کو اس کوڑھ مغز بڑھیا کے مانند بننے سے روکا ہے۔

۳۔ چوتھی آیت کریمہ میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتے دم اسی افراط و تفریط سے پاک دین فطرت پر قائم رہنے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہنے کا حکم دیا ہے اسلئے کہ یہی وہ معتدل دین فطرت ہے جسکے متعلق ارشاد ہے۔

فطرت اللہ العی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ (سورہ اراوم آیت ۳۰)

یہ اللہ تعالیٰ کی (پسندیدہ) فطرت ہے جس پر تمام لوگوں کو پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی آفرینش میں مطلق تبدیل نہیں آسکتی۔

اس فطرت الہیہ میں جو بھی کمی بیشی افراط و تفریط کرے گا جو فلاح دارین سے محروم اور خسر الدنیا

والاخرت کا مصداق بنے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کہئے آپ کی سنت "کامیان چودھویں باب کی دوسری حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کے تحت ساری عمر اس پر قائم رہے۔
یہ حدیث تو پہلے گزر ہی چکی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہی ہے جس پر دیندار ہمیشہ قائم رہے۔

باب کی پہلی حدیث جس میں حضرت عائشہؓ نے ازراہ تعجب ایک شب بیدار خولہ نامی عورت کا حال بیان کیا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرما کر حکم دیا تھا کہ تم پر لازم ہے کہ تم اتنی ہی عبادت کیا کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو اور آخر میں مذکورہ سابق فقرہ فرمایا تھا اس کی تشریح اس سے پہلے باب میں گزر چکی ہے دیکھ لیجئے۔
واما الاحادیث فمنها حدیث عائشہ وکان احب الدین الیہ ما داوم صاحبہ علیہ وقد سبق قبلہ اور احادیث میں ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا وہ کام زیادہ محبوب تھا جس پر اس کا کرنے والا دوامت اختیار کرے اور یہ حدیث باب ماقبل میں گزر چکی ہے۔

نماز تہجد کی قضا اور اس کا وقت

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ " رواه مسلم .

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص (دکھ بیماری یا سفر وغیرہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر) اپنی رات کا وظیفہ (تہجد کی نماز، قرآن کریم کی تلاوت، اسم ذات کا ذکر وغیرہ معمولات) سب کے سب یا اس میں سے بعض (رات کو نہ کر سکا اور) سو گیا پھر فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان (یعنی آفتاب بلند ہونے کے بعد سے زوال سے پہلے تک) اس کو پڑھ لیا (یعنی قضا کر لیا) تو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ گویا اس نے رات کو ہی پڑھا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک عبادت گزار مسلمان کے لئے بیخ وقتہ فرض نمازیں ادا کرنے کے علاوہ رات میں تہجد کی نماز، تلاوت قرآن کریم اللہ کا ذکر وغیرہ کچھ نہ کچھ معمولات بھی ضرور ہونے چاہئیں اور ان پر پابندی بھی ضرور کرنی چاہئے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

خیر العمل مادیم علیہ وان قل بہترین عمل وہ ہے جس کی پابندی کی جائے اگرچہ کتنا ہی تھوڑا ہو۔
اگر کسی ناگزیر مجبوری کی وجہ سے وہ معمولات یا ان میں سے کوئی معمول چھوٹ جائے تو ان کو ایک فرض نماز (فجر) کے بعد سے دوسری فرض نماز (ظہر) کا وقت آنے سے پہلے ادا کر لئے جائیں اللہ تعالیٰ اپنی کریمی سے

اس بلا تاخیر قضا کو ادائیگی فرمائیں گے اور مداومت و استقامت میں رخصت نہ پڑے گا لیکن اگر مزید تاخیر کی یا یہ سمجھ کر کہ نفل ہی تو ہیں اگر ایک رات نہ پڑھیں تو کون سا گناہ ہو جائے گا تو سمجھ لینا چاہئے کہ یہ مکار نفس کا فریب ہے وہ ان معمولات کی عادت چھڑانا اور استقامت کے عظیم مرتبہ اور اجر و ثواب سے محروم کرنا چاہتا ہے اس کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا چاہئے اور آفتاب بلند ہونے کے بعد سے زوال سے پہلے تک ضرور پڑھ لینا چاہئے تاکہ معمول میں فرق نہ آئے اور شب بیداری کی عادت نہ چھوٹے (استقامت کی اہمیت و فضیلت باب الاستقامت کے ذیل میں مفصل بیان ہو چکی اس کو پھر پڑھ لیجئے)

قیام لیل (شب بیداری) کی اہمیت

سورۃ مزمل میں جو رات کے بیشتر حصہ قیام لیل کا حکم آپ کو دیا گیا تھا ایک سہل تک اس حکم پر عمل کرنے کے بعد آیت کریمہ فاقروا لیسر من القرآن (پس پڑھ لیا کرو جتنا قرآن آسان ہو) کے ذریعہ قیام لیل میں تخفیف فرمانے کے بعد بھی جس کی تفصیل باب مجاہدہ کے ذیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں درشل ہے۔

علم ان سیکون منکم مرضی و اخرون یضربون فی الارض یتفقون من فضل اللہ و اخرون

یقاتلون فی سبیل اللہ فاقروا ما تیسر منہ (سورۃ المزمل آیت ۲۰)

اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے اور کچھ لوگ اللہ کا فضل (رزق) حاصل کرنے کی غرض سے (معاشری) سفر بھی کریں گے اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ بھی کریں گے لہذا جتنا تم سے آسانی کے ساتھ ہو سکے (ہر حالت میں) قرآن پڑھ لیا کرو۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو بیماری یا سفر تجارت یا سفر جہاد جیسے اعذار کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ قیام لیل ضرور کرنا چاہئے اگرچہ چند رکعتیں ہی ہوں اور کتنی ہی مختصر قرأت ہو۔

چنانچہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ کریم اور صلحاء امت کا بھی معمول رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ قیام لیل ضرور کرتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے اگر کسی رات کو کسی ناگزیر شرعی عذر کی وجہ سے ترک ہو جاتا تو سورج نکلنے کے بعد سے زوال سے پہلے تک اس کی قضا کر لیا کرتے تھے تاکہ عادت نہ چھوٹے اور تساہل نہ پیدا ہو تجربہ شاہد ہے کہ اگر ایک دن بھی قیام لیل (رات میں قیام) یا اس کی قضا دن میں نہ کی جاسکے تو بڑے سے بڑے تہجد گزار مسلمان میں بھی سستی پیدا ہو جاتی ہے اور ہمتوں بلکہ مہینوں تہجد کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی اور دوبارہ تہجد کی نماز شروع کرنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے۔

ہماری حالت

لیکن ہم ”دائے برما“ (افسوس ہمارے اوپر) تو باجماعت فرض نمازوں کی پابندی بھی ہم سے نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ

ہمارے حال پر رحم فرمائیں اور قیام لیل (شب بیداری) کی سعادت اور اس پر مداومت کی توفیق عطا فرمائیں آمین ثم آمین۔
جن خوش نصیب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قیام لیل (شب بیداری) کی سعادت عطا فرمائی ہو ان کو اس کی قدر کرنی چاہئے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے شب کا کوئی معمول چھوٹ جائے تو اس حدیث کے مطابق زوال سے پہلے اس کی قضا کر لینی چاہئے تاکہ مداومت اور استقامت کا مرتبہ حاصل ہو جس کی تفصیل اس کتاب کے آٹھویں باب میں آپ پڑھ چکے ہیں دوبارہ پڑھ لیجئے تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔

قیام لیل اور نماز تہجد کے پابند لوگوں کو تنبیہ

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل" متفق عليه.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے عبد اللہ تم فلاں شخص کی مانند مت ہو جانا کہ وہ قیام لیل کیا کرتا (اور تہجد کی نماز پڑھا کرتا) اس کے بعد اس نے قیام لیل چھوڑ دیا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہ وہی عبد اللہ بن عمرو بن العاص ہیں جن کی حرص عبادت کا تفصیلی حال آپ چودھویں باب کی نویں حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمشکل سمجھا بجا کر صیام داؤد (ایک دن روزہ ایک دن افطار) پر آمادہ کیا تھا اور داؤد علیہ السلام کے ہی قیام لیل (آدمی رات سونا اور دوسری آدمی رات کے ایک حصے میں نماز پڑھنے اور ایک حصہ میں سونے) پر آمادہ کیا تھا اور ہفتہ میں ایک قرآن ختم کرنے کی اجازت دی تھی اور یہی وہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص ہیں جو آخر عمر میں تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تحفیف (مہینہ بھر میں تین روزے) کو قبول کر لیتا بے اعتدالی کا یہی انجام ہوتا ہے مگر تھے عہد کے پکے آخر عمر میں گویہ تمنا کرتے تھے مگر جو عہد کیا تھا (ایک دن روزہ ایک دن افطار) اس پر مرتے دم تک قائم رہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تم نے یہ بے اعتدالی اختیار تو کی ہے مگر فلاں شخص کی طرح سب کچھ مت چھوڑ بیٹھنا۔ واللہ اعلم

تہجد کی کتنی رکعتیں قضا کی جائیں

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. رواه مسلم.

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کبھی بیماری کی وجہ سے رات میں کچھ نماز چھوٹ جاتی تو آپ دن میں (زوال سے پہلے) بارہ رکعات پڑھ لیا کرتے تھے (مسلم)

تشریح: یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عملی معمول ہے جس کی اسی باب کی دوسری حدیث میں تعلیم دی ہے فرض نماز اور واجب وتر تو جس طرح بھی پڑھے جاتے رات ہی میں پڑھتے تھے کبھی قضا نہیں کرتے تھے نماز تہجد اگر آپ پر واجب بھی ہو تب بھی نفل (زائد) ہے تہجد کی زیادہ سے زیادہ تیرہ رکعتیں پڑھنا آپ سے ثابت ہے اس لئے بارہ رکعتیں دن میں پڑھ لیا کرتے تھے تیرھویں رکعت نہیں پڑھتے اس لئے کہ پھر ساری نماز وتر (طاق) ہو جاتی اور دن میں بجز مغرب کے وتر (طاق) نماز ثابت نہیں ہے وتر (طاق) نماز تورات میں ہی پڑھی جاتی ہے واللہ اعلم۔ بہر حال نماز تہجد کی اہمیت اس حدیث سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

سولھواں باب

باب فی الامر بالمحافظة علی السنة و آرا بھا

سنت اور اس کے آداب کی حفاظت (پابندی) کا بیان

۱۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وما اتکم الرسول فخذوه وما نہکم عنہ فانہوا (سورۃ حشر آیت ۷)
ترجمہ۔ جو دے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین تو اس کو لے لو اور جس چیز سے تم کو منع کرے تو اس سے باز آ جاؤ۔

۲۔ نیز ارشاد ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا لواحی یوحی (سورۃ نجم آیت ۳۳)
ترجمہ۔ اور (وہ تمہارا نبی) نہیں بولتا اپنی خواہش سے وہ تو وحی ہے جو اس کے پاس بھیجی جاتی ہے
۳۔ نیز ارشاد ہے۔

ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم (سورۃ آل عمران آیت ۳۱)
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت بھی کیا کریں گے اور تمہارے
گناہوں کو بھی بخش دیں گے۔

۴۔ نیز ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یوجو اللہ والیوم الآخر (سورۃ حزب آیت ۲۱)
ترجمہ۔ بخدا تمہارے لئے رسول اللہ (کی ہستی) میں ایک بہترین نمونہ (عمل) موجود ہے اس شخص کے لئے
جو اللہ سے (ملنے کی) امید رکھتا ہے اور آخری دن کی۔

۵۔ نیز ارشاد ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتیٰ یحکموا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی
انفسہم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماً (سورۃ نساء آیت ۵۸)
ترجمہ۔ سو قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو وہ ان جھگڑوں میں منصف نہ مان
لیں جو ان کے درمیان پیدا ہوں پھر نہ پاویں اپنے دلوں میں کوئی تنگی تیرے فیصلہ سے اور خوشی سے قبول کر لیں۔

۶۔ نیز ارشاد ہے۔ فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ
والیوم الآخر (سورۃ نساء آیت ۵۹)

ترجمہ۔ پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑو تو اسکو اللہ کی اور رسول کی طرف لو ٹو دو اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخری دن پر یقین رکھتے ہو۔
قال النووی: قال العلماء: معناه الی الكتاب والسنة

حمیہ۔ علماء نے کہا ہے ”لوٹانے“ کے معنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا ہیں۔

۷۔ نیز ارشاد ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ (سورۃ النساء آیت ۸۰)

ترجمہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو بیشک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

۸۔ نیز ارشاد ہے۔ وانک لتهدی الی صراط مستقیم (سورۃ الشوریٰ آیت ۵۲)

ترجمہ۔ اور تحقیق تم (اپنے قول و فعل سے) صراط مستقیم (سیدھے راستہ کی) رہنمائی کرتے ہو۔

۹۔ نیز ارشاد ہے۔ فلیحذر اللین ینخالقون عن امرہ ان تصیہم فتنۃ اویصیہم عذاب الیم (سورۃ النور آیت ۶۳)

ترجمہ۔ پس ڈرنا چاہئے ان لوگوں کو جو رسول اللہ کے حکم سے اختلاف کرتے ہیں اس سے کہ وہ (رسول

کی مخالفت کی سزا میں) کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں یا دردناک عذاب میں

۱۰۔ نیز ارشاد ہے۔ واذکون ما یطی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمۃ (سورۃ الاحزاب آیت ۳۳)

ترجمہ۔ اور (اے نبی کی بیویوں) تم یاد رکھا کرو ان اللہ کی آیات کو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی

ہیں اور دانائی کی باتوں کو (یعنی رسول کے اقوال و افعال کو)

اس باب میں اور بھی بہت سی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں جن میں سے ایک اہم ترین آیت کا ہم اضافہ

کرتے ہیں وہ آیت یہ ہے۔

۱۱۔ وانزل اللہ علیک الکتب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم، وکان فضل اللہ علیک

عظیماً (سورۃ النساء کو ۷ آیت ۱۱۳)

ترجمہ۔ اور اللہ نے اتاری تجھ پر کتاب (قرآن) اور حکمت (سنت) اور تجھ کو سکھائیں وہ باتیں جو تو نہ

جاننا تھا اور اللہ کا فضل تو تجھ پر بہت ہی بڑا ہے۔

آیات کی تفسیر

۱۔ اس آیت کریمہ میں ما اتاکم (جو دے تم کو) کے مقابلہ میں ما نہاکم (جس سے منع کرے) آیا ہے اور فخذوہ

(پس اس کو لے لو) کے مقابلہ میں فاتھوا (پس اس سے باز آ جاؤ) اس سے معلوم ہوا کہ ما اتاکم کے معنی ہیں ما امرکم

(جو حکم دے) اور فخذوہ کے معنی ہیں فاتمروا (اس حکم کو قبول کرو اور اس پر عمل کرو) کے ہیں لہذا آیت

کریمہ کے معنی یہ ہوئے: رسول جس چیز کا حکم دے اس کو قبول کرو اور اس پر عمل کرو اور جس چیز سے منع کرے

اس سے باز آ جاؤ خواہ یہ حکم مال وغیرہ دینے کا ہو یا کسی اور کام کے سلسلے میں ہو اسی طرح دوسرے جملے کے معنی یہ

ہوئے جس سے منع کرے خواہ مال ہو خواہ کام اس سے باز رہو۔

حاصل آیت کریمہ کا یہ ہوا کہ رسول کا ہر حکم ماننا چاہئے اور جس چیز سے منع کرے اس کے پاس بھی نہ جانا

چاہئے اس لئے کہ اس کی اطاعت اور کہا ماننا فرض ہے لہذا یہ آیت کریمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے فرض ہونے کی دلیل ہے۔

۲۔ دوسری آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے۔ خواہ وحی جلی اور متلو ہو جس کا نام قرآن ہے خواہ وحی خفی ہو جس کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی احادیث ہیں دونوں عمل کے اعتبار سے یکساں اور منجانب اللہ ہیں لہذا اس آیت سے ثابت ہوا کہ تمام ”قولی احادیث“ حجت اور واجب العمل ہیں۔

۳۔ تیسری آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع یعنی پیروی کا حکم ہے اور پیروی ہمیشہ اعمال و افعال میں ہوتی ہے لہذا اس آیت کریمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ”فعلی احادیث“ کا حجت اور واجب العمل ہونا ثابت ہوا عام طور پر احادیث دو ہی قسم کی ہیں قولی یا فعلی، تقریر (برقرار رکھنا) جس کو بیان سکوتی کہا جاتا ہے وہ بھی یا قولی ہوتا ہے یا فعلی لہذا ان دونوں آیتوں سے تمام ذخیرہ احادیث جو کتب صحاح میں مدون و محفوظ ہے کا حجت شرعیہ اور واجب العمل ہونا ثابت ہو گیا۔

۴۔ چوتھی آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اہل ایمان کے لئے اسوۃ حسنہ (پیروی کے لائق خوب تر نمونہ) قرار دیا ہے از روئے لغت اسوۃ کے معنی ہیں مایتا سئی بہ (جس کی پیروی کی جائے) اس لحاظ سے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام اخلاق و عادات، خصائل و شمائل، درون خانہ اور بیرون خانہ، شب و روز کے تمام مشاغل اہل ایمان کے لئے خوب ترین نمونہ ہیں جس کی پیروی کی جائے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عبادات و مجاہدات، خصائل و شمائل، اور اخلاق و عادات و معمولات سے متعلق احادیث بھی حجت اور لائق عمل ہوتیں احادیث کی یہ تیسری قسم ہوئی جس کو عرف محدثین میں ”شمائل“ کہا جاتا ہے اور مذکورہ کتب صحاح کے علاوہ مستقل تصانیف میں بھی محدثین نے اس تیسری قسم کی احادیث کو مدون اور محفوظ کیا ہے۔ شکر اللہ مساعیہم

۵۔ پانچویں آیت کریمہ میں تمام باہمی نزاعات و خصومات (جھگڑوں) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو دل و جان سے ماننے اور بغیر ادنیٰ تنگدلی اور ناگواری کے ان فیصلوں کو تسلیم کرنے پر ایمان لانے اور مومن کہلانے کو موقوف قرار دیا ہے خواہ وہ فیصلے اپنے موافق ہوں خواہ مخالف بڑا ہی کٹھن اور مشکل کام ہے بہر حال ایمان اس پر موقوف ہے اس لحاظ سے خصوصیت کے ساتھ تمام احادیث محاکمہ و فصل خصومات کا قولی ہوں یا فعلی حجت اور واجب العمل ہونا ثابت ہوا۔

۶۔ چھٹی آیت کریمہ سے کتاب اللہ یعنی قرآن کے بعد سنت رسول اللہ یعنی احادیث کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے جیسا کہ امام نووی نے علماء کے حوالہ سے بیان کیا ہے۔

۷۔ ساتویں آیت کریمہ میں رسول اللہ کی اطاعت (کہا ماننے) کو بعینہ اللہ کی اطاعت قرار دیا ہے اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ قرآن کے بعد دوسرا درجہ احادیث کا ہے۔

۸۔ آٹھویں آیت کریمہ میں رسول اللہ کی ہر ہدایت و رہنمائی (یعنی ہر حدیث) صراط مستقیم کہا ہے جس پر قائم رہنے کی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔

۹۔ نویں آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی یعنی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو دنیا میں کسی آفت میں مبتلا ہونے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہونے سے ڈرایا گیا ہے۔

۱۰۔ دسویں آیت کریمہ میں ازواج مطہرات کو خاص طور پر کاشانہ نبوت میں تلاوت کی جانے والی آیات اللہ اور درون خانہ دانائی کی باتوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہے کہ وہی ازواج مطہرات ان آیات و احکام کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں مردانہی ازواج سے درون خانہ آپ کے اقوال و افعال معلوم کرتے ہیں۔

۱۱۔ گیارہویں آیت کریمہ میں کتاب یعنی قرآن کی طرح حکمت یعنی سنت کے بھی منزل من اللہ (اللہ کی جانب سے نازل شدہ) ہونے کی تصریح فرمادی ہے۔

فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی:

لا ألفین احدکم مشکنا علی اریکنہ یاتیہ الامر من امری مما امرت بہ ونہیت عنہ فیقول:

لاندری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا (ابوداؤد ترمذی)

میں تم میں سے کسی بھی شخص کو ایسا نہ پاؤں جو اپنی مسند پر تکیہ لگائے (فرعون بنا) بیٹھا ہو اس کے سامنے میری سنتوں میں سے کوئی سنت (حدیثوں میں سے کوئی حدیث) آئے جس میں میں نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو یا کسی کام کے کرنے سے منع کیا ہو۔ تو وہ (مردود) کہہ دے ہم (حدیث و حدیث کو) نہیں جانتے ہم تو جو کتاب اللہ (قرآن) میں پائیں گے (اس کو مانیں گے اور) اس کی پیروی کریں گے۔

اس پیش گوئی کے مطابق ہر زمانہ میں ایسے منکرین حدیث طرد ہوئے ہیں جو صرف کتاب اللہ (قرآن) کو حجت اور واجب العمل مانتے ہیں اور مختلف پہلوؤں سے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ کے زمانہ میں بھی ایسے منکرین حدیث بے دینوں کی کمی نہ تھی اس لئے امام نووی نے معمول کے خلاف اس باب کے ذیل میں قرآن کریم کی مختلف اور متنوع آیات اتنی کثرت سے ذکر کی ہیں یعنی دس مختلف اور متنوع آیتیں ذکر کی ہیں ایک اہم ترین آیت کا ہم نے اضافہ کیا ہے اس لئے کہ منکرین حدیث کے مقابلہ میں حجیت حدیث کو ثابت کرنے کے لئے حدیث کو پیش کرنا مناظرہ کی اصطلاح میں مصادره علی المطلوب کہلاتا ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس چیز کو فریق مخالف مانتا ہی نہیں اس کو اپنے دعوے کے ثبوت میں دلیل کے طور پر پیش کرنا اور اسکو اپنے دعوے

کا ثبوت پیش کرنے سے عاجز ہونا سمجھا جاتا ہے گویا ہمارے پاس حدیث کے حجت ہونے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں اسی لئے امام نووی علیہ الرحمۃ نے نہ صرف حدیث کے ماننے اور واجب العمل ہونے پر دلائل پیش کئے اور قرآن کی طرح حدیث کا بھی منزل من اللہ ہونا ثابت کیا بلکہ منکرین و مخالفین حدیث کو حدیث کی مخالفت سے ڈرانے کے لئے آیت و عید بھی پیش کی یہ دین کی اساسی ضرورت ہے جس کو انجام دینا ہر مسلمان کا فرض ہے خصوصاً محدث کا تو کام ہی یہ ہے اور اسی کے لئے وہ اپنی زندگی وقف کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرنے سے پہلے ان کا حجت اور واجب العمل ہونا ثابت کرے۔

در حقیقت منکرین حدیث دین سے گلو خلاصی اور نجات حاصل کرنے کی غرض سے یہ پُر فریب حربہ استعمال کیا کرتے ہیں کہ ہمیں (مسلمان ہونے کے لئے کتاب اللہ (قرآن) کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں حقیقت شناس لوگ جو کچھ بھی قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حدیث کے بغیر قرآن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا تفصیل کے لئے دیکھئے راقم کی کتاب سنت کا تشریحی مقام قرآن کی روشنی میں یا ڈاکٹر مصطفیٰ السباعی کی کتاب مکاتیب السنۃ فی التشریح الاسلامی کا ترجمہ اسلام میں سنت کا مقام“

یہ لوگ دراصل بے دین اور زندیق ہیں جو یہ بکواس کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث دونوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور پھر بھی مسلمان کہلانے پر اصرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان دجالوں کے فریب سے محفوظ رکھیں۔ آمین۔

بے تکے اور لایعنی سوالات کرنے کی ممانعت

وأما الأحادیث : فالأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” دَعُونِي مَا تَرَكَتُكُمْ ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَيَّ أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ “ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب تک میں تمہیں چھوڑوں (یعنی تم سے کچھ نہ کہوں) تم بھی اس وقت تک مجھے چھوڑے رہو (یعنی کسی بھی چیز یا کام کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرو) اس لئے کہ تم سے پہلی امتوں کو صرف اسی چیز نے ہلاک کیا ہے کہ وہ اپنے نبیوں سے طرح طرح کے سوالات کثرت سے کیا کرتے تھے (اور ان پر عمل نہیں کرتے تھے) لہذا جب میں تم کو کسی چیز (یا کام) سے منع کروں تو تم اس سے دور رہو (اس کے پاس بھی نہ جاؤ) اور جب میں کسی چیز (یا کام) کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس پر عمل کرو۔

تشریح: اس حدیث کے دو جزو ہیں ایک کثرت سوال سے ممانعت دوسرے منہیات یعنی ممنوعات و محرمات سے کلی طور پر احتراز کرنا یعنی دور رہنا اور پاس بھی نہ جانا اور مامرات یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم دوں (مثلاً

عبادات) جہاں تک تم سے ہو سکے اس پر عمل کرو اس لئے تشریح بھی ہر جزو کی الگ الگ مناسب اور مفید ہے۔ پہلا جزو: نبی دنیا میں بھیجا ہی اس لئے جاتا ہے کہ اپنی امت کو خداوندی احکام بتلائے اور ان پر عمل کرائے وہ دن رات اپنے منصب رسالت و تبلیغ احکام الہیہ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے میں مصروف رہتا ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں تم کو کسی کام کا حکم نہ دوں تم خاموش رہو اور یقین رکھو کہ اگر کوئی حکم خداوندی ہوتا تو میں ضرور اس سے آگاہ کرتا اور اس پر عمل کراتا تم محض اپنی ذہنی خارش اور عقلی چون و چرا کی بنا پر طرح طرح کے امکانی امور و احتمالات سے متعلق سوالات کہ اگر ایسا ہو تو کیا حکم ہے مت کیا کرو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا ہے۔

”مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس کے احمقانہ سوال اور کھود کرید کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہو گئی اگر وہ شخص کھود کرید نہ کرتا اور نہ پوچھتا تو حرام نہ ہوتی“

اس حدیث کا مقصد صرف احمقانہ سوالات اور کھود کرید کرنے والوں کا منہ بند کرنا ہے ورنہ شریعت میں جہاں تک ہمارا علم ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کسی شخص کے دریافت کرنے کی وجہ سے حرام ہوئی ہو اگر وہ دریافت نہ کرتا تو حرام نہ ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بھی حرام یا حلال کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے بذات خود حرام یا حلال کیا ہے جس کے آپ مامور تھے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

ياايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فمابلفت رسالته والله يعصمك من

الناس (سورۃ المائدہ ۱۰۷ آیت ۲۷)

اے رسول!! تم پہنچا دو جو (حکم) تم پر اتارا گیا ہے تمہارے رب کی جانب سے؛ پس اگر تم نے (یہ) نہ کیا تو تم نے اپنے رب کی پیغام رسانی نہیں کی اور اللہ لوگوں (کے شر) سے تمہاری حفاظت کرے گا۔

اس کے برعکس آپ نے ایسے سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا ہے اور بار بار کے اصرار پر تنبیہ کی ہے اور جواب نہ دینے کی وجہ بھی بیان کی ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا (تقریر کی) اور فرمایا۔

اے لوگو! بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے لہذا تم حج کیا کرو تو ایک شخص نے دریافت کیا ہر سال؟ (حج کیا کریں) آپ خاموش رہے (اور کوئی جواب نہیں دیا) یہاں تک کہ اس شخص نے تین مرتبہ یہی سوال کیا تو تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں (تمہارے سوال کے جواب) میں ہاں کہہ دیتا تو (ہر سال) حج فرض ہو جاتا اور یقیناً تم (دور دراز ملکوں سے ہر سال سفر کر کے مکہ نہیں آسکتے تم (ہر سال) حج نہیں کر سکتے اور حکم خداوندی پر عمل کرنے کی پاداش میں پہلی امتوں کی طرح ہلاک ہوتے“

اس کے بعد آپ نے وہی پہلی اُمتوں کا حشر بیان کیا جو اس باب کی پہلی حدیث میں مذکور ہے۔ اس شخص کا سوال تو پھر بھی کسی درجہ میں دریافت طلب ہے اس لئے کہ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جیسے بخیر وقتہ نماز میں ہر روز ادا کرنا فرض ہیں رمضان کے روزے رکھنا ہر سال فرض ہے شاید ایسے ہی ہر سال حج ادا کرنا بھی فرض ہو آپ نے سکوت کی وجہ بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے عمر میں ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے ہر سال نہیں اس سے زیادہ لایعنی اور بیکار سوالات کی مثالیں جن پر آپ کو غصہ بھی آیا ہے آنے والی حدیث میں مذکور ہیں:

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد ۲۳ سال اپنے رب کے حکم کے تحت (جو شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں) ضرورت اور حالات کے مطابق احکام الہیہ سے آگاہ کرنے اور احکام شرعیہ سے متعلق سوالات کے جوابات دینے میں صرف کئے ہیں تاہم صحابہ کرام مذکورہ بالا آیت کریمہ کے نازل ہونے اور احادیث میں کثرت سوال کی ممانعت کے بعد بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ”ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی چیز کے متعلق سوال کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اس لئے ہمیں اچھا معلوم ہوتا تھا کہ دیہاتیوں میں سے کوئی عقلمند آدمی بطور وفد اپنے قبیلہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے سوالات کرے اور ہم سنیں چنانچہ اس کے بعد ضام بن ثعلبہ کا قصہ بیان کیا ہے۔ مسلم ج اول۔

یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک غیر معروف اور ناقابل شناخت انسان کی شکل میں صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے ایمان اسلام احسان وغیرہ سے متعلق صحابہ کے سامنے نہایت اہم اور دقیق سوالات کئے اور آپ نے ان کے نہایت واضح و محکم اور تسلی بخش جوابات دیئے اور ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ جبرائیل علیہ السلام تھے تم تو سوال کرتے نہیں یہ تم کو دین (کے متعلق سوال کرنے کا طریقہ سکھانے کے لئے آئے تھے) کہ دین کے متعلق اس طرح سوال کیا کرتے ہیں)

۲۔ حدیث کے دوسرے جزو کی تشریح حدیث کا دوسرا جزو نہایت اہم ہے ہر مسلمان کو ہر حالت میں اس کو پیش نظر رکھنا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جس چیز (یا کام) سے میں تم کو منع کروں اس کو تو بالکل چھوڑ دو (پاس بھی نہ جاؤ) اور جس چیز (یا کام) کا میں حکم دوں اس پر جس قدر تم سے ہو سکے عمل کیا کرو اس سے معلوم ہوا کہ منہیات (یعنی ممنوعات و محرمات) میں ہو سکتے یا نہ ہو سکتے کا کوئی سوال نہیں ان کو تو کلی طور پر ترک کر دو اور مامورات (وہ کام جن کے کرنے کا آپ نے حکم دیا مثلاً نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ عبادات) ان پر جس قدر تم سے ہو سکے عمل کیا کرو۔

مامورات اور منہیات میں فرق کی وجہ

اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ اگر ممنوع اور حرام چیزوں یا کاموں کو بالکل ترک نہ کیا تو جو بھی مامور عبادات ادا کی

جائیں گی اور مامورات پر جتنا بھی عمل کیا جائے گا سب بیکار جائے گا مثلاً ایک شخص ہے جو نہ صرف پنجگانہ فرض نمازیں بلکہ سنتیں اور نوافل بھی تہجد و اشراق کی نمازیں بھی پڑھتا ہے مگر اسی کے ساتھ سود لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے تمام کاروبار سودی کرتا ہے یا یتیموں کا مال بے دریغ کھاتا ہے یا شراب پیتا بھی ہے پلاتا بھی ہے یا رشوت لیتا ہے غرض حرام و حلال کی پرولہ کئے بغیر روپیہ کماتا ہے یا اسمگلنگ کرتا ہے چور بازاری کرتا ہے یا جو اکھلتا ہے یا ریس (گھوڑوڑ) میں حصہ لیتا ہے اس کی نمازیں، روزے، صدقہ خیرات، حج وغیرہ غرض کوئی بھی بڑی سے بڑی عبادت و طاعت اس کو حرام خوری کے عذاب سے نہ بچا سکے گی جب تک ان حرام کاموں کو کلی طور پر ترک نہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد نہ کرے جس کو شریعت میں توبہ کہتے ہیں یہ تمام محرمات وہ گندگیں اور نجاستیں ہیں جن کے باقی رہتے نماز پڑھنا ایسا ہی بیکار ہے جیسے ناپاک کپڑے پہنے یا بغیر وضو یا غسل کے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھے ایسی نماز نماز نہیں بلکہ نماز کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے بالکل یہی صورت محرمات کو کلی طور پر ترک کئے بغیر عبادت کرنے کی ہے جو حرام خوری یا حرام نوشی یا حرام پوشی کے عذاب سے نہیں بچا سکتی حدیث شریف میں آتا ہے۔

۱. کل لحم نبت من سحت فالنار اولیٰ بہ

جو گوشت مال حرام سے بناوہ تو جہنم ہی کے لائق ہے۔

ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو خطاب کر کے فرماتے ہیں

۲. یا کعب بن عجرۃ انه لایربو اللحم نبت من سحت الاکانت النار اولیٰ بہ

اے کعب بن عجرہ! بلاشبہ جو گوشت بھی مال حرام سے بناوہ جتنا بھی بڑھے گا (جہنم کے لائق ہی ہوگا اور) جہنم کی آگ ہی اس کے لائق ہوگی۔

دعا: اللہ پاک ہر مسلمان کو حرام مال یا کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

۳۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو (جہاد یا حج و عمرہ کے لئے) دور

دراز سفر کرتا ہے سر کے بال پرانڈہ ہیں جسم غبار آلود ہے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگتا ہے اے پروردگار!

اے پروردگار! حالانکہ جو کھایا ہے وہ حرام ہے جو پیا ہے وہ حرام ہے جو پہنے ہوئے ہے وہ حرام ہے جو غذا ملی ہے وہ

حرام ہے تو اس کی دعائیں کہاں قبول ہو سکتی ہیں۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جب تک حرام خوری اور حرام پوشی اور گناہوں اور معصیتوں کو کلی طور پر ترک کر کے

اور ان تمام غلاظتوں اور ناپاکیوں سے خود کو پاک و صاف کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت نہ کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے

ہاں ہرگز قابل قبول نہ ہوگی اور جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گی تھوڑی ہو یا بہت صرف فرائض ہوں یا نوافل و مستحبات

سمیت اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جن کاموں کے کرنے کا میں تمہیں حکم دوں ان پر جتنا تم

سے ہو سکے عمل کرو یعنی تم حرام کاموں یا چیزوں سے اور گناہوں اور نافرمانیوں سے کلی طور پر دور رہ کر جتنا بھی مامورات (عبادات و طاعات) پر عمل کرو گے قابل قبول اور مفید ہو گا تھوڑا ہو یا بہت۔ تقویٰ کے باب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ تخلی عن الرذائل کے بغیر تخلی بلفضائل ممکن نہیں یعنی رذیلوں سے پاک و صاف ہوئے بغیر فضیلتوں سے آراستہ ہونا ممکن نہیں یہی تقویٰ کے معنی ہیں اسی کتاب میں باب تقویٰ کو دوبارہ پڑھ لیجئے تاکہ ہر وقت پیش نظر رہے۔

ہمارا زمانہ اور ہماری حالت

ہمارا زمانہ ایسا خدا شناسی سے دور اور خدا پرستی سے محروم زمانہ ہے کہ بیدینیوں کا توڈ کر ہی کیا دیندار لوگوں پر بھی زرا اندوزی اور زر پرستی اس بری طرح مسلط ہے کہ ہر شخص الاما شاء اللہ اندھا دھند مال و دولت جمع کرنے بلکہ سمیٹنے میں اس طرح منہمک ہے کہ حرام و حلال اور جائز و ناجائز کا سوال ہی ختم کر دیا ہے مال آنا چاہئے کسی بھی راستہ سے آئے حرام راستہ ہو یا حلال کچھ پرواہ نہیں۔

ہم جیسے زر پرست لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

و تحبون المال حباً جماً (اور تم تو مال سے بے تحاشا محبت کرتے ہو) (سورۃ النجم آیت ۲۰)

دعا: اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری حالت پر رحم فرمائیں اور اس حب مال اور زر پرستی سے نجات دیں اور خدا شناسی و خدا پرستی کی توفیق عطا فرمائیں خصوصاً دیندار عبادت گزار مسلمانوں کو اس آخر زمانہ کے فتنے حب مال و زر سے ضرور نجات دیں تاکہ ان کی عبادتیں اور طاعتیں رائیگاں نہ جائیں اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم تو نہ صرف پنجوقتہ نمازیں بلکہ دن کو چاشت کی اور رات کو تہجد کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں حج بھی ہم نے کیا ہے اسی لئے ہم ضرور بخشے جائیں گے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے پڑھیے اور معنی کو سمجھ کر پڑھیے۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ (احکام الہیہ پر عمل کرنے کی) قوت اور (گناہوں سے بچنے کی) طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے (میسر ہوتی) ہے۔

اور دعا مانگئے پڑھیے نہیں۔ اللہم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا

اے اللہ تو دنیا (اور امور دنیا) کو ہمارا سب سے بڑا فکرنہ بنا دینا اور نہ ہمارا انتہائی علم بنا دینا اور نہ انتہائی مرغوب چیز بنا دینا۔

اللہ تعالیٰ آپ کو صدق دل اور خلوص سے نکلے ہوئی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے اور سب سے بڑا فکرنہ آخرت

کو بنادیں گے اور عقہائے علم، علم دین کو بنادیں گے اور سب سے زیادہ مرغوب چیز نعیم جنت کو بنادیں گے۔

نوٹ: ایسے علماء دین جو دنیاوی علوم سے ناواقف ہیں پڑھے لکھے لوگوں میں ایک فیصدی بھی مشکل سے ہوں

گے باقی ننانوے فیصد ایسے تعلیم یافتہ ہیں جو دین اور امور دین سے بالکل ناواقف یا نیم ملاحظہ ایمان کے مصداق ہیں

نام کو اسلامیات میں ایم اے اور پی ایچ ڈی ہیں اصل عربی زبان اور قرآن وحدیث اور فقہ و عقائد وغیر علوم دینیہ

سے بالکل نا آشنا ہیں اردو ترجمے پڑھ کر امتحانات پاس کر لیتے ہیں اصل عربی سے جو قرآن و حدیث اور علوم دینیہ کی زبان ہے بالکل کورے ہوتے ہیں ان ایک فیصدی علماء دین کو انگریزی زبان اور علوم دنیا سے واقف ہونے کی تلقین کی جاتی ہے پروگرام بنائے جاتے ہیں اور ننانوے فیصد نام نہاد تعلیم یافتہ کو نہیں کہا جاتا کہ تم اصلی عربی زبان اور علوم دینیہ حاصل کرو کس قدر افسوس کا مقام ہے۔

وہ سوالات جن پر آپ کو غصہ آیا

حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے متعلق سوالات کئے گئے جو آپ کو ناگوار گزرے جب لوگوں نے آپ سے اس قسم کے بے تکلفہ احمقانہ سوالات کثرت سے کرنے شروع کئے تو آپ ناراض ہو گئے اور غصہ میں لوگوں کو خطاب فرمایا: ”جو تمہارا راجی چاہے مجھ سے پوچھو میں جواب دوں گا چنانچہ ایک شخص نے سوال کیا: میرا باپ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا: تیرا باپ حذیفہ ہے دوسرا شخص اٹھا اور کہا یا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا: تیرا باپ سالم مولیٰ شیبہ ہے اس کے بعد آپ برابر فرماتے رہے: سوال کرو سوال کرو سوال کرو اب کیوں نہیں پوچھتے؟

جب لوگوں نے خصوصاً حضرت عمرؓ نے آپ کے چہرہ پر غیظ و غضب اور قہر و جلال کے آثار دیکھے تو سب آہستہ آہستہ رونے لگے اور حضرت عمرؓ نے آگے بڑھ کر دوڑا تو بیٹھ کر کہا: ”ہم ایسے بیہودہ سوالات کرنے سے توبہ کرتے ہیں آپ بھی معاف فرمادیجئے“ تب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اسی پر ذیل کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَكُم تَسْؤُكُمْ وَأَن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ إِلَيْكُم

عَفَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلْنَا قَوْمًا مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (سورۃ المائدہ آیت ۱۰۲)

اے ایمان والو! ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر نزول قرآن کے زمانہ میں تم دریافت کرو گے تو (ضرور) ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کو معاف کر دیا ہے اور اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا بردبار ہے بیشک تم سے پہلی قوموں نے اس قسم کے چیزوں کو دریافت کیا پھر ان کے سبب کافر ہو گئے۔

اس باب کی پہلی حدیث اور اس سلسلہ کی دوسری حدیث قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیت کی روشنی ہی میں وارد ہوئی ہے۔

ضروری احکام شرعیہ کے متعلق سوالات کرنے کی اجازت

بہر حال سوالات کرنے کی ممانعت اسی قسم کے بے تکلف اور لایعنی سوالات سے متعلق ہے یا احکام الہیہ سے متعلق احمقانہ کھود کرید سے متعلق ہے جیسا کہ آپ مذکورہ بالا احادیث میں پڑھ چکے ہیں ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام الہیہ سے متعلق ہر ضرورت کے موقع پر سوالات کئے گئے ہیں اور آپ نے بخندہ پیشانی جوابات دیئے ہیں خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

فاستلو آهل الذکر ان کنتم لاتعلمون (سورۃ الانبیاء آیت ۷)

پس دریافت کر لیا کرو (شرعی احکام) اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔

اور قرآن کریم میں تو سوالات اور جوابات کا ایک مستقل عنوان ہے جس کے تحت مختلف احکامات بیان کئے گئے ہیں

مثلاً یسئلونک عن الاہلۃ یسئلونک ما ذابفقون: یسئلونک عن الخمر والمیسر یسئلونک عن الروح
یسئلونک عن الساعۃ وغیرہ۔

حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی لئے اونٹنی پر سوار ہو کر مناسک حج ادا کئے ہیں تاکہ ہر شخص آپ کو دور سے دیکھ سکے اور احکام حج دریافت کر سکے اور متعدد لوگوں نے آپ سے احکام حج دریافت کئے ہیں اور آپ نے بتلائے ہیں۔

چنانچہ ایام جاہلیت میں حج کے دنوں میں عمرہ کرنا فجر فجر (بدترین بدکاری) سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ بلکہ رسم کی عملی طور پر بیخ کنی کی غرض سے ان تمام حاجیوں کے جن کے ساتھ ہدی (قربانی کا جانور) نہ تھا حج کے احرام عمرہ سے تبدیل کر دیئے اور عمرہ کر کے حلال ہو جانے کا حکم دیا بڑی مشکل سے لوگ اس پر آمادہ ہوئے اس پر ایک شخص نے دریافت کیا۔

العاصمناہذا ما للابدا؟ کیا یہ (حج کے ایام میں عمرہ کرنے کا حکم) صرف اسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے؟
آپ نے جواب دیا۔ دخلت العمرة فی الحج الی یوم القیمة
عمرہ حج میں قیامت تک کے لئے داخل ہو گیا۔

چنانچہ حج تمتع میں تو حاجی میقات سے عمرہ ہی کا احرام باندھتا ہے اور حج قرآن میں عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت کی

پیروی کی وصیت اور بدعتوں سے اجتناب کی تاکید

الثانی: عن أبی نجیح العریاض بن ساریۃ رضی اللہ عنہ، قال: وَعَظَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعَيْونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةٌ مَوْدَعٌ فَأَوْصِنَا، قَالَ: "أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرِيْ أَخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" رواه أبو داود والترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح".
"النَّوَاجِدُ" بالذال المعجمة: الأنياب، وقيل: الأضراسُ.

ترجمہ: حضرت ابو جح عر باض بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ فرمایا جس سے ہمارے دل لرز گئے اور آنکھیں اشک ریز ہو گئیں تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ (وعظ) تو گویا ایک (دنیا سے) رخصت ہونے والے کا سادعظ ہے لہذا آپ ہمیں وصیت فرمائیے آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور مسلمانوں کے امیر (حکمران) کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں اگرچہ کوئی حبشی غلام ہی تم پر مسلط ہو جائے (تب بھی تم اس کی اطاعت کرنا) اور بلاشبہ تم میں سے جو شخص (میرے بعد) زندہ رہے گا وہ (امت میں) بکثرت اختلاف دیکھے گا تو تم میری سنت (کی پیروی) کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین (کی سنت کی پیروی) کو اپنے اوپر لازم کر لینا اور اس سنت کو دانتوں سے پکڑے رہنا اور تم (دین میں) نئے نئے امور (بدعتوں) سے بے حد بچنا (اور دور رہنا) اس لئے کہ ہر بدعت (دین میں نئی چیز) گمراہی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا اور ترمذی میں بھی امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔

لفظ کے معنی: نواجد عربی زبان میں یا عام دانتوں کو یا خاص ڈاڑھوں کو کہتے ہیں۔

تشریح: اس حدیث کے بھی کئی جزو ہیں۔ اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مسلمانوں کو تقویٰ اللہ کی وصیت فرماتے ہیں تقویٰ کی حقیقت گذشتہ حدیث کے ذیل میں آپ پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہر قسم کی عبادات کی قبولیت کو صرف متقین کے اندر منحصر فرماتے ہیں گویا تقویٰ کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں ارشاد ہے۔

انما یقبل اللہ من المتقین (سورۃ المائدہ آیت ۲۷)

اس کے سوا نہیں کہ اللہ پاک تو صرف متقین کی (عبادتیں) قبول فرماتے ہیں۔

نیز ارشاد ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین ہم محسنون (سورۃ النحل آیت ۱۲۸)

بالتحقیق اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو (اللہ سے) ڈرتے ہیں اور وہ لوگ جو احسان والے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ کی بے کیف معیت کو تقویٰ اور احسان والے لوگوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے

احسان کی حقیقت اسی کتاب کے باب مراقبہ کی حدیث جبرئیل علیہ السلام کے ذیل میں پڑھیے۔

۲۔ دوسری وصیت: امیر المسلمین کی اطاعت سے متعلق ہے کہ اگرچہ کوئی امیر شریعت کے اصول کے خلاف

محض اپنی قبائلی یا افرادی طاقت یا فوجی طاقت کے زور سے تم پر مسلط ہو جائے تب بھی تم اس کی اطاعت کرو بشرطیکہ

وہ مسلمانوں کو خلاف شرع کاموں پر مجبور نہ کرے اس لئے کہ ایسے متغلب (زبردستی امیر) کے خلاف محاذ آرائی خانہ

جنگی کے مترادف ہے جو مسلمانوں کے جان و مال کی تباہی کا موجب ہے ہاں اگر وہ شریعت کے قطعی امور کے خلاف

کام کرنے پر مسلمانوں کو مجبور کرے تو اس کے خلاف مسلمانوں کو متحد و متفق ہو کر بغاوت کرنا جائز ہے۔

بہر حال امیر المسلمین جیسا بھی ہو اس کی اطاعت نہ کرنا حکم نہ ماننا اپنی اور قوم کی تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق امیر المسلمین کی ”سول نافرمانی“ ناجائز ہے۔

۳۔ تیسری وصیت میں اول آپ امت کے داخلی اختلافات کی پیشگوئی فرماتے ہیں جس سے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی وفات اور حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد ہی امت مسلمہ کو سابقہ پڑا ہے اور آدھی صدی بھی نہ گزری تھی کہ عالم اسلام انہی اختلافات اور باہمی خانہ جنگیوں میں تباہ ہونا شروع ہو گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت علی کے خلاف محاذ آرائی اور جنگ جمل جگ صفین جیسی ہولناک لڑائیاں ہوئیں جن کے نتیجے میں دو طرفہ ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔

ایسے ہر آشوب اور پر فتن زمانہ میں اللہ کے رسول امت کو اپنی سنت کی پیروی اور اپنے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی وصیت فرماتے ہیں کہ ایسے افراد تفری کے زمانہ میں بھی قطعی طور پر دنیا اور آخرت کی فلاح کا واحد راستہ یہی ہے اس لئے کہ کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ واجب العمل ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنت خلفائے راشدین بھی باجماع اہل سنت والجماعت واجب العمل ہے یہی جزو ترجمتہ الباب سے متعلق ہے اور یہی وہ مقصد ہے جس کے تحت امام نووی علیہ الرحمۃ اس حدیث کو باب محافظت سنت کے ذیل میں لائے ہیں۔

اور چودہ صدیاں گزر جانے کے بعد ہمارے اس خدا آشنا اور خدا فراموش زمانہ میں بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دنیا و آخرت کی فلاح کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہی خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی سنت کو بھی دانتوں سے پکڑے رہیں اس لئے کہ انہی حضرات کے سامنے قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہی حضرات کو قرآن کے معانی، حقائق و دقائق اور احکام بتلائے اور سمجھائے جو حدیث کی کتابوں میں بجز اللہ محفوظ و موجود ہیں اور ہم نظام شریعت کے لئے اوہر اوہر بھٹک رہے ہیں اور ہماری اس حالت پر تعجب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وکیف تکفرون وانتم تلعی علیکم ایبت اللہ و فیکم رسولہ (سورۃ التا آیت ۱۰)

اور تم کیسے کافر ہوئے جا رہے ہو در آں حالیکہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے (اس کا ہر قول و فعل کتب حدیث میں موجود ہے) اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائیں آمین ثم آمین۔

سنت سے انکار جنت سے انکار کے مترادف ہے

الثَّالِثُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ كَفَرَ

أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى“ . قِيلَ : وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ” مَنْ أَطَاعَنِي
دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى “ رواه البخاري .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری
امت تمام امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جو (جنت میں داخل ہونے سے
ہی) انکار کرے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! جنت میں داخل ہونے سے بھی کوئی شخص انکار
کرے گا؟ آپ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی (حکم مانا) جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری
نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔

تشریح: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (سورۃ النساء آیت ۶۴)

ہم نے ہر رسول کو اسی لئے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے (حکم سے) اس کی اطاعت کی جائے۔

گویا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتا ہے وہ مقصد خداوندی کو چیلنج کرتا ہے کہ
دیکھ میں تیرے رسول کی اطاعت سے انکار کرتا ہوں قہر خداوندی ایسے فرعون بے سامان کو کب چھوڑ سکتا ہے اگر
کسی مصلحت کے تحت اس دنیا میں اس کی گردن نہ توڑے تو آخرت میں تو اسے ایسا عذاب دے گا کہ لایعذب عذابہ
احد (اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی (کسی کو) نہ دے گا۔

واضح رہے کہ عربی زبان میں ابالذلت کو قبول کرنے سے انکار کو کہتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم کی نافرمانی کرنے والا آپ کی فرمانبرداری کو اپنی توہین سمجھتا ہے اس لئے انکار کرتا ہے اسی طرح جنت میں داخل
ہونے کو بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے اسی لئے اس سے بھی انکار کرتا ہے ایسے مغرور و سرکش کی سزا یہی ہے کہ
ان پر آگ کے کوڑے برسائے جائیں فصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (سورۃ النجر آیت ۱۳) (پس تیرے رب نے
ان پر عذاب کے کوڑے برسائے) اسی لئے قرآن کریم کی آیات میں سے نویں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے حکم کے خلاف کرنے والوں کو فتنہ یا عذاب الیم سے خبردار کیا گیا ہے نویں حدیث کی تشریح دیکھئے۔

سنت پر ازراہ تکبر و نخوت عمل نہ کرنے والے کی سزا

الرابع : عن أبي مسلم ، وقيل : أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه : أَنَّ
رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ : ” كُلْ بِيَمِينِكَ “ قَالَ : لَا
أَسْتَطِيعُ . قَالَ : ” لَا اسْتَطَعْتُ “ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ فَمَا رَفَعَهَا إِلَيَّ فِيهِ . رواه مسلم .

ترجمہ: حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ سے یا بقول بعض حضرت ابویاس سلمہ بن عمرو بن الاکوع
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم (کے دسترخوان پر) بائیں

ہاتھ سے کھانا شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ”دائیں ہاتھ سے کھاؤ“ اس نے کہا میں (دائیں ہاتھ سے) نہیں کھا سکتا آپ نے فرمایا (خدا کرے) تو نہ کھا سکے (یہ بددعا آپ نے اس لئے دی) کہ صرف اس کے غرور اور تکبر نے اس کو (آپ کی سنت پر عمل کرنے اور آپ کی بات ماننے سے) منع کیا تھا اور نہ وہ اس وقت دائیں ہاتھ سے کھا سکتا تھا (چنانچہ (آپ کی بددعا کے بعد) اس کو مرتے دم تک) دائیں ہاتھ کو اٹھانا نصیب نہ ہوا (دایاں ہاتھ شل ہو کر رہ گیا)

تشریح: رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کو اپنی شان کے خلاف اور اپنی توہین سمجھ کر انکار کرنے کا مصداق آپ کے زمانہ میں یہ شخص تھا چنانچہ اس پر ایسی لڑپڑی کہ ہاتھ شل ہو کر رہ گیا اور مرتے دم تک نہ اٹھا سکا صحیح فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔

فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فستة اویصیبہم عذاب الیم (س: النور آیت ۶۲)

”جو لوگ رسول کے امر (کہنے) کے خلاف کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہئے ایسا نہ ہو کہ اس مخالفت کی وجہ سے کسی آفت میں مبتلا ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب آجائے۔

ہمارا زمانہ: ہمارے اس خدا شناس زمانہ میں تو ایسے سر پھرے سرکش لوگ بے شمار ہیں خاص کر جدید تہذیب (یورپین تہذیب) کے پرستار اگر ان سے کہا جائے ”کھانا بیٹھ کر کھانا سنت ہے سنت کا خلاف نہ کرو بیٹھ کر کھاؤ۔ بسم اللہ کہہ کر کھاؤ پلیٹ کو صاف کرو“ یا بھرا ہوا ٹھنڈے پانی کا گلاس پھینک دیں گے صرف اس لئے کہ اس میں سے ایک دو گھونٹ کسی مسلمان نے یا ان کے والد بزرگوار نے پی لئے پیالی میں دو گھونٹ چائے یا لیسن وغیرہ کی بوتل میں دو چار گھونٹ ضرور چھوڑ دیں گے لاکھ ان کو سمجھائیے کہ ”خلاف سنت ہے ایسا مت کرو“ انتہائی متکبرانہ انداز میں اُونھ کہہ کر منہ پھیر لیں گے گردن موڑ لیں گے بڑبڑائیں گے ”یہ سب پرانے خیالات اور دقیاوسی تہذیب ہے آج کل اسلامی تہذیب یہ ہے جو ہمیں یورپین قوموں کی خوشہ چینی (بوٹ چاٹنے) سے ملی ہے“ انگریز کے بچے بنے ہوئے ہیں پوری نئی تعلیم یافتہ اور تہذیب آموختہ نسل انگریز کی نقالی میں سنن و آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کو اپنی شان کے خلاف اور اپنی توہین سمجھ رہی ہے یہ سب اس حدیث اور آیت کریمہ نمبر ۹ کا مصداق ہیں خدا ان پر رحم کرے کسی آفت یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

اسی بنا پر امام نووی رحمہ اللہ ان دونوں حدیثوں کو سنن و آداب نبوی کی پابندی کے باب میں لائے ہیں۔

ظاہر کا اختلاف باطن کے اختلاف کا موجب ہوتا ہے

الخامس: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ”لَتَسُونَنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ“ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ترجمہ: حضرت ابو عبد اللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی زبان مبارک سے سنا آپ فرما رہے تھے تم اپنی (نمازی) صفوں کو ضرور سیدھا (برابر) کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں (یعنی دلوں) کے درمیان (ایسی ہی) مخالفت ڈال دیں گے (جیسی تمہاری صفوں میں ہے) (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (نماز شروع کرنے سے پہلے) ہماری صفوں کو اس طرح برابر کیا کرتے تھے کہ گویا آپ ان صفوں سے تیر کی لکڑیاں سیدھی کر رہے ہیں یہاں تک کہ جب آپ نے محسوس کیا کہ ہم (صفوں کو سیدھا کرنا) سمجھ گئے ہیں (تو یہ اہتمام ترک کر دیا) پھر ایک دن (نماز پڑھانے کے لئے) باہر تشریف لائے اور (مصلے پر) کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ آپ اللہ اکبر کہیں تو دیکھا کہ ایک شخص کا سینہ آگے کو نکلا ہوا ہے اس لئے کہ وہ صف میں برابر نہیں کھڑا تھا تو آپ نے (بطور تنبیہ) فرمایا اے اللہ کے بندوایا تم اپنی صفوں کو برابر کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں (یعنی دلوں) کے درمیان مخالفت ڈال دیں گے۔

تشریح: نماز میں صفوں کو سیدھا رکھنا سنت ہے اور پروردگار کے حضور میں خشوع و خضوع کے ساتھ صف بستہ کھڑے ہونا آداب صلوة میں سے ہے اگرچہ بظاہر یہ صرف ایک ظاہری اور جسمانی عمل ہے مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے اس ظاہری عمل کا باطنی اثر یہ ہے کہ نماز کا یہ اتحاد و اتفاق مسلمانوں کی تمام تر اسلامی اور اجتماعی زندگی پر اثر انداز بلکہ سنگ بنیاد ہے جو لوگ رب العالمین کے حضور میں باہمی اختلاف کا مظاہرہ کرنے سے باز نہیں آسکتے تو یاد رکھو تمہاری قومی اور اجتماعی زندگی باہمی اختلافات اور باہمی مخالفتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی جب تم خدا کے گھر میں خدا کے سامنے باہمی اجتماع کے وقت باہمی اختلافات اور باہمی مخالفت کا مظاہرہ کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ تم مسجد سے باہر اس سے باز آسکو اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے دلوں میں خدا کا خوف مطلق نہیں پھر تمہارے دلوں میں اسلامی اخوت و محبت اور اتحاد و اتفاق کیسے اور کون پیدا کر سکتا ہے بہر حال اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ظاہر کا اثر باطن پر ضرور پڑتا ہے۔

ہماری نمازیں

ہم تو مسجد کو خدا کا گھر اور نماز میں کھڑے ہونے کو احکم الحاکمین کے حضور میں پیش ہونا سمجھتے ہی نہیں بچپن سے جو عادت پڑی ہوئی ہے اس کے تحت ایک رسمی چیز سمجھ کر حسب عادت مسجد میں چلے جاتے ہیں اور امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نہ ہمیں یہ خبر ہوتی ہے کہ امام کیا پڑھ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں بے روح اور بے جان رکوع سجدے کرتے رہتے ہیں صحیح معنی میں کہنے ٹکریں مارتے رہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد دنیا بھر کے افکار و خیالات جیسے لے کر گئے تھے ویسے ہی لئے ہوئے مسجد سے باہر آ جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ آئے ایسی بے جان اور بے روح نمازیں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں پیدا کر سکتیں۔

ہماری یہ حالت صرف نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات اور نمازوں کے آداب و سنن سے ناواقف اور بے بہرہ ہونے کا نتیجہ ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان رسی اور بے جان نمازوں کو اپنے فضل سے حقیقی اور جان دار نمازیں بنا دے تاکہ ہم الصلوٰۃ معراج المؤمنین کے روحانی فیوض و برکات سے بہرہ یاب ہو کر قرۃ عینی فی الصلوٰۃ (میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے) کے کیف و سرور کا مزہ چکھ سکیں آمین یا رب العالمین۔

سونے کے وقت آگ بجھا دیا کرو

السادس : عن أبي موسى رضي الله عنه ، قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَىٰ أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَأْنِهِمْ ، قَالَ : " إِنَّ هَذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ ، فَإِذَا نِمْتُمْ ، فَاطْفِنُوهَا عَنْكُمْ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) مدینہ میں ایک گھر میں آگ لگی گھر والوں سمیت سب کچھ جل گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے لہذا جب تم سویا کر دو تو اس کو بجھا دیا کرو۔ بخاری و مسلم۔

تشریح: یہ حدیث ان آداب و تعلیمات نبوی میں سے ہے جن کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت اپنی امت کو تعلیم دی ہے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف احکام الہی (مامورات و منہیات) ہی کی تعلیم نہیں دیتے اور جہنم کی آگ سے ہی نہیں بچاتے ہیں بلکہ دنیاوی فلاح و بہبود کی تعلیم بھی دیتے ہیں تمام دنیا اس پر متفق ہے کہ آگ انسان کی ایسی دشمن ہے کہ چشم زدن میں انسانوں کے جان و مال اور املاک کو پھونک کر رکھ دیتی ہے اس کی ایذا رسانی اور مضرت و نقصان رسانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اسے جلد از جلد بجھا دیا جائے اسی لئے دنیا کے تمام چھوٹے بڑے ملکوں کی حکومتوں نے بڑے بڑے کوہ شکن فائر بریڈرز (آگ بجھانے والے انجن) اور عملہ کے ہر وقت تیار رہنے کا اہتمام کیا ہوا ہے اطلاع ملتے ہی چند منٹ میں پہنچ کر گھنٹوں یا دنوں میں آگ کو بجھا دیتے ہیں مگر آگ لگنے سے بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان حکیمانہ آداب و تعلیمات نبوت پر عمل کیا جائے اور ضرورت پوری ہونے کے بعد بجھا دی جائے تو نہ آگ لگے گی نہ جان و مال کا نقصان ہوگا۔

امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے تین طبقے

السابع : عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ ، قِيلَتْ الْمَاءُ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبٌ " "۳" أَمْسَكَتِ الْمَاءُ فَفَنَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا

مِنْهَا وَسَقُوا وَزَرَعُوا . وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَلَّةً وَلَا تَنْبِتُ كَلْبًا ، فَذَلِكَ مَثَلٌ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلٌ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . " فَقَهُ " بضم القاف على المشهور وقيل بكسرها : أي صار فقيهاً .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہدایت اور علم دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے (اور میں نے اس کو لوگوں تک پہنچایا ہے) اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین پر خوب (موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو زمین کے کچھ قطعے ایسے عمدہ اور حاصل خیز ہوتے ہیں کہ بارش کا سارا پانی جذب کر لیتے ہیں اور ان میں ہر طرح کی خشک و تر پید اوار (غلہ پھول اور پھل) اور گھاس چارہ خوب فراوانی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور کچھ ایسے شور نشیبی خطے ہوتے ہیں کہ بارش کے پانی کو اپنے اندر صرف روک لیتے ہیں (اور پانی بڑے بڑے تالابوں اور جمیلوں کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے) جس سے اللہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے لوگ خود بھی پیتے ہیں مویشیوں کو بھی پلاتے ہیں اور کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور کچھ قطعے ایسے سنگلاخ چشیل میدان ہوتے ہیں کہ نہ بارش کے پانی کو روکتے اور جمع کرتے ہیں اور نہ شور ہونے کی وجہ سے ان میں کچھ آتا ہے۔

پس یہ (پہلی) مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے دین میں سمجھ پیدا کرتے ہیں اور جو ہدایت اور علم ان کو میرے ذریعہ پہنچا اس کو خود بھی حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں اور یہ (آخری) مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے (ازراہ تکبر) نہ اس علم و ہدایت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ بھیجا اور نہ اس کو قبول کیا۔

تشریح: حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان و انعام ہے کہ اس نے رحمت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو (حسب وعدہ ہدایت و علم لے کر اپنے بندوں کے پاس بھیجا لیکن آپ کی ہدایت سے نفع اٹھانے والے دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ علماء عالمین جنہوں نے اس علم و ہدایت پر خود بھی عمل کیا اور اپنے اعمال صالحہ کے ذریعہ اپنی زندگی کو بھی سرسبز و شاداب بنایا اور دوسروں کی زندگی کو بھی تعلیم و تربیت کے ذریعہ سرسبز و شاداب بنایا بالکل اسی طرح جیسے باران رحمت خداوندی ہے مگر اس بارش سے نفع اٹھانے والے زمین کے خطے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف قسم کے ہوتے ہیں بعض خطوں کی زمین نہایت عمدہ اور حاصل خیز ہوتی ہے وہ اس بارش سے خوب پھولتے پھلتے اور سرسبز و شاداب ہوتے ہیں اور خلق خدا کو ان سے جسمانی غذا حاصل ہوتی ہے اور بعض خطوں کی زمین شور اور بخر ہونے کی وجہ سے خود تو کچھ نہیں اگاتی مگر وہ خطے اس

بارش کو ضائع نہیں ہونے دیتے بلکہ ندی نالوں اور بڑے بڑے تالابوں اور جھیلوں کی شکل میں بارش کے تمام پانی کو جمع کر لیتے ہیں اور لوگ اس پانی کو پیتے پلاتے اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں خلق خدا اس پانی سے حسب ضرورت ممتنع ہوتی رہتی ہے (یہ وہ علماء اور واعظین ہیں جو خود تو عمل نہیں کرتے مگر دوسروں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتے ہیں) اور کچھ خطے ایسے سنگلاخ اور چٹیل میدان ہوتے ہیں کہ نہ خود اس پانی سے نفع اٹھاتے ہیں نہ ہی پانی کو روکتے اور جمع کرتے ہیں تمام پانی ضائع جاتا ہے یہ وہ مغرور و متکبر اور سرکش لوگ ہوتے ہیں جو برہنا عناد نہ خود اس علم ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔

بہر حال لوگوں کے تین طبقے ہیں ایک علماء عالیین اور دوسرے وہ حالیین علم جو اپنے علم سے خود تو فائدہ نہیں اٹھاتے مگر مسلمانوں کو اپنے علم سے فائدہ ضرور پہنچاتے ہیں تیسرے وہ منکرین و متکبرین جو ازراہ عناد نہ خود ایمان لاتے ہیں نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے ہیں۔

یہ علم و ہدایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی صورت میں موجود محفوظ ہے علم اور عمل کے ذریعہ اس کی حفاظت مسلمانوں کا فرض ہے کہ خود بھی عمل کریں دوسروں سے بھی عمل کرائیں اسی لئے امام نوویؒ اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں۔

أمت کو جہنم میں گرنے سے بچانے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم

الثامن : عن جابر رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا ، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجْرَتِكُمْ عَنِ النَّارِ ، وَأَنْتُمْ تَقْلُتُونَ مِنْ يَدِي " رواه مسلم .

"الجنادب" نحو الجراد، والفرأش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار "والحجر، جمع حجرة وهي معقد الازار والسر اويل.

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو (روشنی کو دیکھ کر) جھینگڑ اور پروانے آگ میں گرنے لگے اور وہ شخص ان کو (آگ میں گرنے سے بچاتا اور ہٹاتا ہے) اسی طرح میں تمہاری کمر پکڑے ہوئے ہوں (اور تمہیں آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں) اور تم میرے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہو اور آگ میں گرے پڑتے ہو) مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔

الجنادب: نڈی اور چمھر کے مثل کیڑا، وہ مشہور کیڑا جو آگ میں گرا کرتا ہے۔ حجر، حجرة کی جمع ازار اور شلوار باندھنے کی جگہ۔

تشریح: یہ آگ لذات و خواہشات کی مقناطیسی کشش رکھنے والی حرام کاریوں، نافرمانیوں اور کبیرہ گناہوں کی

آگ ہے جس میں گرنے کے لئے نفس امارہ کے پرستار بے تاب ہیں قابو سے باہر ہوئے جارہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات دن ممنوعہ چیزوں اور کاموں سے بلا استثناء دور رہنے کی تاکید فرما رہے ہیں کہ الامانہیکم عنہ فاجتنبوا اور ارشاد ہے: ان اعدی عدو لک نفسک النبی بین جنیبتک (تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں (بیٹھا ہوا ہے) لیکن اس مکار نفس کی دعوت پر لبیک کہنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شدید ممانعت کے باوجود پروانوں کی طرح اس آگ میں گرنے کے لئے بے تاب ہیں قابو سے باہر ہوئے جارہے ہیں مکار نفس نے لذتوں اور خواہشات نفسانی کا ایسا سبز باغ دکھایا ہے کہ ہادی رحمت کی حسیبہ حفت النار بالشہوات کے باوجود اس دشمن نفس کا بچھایا ہوا جال ایسا ہم رنگ زمین ہے کہ بے ساختہ اس میں گرفتار ہوئے چلے جارہے ہیں اور کہتے ہیں دام ہر رنگ زمین بود گرفتار شدم، بجز ان پاکباز نیکوکار اہل ایمان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کر لی ہے اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے فرماتے ہیں۔

ان النفس لامارة بالسوء الا مارحم ربی (سورۃ یوسف آیت ۵۳)

بلاشبہ نفس تو بے حد برائیوں کا حکم دیتا ہے بجز اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے۔

ایسے پاکیزہ لوگوں کے نفوس، نفوس مطمئنہ کے زمرہ میں آجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو خطاب فرماتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں۔

یا بیتھا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی

(سورۃ النجم آیت ۲۷-۳۰)

اے مطمئن نفس تو اپنے رب کی جانب لوٹ آ تو اپنے رب سے راضی تیرا رب تجھ سے راضی پس تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

یہ اطمینان کا مرتبہ کیسے حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے حصول کا ذریعہ بتلاتے ہیں ارشاد ہے۔

الا بدکو اللہ تطمئن القلوب (سورۃ الرعد آیت ۲۸) من لو اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لالہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لالہ الا اللہ ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذکر کی توفیق دیں اور قلوب مطمئنہ عطا فرمائیں آمین

آداب نبوی کے خلاف شیطان کے داؤ پیچ

(۳) التاسع : عَنهُ : اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بَلْعَقِ الْاَصَابِعِ وَالصُّحُفَةِ ،

وَقَالَ : " اِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ فِيْ اَيِّهَا الْبِرْكَةُ " رواه مسلم . وفي رواية له : " اِذَا وَقَعَتْ لِقَمَةٌ

أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا ، فَلْيَمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى ، وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلَا يَمْسَحْ
بِلَدِّهِ بِالْمَنْدِيلِ حَتَّى يَلْتَمَسَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَنْدِرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَاتُ “

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
(کھانے کے وقت) انگلیوں کو چاٹنے اور پلیٹ صاف کرنے کا حکم دیا اور فرمایا تم نہیں جانتے کہ (کھانے
کے) کون سے جزو میں برکت ہے (اگر تم نے انگلیوں کو نہ چاٹا اور پلیٹ کو صاف نہ کیا اور اس جزو میں
برکت ہوئی تو تم برکت سے محروم ہو گئے حالانکہ پیٹ اللہ کی رکھی ہوئی برکت ہی سے بھرتا ہے۔ مسلم
اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (کھانے کے وقت) جب تم
میں سے کسی کا لقمہ (زمین پر) گر جائے تو اس کو چاہئے کہ اس کو اٹھالے اور جو ناگوار چیز اس پر لگی ہو اس
کو دور کر دے اور کھالے اور اس کو شیطان کے لئے نہ چھوڑے اور ہاتھوں کو جب تک انگلیاں چاٹ نہ
لے تو لیہ سے نہ پونچھے اس لئے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کھانے کے کون سے جزو میں برکت ہے (اگر
برکت اسی جزو میں ہوئی جو اس نے تولنے سے پونچھ دیا تو وہ برکت سے محروم ہو گیا)

اور مسلم ہی کی ایک روایت میں آیا ہے بلاشبہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے ہر چیز کے وقت اور
ہر حالت میں حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی موجود ہوتا ہے لہذا جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر
جائے تو جو ناگوار چیز اس پر لگی ہو اسے دور کر دینا چاہئے پھر لقمہ کو کھالینا چاہئے شیطان کیلئے نہ چھوڑنا چاہئے۔

تشریح: یہ شیطان خود انسان کا نفس لوامہ (ملاست کرنے والا نفس) یہ جو اللہ تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے رزق کی ہم
سے توہین کرانا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ شان کے خلاف ہے کہ فقیروں کی طرح ہر گری پڑی چیز کو اٹھا کر کھاؤ یا پلیٹوں
میں پچا ہوا کھانا کھاؤ انگلیوں میں لگا ہوا کھانا چاٹو لوگ کہیں گے کیسا ندیدہ ہے کہ ایک آدھ لقمہ بھی نہیں چھوڑا اور پلیٹ
یا انگلیوں کو چاٹنا تو پرلے درجے کی بد تہذیبی ہے مہذب لوگ تمہارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنا بھی گوارا نہ کریں گے
یہ سب مکار نفس لوامہ کا فریب ہے وہ ہمیں اس طرح بہکا کر اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق کی توہین اور ناشکری
کا مرتکب بنانا چاہتا ہے اس کے فریب میں کسی بھی مسلمان کو نہ آنا چاہئے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمودہ آداب
و بلا حجبک عمل کرنا چاہئے اور کھانے میں شریک لوگوں کو بتلانا چاہئے کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
مسلمانوں کا مقصد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہونا
چاہئے نہ ہی آج کل کے فرعون صفت نام نہاد مہذب لوگوں میں سرخروئی اسی باب کی چوتھی حدیث کی تشریح کے
ذیل میں ہم آج کل کے مہذب لوگوں کی حالت پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال چکے ہیں اس مقام پر تو صرف اس
شیطان سے تعارف کرانا ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ آداب و سنن سے باغی اور منحرف بنانے

پر حلا ہوا ہے اسی مقصد کے تحت امام نووی علیہ الرحمہ اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آداب و سنن نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر عمل کرنے کی خصوصاً اس زمانہ میں توفیق عطا فرمائیں۔

بدعات پر عمل کا شرمناک نتیجہ

العاشر: عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْعِظَةٍ ، فَقَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى حُفَاةَ عُرَاةٍ غُرُلًا ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [الأنبياء : ۱۰۳] أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَلَا وَإِنَّهُ سَيُجَلَّهٗ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ اصْحَابِي . فَيَقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْتُوا بِعَدَاكَ . فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة : ۱۱۷ ۱۱۸] فَيَقَالُ لِي : [إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مِنْذُ فَارَقْتَهُمْ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . " غُرُلًا " : أَي غَيْرَ مَخْتُونِينَ .

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان وعظ فرمانے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا: اے لوگو! تم سب (حشر کے میدان) میں جمع کئے جاؤ گے (اور) اللہ تعالیٰ کے حضور میں ننگے پاؤں تن برہنہ غیر مختون (پیش ہو گے) اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق: "جیسے ہم نے پہلی مرتبہ مخلوق کو (عدم سے وجود میں لا کر) پیدا کیا ہے ایسے ہی ہم دوبارہ پیدا کریں گے یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ بلاشبہ ہم ایسا ضرور کریں گے" اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سن لو! سب سے پہلے قیامت کے دن جس کو لباس پہنایا جائے گا (اور خلعت اعطفا و خلعت سے سرفراز کیا جائے گا) وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے (آپ فرماتے ہیں اور) سن لو! میری امت میں سے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا تو ان کو پکڑ کر بائیں جانب (جنہم کی طرف) لے جایا جائے گا تو میں کہوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں؟ (ان کو بائیں جانب کیوں لے جایا جا رہا ہے؟) تو کہا جائے گا "بلاشبہ تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد (دین میں) کیسی کیسی نئی نئی (اعتقادی اور عملی) گمراہیاں پیدا کی ہیں تو میں وہی کہوں گا جو ایک صالح بندے (عیسیٰ السلام) نے کہا تھا۔

و كنت عليهم شهيداً مادمت فيهم فلم اتوفيتي كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم (سورۃ مائدہ ۱۲)

اور میں ان سے باخبر تھا جب تک میں ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھایا تو وہی تھا ان کا گمراہ اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو بروست حکمتوں والا ہے۔

تو مجھے بتلایا جائے گا جب سے تم ان سے جدا ہوئے ہو یہ لوگ برابر (دین سے) اٹلے پاؤں لوٹتے رہے ہیں (یعنی دین سے پھرتے رہے ہیں) بخاری و مسلم امام نووی علیہ الرحمۃ غرلا کے معنی غیر مختون بتلاتے ہیں۔
تشریح: اس حدیث میں چند چیزیں محتاج تشریح ہیں:

۱۔ قیامت کے دن تمام انسانوں کے پا برہنہ تن برہنہ اور بغیر ختنہ اٹھائے جانے کی وجہ خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادی کہ دوسری پیدائش بالکل پہلی پیدائش کی طرح طبعی ہوگی انسانی صنعت کا اس میں مطلق دخل نہ ہوگا۔

۲۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنانے کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سب سے پہلے اصطفاء اجباء اور خلعت سے انہی کو سرفراز فرمایا ہے اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء میں ایسے موحد اعظم ہوئے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف صنم پرستی بلکہ ارواح پرستی کو اکب پرستی غرض ہر غیر اللہ کی پرستش کی تردید فرما کر خدا کی وحدانیت کا جھنڈا بلند کیا ہے اسی لئے ان کا خصوصی لقب ابراہیم خلیل اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلاً

۳۔ علماء محققین اس بات پر متفق ہیں کہ ہر سنت کے مقابلہ پر بدعت ہے اور احیائے سنت بدعت کی امامت ہے سنت کی تعریف تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں بدعت کی تعریف اسی حدیث کی روشنی میں یہ ہے۔

بدعت کی تعریف:

ہر وہ نیا عقیدہ یا عمل جو قرآن و حدیث اور تعالٰیٰ صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو اس کو عبادت اور اجر و ثواب کا موجب سمجھ کر اختیار کیا جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا مقام جہنم ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔
ایاکم ومحدثات الامور فان کل محدثۃ بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار
تم بچو اور دور رہو (دین میں) نئی نئی باتوں سے اس لئے کہ (دین میں) ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

من احیاسنة من سنتی قد ایت بعدی فان له اجرها واجر من عمل بہا من غیر ان ینقص من اجورہم شیء ومن ابتدع بدعة لایرضاہا اللہ ورسوله کان علیہ وزرہا ووزر من عمل بہا لاینقص من اوزارہم شیء

جس شخص نے میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد (عمل نہ کرنے کی وجہ سے) مر گئی تھی اس کو اس سنت کا اجر بھی ملے گا اور اس سنت پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا اس کے بغیر کہ ان عمل کرنے والوں کا کچھ بھی اجر کم کیا جائے اور جس نے کوئی نئی بات اختراع کی جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے اس پر اس بدعت کا گناہ بھی ہوگا اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی ہوگا اس کے بغیر کہ ان کے گناہوں میں کچھ بھی کمی کی جائے۔

لہذا ان احادیث کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں میں جس قدر سنت پر عمل اور اس کی اشاعت عام ہوگی اسی قدر بدعات مُتّی چلی جائیں گی مثلاً جس قدر مسلمانوں میں روزانہ مجالس ذکر قائم و رائج ہوں گی مجالس میلاد وغیرہ آپ سے آپ ختم ہوتی چلی جائیں گی اسی طرح جس قدر سنت کے مطابق ایصالِ ثواب کے طریقے رائج ہوں گے اسی قدر معین و غیر معین تاریخوں اور دنوں میں نذرو نیاز اور بزرگوں کے ناموں پر فاتحہ خوانی اور عرس، تیجے اور چالیسیویں ختم ہوتے چلے جائیں گے اسی تحقیق کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ ہر سنت کے مقابلہ پر بدعت ہے اور احیائے سنت بدعات کی امانت ہے۔

اسلامی آداب

زندگی کے ہر شعبہ اور ہر حالت مثلاً کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے، ملنے ملانے اور لباس پہننے وغیرہ سے متعلق جو طور طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تعامل سے ثابت ہوں اور وہ کسی دوسری غیر مسلم قوم کا شعلا (انتیازی نشان) نہ ہوں وہ سب اسلامی آداب ہیں تاہم مسلمانوں کو حتی الامکان انہی آداب کو اختیار کرنا چاہئے جو احادیث سے ثابت ہیں کسی دوسری غیر مسلم قوم کے شعلا (انتیازی نشان) ہرگز اختیار نہ کرنا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تشبه بقوم فهو منهم جس نے کسی قوم کے ساتھ (کسی بھی چیز میں) مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔

ہماری حالت

ہم اس زمانہ میں بدعات سے بدرجہا زیادہ غیر قوموں کی نقلی میں سر تاپا جھلا ہیں لہذا جس طرح بدعات سے نجات پانے کے لئے احیاء سنت کی بے حد ضرورت ہے اسی طرح غیر اسلامی طور طریقوں سے نجات پانے کے لئے اسلامی آداب کی ترویج و اشاعت کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے چنانچہ جس قدر ہماری معاشرت میں آداب نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مسنون طریقے رائج ہوتے جائیں گے اسی قدر غیر قوموں خصوصاً یورپین قوموں کے طور طریقے ختم ہوتے چلے جائیں گے ایک آداب طعام ہی کو لے لیجئے اگر ہم پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیان کردہ طریق پر فرش پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر بسم اللہ کہہ کر کھانا کھانے کو رواج دیں تو میز کرسیوں پر بیٹھ کر جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے ہاتھوں میں گداؤں کی طرح کاسہ گداؤں کے لئے بغیر پلیٹ ہاتھ میں لے کر اوہ اوہر ڈشوں میں سے کھانے لے کر کھانے کے مروجہ غیر اسلامی طور طریقے آہستہ آہستہ سب چھوٹ جائیں گے اسی پر بقیہ زندگی کے تمام شعبوں کو قیاس کر لیجئے اور اللہ زیادہ سے زیادہ احیاء سنت اور اسلامی آداب کی ترویج کی کوشش کیجئے تاکہ ہم خود اور ہماری آئندہ نسلیں مسلمان رہ سکیں ورنہ ہم خود بھی گنہگار ہوں گے اور آنے والی نسلوں کے گناہ بھی ہم پر ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں۔

غرض اس حدیث کا حاصل صرف اس ہولناک انجام سے خبردار کرنا ہے جب قیامت کے دن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنی طرف بلائیں گے مگر ہم اپنے خلاف سنت عقائد و اعمال کی بنا پر جن کا حامل فرشتوں کی زبان سے سن کر فرمائیں گے دور ہوں دور ہوں جہنم میں جائیں گے اور آپ کی شفاعت سے بھی محروم ہوں گے۔ العیاذ باللہ

بلا ضرورت اور بے مقصد کام کرنے کی ممانعت

الحادی عشر: عن أبي سعيد عبد الله بن مفضل رضي الله عنه ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف ، وقال : " إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ ، وَلَا يَنْكُحُ الْعَدُوَّ ، وَإِنَّهُ يَقْفَأُ الْعَيْنَ ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وفي رواية : أَنَّ قَرِيْبًا لَابْنِ مُفَضَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذَفِ ، وَقَالَ : " إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا " ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ : أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ ، ثُمَّ عُدْتَ تَخَذِفُ ؟ لَا أَكَلِمَتِكَ أَبَدًا .

ترجمہ: حضرت ابوسعید عبد اللہ بن مفضل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (بے مقصد اوہر اوہر) کنکریں پھینکنے سے منع کیا اور فرمایا: یہ کنکریں نہ تو شکار کو مارتی ہیں نہ ہی دشمن کو زخمی کرتی ہیں (ہاں گزرنے والے کی) آنکھ پینک پھوڑ دیتی ہیں (سانسے کوئی ہو تو اس کے) نانت کو پینک توڑ دیتی ہیں۔ بخاری و مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ ابن مفضل صحابی کے ایک رشتہ دار نے (یوں ہی) کنکر پھینکی تو ابن مفضل نے اس کو منع کیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر پھینکنے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کنکر شکار کو نہیں مارتی (یہ سننے کے باوجود) اس نے پھر کنکر پھینکی تو ابن مفضل نے کہا میں تم سے حدیث بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور تم پھر بھی کنکریں پھینکتے ہو (جاؤ) میں تم سے کبھی بات نہ کروں گا۔

تشریح: اس ممانعت کا مقصد ان تمام بے مقصد حرکات اور کاموں سے منع کرنا ہے جو (نادانستہ طور پر) دوسرے شخص کو ضرر پہنچا سکتے ہیں ورنہ نشانہ درست کرنے کی غرض سے نشانہ بازی خواہ تیر کمان سے ہو خواہ غلہ اور غنیل سے خواہ اس زمانہ میں چہرہ دار بندوق سے نشانہ کی مشق کرنا اور مخصوص جگہ پر تیر یا غلہ یا چہرے مارنا بالکل جائز ہے بلکہ دشمنوں سے لڑنے کی غرض سے اس قسم کی مشقیں نہایت ضروری ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی ترغیب دی ہے واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ کا مصداق آپ نے حیر اندازی ہی کو بتلایا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔

ہماری آج کی زندگی میں تو اس قسم کی احمقانہ حرکتوں کے نتیجہ میں بڑے بڑے جھگڑنے سماجی نزاعات رونما ہو جاتے ہیں اور ان کے خمیازے بھگتتے پڑتے ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حکیمانہ ہدایت پر عمل کرنا علاوہ عمل بالسنہ کے اجر و ثواب کے اس زندگی میں سلامتی اور عاقبت کا دریغ بھی ہے خود بھی عمل کرنا چاہئے اور دوسروں سے بھی عمل کرانا چاہئے حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی یہ غیرت ایمانی ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود دیدہ و دانستہ اس کے خلاف کرنے والے رشتہ دار سے سلام و کلام ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائیں کہ دیدہ و دانستہ سنت کا خلاف کرنے والوں سے تعلقات کی پرواہ کئے بغیر سلام و کلام ہر طرح ختم کر دیں اور جگہ لڑیں کہ ہم تم سے قطع تعلق اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ تم دیدہ و دانستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہو۔

امام نووی رحمہ اللہ بھی اسی غرض سے اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں۔

حجر اسود کی ایک پتھر ہونے کی حیثیت سے

احترام کرنے کی تردید اور اہتمام سنت کی ترغیب

وعن عابس بن ربیعہ ، قال : رأيتُ عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه يقبلُ الحجرَ يعني الأسودَ ويقولُ : إني أعلمُ أنك حجراً ما تنفعُ ولا تضرُ ، ولولا أني رأيتُ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم يقبلُك ما قبلتُك . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ: حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب حجر اسود کو بوسہ دے

رہے تھے اور کہتے جارہے تھے میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ نفع پہنچاتا ہے نہ ضرر اگر

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہیں بوسہ دیتا (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس اعلان سے ایک طرف ان دریدہ و ہنوں کو دندان شکن جواب دینا

چاہتے ہیں جو مسلمانوں کے حجر اسود کے استلام (چومنے) کو کھلی ہوئی صنم پرستی کا طعنہ دیتے ہیں دوسری طرف یہ

بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجراع بھی صرف اس لئے کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ

کے رسول ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے چنانچہ قرآن کریم آپ ہی کی زبان سے کہتا ہے۔

ان اتبع الاما یوحی الی (س: الاحقاف آیت ۶)

میں تو اسی کا اجراع کرتا ہوں جس کی میرے پاس وحی بھیجی جاتی ہو۔

ہم قرآن کریم کے حکم کے بموجب آپ کے اجراع کے مامور بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہی کی زبان سے فرماتے ہیں

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم (سورہ آل عمران آیت ۳۱)

آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔

لہذا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل خواہ وہ انسانی عقل کے اعتبار سے معقول ہو یا نہ ہو ہمارے خیال میں مستحسن ہو یا نہ ہو ہم خدا کے حکم کے مطابق اس کی پیروی کریں گے درحقیقت ہم حجر اسود کو نہیں چوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں انہوں نے بذریعہ وحی (منفی ہو یا جلی) ہم کو بتلایا ہے۔
الحجر الاسود یمین اللہ حجر اسود اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔

اللہ تعالیٰ لبیک اللهم لبیک کہنے والے حاجی سے اللہ کے گھر پہنچنے پر اس کا تلبیہ (حاضری) قبول فرماتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں (مصافحہ کرتے ہیں) اور بندہ رب العالمین کی اس ذرہ نوازی اور عزت افزائی پر زار و قطار روٹتا ہے اور خوشی کے آنسو بہاتا ہے کون عقل کا دشمن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اتباع کو منم پرستی کہتا ہو۔

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو چوم رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے اور خوشی کے آنسو بہ رہے تھے حضرت عمر فاروق آپ کے پیچھے کھڑے رو رہے تھے حضرت عمر کو روٹے دیکھ کر فرمایا:
یا عمر ہننا سكب الدموع اے عمر یہی تو جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ اہل رسول کا سلطان ایسا ہی ہے جیسے بیت اللہ کے طواف کے متعلق اللہ تعالیٰ کا سلطان ہے۔

فلیعبدوا رب هذا البيت (سورہ البقرہ آیت ۳)

پس چاہئے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں (نہ کہ اس گھر کی) یعنی اس گھر کے رب کی عبادت کریں طواف کریں نمازیں پڑھیں اس گھر کی نہیں)

اس لئے کہ بیت اللہ اس پتھروں کی چار گوشہ عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ محدود فضا جو عرش سے فرش تک ایک بقعہ نور کی شکل میں قائم ہے جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں اس فضا کا نام بیت اللہ ہے اسی کی طرف رخ کر کے مسلمان دنیا کے ہر گوشہ میں نمازیں پڑھتے ہیں مشرق میں ہوں یا مغرب میں شمال میں ہوں یا جنوب میں مکہ مکرمہ کی سطح کی نسبت نشیب میں ہوں یا فراز میں پہاڑوں کے اوپر آباد ہوں یا غاروں میں۔ ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسجد کے صحن میں بنی ہوئی پتھروں کی عمارت تو پہاڑوں کی بلندی کی بسبب بہت زیادہ نشیب میں واقع ہے مگر نمازیں اسی فضا نور کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتیں ہیں جدید سعودی تعمیر حرم کے اندر دوسری اور تیسری منزلوں پر بھی اور زمین دوز تہ خانوں کے اندر بھی نماز اسی بقعہ نور کی طرف پڑھی جاتی ہے طواف اوپر کی منزلوں پر بھی اسی طرح ہوتے ہیں جیسے حرم کے ہموار فرش پر خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ اس پتھروں کی بنی ہوئی چار گوشہ عمارت کا نام نہیں ہے اور مسلمان نہ اس عمارت کا طواف

کرتے ہیں نہ اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں بلکہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ اس فضا اور بقعہ نور کا نام ہے جس کی بلندی رب العالمین کے عرش سے فرش یعنی زمین کی چٹلی سطح تک ہے اسی کا طواف کرتے ہیں اسی کی طرف نمازیں پڑھتے ہیں وہی مسلمانوں کا قبلہ ہے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم: **فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام پس رخ کر لو تم اپنا مسجد حرام کی جانب اور اسی کے طواف کرنے کا حکم۔**

ولیطوفوا بالبيت العتيق (سورہ الحج آیت ۲۹)

اور چاہئے کہ وہ اس قدیم گھر کے کثرت سے طواف کیا کریں۔

باقی یہ فضا محدود اور بقعہ نور بھی صرف اس وحدہ لا شریک لہ کی عبادت میں ایک گونہ وحدت کی شان (یعنی اتحاد، یکجہتی اور یکسوئی) پیدا کرنے کے لئے ہے ورنہ اس بیت اللہ کا رب جو ہمارا معبود ہے وہ تو جسم و جسمانیات یا کیف و کم اور جہت و سمت سے وراء الوراہ ہے وہی سبحانہ تعالیٰ شانہ (پاک ہے وہ اور عقل و فہم کی رسائی سے اس کی شان بلند و برتر ہے) وہی اس بیت (گھر) کا رب ہے وہی ہمارا معبود ہے اسی کے ہم بندے ہیں اسی کی عبادت کرتے ہیں لیکن چونکہ ہم اس کے بندے عالم اجسام سے تعلق رکھتے ہیں زمین پر رہتے اور جیسے ہیں ہم اس کی عبادت میں وحدت کی شان (یکجہتی، یکسوئی بغیر جہت اور سمت کی تعین کے) نہیں قائم رکھ سکتے اس لئے صرف ہماری ضرورت سے احکم الحاکمین اس بقعہ نور اور فضا محدود کو نماز میں قبلہ اور طواف میں بیت اللہ قرار دے دیا اسی کے حکم کی تعمیل میں ہم بیت اللہ اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف نمازیں پڑھتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔

بہر حال ہم مسلمان تو اس رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کے فرمانبردار ہیں اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مامور ہیں۔

فائدہ: عام طور پر مسلمان لاعلمی کی بنا پر عبادات کی حقیقت اور روح سے ناواقف ہیں خصوصاً نماز میں قبلہ اور طواف میں خانہ کعبہ اور اس کی تقبیل (بوسہ دینے) سے اس لئے ہم نے ذرا تفصیل سے اس پر روشنی ڈالنی مناسب سمجھی اور قارئین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ طواف کرتے وقت اور نماز پڑھنے کے وقت اس بیان کو اپنے ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام اور اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کی حقیقت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

ستر ہواں باب

باب فی وجوب الانقیاد لحکم اللہ وما یقولہ من دعی الی ذلک ' و امر بمعروف او نہی عن المنکر

۱۔ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کے فرض ہونے کا بیان

۲۔ اور جس کو فرمانبرداری کی دعوت دی جائے اس کو کیا جواب دینا چاہئے

سور جس کو (شرعاً) بھلائی کی بات بتلائی جائے اور (شرعاً) بری بات سے منع کیا جائے تو اس کو کیا جواب دینا چاہئے

قرآن کریم

قال اللہ تعالیٰ: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمواک فیما شجر بینہم ثم لا یجحدوا فی انفسہم

حر جاً مما قضیت ویسلموا تسلیماً (سورۃ التما آیت ۶۵)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو یوں نہیں تیرے رب کی قسم وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو

منصف مان لیں ہر اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان برپا ہو پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی تیرے فیصلہ سے اور دل و جان سے بخوشی قبول کر لیں۔

تفسیر اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ ایمان کے معتبر ہونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلہ کو اس طرح بطیب خاطر و برضا و رغبت قبول کرنا کہ اس فیصلہ سے دل میں ذرہ برابر تنگی اور ناگواری محسوس نہ ہو ضروری ہے خصوصاً باہمی نزاعات کے فیصلوں میں کہ ہر فریق کو آپ کے فیصلہ کو اس طرح برضا و رغبت اور بخوشی قبول کرنا ضروری ہے حالانکہ طبعی طور پر جس فریق کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے اس کے دل میں ناگواری ضرور ہوتی ہے گوربان یا عمل سے ظاہر نہ ہونے دے تب ایمان کامل ہوگا۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ ایمانی قوت اتنی قوی اور غالب ہو کہ انسان کی طبیعت اور فطرت ایمان کے تابع اور ایمانی رنگ صبغۃ اللہ سے ہم آہنگ ہو جائے اور بندہ مومن کی مرضی وہی ہو جائے جو مولیٰ کی مرضی ہو بالفاظ دیگر اپنی مرضی کو مولیٰ کی مرضی میں فنا کر دے اس مرتبہ پر پہنچ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فیصلہ مومن کی مرضی کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا حضرات صوفیاء کی اصطلاح میں اس حالت کو مقام رضاد تسلیم کہتے ہیں قدام محققین میں سے بعض بزرگ اسی مرتبہ کو ایمان کہتے ہیں اسی لئے وہ بزرگ شیخ تسلیم کے لقب کے ساتھ معروف ہیں اس میں شک نہیں کہ ارتقاء ایمان کا یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ اسی آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے انقیاد (بطیب خاطر اور برضا و رغبت)

قبول کرنے کو فرض ثابت کرتے ہیں۔

قال اللہ تعالیٰ: اما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان

یقولوا اسمعنا واطعنا واولئک ہم المفلحون (سورۃ النور آیت ۵۱)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس کے سوا نہیں کہ ایمان والوں کا کہنا جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں گے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کیلئے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاں چانے والے ہیں۔ تفسیر۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کا انحصار انہی مومنوں کے اندر فرمایا ہے جو یہ سنتے ہی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں کوئی حکم فرمانے کے لئے تم کو بلائے ہیں فوراً سمعنا و اطعنا کہہ کر اس دعوت (بلاوے) پر لبیک (ہم حاضر ہیں) کہتے ہیں گویا ہر وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم سننے اور ماننے کے لئے تیار رہتے ہیں یہی ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا تقاضا ہے اور اسی سرعت اجابت کی بنا پر ان کو فلاں یافتہ قرار دیا ہے۔ اسی سلسلہ میں ہم دو آیتوں کا اور اضافہ مناسب سمجھتے ہیں۔

قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان

الله يعول بين الموء وقلبه وانه اليه تحشرون (سورہ الانفال آیت ۲۴)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! تم (فورا) جواب دیا کرو (اور لبیک کہا کرو) جب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں (ابدی) زندگی بخشنے والی ہو اور یاد رکھو بیشک اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے رسول کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں (اور اس دعوت پر تاخیر یا انحراف کرنے کی بنا پر لبیک کہنے سے محروم کر دیتے ہیں اور یہ یاد رکھو کہ تمہیں اسی کے پاس جانا ہے۔

تفسیر۔ اس آیت کریمہ میں بھی اسی سرعت اجابت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے اور ساتھ ہی جواب دینے سے غفلت یا بے پروائی کے انجام بد سے ڈرایا ہے چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلا یا وہ نماز پڑھ رہے تھے (سو چا نماز پوری کر کے جواب دوں گا) جب وہ نماز پوری کر کے حاضر ہوئے تو آپ نے اس تاخیر پر ناگواری کا اظہار فرمایا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس آیت کریمہ میں منازعات کے فیصلہ کی تخصیص نہیں بلکہ ہر ابدی زندگی بخشنے والی دعوت پر لبیک کہنے کا حکم ہے جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے ظاہر ہے۔

چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر نماز بیچ میں ہی چھوڑ کر جانا چاہئے تھا اس لئے کہ آپ کا بلانا کسی نہ کسی حکم الہی سے آگاہ کرنے کے لئے تھا اور تنہا نماز ظاہر ہے کہ نفل ہی تھی اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنتا اور ماننا فرض تھا (اس لئے نماز کو چھوڑ دینا ضروری تھا) اس سے معلوم ہوا کہ حکم الہی سننے کے لئے بلا تاخیر حاضر ہونا چاہئے اس لئے تاخیر میں اندیشہ ہے کہ قلب کی حالت تبدیل ہو جائے اور ایمان سے منحرف ہو جائیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

ان القلوب بين اصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء

تحقیق (انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں جس طرح چاہتے ہیں (ایک لمحہ میں) الٹ دیتے ہیں۔

اسی تفسیر (آلٹ دینے) کو آیت کریمہ میں بحول (حائل ہونے سے) تعبیر کیا ہے بہر حال آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ حکم الہی سننے اور ماننے کیلئے ہر وقت تیار رہنا چاہئے اسی غرض سے ہم نے اس آیت کریمہ کا اضافہ کیا ہے۔ اسی عنوان کے تحت مذکورہ ذیل آیت کریمہ بھی ذکر کرنا مناسب ہے۔

قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضللاً مبيناً (سورۃ الاحزاب آیت ۳۶)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور کام نہیں کسی مومن مرد کانہ کسی مومن عورت کا جبکہ فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا کہ ان کو اختیار ہوا ہے اپنے کام کے بارے میں اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔

تفسیر۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مومن مرد یا مومن عورت کے شخصی اور نجی معاملہ میں بھی کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنے نجی کام میں بھی کوئی اختیار باقی نہیں رہتا وہی اختیار کرنا پڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا اور اس کے خلاف اپنی رائے سے کام کرنے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور کھلی ہوئی گمراہی قرار دیا ہے چنانچہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش کو نکاح کا پیغام بھیجا انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے لئے نہیں بلکہ اپنے ایک آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے لئے پیغام بھیجا ہے تو انہوں نے اور ان کے بھائی عبد اللہ ابن جحش نے یہ سمجھ کر کہ یہ تو ایک شخصی اور نجی معاملہ ہے ہم چاہیں اس رشتہ کو قبول کریں یا چاہے رد کریں ہمیں اختیار ہے انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طے کردہ رشتے سے انکار کو نافرمانی اور کھلی ہوئی گمراہی قرار دیا گیا تو ایمانی غیرت خاندانی غیرت پر غالب آئی اور دونوں بہن بھائی راضی ہو گئے چنانچہ زینب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے مطابق زید بن حارثہ کے نکاح میں آگئیں حالانکہ یہ نکاح خاندانی عصیت کے خلاف کھلا چیلنج تھا کیونکہ زینب قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھیں اور زید بن حارثہ بہر حال ایک آزاد کردہ غلام تھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندانی بڑائی کے بت کی سرکوبی کی غرض سے ہی زید بن حارثہ حب رسول اللہ کے ساتھ زینب کے نکاح کا فیصلہ کیا تھا اور زینب اور ان کے بھائی کی غیرت ایمانی نے یہ معلوم کر کے کہ اس رشتہ سے انکار کرنا اللہ رسول کی نافرمانی اور کھلی ہوئی گمراہی ہے خاندانی شرافت و عصیت کو ایمانی قوت کے زور سے کچل ڈالا اور حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کو دنیا و آخرت کی سرخروئی کا موجب اور سرمایہ فخر سمجھا۔

ان چاروں آیات کریمہ سے جن میں سے دو امام نووی نے پیش کی ہیں اور دو ہم نے یہ ثابت ہو گیا کہ مومن

کا قول اور جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بلانا خیر سمعنا واطعنا ہونا چاہئے ورنہ اس سے انکار و انحراف نافرمانی اور گمراہی ہے اور غفلت و بے پروائی ایمان کے ضعف کی دلیل ہے اور خطرہ کی علامت ہے باب کے تیسرے جزو یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت کے جواب میں کیا کہنا چاہئے امام نووی رحمہ اللہ نے اس کے ثبوت کے متعلق کوئی آیت نہیں پیش کی آیت کریمہ ذیل اس کے مناسب ہے۔

قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وتؤمنون بالله (سورة آل عمران آیت ۱۱۰)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم بہترین امت ہو جو بھیجی گئی ہے لوگوں (کی رہنمائی) کے لئے حکم کرتے ہو (شرعاً) بھلی بات کا اور منع کرتے ہو ہر (شرعاً) بری بات سے اور ایمان لاتے ہو اللہ پر۔

تفسیر۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت محمدیہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کا طغرائے امتیاز اور نشان افتخار ہے اور حسب استطاعت اس پر عمل کرنا اور اس کی دعوت پر لبیک کہنا ایسا ہی ضروری ہے جیسا سابقہ آیات کے تحت ہر دعوت رسول پر سمعنا واطعنا کہنا فرض ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے احادیث کے سلسلہ میں گذشتہ باب میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کا حوالہ دیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے ممانعت کے بعد فرمایا ہے جب میں تم کو کسی چیز (یا کام) سے منع کروں تو اس سے دور رہو (پاس بھی نہ جاؤ) اور جس چیز (یا کام) میں حکم دوں اس پر جہاں تک ہو سکے عمل کرو اس پر مفصل بحث آپ پڑھ چکے ہیں۔

اور اس میں متعدد احادیث ہیں۔ مثلاً ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جو اس باب کے شروع میں مذکور ہے اور اس کے علاوہ دوسری احادیث۔

لیلتہ المعراج میں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے لئے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا عظیم تحفہ اور قبول شدہ دعائیں

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ الْآيَةَ [البقرة: ۲۸۳] اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرَّكْبِ ، فَقَالُوا : أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ . كَلَّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نَطِيقُ : الصَّلَاةَ وَالْجِهَادَ وَالصَّيْمَ وَالصَّدَقَةَ ، وَقَدْ أَنْزَلْتَ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَا نَطِيقُهَا . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِينَ ۳۳ مِنْ قَبْلِكُمْ :

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ“ فَلَمَّا افْتَرَاهَا الْقَوْمُ، وَذَلَّتْ بِهَا الْأَلْسِنَةُ أُنزِلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي إِثْرِهَا: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْ كُتُبَهُ وَرُسُلِهِ لَا تَفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ۲۸۵] فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ۲۸۶] قَالَ: نَعَمْ ﴿رَبَّنَا

ربنا ولا تحمل علينا اصرأكنا حملته على الذين من قبلنا (سورة البقرة آیت ۲۸۶)

اے ہمارے رب! تو ہمارے اوپر ایسا بوجھ (ناقابل عمل احکام) نہ ڈالیو جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نعم (بہت اچھا یہ بھی منظور ہے)

ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به (سورة البقرة ۲۸۶)

اے ہمارے رب! تو ہم پر ایسی مصیبتیں بھی نہ ڈالیو جن کے برداشت کرنے کی طاقت ہم میں نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نعم (بہت اچھا یہ دعا بھی قبول ہے)

اور چند دعائیں:

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين (سورة البقرة آیت ۲۸۶)

اور تو (ہماری کوتاہیوں کو) معاف فرما اور (ہمارے گناہوں کو) بخش دے اور تو ہمارے اوپر رحم فرما تو ہمارا مولیٰ (آقا) ہے پس تو کافر قوموں کے مقابلہ پر ہماری مدد فرما۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

لله ما فى السموت وما فى الارض وان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدير (سورة البقرة آیت ۲۸۴)

اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے جو تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اس کو ظاہر کرو چاہے چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا پھر جس کو چاہے گا بخش دے گا جس کو چاہے عذاب دے گا بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔

تو یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بہت دشتہ محسوس ہوئی (کہ ہمجھے برے خیالات کا بھی حساب ہو گا اور ان پر عذاب بھی دیا جاسکے گا) تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر گھٹنے ٹیک کر (نہایت عاجزی کے ساتھ) بیٹھے (جیسے ایک مرید اپنے پیر کے سامنے یا ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے) اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! جن اعمال کا ہمیں مکلف بنایا گیا وہ ہماری قدرت (و اختیار) کے تحت داخل تھے مثلاً نماز، روزے، جہاد اور صدقہ (زکوٰۃ) ہم نے ان

پر عمل کیا اور کر رہے ہیں اب آپ پر یہ (مذکورہ بالا) آیت نازل ہوئی ہے (جو کہ کچھ تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اس کو ظاہر کرو یا نہ کرو سب کا حساب ہو گا یہ ہماری قدرت و طاقت سے باہر ہے (دل میں تو اچھے برے ہزاروں خیال آتے ہیں انہیں کون روک سکتا ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کے لہجہ میں فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ جیسے تم سے پہلے (دو) کتابوں (تورات و انجیل) والوں نے کہا سمعنا و عصینا (سن لیا اور نہیں مانا) ایسے ہی تم بھی کہو (سن تو لیا مگر عمل نہیں کر سکتے) خبردار! تم ایسا ہر گز مت کہنا بلکہ تم کہو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو سن لیا اور مان لیا (ضرور عمل کریں گے) اور (جو کو تا ہی ہوگی اس کی تجھ سے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں اے ہمارے رب (تو ہمیں بخش دے) اور ہمیں مرنے کے بعد تیرے ہی پاس لوٹنا ہے (تو ضرور ہر نیک و بد کا حساب لے گا) تو صحابہ نے (آپ کی تلقین کے زیر اثر) ان کلمات کو نہایت عاجزی کے ساتھ ادا کیا اور ان کی زبانیں (آپ کی اس پیغمبرانہ تلقین کے زیر اثر) بلا تردد و تذبذب آمادہ ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد (اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ایمان کی تصدیق بھی فرمادی اور آپ کی معجزانہ تلقین کے زیر اثر صحابہ کی زبان سے نکلے ہوئے عاجزانہ کلمات کو بھی بغرض تحسین انہی کی طرف منسوب کر کے بحینہ نقل فرمایا اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

امن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملكته وكتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير (سورہ البقرہ آیت ۲۸۵)

ایمان لے آیا رسول بھی اس حکم پر جو اس کے رب کی جانب سے اتارا گیا اور ایمان لانے والے (صحابہ) بھی ان میں سے ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر جو اس کا حکم لاتے ہیں اور اس کی تمام کتابوں پر (تورات ہو یا انجیل) اور اس کے تمام رسولوں پر (موسیٰ ہوں یا عیسیٰ یا محمد) اور کہا: ہم اس کے رسولوں کے درمیان (یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح) فرق نہیں کرتے (کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں) اور انہوں نے کہا: اللہ کے ہر حکم کو سن لیا اور دل و جان سے مان لیا (اور اس پر عمل کرنے میں جو کو تا ہی ہوگی اس کی ہم) تجھ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں (تو اسے بخش دیجو!) اے ہمارے رب اور (ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں) تیرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے اور تو ہمارا حساب ضرور لے گا)

تو جب صحابہ نے (آپ کی تلقین کے زیر اثر) اس پر عمل کیا (اور قدرت ہو یا نہ ہو اس پر عمل کرنے کی آمادگی کا اظہار کیا) تو اللہ تعالیٰ نے (اپنے فضل و کرم سے) اس پہلے حکم کو منسوخ بھی فرمادیا اور اس کے بعد (صحابہ کی دعاؤں کے قبول فرمائیے) کا اعلان بھی کر دیا چنانچہ حسب ذیل آیت نازل ہوئی:

لا یکلف الله نفساً الا وسعها لهما ما کسبت وعلیہما ما کتسبت (سورہ البقرہ آیت ۲۸۶)

اللہ ہر نفس (فحش) کو اسی چیز کا مکلف بناتا ہے جو اس کی وسعت (قدرت) میں ہو (لہذا) جو (نیک کام) وہ کرے گا اس کا نفع اسی کو پہنچے گا اور جو بر اکام (گناہ) وہ کرے گا اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا۔
درخواستوں کی منظوری اور دعاؤں کی قبولیت کا اعلان:

ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا (سورۃ البقرہ آیت ۲۸۶)

اے ہمارے رب! اگر ہم بھول جائیں یا (بلا ارادہ) ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو تو ہم سے اس پر مواخذہ نہ کیجیو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قد فعلت (بہت اچھایہ درخواست منظور ہے)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نعم (بہت اچھایہ دعائیں بھی قبول ہیں)

تفسیر: یہ حدیث چند وجوہ سے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے لئے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جن کی تشریح ضروری ہے۔

امت محمدیہ کے ایمان لانے والوں کی یہ انتہائی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی تصدیق ان کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی تصدیق کے ساتھ فرمائی گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ایمان کی تصدیق فرماتے ہیں یہ تصدیق ایسی ہی ہے جیسے ان کے اخلاص کی تصدیق آیت کریمہ ذیل میں فرمائی ہے۔

يبتغون فضلاً من الله ورضواناً (سورۃ النحر آیت ۸)

(محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ) اللہ کے فضل اور رضامندی کے طلب گار ہیں۔

اور آیت کریمہ ذیل میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضامندی کا اعلان فرمادیا۔

رضى الله عنهم ورضوا عنه (سورۃ البینہ آیت ۸)

اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔

یہ شرف اور یہ سعادت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ایمان کو صرف اس لئے حاصل ہوئی کہ ان کے محبوب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے علی وجہ البصیرۃ ایمان لانے کی شہادت ذیل کی آیات کریمہ میں دی ہے۔

هذه سبیلی ادعو آلی الله على بصيرة انا ومن التبني (سورۃ یوسف آیت ۱۰۸)

یہ (اسلام) میرا راستہ ہے اسی کی طرف میں (لوگوں کو) دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی اور میرا اتباع کرنے والے بھی۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کو مرنے کے وقت (یا آخرت میں) خطاب فرماتے ہیں۔

يايتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي

جنتي (سورۃ فجر آیت ۲۷-۳۰)

اے مطمئن نفس تو اپنے رب کی طرف واپس آ تو اللہ سے راضی اللہ تجھ سے راضی پس تو میرے (مخلص) بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

اس لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ انتہائی شکر و امتنان کے اظہار اور محبت کے ساتھ اپنے ہر شعبہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہؓ کی سنت کا ایسا اتباع کرے کہ اس کی زندگی کا شعار (تمیازی نشان) بن جائے کہ ہر دیکھنے والا بے ساختہ کہے کہ یہ محمد رسول اللہ کے پیرو ہیں مگر اتباع کی یہ سعادت بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتی مسلم کی حدیث میں خود آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن (کامل) نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے دل و دماغ میں اس کے باب سے اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث محبت میں و من نفسه (اور اپنی جان سے بھی زیادہ کا اضافہ جمی آیا ہے) یاد رکھئے زندگی کے ہر شعبہ میں اتباع سنت کے بغیر محبت کا دعویٰ بے معنی بلکہ استہزا ہے شب و روز سنت کے خلاف کام کرتے رہیں اور ایک محفل میلاد کر لینے یا نمازوں کے بعد بلند آواز سے درود شریف پڑھ لینے پر محبت رسول اور اتباع سنت رسول کا دعویٰ مسخکہ خیز ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اور ہمیں بھی اس نعمت عظمیٰ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع سنت سے سرفراز فرمائیں۔

۲۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شکایت کرنی والے صحابہ آپ کی خدمت میں ولا نظیہ کہنے کے لئے آئے تھے تو آپ نے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کا و تیرہ اختیار کرنے پر سرزنش فرمانے کے بعد ان کو بلا پس و پیش ایمان لانے کی تلقین فرمائی اس کے بعد جو پسندیدہ کلمات ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلے اللہ تعالیٰ نے عینہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات وقالوا سمعنا و اطعنا غفر انک رہنا و الیک المصیر: کو قیامت تک کے لئے اپنی کتاب (قرآن) کا جزو اور ان صحابہ کی فرمانبرداری کی یادگار بنا دیا یہ ان صحابہ کے دلوں اور زبانوں کی کاپی لٹ اور دم کے دم میں یہ انقلاب در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین اور روحانی قوت نفوذ کا نتیجہ بلکہ معجزہ تھا جیسا کہ واقترہ بالقوم و ذلت بہا لستعم سے ظاہر ہے لہذا التمثال امر اور بے چون و چرا فرمانبرداری کی سعادت کا سہرا بھی امت کے محبوب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سر ہے امت کی اس عزت افزائی پر امت کو نہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے ایسا امت کا خیر خواہ نبی ہمیں دیا بلکہ اس محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع سنت میں اس احسان عظیم کی بنا پر دن و دن اضافہ اور ترقی ہونی چاہئے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور اس کتاب کے پڑھنے والوں کو اور شائع کرنے والوں کو اور ہر مسلمان کو محبت

رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجراع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور آپ کی رحمت کے ایمان کی تصدیق کے ذیل میں: اللہ تعالیٰ نے لافرق بین احد من رسلہ کا اضافہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سرزنش کی تائید فرمائی ہے جو آپ نے: التریدون ان تقولوا کما قال اهل الکتابین سمعنا وعصینا۔ چنانچہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی شریعت کے احکام کو نہیں مانتے تھے اور سمعنا وعصینا کہتے تھے اور نصاریٰ یہود کی ضد میں موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی شریعت کے احکام کو نہیں مانتے تھے اور سمعنا وعصینا کہتے تھے اس لئے آپ نے صحابہ کو تلقین فرمائی بل قولوا سمعنا واطعنا اگر یہ تائید منظور نہ ہوتی تو لافرق بین احد من رسلہ کا جملہ بے مقصد ہو جاتا۔

۳۔ شکایت کرنے والے صحابہ نے وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء کے ظاہری الفاظ سے یہ سمجھا کہ نیک و بد اعمال کا جیسے محاسبہ ہوگا ایسے ہی اچھے برے خیالات کا بھی محاسبہ ہوگا خواہ ان خیالات پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے یعنی جیسے گناہ اور نافرمانی کرنے پر مواخذہ (پکڑ) اور عذاب ہوگا ایسے ہی ان کے خیالات پر بھی مواخذہ ہوگا (کہ یہ خیال بھی تمہارے دل میں کیوں آئے) اور ان پر بھی عذاب ہوگا اگرچہ ان پر عمل نہ کیا ہو اعضاء و جوارح (ہاتھ پاؤں) انسان کے بس میں ہیں وہ ان کو گناہوں اور نافرمانیوں سے روک سکتا ہے۔ لیکن خیال انسان کے قابو سے باہر ہے گناہوں اور نافرمانیوں کے خیالات کو بھی اپنے دل میں نہ آنے دے یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے مثلاً چوری کرنے ڈاکہ ڈالنے کسی کو ناحق قتل کرنے، شراب پینے، زنا کرنے، کسی پر جھوٹی تہمت لگانے، جھوٹ بولنے، جھوٹی گواہی دینے سے انسان اپنے آپ کو روک سکتا ہے لیکن ان کے خیالات کو بھی دل میں نہ آنے دے یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے خود اللہ تعالیٰ نے بغرض ابتلاء و آزمائش ہر انسان کے دل میں بدکاری اور پرہیزگاری دونوں کو ڈالا ہے یعنی آگاہ کیا ہے اور بتلادیا ہے ارشاد ہے:

ونفس وما سواها فالهמהا فجورها وتقوها (سورہ النہل آیت ۷۷)

اور قسم ہے نفس کی اور اس کو (نیکی کاری و بدکاری کے لئے) تیار کر دینے کی پھر اس کے دل میں ڈال دی اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری (یعنی دونوں سے آگاہ کر دیا)

بہر حال اللہ تعالیٰ نے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت فرما کر وضاحت فرمادی کہ مواخذہ اور عذاب خیالات پر نہ ہوگا بلکہ اعمال پر ہوگا اس کے ساتھ ہی غایت کرم کی بنا پر دنیا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا کے ذریعہ بھول چوک بھی معاف کر دی چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رفع عن امتی الخطاء والنسیان میری امت سے بھول چوک معاف کر دی گئی ہے۔

تنبیہ: باقی قلب کے اعمال جو قلب ہی سے تعلق رکھتے ہیں اعضاء و جوارح سے ان کا کوئی تعلق نہیں جیسے کتمان

حق کھتمان شہادت، کسی مسلمان سے بغض، مینہ، حسد دل میں رکھنا، نفاق (دل سے ایمان نہ لانا، دنیاوی اغراض کی بنا پر محض زبان سے اپنے کو مسلمان کہنا) صرف دکھاوے یا شہرت پسندی وغیرہ اغراض حاصل کرنے کے لئے نمازیں پڑھنا روزے رکھنا، صدقات خیرات کرنا، حج و عمرہ کرنا (جس کو شریعت کی اصطلاح میں شرک خفی) (چھپا ہوا شرک) کہا جاتا ہے اور ان کے علاوہ وہ تمام ذمائم و معائب (دل کی برائیاں اور عیوب) ان پر ضرور مواخذہ ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کئے تو عذاب بھی ہوگا چنانچہ کھتمان شہادت (گواہی کو چھپانے) کے متعلق تو اسی رکوع سے پہلے آیت کریمہ میں ومن یکتمہا فانہ اثم قلبہ (اور جس نے گواہی کو چھپایا تو اس کا دل گنہگار ہے)

فرمایا ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ دل بھی گناہ کرتا ہے اسی طرح آیت کریمہ ذیل:

فمن کان یروجوا لقاء ربہ فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرک بعبادۃ ربہ احداً (سورۃ الکہف آیت ۱۱۰)
اور جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

سے معلوم ہوا کہ عبادت میں بھی شرک ہوتا ہے جس کی مثالیں اوپر بیان کی جا چکی ہیں۔

۳۔ سورۃ بقرہ کی ان آیات کریمہ کی عظمت و اہمیت اس لئے اور بھی بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام درخواستوں کے منظور فرمانے اور دعاؤں کے قبول فرمانے کا اعلان دنیا میں ہی نعم فرما کر نبی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعے کر دیا سبحان اللہ قربان جاییے رب جلیل کی اس کریمی کے۔

ان آیات کریمہ کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ الاسراء (شب معراج) میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لئے پنجوقتہ نمازوں کے ساتھ ہی سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں بطور تحفہ عنایت فرمائی ہیں۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لیلۃ الاسراء کی حدیث میں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (امت کے لئے) سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں بطور تحفہ عطا کی گئیں ان آیات کریمہ کی عظمت کی وجہ یہ بھی ہے کہ (دنیا میں) ان حبرک آیات کو لے کر ایک مخصوص فرشتہ بھیجا گیا جو اس سے پیشتر کبھی بھی کسی نبی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔

چنانچہ مسلم ہی کی ایک روایت میں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس اثناء میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اوپر سے کسی چیز کے ٹوٹنے چھٹنے کی آواز سنی تو آپ نے سر اوپر آسمان کی طرف اٹھایا تو اس پر جبرئیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلنے کی آواز ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا نیز اس دروازہ سے ایک فرشتہ اُترا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا: یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی نبی کے پاس نہیں آیا آپ اس کو سلام کیجئے تو (جو اب سلام کے بعد) اس فرشتہ نے کہا آپ کو (اور آپ کی امت کو) دونوروں کی خوشخبری ہو (مبارک ہو) جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کئے گئے

ایک فاتحہ الکتاب (سورۃ فاتحہ) ہے اور دوسرے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں آپ (اور آپ کی امت) ایک کلمہ بھی ان آیتوں میں سے پڑھیں گے (اور مانگیں گے) تو ضرور اس کو دیا جائے گا (قبول کیا جائے گا) اسی حدیث کو دوسری روایت میں ہے جو شخص بھی ان آیتوں کو رات میں پڑھے گا اس کے لئے کافی ہوں گی۔

تنبیہ: اس خصوصیت تو رانیت، عظمت اور اہمیت کو سن لینے اور پڑھ لینے کے بعد بڑا ہی محروم قسمت ہے وہ مسلمان جو ان عظیم آیتوں کو پڑھے بغیر سو جائے خدا کے لئے اپنے اوپر رحم کیجئے اور آج سے ہی ان مبارک آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے دو منٹ بھی ان کے پڑھنے میں نہ لگیں گے مگر دل سے پڑھیے خدا کی طرف متوجہ ہو کر پڑھے تو بیزار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے پڑھنے والوں کو خود پڑھنے اور دوسروں کو بتلانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں کتاب کے لکھنے اور شائع کرنے والوں کو بھی دعائے خیر میں یاد رکھئے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے اس باب کے عنوان میں تین چیزیں رکھی ہیں وہ تینوں اس حدیث سے ثابت ہیں اسی لئے اس باب میں صرف اس حدیث ہی کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے ذرا غور و فکر سے کام لیجئے آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ تینوں چیزیں اس حدیث سے ثابت ہیں۔

اتھارواں باب

باب فی النہی عن البدع و محدثات الامور

بدعتوں سے اور (دین میں) نئے نئے امور

(کے اختراع کرنے) سے ممانعت کا بیان

قرآن کریم کی آیات اور ان کی تشریح

۱. قال اللہ تعالیٰ: فماذا بعد الحق الا الضلل (سورۃ یونس آیت ۳۲)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس سچ (کو چھوڑنے) کے بعد گمراہی کے سوا (اور) کیا ہے۔

تفسیر: عربی زبان میں حق کے معنی سچی اور واقعی بات یا چیز کے آتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ نے اسی معنی کے اعتبار سے حق کا مصداق سچا اور حقیقی دین اسلام کو قرار دیا ہے جو مجموعہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا اس معنی کے پیش نظر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا بھی گمراہی ہے اس لئے کہ جو شخص سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کرتا اور اس پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ اس کے بعد جو بھی راستہ اختیار کرے گا وہ یا اپنے نفس کے اغراض و خواہشات کی رہنمائی کے تحت اختیار کرے گا یا اپنے ہم مشرب نفس پرست لوگوں کی رہنمائی کے تحت دونوں صورتوں میں وہ نفس امارہ ہی کی پیروی کرے گا اور نفس امارہ سوائے گمراہی اور کجراہی کے اور کچھ جانتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ان النفس لامارة بالسوء (سورۃ یوسف آیت ۵۳)

نفس تو بلاشبہ برے کاموں ہی کا بے حد حکم دینے والا ہے۔

اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دنیوی اغراض اور لذات و خواہشات کے سبز باغ دکھا کر جائز و ناجائز اور سنت و بدعت کے فرق اور امتیاز کو مٹا کر خود بھی اور اپنے پیروؤں کو بھی گناہوں اور خدایا رسول کی نافرمانیوں کے جہنم میں لے جاتا ہے لہذا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا گمراہی ہے۔ لیکن اگر اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق کے پیش نظر پوری آیت پڑھی جائے جو یہ ہے۔

فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانی تصرفون (سورۃ یونس ع آیت ۳۲)

یہ تمہارا اللہ ہی تمہارا سچا (اور واقعی) رب ہے تو اس سچے رب (کو چھوڑنے اور اس پر ایمان نہ لانے) کے بعد

گمراہی کے سوا (اور کیا ہے) پھر تم کہاں بہکے جا رہے ہو۔

تو اس ”حق“ کا مصداق رب العالمین کی ذات ہے اور آیت کریمہ رب العالمین کی ربوبیت اور وحدانیت کی دلیل ہے۔ بہر حال ”حق“ کا اصل مصداق دین حق ہے اور اس کے دو بنیادی ستون ہیں (۱) ایک کتاب اللہ (۲) دوسرے سنت رسول اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنا گمراہی ہے۔

۲. وقال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء (سورة الانعام آیت ۳۲)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: نہیں چھوڑی ہم نے اس کتاب (قرآن) میں کوئی چیز (بلکہ ہر چیز کو بیان کر دیا) تفسیر: یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کے امور میں سے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے لہذا جو امر قول ہو یا فعل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یعنی قرآن اور حدیث میں نہیں وہ دین نہیں ہے اب جو کوئی بھی ایسے امر کو جو کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ میں نہیں اس کو دین کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے خبردار! اس سے بچو اور پاس بھی نہ جاؤ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ بدعت ہر وہ نیا عقیدہ یا عمل ہے جو کتاب دست میں نہ ہو واضح ہو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم کتاب (قرآن) میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (سورة الاحزاب آیت ۷)

اللہ کا رسول جو (قول یا فعل) تمہارے پاس لائے (یعنی جو تم کو فرمائے یا تمہارے سامنے عمل کرے) اس کو لے لو (قبول کرو اور اس پر عمل کرو) اور جس چیز (قول و عمل) سے تم کو منع کرے اس سے دور رہو (اس کے پاس بھی نہ جاؤ)۔ اور حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں آپ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ پڑھ چکے ہیں۔

عليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين

لازم کر لو تم اپنے اوپر میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو۔

اس لئے کہ ان کی سنت بھی درحقیقت آپ کی ہی سنت ہے کیونکہ وہ دین کے بارے میں اپنی طرف سے نہ کچھ کہتے ہیں نہ کرتے ہیں اسی طرح کبار تابعین۔

کیونکہ مشہور حدیث میں آیا ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

بہترین عہد میرا عہد ہے پھر ان لوگوں کا عہد جو میرے عہد والوں کے قریب ہیں پھر ان لوگوں کا عہد جو (دوسرے عہد والوں کے) قریب ہیں۔

لہذا جو عقیدہ یا عمل نہ کتاب اللہ میں ہو نہ سنت رسول اللہ میں ہو نہ سنت صحابہ کرام و کبار تابعین میں ہو وہ نیا

اختراع کردہ عقیدہ یا عمل ہے اس سے بچو اور اس کے پاس بھی نہ جاؤ کہ وہ بدعت ہے اور گمراہی ہے یہی تین عہد قرون مشہور لہا بالآخر ہیں یعنی وہ عہد جن کے بہترین عہد ہونے کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔

۳. قال اللہ تعالیٰ: فان تنازعتم فی شئیء فردوہ الی اللہ والرسول (سورۃ النساء ۵۸ آیت ۵۹)

ترجمہ۔ پس اگر تم میں (اور اولی الامر میں) کسی بھی چیز کے بارے میں نزاع ہو تو اس نزاع کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کراؤ۔

تعبیہ: امام نوویؒ اللہ اور رسول کی تفسیر کتاب و سنت سے کرتے ہیں۔

تفسیر: یعنی جیسے اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے ایسے ہی رسول سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سنت رسول اللہ کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام قولی و فعلی یا سکوئی احادیث ہیں لہذا جیسے کتاب اللہ حجت اور دلیل ہے ایسے ہی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجت اور دلیل ہیں ان دونوں کے علاوہ اور کسی کا بھی قول و فعل شرعی دلیل نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین ہوں یا در کھئے ہمارے چاروں آئمہ مجتہدین کوئی ایسی بات نہیں کہتے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت نہ ہو اسی طرح امت کے بڑے بڑے اولیاء کرام سب سنت پر عمل کرنے کی شدید تاکید اور بدعت سے دور رہنے کی سخت تاکید فرماتے ہیں۔

۴. قال اللہ تعالیٰ: وان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن

سبیلاً (سورۃ الانعام ۱۹ آیت ۱۵۳)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ کہ بیشک یہ (کتاب و سنت پر عمل) میرا راستہ ہے بالکل سیدھا پس اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو کہ وہ (دوسرے راستے) تم کو اس (سیدھے راستے) سے جدا کر کے الگ الگ فرقوں میں بانٹ دیں گے (اور مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیں گے)

تفسیر۔ یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کی تم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے اندر دعا مانگتے ہو اس راستے کے علاوہ اور سب نفس پرستوں کے اختراع کردہ راستے ہیں اور بدعت ہیں اگر تم نے ان نئے نئے راستوں کو قبول کر لیا اور ان پر عمل کیا تو تم مختلف فرقوں میں بٹ جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے اور دور جا پڑو گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے تحت پیش گوئی فرمائی ہے اور کہا ہے کہ عنقریب میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی جن میں نجات یافتہ صرف ایک فرقہ ہوگا اور وہ وہی فرقہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہؓ ہیں یہی فرقہ ناجیہ وہ فرقہ ہے جس کو عرف میں اہل السنۃ والجماعت (سنت اور جماعت صحابہ کو ماننے والے) کہا جاتا ہے باقی تمام فرقوں کو عرف میں اہل الاہوا (نفس کی اغراض و خواہشات کی پیروی کرنے والے) کہا جاتا ہے نیز اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صراط

مستقیم یعنی کتاب و سنت کا راستہ ایک ہی ہے اس کے بالمقابل بدعتوں کے راستے بے شمار ہیں جیسا کہ السبل جمع کے صیغہ سے ظاہر ہے اور یہی مذکورہ بالا حدیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے حدیث میں بہتر کا عدد محض کثرت بیان کرنے کے لئے ہے شمار بتلانے کے لئے نہیں ہے۔

۵. قال اللہ تعالیٰ: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم (سورہ آل

عمران ۳۱ آیت ۳۱)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے نبی) تم کہہ دو! اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔

تفسیر: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی کے معنی آپ کے ہر قول و فعل کی یعنی سنت کی پیروی کے ہیں اور اللہ کی محبت اور گناہوں کی مغفرت (جن سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ اور کوئی بھی انسان محفوظ نہیں ہو سکتا) کا واحد ذریعہ ہے اس کے برعکس سنت کو پس پشت ڈال کر نئی نئی بدعات کو قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا خدا کی ناراضگی کا واحد راستہ ہے جس پر چل کر انسان گمراہیوں کے جہنم میں گر جاتا ہے۔

احادیث

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قرآن کی آیات اس باب میں بہت ہیں اور قرآن پڑھنے اور سمجھنے والوں کو معلوم ہیں باقی حدیثیں تو اس سے بھی زیادہ اور مشہور ہیں ہم ان میں سے چند احادیث یہاں بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

بدعت کی تعریف اور تشخیص اور اس کا حکم

عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وفی روایة لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی بھی ایسی نئی بات (عقیدہ یا عمل) نکالی (اور اختراع

کی) جو دین کی نہیں تو وہ مردود ہے (بخاری و مسلم)

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے جس شخص نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ مردود ہے۔

تشریح: حدیث مزید تشریح کی محتاج نہیں بالکل واضح طور پر بدعات کی تشخیص اور ان کی قطعی تردید کرتی ہے۔

بدعت کی جگہ جہنم ہے

وعن جابر رضي الله عنه ، قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحْمَرَّتْ

عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتَهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَانَهُ مُنْبِرٌ جَيْشٍ، يَقُولُ: "صَبَّحَكُمْ وَمَسَاكُمْ" وَيَقُولُ: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ" وَيَقْرُنُ بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" ثُمَّ يَقُولُ: "أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَاهُلَّهُ، وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضَيَاعًا" فَأَلَيْ وَعَلَيْ" رواه مسلم.

وعن العرياض بن سارية رضى الله عنه حديث السابق فى باب المحافظة على السنة - الخ ترجمه: حضرت جابر رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ منبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دیتے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا آنکھیں لال ہو جاتیں آواز بلند ہو جاتی اور غصہ بے حد بڑھ جاتا یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا جیسے آپ (غافل لوگوں کو) دشمن (کے حملے) سے خبردار کر رہے ہیں اور فرماتے:

صبح کو تم پر حملہ ہوا یا شام کو اور فرماتے: بیشک میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح (آگے پیچھے) بھیجا گیا ہوں اور اپنی کلمہ کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھلاتے (کہ میری بحث اور قیامت کے درمیان اتنا ذرا سا فاصلہ ہے تم کس خواب غفلت میں گہری نیند سو رہے ہو اب آئی قیامت اور اب آئی) اور فرماتے: انا بعد پس بیشک بہترین کلام کتاب اللہ ہے اور بہترین سیرت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت ہے اور بدترین امور (عقائد و اعمال) وہ ہیں جو نئے ایجاد کئے گئے ہیں اور ہر بدعت (نیا عقیدہ یا عمل) گمراہی ہے اور ہر گمراہی (کی جگہ) جہنم میں ہے۔

پھر (اس کے بعد) فرماتے: ہر مومن کی جان سے اس کی نسبت میں قریب ہوں (یعنی مجھے اس کے جان و مال پر اس سے زیادہ اختیار ہے لہذا) جس مسلمان مرنے والے (نے مال چھوڑا وہ اس کے اہل یعنی وارثوں کا ہے اور جس نے کوئی قرض چھوڑا یا ضائع ہونے والے (بال بچے) چھوڑے (جن کا کوئی سرپرست نہیں) وہ میرے حوالے ہیں (ان کی کفالت میں کروں گا) اور وہ قرض مجھ پر ہے (میں ادا کروں گا)

تشریح: اس حدیث کے تین جزو ہیں ایک ان دنیا کے دھندوں میں گرفتار آخرت سے غافل لوگوں کو فریاد قیامت سے خبردار کرنا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد بس قیامت ہی آئے گی اور اس کے آنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں ہے اب آئی اور تب آئی اور دو انگلیوں سے اس آگے پیچھے آنے کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔

دوسرے جزو میں دین کے دو بنیادی ستونوں کا بیان ہے ایک یہ کہ قرآن کریم بہترین کتاب ہے اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت و سنت بہترین سیرت و سنت

ہے جو امور (عقائد و اعمال) ان دونوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہی امور دین ہیں وہی عبادات ہیں انہیں پر اجر و ثواب ملتا ہے اور جو امور عقائد و اعمال ان دونوں سے ثابت نہ ہوں وہ نئی ایجاد ہیں اور گناہ و عذاب کا موجب ہیں انہی کا نام بدعت ہے اور سراسر گمراہی (جن کی جگہ جہنم میں ہے) یہی دوسرا جزو عنوان باب کو ثابت کرتا ہے اور اسی جزو کے لئے امام نووی علیہ الرحمۃ اس پوری حدیث کو اس باب میں لائے ہیں۔

حدیث کے تیسرے حصہ میں مومنین کے جان و مال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت عامہ کا بیان ہے کہ خود اہل ایمان کو اپنے نفسوں پر وہ اختیار حاصل نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے ارشاد ہے۔

النبی اولى بالمؤمنين من انفسهم (سورۃ الاحزاب آیت ۶)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ قریب اور باختیار ہیں۔

چنانچہ اسی ولایت عامہ کی بنا پر آپ اعلان فرماتے ہیں کہ جو مسلمان مرنے کے بعد اپنے ذمہ قرض چھوڑ گیا وہ بھی میں (بیت لیل سے) لگا کروں جس کے بل بچوں کا کوئی سر پرست نہیں بن کی کفالت بھی میں (بیت لیل سے) کروں گا۔

گذشتہ حدیث کا حوالہ

حضرت عمر فاروق بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو باب الحافظۃ علی السنۃ کے ذیل میں آچکی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم دور رہو اور پاس بھی نہ جاؤ (دین میں) نئی نئی باتوں (عقائد و اعمال) کے اس لئے کہ ہر بدعت (نیا ایجاد کردہ عقیدہ یا عمل) گمراہی ہے۔ اس حدیث کی تشریح بھی گزر چکی ہے دوبارہ دیکھ لیجئے۔

عبرتناک جائزہ

کلام اللہ کی ان آیات کریمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث صحیحہ کی روشنی میں ذرا غور کیجئے اور جائزہ لیجئے کہ جن رسوم و بدعات میں ہم عام طور پر گرفتار ہیں اور عبادت سمجھ کر ان کو کرتے اور موجب اجر و ثواب سمجھتے ہیں ان کا نہ صرف قرون خیر بلکہ اسلام کے تمام ادوار میں کہیں پتہ نشان ہے۔ کیا صحابہ کرام نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یا اہل بیت کی وفات پر یا صحابہؓ نے خلفائے راشدین کی وفات پر یا ایک دوسرے کی وفات پر تیجہ چالیسواں یا سالانہ عرس کیا تھا یا آپ کی تاریخ ولادت پر یا اہل بیت میں سے کسی کی تاریخ ولادت پر یا صحابہؓ میں سے کسی کی بھی تاریخ ولادت پر محفل میلاد منعقد کی تھی اور عمدہ و لذیذ کھانوں کی دیکھیں پکوائی تھیں اور بے دریغ فضول خرچیاں کی تھیں؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہؓ کو یا تابعین نے کبھی دسترخوان پر کھانا رکھ کر فاتحہ پڑھی تھی؟ یا

آپ نے اور کسی بھی عہد کے مسلمانوں نے فرض نمازوں کے بعد دوسری دعا اور بیک آواز زور زور سے درود شریف پڑھا تھا؟ پاکستان بننے اور کراچی آنے سے پہلے اسلام کے تیرہ سو سالہ عہد میں کسی نے بھی اذان کے بعد اذان کی طرح بلند آواز سے الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کسی بھی زمانہ میں کسی بھی موذن نے کہا ہے؟ یا عشرہ محرم میں تعزیہ داری جو بت پرستی کی حد کو پہنچ چکی ہے یا یہ سیاہ اور سبز لباس اور دوپٹے کسی نے بھی پہنے تھے؟ اور یہ لکھنؤ کے شاعروں کے گھڑے ہوئے مرھے اور ان پر ماتم اور سینہ کو بی کسی نے کی تھی؟ کہیں بھی یہ سب کچھ نہیں ہوتا جو ہندوستان و پاکستان میں ہوتا ہے حتیٰ کہ ایران کی حکومت نے جس کا مذہب تشیع ہے ان تمام لغویات کو حکماً ممنوع قرار دے دیا ہے یا جب کے مہینہ میں بی بی فاطمہ کے نام کے کوٹے عہد اول کے مسلمانوں میں سے کسی نے بھی کئے ہیں۔

اُنیسواں باب

باب فی من سن سنة حسنة أو سيئة

اس شخص کا بیان جس نے کسی اچھے طریقہ کی بنا ڈالی

یا بُرے طریقہ کی بنا ڈالی

آیات قرآن کریم اور ان کی تفاسیر

قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماماً (سورة الفرقان آیت ۷۴)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ جو کہتے ہیں: اے ہمارے رب! تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بیویاں اور اولاد عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔

تفسیر۔ پرہیزگاروں کا امام اور پیشوا بنانے کی دعا کے معنی یہ ہیں کہ تو خود ہمیں بھی پرہیزگار بنا اور پرہیزگاری کے طریقے اور راستے قائم اور جاری کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا کہ ہماری ذریت (اولاد) بھی اور دوسرے مسلمان بھی ان طریقوں پر چل کر پرہیزگار بن سکیں یہاں تک کہ ہم پرہیزگاروں کے امام اور پیشوا بن جائیں گویا دو چیزوں کی دعا ہے کہ ایک خود پرہیزگار بننے کی اور دوسرے اولاد کے لئے پرہیزگاری کے طریقے جاری کرنے کی اور یہ دونوں عمل دعا کرنے والوں کے بھی عمل ہیں اسی لئے وہ ان راستوں پر چلنے والوں کے ثواب میں بھی شریک ہوتے ہیں جیسا کہ آگے حدیث آرہی ہے المدال علی الخیر کفاحلہ (نیک کاموں کا راستہ بتلانے والا (اجر و ثواب میں) ان نیکو کاروں کی مانند ہے)

قال الله تعالى: وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا (سورة السجدة آیت ۲۴)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان (علماء بنی اسرائیل) کو امام (پیشوا) بنایا وہ ہمارے حکم سے (لوگوں)

کی رہنمائی کرتے ہیں۔

تفسیر۔ اس آیت کریمہ میں تصریح فرمادی کہ امام وہی تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رہنمائی کرے خواہ قولاً خواہ فعلاً لہذا کسی اچھے طریقہ کو جاری کرنا بھی اس میں داخل ہے۔

یہ سنت حسنہ اور اس کے جاری کرنے والوں کا بیان ہوا

سنت سیدہ اور اس کے جاری کرنے والوں کا بیان

قال اللہ تعالیٰ: فقاتلوا ائمة الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتھون (سورۃ توبہ آیت ۱۲)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جنگ کرو ان کفر کے پیشواؤں (مشرکین و کفار عرب) سے ینگ ان کی قسمیں (اور عہد و پیمان) کچھ نہیں تاکہ یہ باز آجائیں۔

آیت کریمہ میں مشرکین مکہ اور کفار عرب کو صرف اس لئے آئمہ کے لفظ سے تعبیر کیا کہ وہ خود بھی کفر پر اڑے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی کفر و شرک کے راستے بتلاتے تھے چنانچہ قرآن کریم میں آیا ہے:

وقالوا: لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون (سورۃ عم السجدہ آیت ۲۶)

اور ان (مشرکوں اور کافروں) نے کہا اس قرآن کو مت سنو اور (اس کے پڑھنے کے وقت) شور مچو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اس قسم کی کفر و شرک کی قولاً و فعلاً رہنمائی کا ذکر بہت سی قرآن کریم کی آیات میں آیا ہے جیسے سابقہ آیات میں آئمہ ہدایت اور سنت حسنہ کا ذکر ہے اسی طرح اس آیت کریمہ میں آئمہ ضلالت اور ان کی سنت سیدہ کا ذکر فرمایا ہے۔

نوٹ: عربی زبان میں اس راستہ کو کہتے ہیں جس کو کوئی شخص جاری کرے اور اس کے بعد اس راستہ پر دوسرے لوگ چلیں یہ راستہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے اس پر چلنے والوں کی فلاح و بہبود کا سہرا یا تباہی و بربادی کی ذمہ داری اسی شخص پر عائد ہوتی ہے جس نے اسکی بنا ڈالی اور جاری کیا اور یہ سنت اسی کی طرف منسوب ہوتی ہے وہی اس کا بانی اور جاری کنندہ کہلاتا ہے یہی وہ سنت ہے جس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں ایک حسنہ دوسری سیدہ باقی شریعت کی اصطلاح میں جس کو سنت کہا جاتا ہے اور کتاب کے ساتھ اس کا ذکر آتا ہے جس کا بیان اس سے پہلے باب میں گزرا ہے وہ سنت تو حسنہ ہی حسنہ ہے وہ سیدہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس سے مراد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو ہمیشہ وحی جلی یا وحی خفی پر مبنی ہوتی ہے یا صحابہ کرام یا آئمہ دین کی سنت ہے یہ سنت بھی چونکہ کتاب اللہ پر یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہوتی ہے اس لئے وہ بھی سیدہ نہیں ہو سکتی اس فرق کو ضرور یاد رکھئے بہر حال امام نووی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی دو آیتوں سے عنوان باب کو ثابت کیا ہے مگر ان دونوں آیتوں سے صرف سنت حسنہ کا ثبوت ہوتا ہے تیسری آیت کریمہ کا اضافہ سنت سیدہ کے لئے مناسب معلوم ہوا اس لئے تیسری آیت کا بھی ذکر کر دیا گیا۔

کسی اچھے طریقہ کی بنیاد ڈالنے والے مردانِ راہِ خدا کی ہمت افزائی

عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه ، قَالَ : كُنَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَّهٗ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النَّمَارِ أَوْ الْعَبَلِ ، مُتَقَلِّدِي السِّيُوفِ ، عَامَتُهُمْ مِنْ مِضْرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مِضْرَ ، فَتَمَعَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنْ الْفَاقَةِ ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ، فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ وَالْآيَةَ الْأُخْرَى الَّتِي فِي آخِرِ الْحَشْرِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ ، مِنْ دِرْهَمِهِ ، مِنْ تَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ “ فَجَلَّهٗ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفَّهُ تَعَجُّزُ عَنهَا ، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمِينَ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ “ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . قَوْلُهُ : ” مُجْتَابِي النَّمَارِ “ هُوَ بِالْجِيمِ وَبَعْدَ الْأَلْفِ بِلَاءٌ مُوحَّدَةٌ ، وَالنَّمَارُ جَمْعُ نَمْرَةٍ وَهِيَ كَيْسَةٌ مِنْ صُوفٍ مُخَطَّطٌ . وَمَعْنَى ” مُجْتَابِيهَا “ ، أَي : لِأَسْبِيحَا قَدْ خَرَقُوهَا فِي رُؤُوسِهِمْ . وَ” الْجَوْبُ “ الْقَطْعُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾ أَي نَحْتُوهُ وَقَطَعُوهُ . وَقَوْلُهُ : ” تَمَعَّرَ “ هُوَ بِالْعَيْنِ الْمَهْمَلَةِ : أَي تَغَيَّرَ . وَقَوْلُهُ : ” رَأَيْتُ كَوْمِينَ “ بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا : أَي صَبْرَتَيْنِ . وَقَوْلُهُ : ” كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ “ هُوَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْهَلِ وَالْبَلَاءِ الْمُوحَّدَةِ قَالَهُ الْقَاضِي عِيَّاضٌ وَغَيْرُهُ وَصَحَّفَهُ بَعْضُهُمْ ، فَقَالَ : ” مُذْهَبَةٌ “ بِدَالٍ مَهْمَلَةٍ وَضَمِّ الْهَلِ وَالنُّونِ وَكَذَا ضَبَطَهُ الْحَمِيدِيُّ ” ۳ “ .

والصحيح المشهور هو الأول . والمراد به على الوجهين : الصفة والاستنارة .

ترجمہ: حضرت ابو عمرو جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں ہم (ایک دن) دن کے اول حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس تن برہند گلے میں کبل ڈالے گردنوں میں تلواریں لٹکائے ہوئے لوگوں کی ایک جماعت آئی ان میں بیشتر بلکہ تمام تر مضر قبیلہ کے لوگ تھے (اور کفار سے جنگ کرنے کے لئے آمادہ اور تیار ہو کر آئے تھے کہ آپ ان کے لئے زاد راہ اور سامان جنگ کا بندوبست کر دیں تو وہ محاذ جنگ پر جائیں) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ان کی فاقہ زدگی، خستہ حالی، بے سر و سامانی کو دیکھ کر متحیر ہو گیا رنج و ملال کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ

گھر میں تشریف لے گئے (کہ ان کے لئے کچھ لائیں مگر گھر میں کچھ نہ پا کر) پھر واپس تشریف لائے اور حضرت بلالؓ کو (ظہر کی) اذان دینے کا حکم دیا چنانچہ بلالؓ نے اذان دی (کچھ دیر کے بعد) قامت ہوئی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی پھر (سنتوں سے فارغ ہو کر) خطبہ دیا اور آپ نے سورۃ نساء کی یہ آیت پڑھی:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورۃ النساء آیت ۱)

اے لوگو! ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور پھر پھیلائے ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اور ڈرتے رہو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور (خبردار رہا کرو) قرابت والوں سے بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہیں۔

اس کے بعد سورۃ فرقان کی یہ آیت پڑھی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَسْئِظْرَ نَفْسٍ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدْوٍ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

(سورۃ الحشر آیت ۱۸)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو چاہئے کہ وہ دیکھے اس نے کل (قیامت کے دن) کے لئے کیا پہلے سے تیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو بیشک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب (اچھی طرح) باخبر ہیں۔

تو کسی آدمی نے اپنے دیناروں میں سے دینار صدقہ میں دیا، دہم والے نے اپنے دہموں میں سے دہم دیا، کپڑے والے نے کپڑا دیا، گیہوں والے نے ایک صاع گیہوں دیئے کھجور والے نے ایک صاع کھجور دیئے آپ نے فرمایا: اگرچہ کسی نے کھجور کا ایک کٹڑا دیا (یا دہم کھوسب سے اللہ اچھی طرح باخبر ہے کہ کس نے کیا دیا)

تو (یہ سن کر) انصار میں سے ایک شخص اٹھا اور ایک تھیلی لایا (جو اتنی وزنی تھی کہ) قریب تھا کہ اس کے ہاتھ اس کے اٹھانے سے عاجز ہو جائیں بلکہ عاجز ہو گئے پھر تو لوگ بے درپے صدقات دینے لگے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ دو ڈھیر لگ گئے خوردنی اشیاء اور کپڑوں وغیرہ کے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک (فرط مسرت سے) کو یکھنے لگا گویا بالکل سنہری ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے اسلام میں کسی اچھی سنت کی بنا ڈالی اور جاری کی اس کو اس سنت کے جاری کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے بعد جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ان سب کا ثواب بھی ملے گا بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی ہو اور جس نے اسلام میں کوئی برارستہ جاری کیا تو اس شخص پر اس برارستہ جاری کرنے کا گناہ بھی ہو گا اور اس کے بعد جو لوگ اس برے راستہ پر چلے ان کا گناہ بھی ہو گا اس کے بغیر کہ ان عمل کرنے والے کے گناہوں میں کوئی کمی کی جائے“

(گویا اس سنت کا سہرا تھیلی پیش کرنے والے صحابی کے سر ہے اسی کو دیکھ کر دوسروں کے ہاتھ کھلے اور ذرا دیر میں دو ڈھیر لگ گئے)

امام نووی علیہ الرحمۃ حدیث کے بعض الفاظ کو ضبط کرتے ہیں اور معنی بیان کرتے ہیں۔ جتابی انہما جتابی جیم کے ساتھ اور الف کے بعد ایک نقطہ والی ب ہے امار نمبرہ کی جمع ہے لون کے دھاری دار کبیل کو کہتے ہیں اور جتابی انہما مرکب کے معنی یہ ہیں کہ کبیل کو بیچ سے پھاڑ کر کفن کی طرح گلے میں ڈالا ہوا تھا جتابی جو ب سے ماخوذ ہے جس کے معنی پھاڑنے کے ہیں قرآن کریم میں آیا ہے وثمود الذین جاہوا الضحور بالواد (اور وہ قوم ثمود جنہوں نے وادی احناف میں پہاڑوں کی بڑی بڑی چٹانوں کو کاٹ کر زمین دوز قلعے بنائے تھے تمر عین کے ساتھ یعنی متغیر ہو گیا رخ و مال کے آثار نظر آنے لگے کو ماوین کو ماہ الفتح و بالضم کا ہشتیہ ہے یعنی بڑے بڑے ڈھیر مذہبتہ ذہب بمعنی سونا سے ماخوذ ہے بمعنی سنہری قاضی عباس وغیرہ نے اسی طرح ضبط کیا ہے بعض شارحین نے تصحیف (غلطی) کی ہے اور مذہبتہ دال کے ساتھ دہن بمعنی تیل سے ماخوذ پڑھا ہے امام حمیدی نے بھی اسی طرح ضبط کیا ہے لیکن صحیح اور مشہور مذہبتہ ہی ہے۔

تشریح: اگرچہ مذکورہ بالا حدیث میں من سن سنستہ حسنثہ الخ ایک واقعہ سے متعلق آیا ہے مگر درحقیقت یہ ایک ضابطہ ار قاعدہ کلیہ ہے جس کے تحت مذکورہ واقعہ بھی آتا ہے اسی لئے اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا جیسا کہ دوسری حدیثوں سے ظاہر ہے اس ضابطہ کی تحقیق و تشریح آیات کے ذیل میں آپ پڑھ چکے ہیں۔

بڑے طریقے کی بنیاد ڈالنے والے مجرم کا حشر

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو شخص بھی ناحق قتل کیا جائے گا اس کا عذاب (قاتل کی طرح) آدم کے بیٹے قابیل پر بھی ہوگا اس لئے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل ناحق کی بنیاد ڈالی۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: گویا دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ناحق ہوں گے ان کے قاتلوں پر عذاب کے علاوہ قابیل پر بھی عذاب ہوگا اس لئے کہ اس نے ہی حقیقی بھائی قابیل کو ناحق قتل کر کے اس سنت سیئہ اور رسم بد کی بنیاد ڈالی جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں مذکور قتل ناحق کے اس سب سے پہلے واقعہ سے اس ضابطہ کا استنباط فرما رہے ہیں۔

بیسواں باب

باب فی الدلالة علی خیر والدعاء الی ہدی أو ضلالة

اچھے کام کی رہنمائی اور ہدایت کی دعوت دینے
یا برے کام اور گمراہی کی دعوت دینے کا بیان
قرآن کریم کی آیات اور ان کی تفاسیر

۱۔ قال اللہ تعالیٰ: ادع الی ربك انک لعلی ہدی مستقیم (سورۃ الحج رکوع ۹۷)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم دیتے ہیں اور تو بلا (لوگوں کو) اپنے رب کی طرف بلاشبہ
تو (یقیناً) ہدایت کی سیدھی راہ پر (قائم) ہے۔

تفسیر۔ رب منج ہر خیر و خوبی ہے اس کی طرف دعوت دینے اور بلانے کے معنی ہر خیر و خوبی کی طرف دعوت
دینا اور بلانا خاص کر جبکہ اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرمادی کہ بلاشبہ تو ہدایت اور سیدھی راہ پر قائم ہے اللہ کے رسول
نے اس حکم کی تعمیل کس طرح کی قرآن عظیم بتلاتا ہے۔

ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین (سورۃ الذاریات ع ۳ آیت ۵۰)

پس تم (دنیا و مافیہا سے) بھاگو اللہ کی طرف (اسی کے سایہ رحمت میں دنیا و مافیہا کے فتنوں سے پناہ ملے گی)
میں تمہیں اس کی جانب سے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔

اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم: ولا تجعلوا مع اللہ الہا اخر انی لکم منہ نذیر مبین (سورۃ الذاریات آیت ۵۱)
اور اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے کو معبود مت بناؤ بیشک میں اس کی جانب سے تم کو واضح طور پر خبردار
کرنے والا ہوں (کہ وہ کفر و شرک کو ہرگز نہیں بخشنے گا)

پہلی آیت کریمہ میں تقویٰ کے اعلیٰ مرتبہ کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں اونٹنی درجہ کا ذکر ہے دونوں آیتیں
اسی ترتیب سے آگے پیچھے قرآن کریم میں مذکور ہیں۔

۲۔ قال اللہ تعالیٰ: ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنۃ و جاد لہم بالنی ہی احسن

ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ و هو اعلم بالمہتدین (سورۃ النحل ع ۱۰ آیت ۱۲۵)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ اور بلا اپنے رب کی راہ (توحید) کی

جانب داتا کی اور دلنشین وعظ کے ذریعہ اور (معاندوں کو) الزام دو اس طریق سے جو بہتر ہو بے شک وہ (تیرا رب) خوب اچھی طرح جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستہ سے بھٹک چکے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اس حکم پر اللہ کے رسول نے کس طرح عمل کیا؟ قرآن کریم بتاتا ہے۔

۱. انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله مشی وفرادی ثم تفکروا اما بصاحبکم من جنة ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. (سورۃ سبأ آیت ۲۶)

اس کے سوا نہیں کہ میں تم کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لئے دو دو اور ایک ایک (یعنی اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر) کھڑے ہو جاؤ پھر غور کرو تمہارے رفیق (نبی) کو سو دئی تو نہیں ہے؟ وہ تو صرف ایک شدید عذاب (کا وقت آنے) سے پہلے تم کو خبردار کرنے والا ہے۔

۲. اریتم ان اهلکنی اللہ ومن معی اور حمانا من یجیر الکافرین من عذاب الیم (سورۃ اللک آیت ۲۸)
ذرا مجھے بتلاؤ اگر مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو اللہ ہلا کر دے یا ہم پر رحم فرمائے (اس کی مرضی) تو منکروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ (یعنی میری فکر مت کرو اپنی خبر لو)
اور اسی قسم کی مثالیں بکثرت قرآن عظیم میں موجود ہیں۔

۳. قال اللہ تعالیٰ: وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ

(سورۃ المائدہ آیت ۲)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ایک دوسرے کی مدد کیا کرو کھوئی اور پرہیزگاری پر اور ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہ کیا کرو گناہ اور ظلم پر اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔

تفسیر۔ تعاون کے معنی ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ بھی عمل دعوت اور بلاوا ہے۔ آیت کریمہ میں برو تقویٰ پر اس بلاوا دینے کا حکم فرمایا ہے یعنی تمہیں ہمیشہ داعی الی الخیر ہونا چاہئے اور گناہ و ظلم پر دعوت اور بلاوا دینے سے منع فرمایا ہے یعنی تمہیں داعی الی الشر ہرگز نہ ہونا چاہئے۔

۴. قال اللہ تعالیٰ: ولتکن منکم أمة یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینبہون عن

المنکر واولئک ہم المفلحون (سورۃ آل عمران آیت ۱۰۴)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور چاہئے کہ تم میں ایک جماعت ہو جو (لوگوں کو) خیر کی طرف دعوت دے (یعنی بھلائی کی باتیں بتلائے) اور بری باتوں سے منع کرے اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔

تفسیر۔ اس آیت کریمہ میں قولاً دعوت الی الخیر کا حکم فرمایا ہے اور دعوت الی الشر سے منع فرمایا ہے بہر حال ان دونوں آیتوں میں مسلمانوں کو دعوت اور بلاوا کے حکم مذکور ہے اسی بنا پر امام نووی رحمۃ اللہ ان دونوں آیتوں کو اس باب کے تحت لائے ہیں۔

جس طرح نیکی کی طرف دعوت دینے والا عمل کرنے والوں کے
ثواب میں شریک ہے اسی طرح بدی کی طرف دعوت دینے والا
عمل کرنے والے کے عذاب میں شریک ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہدایت کی
جانب (لوگوں کو) دعوت دی اس کو ان تمام لوگوں کے ثواب کے مانند ثواب ملے گا جنہوں نے اس کی پیروی کی اس
ثواب دینے سے ان پیروی کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جس نے گمراہی کی جانب (لوگوں
کو) دعوت دی اور بلایا اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کے مانند گناہ اور عذاب ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی
اس عذاب سے پیروی کرنے والوں کے گناہ اور عذاب میں مطلق کمی نہ ہوگی۔ (صحیح مسلم)

تشریح: پہلی حدیث میں صرف دعوت الی الخیر کا حکم مذکور تھا اس حدیث میں دعوت الی الخیر اور دعوت الی
الشر دونوں کا حکم مذکور ہے اسی لئے امام نووی پہلی حدیث کے بعد اس حدیث کو لائے ہیں۔

اسلامی جہاد (کافروں سے لڑائی) کا مقصد ایک کافر بھی اگر بغیر لڑے بھڑے
مسلمان ہو جائے تو یہ زیادہ سے زیادہ مال غنیمت سے بہتر ہے

حضرت ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے جنگ خیبر میں (ایک دن) فرمایا: میں کل (اسلامی) جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ
پر (خیبر) فتح ہوگا یہ (خوشخبری) سن کر تمام لوگوں نے سخت اضطراب اور چہ میگوئیوں میں رات
گزاری (کہ دیکھئے کس خوش نصیب کو جھنڈا ملتا ہے) جب صبح ہوئی تو (امیدوار) صحابہ حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہر شخص امید کرتا تھا کہ جھنڈا اس کو دیا جائے گا تو آپ نے فرمایا: علی
بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: وہ بیمار ہیں ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں (اسی لئے وہ آئے
نہیں) آپ نے فرمایا: ان کے پاس (کسی کو) بھیجو (بلالائے) تو حضرت علی کو (ہاتھ پکڑ کر) لایا گیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور دعا فرمائی تو وہ ایسے اچھے ہو
گئے جیسے ان کی آنکھوں میں درد تھا ہی نہیں پھر ان کو جھنڈا دیا تو (اس پر) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
عرض کیا کیا میں ان سے برابر جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان ہو جائیں؟ آپ
نے فرمایا تم اسی وقت (مجاہدوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں جا آترو۔
جنگ کرنے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو اور اسلام کی رو سے جو اللہ کے حقوق ان پر واجب ہیں ان

سے آگاہ کرو پس (اے علی) خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک آدمی کو بھی تمہارے ذریعہ ہدایت فرمادی تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹنیوں سے بدرجہا بہتر ہے۔ (بخاری و مسلم)

امام نووی رحمۃ اللہ مشکل الفاظ کے معنی اور تلفظ بتلاتے ہیں یہ دو کون کے معنی ہیں غور کرتے رہے اور آپس میں باتیں کرتے رہے علی رسلک زسل زبر اور زبردونوں کے ساتھ آتا ہے لیکن زبر کے ساتھ زیادہ فصیح ہے۔

تشریح: اہل خیبر کو اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی شرعی قاعدہ کے اعتبار سے ان کو دعوت دینے کی ضرورت نہ تھی اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دینا صرف یہ بتلانے کے لئے تھا کہ اگر بغیر لڑے بھڑے تمہاری دعوت پر ایک شخص بھی اسلام قبول کر لے تو یہ تمہاری انتہائی سعادت ہے اور سرخ اونٹنیوں سے (جو عرب میں بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا) بدرجہا زیادہ قیمتی سرمایہ ہے علاوہ ازیں چونکہ حضرت علی انتہائی جنگجو اور کفار سے جنگ کرنے کے لئے بے چین تھے آپ کو یقین تھا کہ یہ جاتے ہی جنگ شروع کر دیں گے اور خون کی ندیاں بہادیں گے اس لئے ان کو یہ بتلانے کے لئے کہ اسلام کا مقصد صرف خوزیری نہیں ہے بلکہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنا ہے اگر بغیر لڑے بھڑے ہی وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو سبحان اللہ ہاں اگر وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہی نہیں اور کفر پر اڑے رہیں تو بدرجہ مجبوری ایسے سرکشوں سے نمٹنے کا واحد راستہ جنگ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی زمین کفر و شرک کے فتنے سے پاک ہو جائے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلَهُ لِلَّهِ أُولَئِكَ (کافروں) سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ (کفر و شرک) باقی نہ رہے اور اطاعت اللہ تعالیٰ کے لئے ہو جائے۔ یہی اسلامی جہاد کا مقصد ہے (یعنی اسلامی احکام (مان لیس) اس کی دلیل یہ ہے کہ غیر مسلم اسلامی ملک میں جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں۔

کسی بھی نیک کام کے انجام دینے میں کوتاہی نہ کرنا
خود نہ کر سکے تو سفارش کرنا بھی کار خیر ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں سامان جنگ مہیا کر سکوں تو آپ نے فرمایا: تم فلاں شخص کے پاس جاؤ اس نے سامان جنگ تیار کیا تھا مگر وہ بیمار ہو گیا (اس لئے نہیں جا رہا) تو وہ نوجوان اس شخص کے پاس آیا اور کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا ہے تم نے جو سامان جہاد کے لئے تیار کیا تھا وہ مجھے دے دو (میں جہاد میں

جا رہا ہوں اور میرے پاس سامان جنگ مطلق نہیں ہے) تو اس شخص نے اپنی بیوی کا نام لے کر کہا: اے فلائی جو سامان میں نے لڑائی کے لئے تیار کیا تھا وہ سب کا سب ان کو دے دے اس میں سے کوئی چیز بھی مت رکھو اس لئے جو چیز بھی تو نے اس میں سے روکی (اور نہ دی) تو خدا کی قسم اس میں تیرے لئے کوئی خیر و برکت نہ ہوگی۔ (صحیح مسلم)

تشریح: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کی تعمیل تمام قیمتی سامان دے دینے کی تاکید کے ساتھ اس اہمیت کا اظہار ہوتا ہے جو صحابہ کرام آپ کے حکم کی تعمیل میں کیا کرتے تھے (عورتیں طبعاً بخیل ہوتی ہیں قیمتی سامان دینے میں بخل سے کام لیتی اور زیادہ قیمتی چیز روک لیا کرتی ہیں اس لئے بیوی کو خطاب کر کے کہتا ہے اگر تو نے کوئی ذرا سی چیز روکی اور نہ دی تو یاد رکھ اس میں خیر و برکت مطلق نہ ہوگی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بے سرو سامانی غازی کی سفارش کرنا اور اس کو معذور مجاہد کے پاس بھیجنا یقیناً دعوت الی الخیر کا مصداق ہے اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کو بھی کار خیر کے لئے اسی طرح دعوت دینا دعوت الی الخیر کا مصداق ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں اسی پر قیاس کر کے کہا جاسکتا ہے کہ کسی برے کام کے لئے کہنا دعوت الی الشر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ اور اپنی پناہ میں رکھیں اسی لئے امام نووی علیہ الرحمۃ اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں۔

ہر دو ابواب میں فرق

انیسویں اور بیسویں باب میں بظاہر فرق نہیں محسوس ہوتا اولاً بلا ضرورت تکرار کا شبہ ہوتا ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو دونوں ابواب میں نمایاں فرق ہے پہلا باب ان لوگوں سے متعلق ہے جو کسی نئے اچھے یا برے کام کی بنا ڈالیں اور اس کو جاری کریں اور لوگ بغیر کہے اس اچھے یا برے راستہ پر چلنا شروع کر دیں اور دوسرا باب ان لوگوں سے متعلق ہے جو بذات خود قصد اہدایت یا گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور بلائیں جیسا کہ احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔

الحمد للہ خیر الصالحین کی جلد اول مکمل ہوئی۔

مدرسین اور طلباء و طالبات کیلئے ادارہ کی درسی شروعات

شرف الباری

اردو شرح صحیح البخاری

از: رئیس المناظرین وکیل احناف حضرت مولانا امیر احمد منور مدظلہ (استاذ الحدیث جامعہ اسلامیہ باب العلوم کھروڑ پکا)
علم حدیث کی معروف کتاب بخاری شریف کی جملہ معروف عربی اردو شروحات سے مرتب شدہ پہلی مرتبہ اردو میں جامع شرح۔ جس کے بارہ میں حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب مدظلہ العالی (شیخ الحدیث باب العلوم کھروڑ پکا) تحریر فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی متعدد اردو شروحات دستیاب ہیں۔ جن میں سے بعض بہت طویل اور بعض نہایت مختصر ہیں۔ ایک معتدل شرح کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اشرف الباری کے نام سے اسی خصوصیت کی حامل شرح نے اس ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔
کامل ۱۵ جلد... ۴۰ حصے طبع ہو چکے باقی جلد منظر عام پر آرہے ہیں

مکمل تفسیر بیان القرآن

اردو زبان میں قرآن کریم کی پہلی علمی تفسیر

عظیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے مبارک قلم سے اہل علم مدرسین و طلباء کی علمی ترقی کیلئے آب حیات تفسیر قرآنی اسرار و رموز اور معرفت و حکمت سے مزین جدید اشاعت... دور جدید کے تقاضوں کے مطابق

الخیر الجاری

مکمل اردو شرح صحیح البخاری

شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب مدظلہ (جامعہ اشرفیہ لاہور) کی جامع شرح جو تقریباً ساٹھ شروحات بخاری کا جامع خلاصہ ہے۔ (کال ۶ حصے)
حضرت صوفی صاحب کی مکمل شرح ترمذی بھی ایک جلد میں چھپ چکی ہے

تقریر ترمذی

از عظیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ
تخریج و حاشیہ حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ
مقدمہ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ (کال ۲ حصے)

امانی الاحبار

شرح معانی الآثار (عربی)

حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ کے علمی قلم کی شاہکار
علم حدیث کی معروف کتاب "معانی الآثار" کی مکمل عربی شرح کامل (۴ حصے)

خیر الصالحین

اردو شرح و ریاض الصالحین

وفاق المدارس کے نصاب کے مطابق پہلی عام فہم اردو شرح
ہر حدیث کی تشریح اور متعلقہ مباحث پر مشتمل معلمات و نيات کیلئے بہترین شرح
حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمہ اللہ دیگر کابر کے اقادات سے مزین مستند اردو شرح

تشریح السراجی

علم میراث کی معروف کتاب "سراجی" کی پہلی عام فہم اردو شرح
از حضرت مولانا سید وقار علی صاحب مدظلہ (سہارنپور)

دروس ترمذی

(شرح اردو جلد ثانی)
مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا رئیس الدین صاحب مدظلہ کے علمی و تحقیقی افادات کا مجموعہ ترمذی شریف کی جلد ثانی کے تمام مشکل مقامات کی مختصر و جامع تشریح۔ اساتذہ و طلباء و محدث کیلئے نہایت نافع

خیر المعبود

اردو شرح سنن ابی داؤد

حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب مدظلہ کے مقدمہ کیساتھ ابو داؤد شریف کے وفاق نصاب برائے نيات کی پہلی عام فہم اردو شرح و درجہ عالیہ کی معلمات و نيات کیلئے عظیم نفع

خیر المفاتیح

اردو شرح مشکوٰۃ المصابیح

اردو زبان میں مشکوٰۃ شریف کی پہلی مفصل شرح جو محمد ثین قدیم و جدید کے علوم و معارف کی امین ہے حدیث کے علمی مباحث کیساتھ لغوی اصطلاحی اور صرفی و نحوی مباحث مکمل معرب متن و ترجمہ کے ساتھ
حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ اور مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ کے تلمیذ رشید حضرت علامہ شبیر الحق کشمیری رحمہ اللہ (استاذ الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان) کی درسی افادات پہلی مرتبہ کتاب شکل میں (۳ جلد)

زاد الوفاہ

اردو شرح شرح وقایہ آخرین

فقہ حنفی کی معروف کتاب "شرح وقایہ اخیرین" کی مکمل جدید اردو شرح

مشکلات القرآن عربی

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے قلم سے قرآن کریم کے مشکل مقامات کی علمی انداز میں تسہیل اور تطبیق علامہ محمد یوسف بخاری رحمہ اللہ کے مقدمہ کیساتھ

مشکلات القرآن اردو

قرآنی آیات کے درمیان تطبیق اور رفع تعارض کیلئے اردو میں اپنے موضوع پر پہلی کتاب حضرت مفسرین اور طلباء کی تفسیر کیلئے نہایت ضروری زاد ارہ